

اولین مسانید میں سے مسند ابی داؤد الطیالسی کا آسان اور سلیس اردو ترجمہ

مسند
مترجم

ابی داؤد الطیالسی


تالیف
امام ابو داؤد سلیمان بن داؤد ابن الجاروطی السیثونی ۲۰۴ھ



پروگریسو بکس

مترجم
غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی

مدس جامعہ رسولیہ شیرازیہ رضویہ بلال گنج لاہور



اولین مسانید میں سے مِیْنَتُكَ اَبِي دَاوُدَ الطَّيْبِ النَّبِيِّ كَا اَسَانِ اَوْر سَلِيْسْ اُرْدُو تَرْجَمَه

مِیْنَتُكَ اَبِي دَاوُدَ
مُتَّجِم

اَبِي دَاوُدَ الطَّيْبِ النَّبِيِّ

مصنف

سَيِّدِ اِيْمَانِ بَرْتِ رَاوْدِي بَرْتِ اِيْحَا رُوْدِ
الْمُتَّوِّعِيْنَ ٢٠١٢ هـ



مُتَّجِم

غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی

مدرس جامعہ رسولیہ شیرازیہ رضویہ بلال گنج لاہور

یوسف مارکیٹ ۰ غزنی سٹریٹ
اُردو بازار ۰ لاہور

فون 042-37124354 فیکس 042-37352795

پروگریسو بکس

مِسْتَنْدُ

اَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ

سَيِّدِيْمَانْ بَيْتْ دَاوُدِ بَيْتِ الْبَحْرِيّ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں



مترجم

غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی

مدرس جامعہ رسولیہ شیرازیہ رضویہ ہلال گنج لاہور

بار اول	۵۸۹۷ م	ستمبر 2014ء
پرنترز	۱۲۶۸۹۲	آر آر پرنٹرز
تعداد	۲۰	1100/-
ناشر		چوہدری غلام رسول - میاں جواد رسول
قیمت		میاں شہزاد رسول
		= / روپے

ملنے کے پتے

مللت پبلی کیشنز

۱۲- گنج بخش روڈ لاہور فون 042-37112941
0323-8836776

مللت پبلی کیشنز

فیصل مسجد اسلام آباد Ph: 051-2254111
E-mail: millat_publication@yahoo.com

شوروم مللت پبلی کیشنز دوکان نمبر 5- مکہ سنٹر نیوار دو بازار لاہور 0321-4146464
Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200

یوسف ماریٹ ۰ غزنی سٹریٹ
اردو بازار ۰ لاہور

فون 042-37124354 فیکس 042-37352785

پروگریسو بکس

فہرست

15-10-2015

خان عبدالغنی

22/05/2015

صفحہ	عنوانات
15	69- حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی احادیث
25	70- حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
28	71- حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
35	72- حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
36	73- حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
37	74- حضرت ابوثعلبہ خثنی رضی اللہ عنہ کی حدیث جو نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
39	75- حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
46	76- حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی احادیث
56	77- حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث ان کا نام وہب بن عبداللہ سوائی ہے
58	78- حضرت اشعث بن قیس کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
61	79- حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی احادیث
63	80- حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
64	81- حضرت عروہ بن الجعد البارقی رضی اللہ عنہ کی احادیث
66	82- حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث
73	83- حضرت حذیفہ بن أسید الغفاری رضی اللہ عنہ کی احادیث
75	84- حضرت عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث
75	85- حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ عنہ کی احادیث
80	86- حضرت عیاض بن ہمار الجاشعی کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
85	87- حضرت قیس بن عاصم تمیمی رضی اللہ عنہ کی احادیث
87	88- حضرت حلب الطائی رضی اللہ عنہ کی احادیث

صفحہ	عنوانات
88	89- حضرت ابو زین العقیلی رضی اللہ عنہ کی احادیث
92	90- حضرت طلق بن علی یمامی رضی اللہ عنہ کی احادیث
95	91- حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ عنہ کی احادیث
98	92- حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی احادیث
101	93- رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی احادیث
103	94- حضرت اوس بن حذیفہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی احادیث
109	95- غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی احادیث
111	96- حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
115	97- حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کی احادیث
117	98- حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کی احادیث
127	99- حضرت عامر بن ربیعہ البدری رضی اللہ عنہ کی احادیث
131	100- حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ کی احادیث
132	101- حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کی احادیث
134	102- حضرت عمرو بن عبسہ سلمی رضی اللہ عنہ کی احادیث
137	103- حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی احادیث
139	104- جو حضرت مقداد بن اسود کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
140	105- حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
142	106- حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
143	107- حضرت صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ کی احادیث
147	108- حضرت عباد بن شریب رضی اللہ عنہ کی حدیث
148	109- حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ کی احادیث
149	110- حضرت ربیعہ بن کعب سلمی رضی اللہ عنہ کی احادیث
154	111- حضرت حمزہ بن عمرو سلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث
155	112- حضرت جربہ سلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث
156	113- حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی احادیث
159	114- حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کی حدیث

صفحہ

عنوانات

- 159 - حضرت محمد بن صفوان رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 160 - حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 161 - حضرت عبدالرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 161 - حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی احادیث
- 162 - حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 163 - حضرت معقیب بن ابی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 164 - حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 165 - حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 166 - حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ کی احادیث
- 167 - حضرت سوید بن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 169 - حضرت مالک بن عمیر رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 170 - حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 170 - حضرت ثعلبہ بن حکم لیشی رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 171 - حضرت ابن لبید انصار کے ایک آدمی رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 172 - حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 173 - حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی احادیث
- 174 - حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 176 - حضرت الاغر قبیلہ جہینہ کے ایک آدمی کی حدیث
- 178 - حضرت سالم بن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 179 - حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ کی احادیث
- 180 - حضرت حرمہ عنبری رضی اللہ عنہ کی احادیث
- 181 - حضرت جابر بن سلیم جیمی رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 183 - حضرت عمس بن سلامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 185 - حضرت عمرو بن حرث رضی اللہ عنہ کی حدیث
- 185 - حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی احادیث
- 186 - حضرت ابو جمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث

عنوانات

صفحہ

- 141- حضرت ابو سیارہ صحیحی رضی اللہ عنہ کی حدیث
188
- 142- حضرت عمیر مولیٰ ابی اللحم رضی اللہ عنہ کی حدیث
189
- 143- حضرت ابو ابی العثر اء رضی اللہ عنہ کی حدیث
190
- 144- حضرت عمرو بن خارجه رضی اللہ عنہ کی حدیث
191
- 145- حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی احادیث
192
- 146- حضرت ثابت بن ودیعہ رضی اللہ عنہ کی احادیث
195
- 147- حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث
197
- 148- حضرت عرفجہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
198
- 149- حضرت منہال رضی اللہ عنہ کی حدیث
198
- 150- حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ عنہ کی حدیث
199
- 151- حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
200
- 152- حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
201
- 153- حضرت صعوب بن جثامہ رضی اللہ عنہ کی احادیث
201
- 154- حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی حدیث
203
- 155- حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ کی احادیث
204
- 156- حضرت سہل بن ابی حمزہ انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث
206
- 157- حضرت جعدہ رضی اللہ عنہ کی احادیث
207
- 158- حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
208
- 159- حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کی احادیث
209
- 160- حضرت عتبان بن مالک سالمی رضی اللہ عنہ کی حدیث
210
- 161- حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
213
- 162- حضرت سلمہ بن المحبت الہذلی رضی اللہ عنہ کی حدیث
214
- 163- حضرت ابو سعد زرقی رضی اللہ عنہ کی حدیث
215
- 164- حضرت عروہ بن الجعد البارقی رضی اللہ عنہ کی حدیث
215
- 165- حضرت صحز الغامدی رضی اللہ عنہ کی حدیث
216
- 166- حضرت یزید بن الاسود السوائی رضی اللہ عنہ کی احادیث
217

صفحہ	عنوانات
218	167- حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ کی احادیث
220	168- حضرت نقادہ اسدی رضی اللہ عنہ کی حدیث
221	169- حضرت حکم بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث
222	170- حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث
223	171- حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
224	172- حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
225	173- حضرت ثعلبہ بن زہد رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ ﷺ سے روایت کردہ حدیث
226	174- حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ ﷺ سے روایت کردہ حدیث
227	175- حضرت جنذب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی رسول اللہ ﷺ سے روایت کردہ حدیث
228	176- حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث
228	177- حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث
229	178- حضرت معاویہ لثبی رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
229	179- حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ کی حدیث
230	180- حضرت ہلال مازنی رضی اللہ عنہ کی حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث
231	181- حضرت حظلہ بن الراحب رضی اللہ عنہ کی حدیث
231	182- حضرت ابوسعید بن المعلی رضی اللہ عنہ کی حدیث
232	183- حضرت عتبہ بن عبدالمسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث
233	184- حضرت سفیان بن حکم یا حکم بن سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث
235	185- حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
236	186- حضرت شرید بن سوید ثقفی رضی اللہ عنہ کی احادیث
237	187- حضرت جراح اور ابوسنان اشجعیان رضی اللہ عنہما کی احادیث
238	188- حضرت سلمہ بن قیس رضی اللہ عنہ کی حدیث
239	189- حضرت طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ کی حدیث
240	190- حضرت عتبہ بن غزدان رضی اللہ عنہ کی حدیث
241	191- حضرت جابر بن سمرہ السوائی رضی اللہ عنہ کی احادیث
242	192- حضرت عبداللہ بن بسر المسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث

عنوانات

صفحہ

- 193- حضرت طارق بن شہاب الاحمسی رضی اللہ عنہ کی احادیث . 243
- 194- حضرت عمرو بن مفرس رضی اللہ عنہ کی حدیث 244
- 195- حضرت ابن ابی الجعداء رضی اللہ عنہ کی حدیث 245
- 196- حضرت عطیہ القرظی رضی اللہ عنہ کی حدیث 245
- 197- حضرت عمرو بن حمق رضی اللہ عنہ کی احادیث 246
- 198- حضرت عبدالرحمن بن ابزئی رضی اللہ عنہ کی حدیث 248
- 199- حضرت سلیمان بن سرد اور حضرت خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہما کی احادیث 249
- 200- حضرت کرز بن علقمہ خزاعی رضی اللہ عنہ کی حدیث 250
- 201- حضرت رفاعہ بن عرابہ الجہنی رضی اللہ عنہ کی حدیث 251
- 202- حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ کی حدیث 253
- 203- حضرت جارود بن المعلی رضی اللہ عنہ کی حدیث 254
- 204- حضرت یحییٰ بن یزید رضی اللہ عنہ کی احادیث 256
- 205- حضرت عائذ بن عمرو المزنی رضی اللہ عنہ کی حدیث 257
- 206- حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ کی حدیث 258
- 207- حضرت بشر بن حکیم رضی اللہ عنہ کی حدیث 259
- 208- حضرت ابو حدرہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث 260
- 209- حضرت حجاج بن حجاج اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث 261
- 210- حضرت ابوسائب رضی اللہ عنہ کی حدیث 262
- 211- حضرت مالک بن نسلہ ابوالی الاحوص رضی اللہ عنہ کی حدیث 263
- 212- حضرت غالب بن ابجر رضی اللہ عنہ کی حدیث 265
- 213- حضرت سلمہ بن یزید رضی اللہ عنہ کی احادیث 266
- 214- حضرت عبدالرحمن بن یعمر رضی اللہ عنہ کی احادیث 268
- 215- حضرت بشر بن حزن رضی اللہ عنہ کی حدیث 269
- 216- حضرت یزید ابو حکیم رضی اللہ عنہ کی حدیث 270
- 217- حضرت ابو عقرب رضی اللہ عنہ کی حدیث 271
- 218- حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ کی حدیث 272

صفحہ	عنوانات
275	219- حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی حدیث
276	220- حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی احادیث
279	221- حضرت ابوالسلیح کے والد حضرت اسامہ بن عمیر رضی اللہ عنہ کی احادیث
280	222- حضرت اُبی بن مالک رضی اللہ عنہ کی احادیث
282	223- حضرت یعلیٰ بن مدیہ رضی اللہ عنہ کی احادیث
283	224- حضرت ابو عزہ الہذلی رضی اللہ عنہ کی حدیث
283	225- حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما کی حدیث
284	226- حضرت قبیصہ بن مخارق الہلالی رضی اللہ عنہ کی حدیث
285	227- حضرت ابوالبابی مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کی حدیث
286	228- حضرت ابورہم الغفاری اور ان کا نام حضرت کلثوم بن حصین الغفاری رضی اللہ عنہ ہے کی حدیث
287	229- حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ کی احادیث
290	230- حضرت عبدالملک بن علقمہ الشقی رضی اللہ عنہ کی حدیث
291	231- حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی حدیث
292	232- حضرت قدامہ بن عبد اللہ بن عمار الکلابی رضی اللہ عنہ کی حدیث
293	233- حضرت طخفہ الغفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث
295	234- حضرت ابو شریح رضی اللہ عنہ کی حدیث
295	235- حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
296	236- حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
297	237- حضرت کعب بن عاصم رضی اللہ عنہ کی حدیث
298	238- حضرت ابن نحسینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
298	239- حضرت حنظلہ اُسیدی رضی اللہ عنہ کی حدیث
299	240- حضرت ابو واقد لیشی رضی اللہ عنہ کی حدیث
300	241- حضرت ابو عیاش الزرقی رضی اللہ عنہ کی حدیث
302	242- حضرت ابوبصرہ الغفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث
303	243- حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
304	244- حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

صفحہ	عنوانات
306	245- حضرت یسار الانصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث
306	246- حضرت عبادہ بن قرظ رضی اللہ عنہ کی حدیث
307	247- حضرت ابو محزورہ سمرہ بن معیر رضی اللہ عنہ کی حدیث
308	248- حضرت ابواسید الساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث
309	249- حضرت عتاب بن أسید رضی اللہ عنہ کی حدیث
310	250- حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کی حدیث
310	251- حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
311	252- حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کی احادیث
313	253- حضرت کدیر النضی رضی اللہ عنہ کی حدیث
314	254- حضرت خارجہ بن صلت رضی اللہ عنہ کے چچا کی حدیث
315	255- حضرت عمرو بن سلمہ الجرمی رضی اللہ عنہ کی حدیث
317	256- حضرت عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ کی حدیث
318	257- حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
319	258- حضرت مطلب رضی اللہ عنہ کی حدیث
320	259- حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی حدیث
321	260- حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
321	261- حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
322	262- حضرت اذینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث
322	263- حضرت ابو عبد الرحمن القبری رضی اللہ عنہ کی حدیث
323	264- حضرت رفاعہ البدری رضی اللہ عنہ کی حدیث
324	265- حضرت سیدہ فاطمہ بنت سیدنا حضرت محمد ﷺ کی اپنے والد سے روایت کردہ احادیث
326	266- مسند ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
329	267- حضرت علقمہ بن قیس کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ احادیث
346	268- حضرت ہمام بن حارث کی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ احادیث
349	269- حضرت مسروق کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
357	270- حضرت قاسم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث

صفحہ	عنوانات
372	271- حضرت عروہ بن زبیر کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ احادیث
398	272- حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ احادیث
409	273- حضرت عقبہ بن صہبان ہنائی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث
410	274- حضرت ابونوفل بن ابی عقرب کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ احادیث
410	275- حضرت عطاء بن ابی رباح کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ احادیث
411	276- وہ احادیث جو سعد بن ہشام حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں
413	277- جو حدیثیں عبدالرحمن بن حارث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں
416	278- میمون بن مہران کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
478	279- ابن ابی ملیکہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
418	280- حضرت عبداللہ البہی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
421	281- حضرت محمد بن منتشر کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
422	282- حضرت ابو عطیہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
424	283- حضرت شریح کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
425	284- حضرت یزید بن بانوس کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
426	285- حضرت ابویحیٰ الہذلی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
447	286- جو احادیث صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں
446	287- عبداللہ بن شقیق کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیثیں
448	288- جن روایات میں آپ اکیلی ہیں
449	289- وہ حدیثیں جو آپ سے عورتوں نے روایت کی ہیں
450	290- حضرت صفیہ بنت شیبہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات
454	291- حضرت أم کلثوم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات
457	292- حضرت معاذہ العدویہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات
460	293- حضرت عائشہ بنت طلحہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
461	294- حضرت أم جعفر کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
461	295- حضرت بیہ رضی اللہ عنہا کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
462	296- حضرت أم سالم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

صفحہ	عنوانات
462	297- حضرت ساریہ قریبہ اور ام عمارہ بنت عمیر کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات
465	298- حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
467	299- حضرت امیہ بنت عبد اللہ کی حدیث
468	300- حضرت ام مغیرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث
469	301- وہ روایات جو حضرت حفصہ بنت عمر نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں
472	302- حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے بیان کردہ حدیث
473	303- حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان کی نبی کریم ﷺ سے بیان کردہ احادیث
476	304- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
489	305- حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
493	306- حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
494	307- حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہما کی بہن کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
495	308- حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
496	309- حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
497	310- حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
500	311- حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
502	312- حضرت ام کرز اللعبیہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
503	313- حضرت ام قیس بنت محسن الانصاریہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
505	314- حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
509	315- حضرت بنت حارثہ بن نعمان کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
509	316- حضرت فاطمہ بنت قیس کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
512	317- حضرت سودہ بنت زمعہ کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
513	318- حضرت ضباعہ بنت زبیر اور حضرت ام فضل رضی اللہ عنہما کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
514	319- حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
516	320- حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث
517	321- حضرت ام حصین الاحمیہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
519	322- حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث

صفحہ	عنوانات
519	323- حضرت بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
520	324- حضرت قیلہ بنت مخزمہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
521	325- حضرت ام بجید رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
521	326- حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
522	327- حضرت ایسہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
523	328- حضرت معقل الاشجعیہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
524	329- حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
525	330- حضرت فریہ حضرت ابوسعید کی بہن کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
526	331- حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
528	332- حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ حدیث
529	333- جوحدیشیں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہیں
534	334- حضرت عبد اللہ بن محمد بن عقیل رضی اللہ عنہم کی ان سے روایت کردہ احادیث
539	335- حضرت عطاء بن ابی رباح کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
545	336- حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
551	337- حضرت عمرو بن دینار کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
559	338- حضرت محمد بن منکدر کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
566	339- حضرت محمد بن عمرو بن حسن کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
568	340- حضرت سلیمان بن قیس کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث
568	341- حضرت محارب بن دثار کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
572	342- حضرت سالم بن ابی الجعد کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
574	343- حضرت ابوزبیر کی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ احادیث
591	344- حضرت عبد الرحمن بن جابر کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
593	345- کئی دوسرے افراد کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
601	346- حضرت ابوسفیان طلحہ بن نافع کی حضرت جابر سے روایت کردہ احادیث
605	347- حضرت یحییٰ العززی رضی اللہ عنہ کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث
606	348- حضرت سعید بن میناء کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث

صفحہ	عنوانات
610	349- حضرت عامر شعفی کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
612	350- حضرت یزید بن صہیب الفقیر کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث
614	351- حضرت مجاہد کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث
614	352- بعض دوسرے افراد کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ احادیث
620	353- حضرت عبد اللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کی نبی کریم ﷺ سے منسوب احادیث
621	354- حضرت سالم بن عبد اللہ جو اپنے والد سے احادیث روایت کرتے ہیں
631	355- حضرت حمزہ بن عبد اللہ بن عمر کی اپنے والد سے روایت کردہ احادیث
632	356- حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر کی اپنے والد سے روایت کردہ احادیث
633	357- حضرت نافع کی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ احادیث
653	358- حضرت بشر بن حرب الندبی کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ احادیث
654	359- حضرت زبیر بن عربی کی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ حدیث
655	360- حضرت عبد اللہ بن مرہ کی حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کردہ حدیث
656	361- حضرت مغیرہ بن سلمان کی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ حدیث
656	362- حضرت سماک حنفی کی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کردہ حدیث



69- وَثُوبَانَ

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ

رَحِمَهُ اللَّهُ

کی احادیث

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو کسی کے جنازہ میں شریک ہوا، اس کے لیے ایک قیراط ثواب ہے اور جو جنازہ پڑھ کر اس کو دفن کر کے واپس آیا، اس کے لیے دو قیراط ثواب ہے۔

1078 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثُوبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى قَضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ

حضرت سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ ہم کو حدیث سنائیں! آپ نے فرمایا: تم مجھ کو جھٹلاتے ہو اور تم میرے بارے وہ کچھ کہتے ہو جو میں نے نہیں کیا۔ انہوں نے عرض کی: ہم کو حدیث سنائیں!

1079 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قِيلَ لِثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَدِّثْنَا قَالَ: كَذَبْتُمْ عَلَيَّ وَقُلْتُمْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَقَالُوا: حَدِّثْنَا فَقَالَ: سَمِعْتُ

- 1078- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 22430، ومسلم رقم الحديث: 946 من طريق هشام به .
وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22438-22488-22507، ومسلم رقم الحديث: 946، وابن ماجه رقم الحديث: 1540، والرويانى رقم الحديث: 1078، والبيهقى جلد 3 صفحہ 413، من طرق عن قتادة به .
1079- حدیث صحیح، واسناد المصنف منقطع، سالم بن ابی الجعد لم یسمع من ثوبان . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22424، والبغوی فی الجعديات رقم الحديث: 81، وابن عساكر فی تاریخه جلد 11 صفحہ 166 من طریق شعبة به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22464، ومسلم رقم الحديث: 488، والترمذی رقم الحديث: 388-389، والنسائی رقم الحديث: 1138، وابن ماجه رقم الحديث: 1423، وابن خزيمة رقم الحديث: 316، وابن حبان رقم الحديث: 1735، وغيرهم من طریق معدان بن ابی طلحة، عن ثوبان . وقال الترمذی: حسن صحیح . وفى الباب عن ربيعة بن كعب الأسلمی عند مسلم رقم الحديث: 489، وسيأتى طرف منه برقم 1268 .

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً

(حضرت ثوبان نے) فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جو اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے اللہ عزوجل اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے یا اس کا اس کے بدلے ایک گناہ معاف کرتا ہے۔

1080 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، قَالَ: وَذَكَرَ أَبَا أَسْمَاءَ الرَّحْبِيِّ وَذَكَرَ ثُوبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الدَّنَانِيرِ دِينَارٌ أَنْفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقَهُ عَلَى دَائِتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دیناروں میں افضل دینار وہ ہے جو آدمی اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے اور ایک وہ دینار جو وہ اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور ایک وہ دینار ہے جو وہ اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں۔

1081 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

1080- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 22459-22506، والبخاری في الأدب المفرد رقم الحديث: 748، ومسلم رقم الحديث: 994، والترمذی رقم الحديث: 1966، والنسائی في الكبرى رقم الحديث: 19182، وابن ماجه رقم الحديث: 748، وابن حبان رقم الحديث: 4242-4646، والبيهقی جلد 4 صفحہ 178، وغيرهم من طرق عن حماد بن زيد، به . وقال الترمذی: حسن صحيح . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22434 من طريق ابن عليه، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن حدثه، عن ثوبان . وأخرجه الروياني رقم الحديث: 628-629، والحاكم جلد 4 صفحہ 450 من طريق قتادة، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان .

1081- حدیث صحیح . وقد خولف له حجة وثابت في اسناده، فرواه يزيد ومروان بن معاوية وحماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن أبي أسماء، وهو عند مسلم بالوجهين . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22427 من طريق شعبة وحده به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22475-22504، والبخاری في الأدب المفرد رقم الحديث: 521، ومسلم رقم الحديث: 2568، والترمذی رقم الحديث: 968، والطبرانی رقم الحديث: 1445، والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 384 من

وَتَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ
 أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ: عَائِدُ الْمَرِيضِ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى
 يَرْجِعَ

1082 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
 هِشَامٌ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا قَلَابَةَ
 اكرم ﷺ نے فرمایا: مریض کی عیادت کرنے والا جنت
 کے میوے چن رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ واپس آ
 جائے۔

طریق یزید بن ہارون وغیرہ، عن عاصم، عن ابی قلابہ، عن ابی الأشعث، عن ابی أسماء، بہ . وأخرجه
 احمد رقم الحديث: 22460-22492-22497-22499، ومسلم رقم الحديث: 2568، والترمذی رقم
 الحديث: 967-968، والرویانی رقم الحديث: 632، والطبرانی رقم الحديث: 1446، والقضاعی رقم
 الحديث: 385، وغيرهم من طریق ابوب وخالد الحذاء، عن ابی قلابة، عن ابی أسماء، بہ . وقال
 الترمذی: حسن صحيح، وسمعت محمداً يقول: من روى هذا الحديث عن ابی الأشعث، عن ابی
 أسماء فهو أصح . قال محمد: وأحاديث ابی قلابة انما هي عن ابی أسماء الا هذا الحديث فهو عندي
 عن ابی الأشعث، عن ابی أسماء..... ورواه بعضهم عن حماد بن زيد، ولم يرفعه .

1082- حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 22436، والدارمی رقم الحديث: 1738، وأبو داؤد رقم
 الحديث: 2367، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 3137، وابن الجارود رقم الحديث: 386،
 والحاكم جلد 1 صفحہ 427 وغيرهم من طریق هشام، بہ . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22463، وأبو
 داؤد رقم الحديث: 2367، وابن ماجه رقم الحديث: 1680، والرویانی رقم الحديث: 633، وابن خزيمة
 رقم الحديث: 1963، وابن حبان رقم الحديث: 3532، والحاكم جلد 1 صفحہ 427، وغيرهم من طرق
 عن يحيى، بہ . وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 2371، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث:
 3136-3135، والبيهقي جلد 4 صفحہ 226، والطبرانی فی مسند الشاميين رقم الحديث: 208-666،
 وغيرهم من طرق عن ابی أسماء، بہ . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 7525، وابن أبي شيبه
 جلد 3 صفحہ 50، وأحمد رقم الحديث: 22425-22482، وأبو داؤد رقم الحديث: 2370، والنسائی فی
 الكبرى رقم الحديث: 3134-3133، والطحاوی جلد 2 صفحہ 98، والطبرانی فی مسند الشاميين رقم
 الحديث: 387-388، وغيرهم من طرق عن ثوبان .

حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ، أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ
وَالْمَحْجُومُ

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت
بنت ہبیرہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم ﷺ کے پاس آئیں،
ان کے ہاتھ میں سونے کی انگلی تھی تو نبی اکرم ﷺ
اس کے ہاتھ پر مارنے لگے، پس وہ حضرت فاطمہ رضی
اللہ عنہا کے پاس آئی، آپ ﷺ کی شکایت کرنے۔
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پس نبی
اکرم ﷺ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے
اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا تو انہوں نے اس کی گردن
سے سونے کی رنجیر پکڑی۔ اس نے عرض کیا: یہ مجھے
ابو حسن نے ہدیہ میں دی تھی اور زنجیر اس کے ہاتھ میں

1083 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
هَشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ،
عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ
هَبِيرَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهَا
فَتَّخَ مِنْ ذَهَبٍ — خَوَاتِيمُ ضِخَامٍ — فَجَعَلَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُ يَدَهَا فَاتَتْ فَاطِمَةَ
تَشْكُو إِلَيْهَا قَالَ ثَوْبَانُ: فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَاطِمَةَ وَأَنَا مَعَهُ، وَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ
عُنُقِهَا سِلْسِلَةً مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَتْ: هَذَا أَهْدَاها لِي
أَبُو حَسَنٍ وَفِي يَدِهَا السِّلْسِلَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

1083- حدیث صحیح، واسناد المصنف منقطع، یحیی بن ابی کثیر لم یسمع من ابی سلام۔ وهذا الحدیث
یرویہ هشام وھمام عن یحیی، واخلتف علیھما، فقال الطیالسی عنھما، والنضر بن شمیل عن هشام:
عن یحیی، عن ابی سلام۔ وقال معاذ بن هشام عن ابیہ، وعبد الصمد وموسی عن ھمام: عن یحیی، عن
زید بن سلام، عن ابی سلام، فزادوا زیدًا بین یحیی وابی سلام، وقد أثبت أبو حاتم سماع یحیی من زید،
ونفاه ابن معین۔ والحدیث أخرجه الحاکم جلد 3 صفحہ 152 من طریق المصنف وأخرجه النسائی
رقم الحدیث: 5156 من طریق النضر عن هشام، به۔ وأخرجه الحاکم جلد 3 صفحہ 153 والبیہقی
جلد 4 صفحہ 141 من طریق المصنف، عن ھمام، عن یحیی، به۔ وصححه الحاکم علی شرطھما۔
وأخرجه النسائی رقم الحدیث: 5155 من طریق معاذ بن هشام، عن ابیہ، به۔ وأخرجه أحمد رقم
الحدیث: 22451 عن عبد الصمد، والبیہقی جلد 4 صفحہ 141 من طریق موسی کلاھما عن ھمام، به۔
وأخرجه معمر فی جامعہ رقم الحدیث: 19994 عن یحیی، عن رجل، عن ابی أسماء، عن ثوبان، أن فلانة
بنت القاسم..... وأخرجه الرویانی رقم الحدیث: 627 من طریق ابی قلابہ، عن ابی أسماء، به۔

تھی۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے فاطمہ! کیا تو پسند کرتی ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد کے ہاتھ میں آگ کی زنجیر ہے! پس آپ باہر تشریف لے آئے اور آپ بیٹھے نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس زنجیر کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کے بدلے ایک لونڈی خریدی اور اس کو آزاد کر دیا، یہ بات نبی اکرم ﷺ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات دی۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے قبائل مشرکین سے جا ملیں گے اور یہاں تک کہ وہ بتوں کی عبادت کریں گے اور جب تلوار میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر قیامت تک ان سے نہیں اٹھے گی۔

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ مولیٰ نبی اکرم ﷺ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ أَيُّسْرُكَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ فِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ؟ فَخَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَعَمَدَتْ فَاطِمَةُ إِلَى السِّلْسِلَةِ فَبَاعَتْهَا فَاشْتَرَتْ بِهَا نَسَمَةً فَأَعْتَقَتْهَا، فَبَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّى فَاطِمَةَ بِنْتِي مِنَ النَّارِ

1084 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى يَعْبُدُوا الْأَوْثَانَ وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

1085 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

1084- حدیث صحیح۔ أخرجه أحمد رقم الحديث: 22448-22505 وأبو داؤد رقم الحديث: 4252، والترمذی رقم الحديث: 2202، والرویانی رقم الحديث: 629، والبیہقی فی الدلائل جلد 6 صفحہ 527 من طرق عن حماد، به۔ وقال الترمذی: حسن صحیح۔ وأخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 3952 من طریق قتادة، عن أبي قلابة، به۔

1085- حدیث حسن بمجموع طرقہ، واسنادہ هنا ضعيف، لجهالة عمرو بن عبید۔ وأخرجه البخاری فی التاريخ جلد 6 صفحہ 353 معلقاً من طریق أبي الأشهب، به۔ وأخرج طریق مبارك بن فضالة: أحمد رقم الحديث: 22450، والطبرانی رقم الحديث: 1452، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 1 صفحہ 182۔ ومبارک لین۔ ووقع فی مسند أحمد ابن المبارك۔ وهو خطأ۔ انظر أطراف المسند جلد 1 صفحہ 670۔ وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 4297، والرویانی رقم الحديث: 654، والطبرانی فی مسند الشاميين

الْأَشْهَبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ التَّمِيمِ الْعُبَيْدِيِّ،
عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ الْأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى
الْقَوْمُ إِلَى قَضَعَتِهِمْ قَالَ: قِيلَ: مِنْ قِلَّةٍ؟ قَالَ: لَا
وَلَكِنَّهُ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ يُجْعَلُ الْوَهْنُ فِي
قُلُوبِكُمْ، وَيُنزَعُ الرَّعْبُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ
لِحُبِّكُمْ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَّتِكُمُ الْمَوْتَ قَالَ
يُونُسُ: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ فَضَالَةَ عَنْ
مَرْزُوقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نے فرمایا: عنقریب تمہارے خلاف دوسرے لوگ اکٹھے
ہو جائیں گے جس طرح لوگ ایک عورت کے پاس
اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ عرض کی گئی: کیا وہ کم ہوں گے؟
فرمایا: نہیں! لیکن بہتے ہوئے خس و خاشاک کی طرح
ہوں گے فرمایا: تمہارے دلوں میں بزدلی آ جائے گی
اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا
جائے گا تمہارے دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی
کی وجہ سے۔ یونس نے کہا کہ یہ حدیث ابن فضالہ از
مرزوق ابو عبد اللہ از حضرت ابو اسماء از حضرت ثوبان از
نبی اکرم ﷺ بھی روایت کی گئی ہے۔

1086 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

رقم الحدیث: 600 'والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 4224' من طریق صالح بن رستم' عن
ثوبان - وصالح بن رستم مجهول .

1086- حدیث صحیح' و اسناد المصنف ضعیف' لجهالة أبي شعبة . والحدیث أخرجه أحمد رقم الحدیث:
22496' والبخاری فی التاريخ جلد 2 صفحہ 148 تعليقا والطحاوی جلد 2 صفحہ 96' والطبرانی رقم
الحدیث: 1440' والبيهقي جلد 4 صفحہ 220 من طریق شعبة' به . وقال البخاری: اسنادہ ليس بذاك .
أخرج حدیث حرب وهشام: النسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 3123' وابن خزيمة رقم الحدیث:
1958' والحاكم جلد 1 صفحہ 426 . وأخرجه النسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 3122' وابن خزيمة
رقم الحدیث: 1956' والحاكم جلد 1 صفحہ 426 من طریق عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري' عن
أبيه' عن حسين المعلم' به ' بدون ذکر والد يعیش بن الوليد فيه . وقال الحاكم: صحيح على شرط
الشيخين' ولم يخرجاه لخلاف بين أصحاب عبد الصمد فيه' قال بعضهم: عن يعیش بن الوليد' عن أبيه
' عن معدان . وهذا وهم من قائله ' فقد رواه حرب بن شداد' وهشام الدستوائي' عن يحيى بن أبي كثير
على الاستقامة . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 21748-22435 من طریق هشام' عن يحيى' به ' بدون
ذكر والد يعیش . وفي الموضوع الأول: معدان أو ابن معدان . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 27542

عَنْ أَبِي الْجُودِي، عَنْ أَبِي بَلَجٍ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ
الْمَهْرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءً فَأَفْطَرَ

رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ کو تے آئی تو آپ نے
روزہ افطار کر لیا۔

1087 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
أَبِي ذَنْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَتَكَفَّلُ لِي
بِوَأَحَدَةٍ أَتَقَبَّلُ أَوْ أَتَكْفَلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ قَالَ
ثَوْبَانُ: فَقُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَا تَسْأَلُ
أَحَدًا شَيْءًا أَفَقَالَ فَكَانَ ثَوْبَانُ رَبَّمَا وَقَعَ سَوْطُهُ

حضرت یزید بن معاویہ، حضرت ثوبان رضی اللہ
عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی
اکرم ﷺ نے فرمایا: کون ہے جو مجھے کسی ایک کی
ضمانت دے کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں؟
حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ!
میں دیتا ہوں، آپ نے فرمایا: کسی سے کسی شے کا سوال
نہ کرنا، کہتے ہیں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا بسا

والدارمی رقم الحدیث: 1735، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2381، والترمذی رقم الحدیث: 87، والنسائی
فی الكبرى رقم الحدیث: 3120-3121، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1957، والطحاوی
جلد 2 صفحہ 96، والبیہقی جلد 4 صفحہ 220 من طریق عبد الوارث، عن حسین، به، بزيادة والد يعيش
فيه. وقال الترمذی: جود. حسین المعلم هذا الحدیث. وحديث حسین أصح شيء في هذا الباب.
وقال البيهقي: اسناده مضطرب، ولا تقوم به حجة. وقال ابن مندة: اسناده صحيح متصل، وتركه
الشیطان لاختلاف فی اسناده. وانظر السنن الكبرى للنسائی رقم الحدیث: 3129، والتلخیص الحبير
جلد 2 صفحہ 190.

1087- حدیث صحیح، واسناد المصنف حسن، لحال عبد الرحمن بن یزید بن معاویة. والحدیث أخرجه
أحمد رقم الحدیث: 22439-22476، والنسائی رقم الحدیث: 2589، وابن ماجه رقم الحدیث: 1837
من طرق عن ابن أبي ذنب، به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 22477، والطبرانی رقم الحدیث: 1435
من طریق عبد الرحمن بن یزید، به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 22428، وأبو داؤد رقم الحدیث:
1643، والرويانی رقم الحدیث: 646، والطبرانی رقم الحدیث: 1433-1434، والحاكم جلد 1
صفحہ 412 من طریق أبي العالية الرياحی، عن ثوبان. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره
الدهبی.

فَيَنْزُلُ حَتَّى يَتَنَاوَلَهُ .

اوقات اگر کوڑا بھی گر جاتا تھا تو وہ خود (سواری سے) اترتے اور اس کو اٹھالیتے تھے۔

حضرت عباس بن المسلم الخمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ابی سلام حبشی کی طرف بھیجا، اُن کو برید پر سوار کیا یہاں تک کہ اُن کے پاس لائے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: میں نے آپ کو اس لیے بلوایا تھا کہ میں حضرت ثوبان والی حدیث حوض کے متعلق جو ہے، سنوں۔ حضرت ابوسلام نے فرمایا کہ میں نے ثوبان سے سنا، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میرا حوض عدن ابن سے لے کر عمان البلقاء تک لمبا ہے، اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اس کا پنی شہد سے بیٹھا ہوگا۔ یا یہ فرمایا: دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جو اس سے ایک گھونٹ پیے گا وہ اس کے بعد ہمیشہ پیاسا نہیں ہوگا، سب سے

1088 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَالِمِ اللَّخْمِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بَعَثَ إِلَى أَبِي سَلَامِ الْحَبَشِيِّ وَحَمَلَ عَلَى الْبَرِيدِ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكَ أَشَافِيَهُكَ بِحَدِيثِ ثُوبَانَ فِي الْحَوْضِ فَقَالَ أَبُو سَلَامٍ: سَمِعْتُ ثُوبَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ حَوْضِي مِنْ عَدَنٍ ابْيَنَ إِلَى عَمَّانَ الْبَلْقَاءِ أَكْوَابُهُ مِثْلُ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ مَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ أَوْ قَالَ: أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا أَوَّلُ مَنْ يَرِدُهُ عَلَيَّ فُقَرَاءُ أُمَّتِي فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ

1088- حدیث صحیح . واسماعیل بن عیاش یرویه ہنا عن محمد بن المهاجر، وهو شامي، وأبو سلام قد نفی

سماعه من ثوبان غير واحد، لكنه صرح بالسماع هنا، وقد توبع أيضا . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 22421، وابن عبد البر فی التمهید جلد 2 صفحہ 293 من طریق اسماعیل بن عیاش، به .

وأخرجه الترمذی رقم الحدیث: 2444، وابن ماجه رقم الحدیث: 4303، والطبرانی فی مسند الشاميين

رقم الحدیث: 1411، والحاكم جلد 4 صفحہ 184 من طرق عن محمد بن المهاجر، به، وصححه

الحاكم . وأخرجه ابن أبي عاصم فی السنة رقم الحدیث: 707، والطبرانی رقم الحدیث: 1437، وفي

مسند الشاميين رقم الحدیث: 904-1206-1625، والآجری فی الشریعة رقم الحدیث: 824، وابن

عبد البر فی التمهید جلد 2 صفحہ 294 من طرق عن أبي سلام، به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث:

22462-22479-22483-22500، ومسلم رقم الحدیث: 2301، من طریق معدان بن أبي طلحة، عن

ثوبان . والنظر الصحیحة رقم الحدیث: 1082 .

۱۲۴۸۹۲

پہلے جو میرے پاس لوگ آئیں گے وہ میری امت کے فقراء ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ لوگ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: وہ لوگ جن کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، کپڑے میلے ہوں گے، ان سے مال دار عورتیں نکاح نہیں کریں گی، ان کے لیے امیروں کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا: میں نے اللہ کی قسم مال دار عورت فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا کہ میرے لیے امیروں کے دروازے کھولے گئے ہیں مگر یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ یقیناً رحم کرے گا، اللہ کی قسم! میں اپنے سر کو تیل نہیں لگواؤں گا یہاں تک کہ وہ بکھر جائیں، میں نے جو کپڑے پہنے ہیں ان کو نہیں دھوؤں گا یہاں تک کہ میلے ہو جائیں۔

هُمْ؟ قَالَ: هُمُ الشُّعْتُ الرُّئُوسِ الدُّنْسِ الثِّيَابِ الَّذِينَ لَا يَنْكِحُونَ الْمُتَعَمَّاتِ وَلَا تَفْتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السُّدَدِ قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَا وَاللَّهِ قَدْ أَنْكِحْتُ الْمُتَعَمَّاتِ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَفَتِحَتْ لِي أَبْوَابُ السُّدَدِ إِلَّا أَنْ يَرْحَمَنِي اللَّهُ لَا جَرَمَ وَاللَّهِ لَا أَذْهَنُ رَأْسِي حَتَّى يَشَعْتُ وَلَا أَغْسِلُ ثَوْبِي الَّذِي يَلِي جِلْدِي حَتَّى يَتَسَيَّخَ

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

اکرم ﷺ نے فرمایا: سیدھے رہو اور شمار نہ کرو اور جان

1089 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ

1089- حدیث حسن، واسناد المصنف منقطع، سالم بن ابی الجعد لم یسمع من ثوبان . وأخرجه الحاكم

جلد 1 صفحہ 130 من طرق عن شعبة 'به' وقال: صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 22432-22489، والدارمی رقم الحدیث: 661، والرویانی فی مسنده رقم الحدیث:

614-616، والحاکم جلد 1 صفحہ 130، والبیہقی جلد 1 صفحہ 457، والبغوی فی شرح السنة رقم

الحدیث: 155 من طرق عن الأعمش 'به' . وأخرجه ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 5، والدارمی رقم

الحدیث: 661، وابن ماجہ رقم الحدیث: 277، والرویانی رقم الحدیث: 614-615، والحاکم جلد 1

صفحہ 130، وغیرہم من طرق سالم 'به' . وحدیث الولید بن مسلم: أخرجه أحمد رقم الحدیث:

22486، والدارمی رقم الحدیث: 662، وابن حبان رقم الحدیث: 1037، والطبرانی رقم الحدیث:

1444 . والولید یدلس، وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان متکلم فیہ .

لو کہ بے شک تمہارے دین میں بہتر نماز ہے اور وضو پر
بیشکی صرف مؤمن ہی کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث از ولید
بن مسلم از عبد الرحمن بن ثابت از حضرت حسان بن عطیہ
از حضرت ابو کبشہ از حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ از نبی
اکرم ﷺ بھی مروی ہے۔

ثَرْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: اسْتَقْبِلُوا وَلَكِنْ تَحْضُوا وَاغْلَسُوا أَنْ خَيْرَ
دِينِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ
وَيُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ
أَبِي كَبْشَةَ عَنْ ثَرْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ہر (نماز میں)
نمٹھی ہونے پر سلام کے بعد (سجود کے) دو سجودے
ہیں۔ اور اس حدیث کو از عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر از
والد خود از حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بھی روایت کیا گیا
ہے۔

1090 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ
الْكَلَّاعِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ أَوْ ابْنِ يَسَّارٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ثَرْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي كُلِّ سَجْدَتَانِ بَعْدَ
التَّسْلِيمِ وَيُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَرْبَانَ

1090- اسنادہ ضعیف، حال زہیر بن سالم، قال الدارقطنی: منکر الحدیث. وأخرجه المنزی فی تہذیب

الکنال جلد 9 صفحہ 407 من طریق المصنف. وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 3533، وأبو داؤد

رقم الحدیث: 1038، وابن ماجہ رقم الحدیث: 1219، والبیہقی جلد 2 صفحہ 337 من طرق عن

اسماعیل بن عیاش، بہ. وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 3533، وأحمد رقم الحدیث: 22470،

وأبو داؤد رقم الحدیث: 1038، والطبرانی رقم الحدیث: 1412 من طرق عن اسماعیل، عن عبید اللہ

بن عبید، عن زہیر، عن عبد الرحمن بن جبیر، بالاسناد الثانی. وقال البیہقی فی معرفة السنن

جلد 2 صفحہ 171: تفرد بہ اسماعیل بن عیاش، وليس بالقوی. وأخرجه ابن أبی شیبہ جلد 2 صفحہ 33

من طریق الہیثم بن حمید، عن عبید اللہ بن عبید، عن زہیر، عن ثوبان. وزہیر علی ضعفہ لم یسمع من

ثوبان. وانظر الارواء جلد 2 صفحہ 45-48.

70- وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عنه کی نبی اکرم ﷺ سے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روایت کردہ احادیث

1091 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ

ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے سو

عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ

ہم نے ایک جگہ رات گزار لی، ہم سے ہر ایک سو گیا، پھر

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسْنَا وَافْتَرَشَ

میں رات کے کسی حصے میں جاگا تو دیکھا کہ آپ ﷺ

كُلَّ مِثْرَاعٍ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ انْتَبَهْتُ بَعْضَ اللَّيْلِ فَإِذَا

اپنی آرام گاہ میں نہیں تھے میں آپ کو تلاش کرنے کے

1091- حدیث صحیح . واسنادہ المصنف منقطع، بین ابی الملیح و عوف اثنان کما بینته الطرق الأخری هما

أبو بردة بن ابی موسیٰ، عن أبیه، وبهما یتصل الاسناد ویصح . وأخرجه البیهقی فی الدلائل جلد 7

صفحہ 87 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24048-24049، والبخاری فی التاریخ

جلد 3 صفحہ 370، والترمذی رقم الحدیث: 2441، وابن حبان رقم الحدیث: 211-6463-6470،

والرویانی رقم الحدیث: 597، والطبرانی جلد 18 صفحہ 73، والحاکم جلد 1 صفحہ 67، وابن مندہ فی

الایمان رقم الحدیث: 925، وغیرہم من طریق قتادہ، بہ . وصححه الحاکم علی شرطہما . وقال ابن

مندہ: هذا اسناد صحیح علی رسم النسائی، الا أن فیہ ارسالاً..... روى محمد بن أبی الملیح، عن أخیه

زیاد بن أبی الملیح، عن أبیه، عن أبی بردة، عن عوف بن مالک . وعنه عبد الصمد بن عبد الوارث .

ورواه أبو سلمة، عن حماد، عن عاصم، عن أبی بردة بن أبی موسیٰ، عن أبیه..... اتصل هذا الحدیث

بروایتہم عن أبی الملیح، عن أبی بردة، عن أبی موسیٰ، عن عوف بن مالک . أخرجه أحمد رقم

الحدیث: 24023 من طریق عبد الصمد . وأخرجه ابن حبان رقم الحدیث: 7207، والحاکم جلد 1

صفحہ 67 من طریق حمید بن ہلال، عن أبی بردة، عن أبیه، عن عوف . وقال: صحیح علی شرطہما .

وأخرجه ابن ماجہ رقم الحدیث: 4317، والحاکم جلد 1 صفحہ 66-67 من طریق آخر عن عوف .

وصححه الحاکم وأقره الذهبی . وانظر العلل للدارقطنی جلد 6 صفحہ 85-86 .

لیے نکلا تو میں نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہما کو کھڑے دیکھا، میں نے ان دونوں سے کہا: کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے؟ دونوں نے کہا کہ نہیں! سو ہم نے ایک آواز سنی، چکی کے چلنے کی آواز کی طرح تو رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس آئے، آپ نے فرمایا: میرے پاس میرے رب عزوجل کی طرف سے آنے والا آیا، پس مجھے اپنی آدمی امت کو جنت میں داخل کرنے اور شفاعت کے درمیان اختیار دیا گیا تو میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ ہم نے عرض کی: ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں اور صحابی ہونے کی قسم! آپ ہم کو شفاعت میں شامل کریں! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میری شفاعت میں شامل ہو۔ اور ایک اور آدمی آیا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے بھی شفاعت میں شامل کر لیں! تو آپ ﷺ نے فرمایا: تجھے میری شفاعت پہنچ گئی، جب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو رسول اللہ ﷺ نے دعا کی: اے اللہ! میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت اس کو ملے جسے اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے موت آئے۔

لَيْسَ بَيْنَ يَدَي رَاحِلَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ، فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَائِمَيْنِ فَقُلْتُ لَهُمَا: هَلْ رَأَيْتُمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا: لَا، وَأَنَا أَسْمَعُ صَوْتًا فَإِذَا مِثْلُ هَزِيرِ الرَّحَى فَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ آتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَخَيْرَنِي بَيْنَ أَنْ يُدْخِلَ نِصْفَ أُمَّتِي الْجَنَّةَ وَبَيْنَ الشَّفَاعَةِ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ فَقُلْنَا: نَشُذُكَ اللَّهُ وَالصُّحْبَةَ لَمَّا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُمْ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ فَيَقُولُ: أَنْتَ مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِي فَلَمَّا أَضْبُوا عَلَيْهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنَّ شَفَاعَتِي لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا

حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1092 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1092- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لضعف شیخہ وشیخ شیخہ، وللانقطاع بین حبیب وعوف .

وأخرجه الطبرانی فی الأوسط رقم الحدیث: 1386، وابن عدی جلد 6 صفحہ 2055 من طریق یزید بن

ہارون، عن شعبۃ، عن الفرّج بن فضالۃ، عن اسماعیل بن عیاش، عن أبی بکر بن أبی مرین، بہ . قال

یزید: ثم قدم اسماعیل بن عیاش بغداد فسمعتہ منه . وأخرجه الطبرانی جلد 18 صفحہ 59، والمزی فی

الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيَّ جِنَازَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ تَلَجٍ وَبَرَدٍ وَنَقِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ بِدَارِهِ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّارِ قَالَ: عَوْفٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنِ وَأَنَا

کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک تھا انصار کے ایک آدمی کے جنازہ میں تو میں نے آپ کو دعا کرتے سنا: اے اللہ! تو اس پر رحم فرما اور اس کو بخش دے اور اس کو معاف فرما اور اس کو عافیت دے اور اس کے گناہ اولوں اور برف سے دھو دے جیسے سفید کپڑا میل نکالنے سے صاف ہو جاتا ہے اور اس گھر کے بدلے اسے اچھا گھر عطا فرما! اور اس کے اہل خانہ سے اچھے اہل خانہ اس کو عطا فرما! اور اس کو عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے محفوظ فرما! حضرت عوف نے فرمایا: بے شک میں نے اس جگہ کو دیکھا تو میں نے تمنا کی کہ کاش میں انصاری کی

تہذیب الکمال جلد 20 صفحہ 63 من طریق آخر عن اسماعیل، بہ . وأخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 1500 من طريق المصنف، عن الفرّج، عن عصمة بن راشد، عن حبيب بن عبيد، به، وهو الاسناد الأخير المشار اليه . وأخرجه الطبراني جلد 18 صفحہ 59، وابن عدی جلد 6 صفحہ 2054 والمزی فی تہذیب الکمال جلد 20 صفحہ 63 من طریق اسماعیل بن عیاش، عن عصمة به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24021 ومسلم رقم الحديث: 963، والنسائي رقم الحديث: 62-1982، وابن الجارود رقم الحديث: 538، وابن حبان رقم الحديث: 3075، والطبراني جلد 18 صفحہ 44-45، وفي الدعاء رقم الحديث: 1162، والبيهقي جلد 4 صفحہ 40 من طريق معاوية بن صالح، عن حبيب بن عبيد، عن جبیر بن نفیر، عن عوف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24046، ومسلم رقم الحديث: 963، والترمذی رقم الحديث: 1025، والنسائي رقم الحديث: 1982، والرويانی رقم الحديث: 596-601، والبزار رقم الحديث: 2739، وابن حبان رقم الحديث: 3075، والطبراني فی الدعاء رقم الحديث: 1163، والبيهقي جلد 4 صفحہ 40 من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر، عن أبيه، عن عوف . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 963، والنسائي رقم الحديث: 1982، وفي الكبرى رقم الحديث: 10926، والطبراني جلد 18 صفحہ 44، وفي الدعاء رقم الحديث: 1164، والبيهقي جلد 4 صفحہ 40 من طريق أبي حمزة ابن سليم، عن عبد الرحمن بن جبیر، به .

جگہ پر ہوتا جو میں نے اس کے حق میں رسول اللہ ﷺ کی دعا سنی تو۔ اور یہ حدیث از حبیب بن عبید از جمیر بن نفیر از حضرت عوف بھی روایت کی گئی ہے۔ اور میں نے اس حدیث کو ایک اور جگہ دیکھا (اس کی سند یہ ہے): ابو داؤد فرج بن فضالہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھے عاصمہ بن راشد نے از حبیب بن عبید از حضرت عوف حدیث بیان کی۔

أَتَمَّنِي أَنْ أَكُونَ مَكَانَ الْأَنْصَارِيِّ؛ لِمَا سَمِعْتُ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَيُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبِيدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ عَوْفٍ وَرَأَيْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْفَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَصَمَةُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبِيدٍ عَنْ عَوْفٍ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ

عنه کی نبی اکرم ﷺ سے

روایت کردہ احادیث

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ”فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ“ نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ تسبیح رکوع میں رکھ لو پھر جب ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى“ نازل ہوئی تو نبی

71- وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1093 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ الْغَافِقِيِّ، عَنْ عَمِّهِ إِيَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَتْ (فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ

1093 - حدیث حسن، فیہ ایاس بن عامر، صدوق۔ أخرجه ابن حزم فی المحلی جلد 3 صفحہ 335 من طریق

المصنف. وأخرجه أبو داؤد رقم الحدیث: 869، وابن ماجه رقم الحدیث: 887، وابن خزيمة رقم

الحدیث: 601-670، وابن حبان رقم الحدیث: 1898، والحاكم جلد 1 صفحہ 225 من طریق ابن

المبارك، به. وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: ایاس بن عامر ليس بالمعروف. وأخرجه احمد

رقم الحدیث: 17450، والدارمی رقم الحدیث: 1311، وابن خزيمة رقم الحدیث: 600-670، وأبو

یعلی رقم الحدیث: 1738، والطحاوی جلد 1 صفحہ 235، والطبرانی جلد 17 صفحہ 321-322، وفي

الدعاء رقم الحدیث: 532-584، والحاكم جلد 1 صفحہ 225، والبيهقي جلد 2 صفحہ 86 من طریق أبي

عبد الرحمن المقرئ، عن موسى بن أيوب، به.

الْعَظِيمِ) (الواقعة: 74) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا فِي الرُّكُوعِ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبَّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین اوقات میں رسول اللہ ﷺ نماز پڑھنے اور اپنے مُردوں کو دفن کرنے سے منع فرماتے تھے (۱) جب سورج طلوع ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے (۲) اور دوپہر کے وقت حتیٰ کہ سورج ڈھل جائے (۳) اور غروب ہونے کے وقت حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔

1094 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بَارِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ الظَّهِيرَةَ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ

حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1095 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1094- حدیث صحیح . أخرجه النسائي رقم الحديث: 559، وابن ماجه رقم الحديث: 1519 من طريق ابن المبارك، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17415-17420، والدارمي رقم الحديث: 1439، ومسلم رقم الحديث: 831، وأبو داؤد رقم الحديث: 3192، والترمذی رقم الحديث: 1030، وابن ماجه رقم الحديث: 1519، وأبو يعلى رقم الحديث: 1755، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 386، والطبرانی جلد 17 صفحہ 289، والبيهقي جلد 2 صفحہ 454 من طرق عن موسى بن علي، به .

1095- حدیث صحیح . أخرجه الترمذی رقم الحديث: 1500، والبيهقي جلد 9 صفحہ 269 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17342-17460، والبخاری رقم الحديث: 5547، ومسلم رقم الحديث: 1965، والترمذی رقم الحديث: 1500، والنسائي رقم الحديث: 4393، وأبو يعلى رقم الحديث: 1708، والطبرانی جلد 17 صفحہ 344، وغيرهم من طرق عن هشام، به . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 1965، والنسائي رقم الحديث: 4392، والطبرانی جلد 17 صفحہ 343 من طرق يحيى بن كثير، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17384، والبخاری رقم الحديث: 2500-5555، ومسلم رقم الحديث: 1965، والترمذی رقم الحديث: 1500، والنسائي رقم الحديث: 4391 .

ہشام، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَصَارَتْ لِي جَذَعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَحَّ بِهَا

1096 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان سے بڑی کوئی نہیں دیکھی گئی ہیں، ان میں سے ”قل اعوذ برب الفلق“ قل اعوذ برب الناس“ ہے۔

الضَّبِّيُّ، عَنْ بَيَانَ، وَاسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْزَلَ عَلَيَّ آيَاتٍ لَمْ يَرِ أَعْظَمُ مِنْهُنَّ يَعْْنِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

1097 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

1096- حدیث صحیح۔ أخرجه مسلم رقم الحديث: 814؛ والنسائي رقم الحديث: 953؛ والطبراني جلد 17 صفحہ 350 من طریق جرير، عن بيان، به۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17408 من طریق بيان، به۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17341-17392-17316؛ والدارمي رقم الحديث: 3444؛ ومسلم رقم الحديث: 814؛ والترمذي رقم الحديث: 2902-3367؛ والنسائي رقم الحديث: 5455؛ والطبراني جلد 17 صفحہ 350 من طریق اسماعيل، به۔ وقال الترمذي: حسن صحيح۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17380-17404-17491؛ والدارمي رقم الحديث: 4332-4333؛ وأبو داود رقم الحديث: 1462-1463؛ والنسائي رقم الحديث: 5448-5451-5454؛ من طرق عن عقبه، به۔ وانظر العليل لابن أبي حاتم رقم الحديث: 1667۔

1097- حدیث حسن۔ وشيخ المصنف ضعيف، وقد سمي المبهم في طريق أحمد وغيره، وهو عبد الله بن عامر الأسلمي، وهو ضعيف أيضاً، لكنه متابع بما يعضده۔ وأخره أحمد رقم الحديث: 17437 عن أبي النضر، عن الفرّج بن فضالة، عن عبد الله بن عامر، عن أبي علي ثمامة بن شفي، عن عقبه۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17461؛ والطبراني جلد 17 صفحہ 328-329 من طريق عبد الله بن عامر، به۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17343-17829؛ وأبو داود رقم الحديث: 580؛ وابن ماجه رقم

کہ وہ ایک سفر پر تھے سو ہم نے ارادہ کیا کہ وہ ہم کو نماز پڑھائیں تو آپ نے پڑھانے سے انکار کر دیا، فرمایا: تم میں سے ہی کوئی آدمی کھڑا ہوا، یہاں تک کہ میں تم کو بتاؤں گا کہ میں نے نماز کیوں نہیں پڑھائی، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: جو کسی کو امامت کروائے وہ ان کو مکمل نماز پڑھائے، سو اس کے لیے بھی ثواب ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی ثواب ہوگا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو مقتدیوں کے لیے مکمل ثواب ہوگا، اس (امام) کے لیے نقصان ہوگا۔

الْفَرَجُ بْنُ فَصَالَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَرٍ فَأَرَدْنَا أَنْ يُصَلِّيَ بِنَا فَأَبَى وَقَالَ: لِيَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْكُمْ حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَاتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ لَهُمُ التَّمَامُ وَلَهُ النُّقْصَانُ

حضرت ابوالہیثم فرماتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن

1098 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

الحديث: 983، وابن خزيمة رقم الحديث: 1513، وابن حبان رقم الحديث: 2221، والحاكم جلد 1 صفحہ 210 من طريق عبد الرحمن بن حرملة، عن أبي علي، به. وعبد الرحمن صدوق ربما أخطأ، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.

1098- حديث صحيح، واسناده المصنف ضعيف، لجهالة أبي الهيثم، وبينه وبين عقبه دخين الحجري، كما سيأتي، ودخين ثقة. وأخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 331 من طريق المصنف. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 758، وأبو داؤد رقم الحديث: 4891، والطبراني جلد 17 صفحہ 319 من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 7282، والحاكم جلد 4 صفحہ 384 من طريق ابن وهب، عن ابراهيم بن نسط، به. وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 7281 من طريق آخر عن ابن المبارك، به، دون ذكر أبي الهيثم. وقد خالف الليث بن المبارك وابن وهب، فقال: عن ابراهيم بن نسيط، عن كعب بن علقمة، عن أبي الهيثم، عن دخين الهجري، عن عقبه، فزاد ذكر دخين في اسناده. أخرجه أحمد رقم الحديث: 17433، وأبو داؤد رقم الحديث: 4892، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 7283 من طرق عن الليث، به. وأخرجه الفسوي في المعرفة جلد 2 صفحہ 503، وابن حبان رقم الحديث: 517، والبيهقي جلد 8 صفحہ 331 من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن الليث، عن ابراهيم، عن كعب، عن دخين أبي الهيثم، عن

المُبَارَكِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَشِيْطٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ، قَالَ: قِيلَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: اِنَّ لَنَا جِيْرَانًا يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ رَاَى عَوْرَةَ فَسْتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اَحْيَا مَوْتُوْدَةً مِنْ قَبْرِهَا

عامر رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ ہمارے پڑوسی شراب پیتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں آپ نے اس سے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جو کسی کا عیب دیکھے اور اس کو چھپائے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے مردے کو اس کی قبر سے زندہ کیا ہے۔

1099 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے

عقبہ . ورواه ابن لهيعة ، عن كعب بن علقمة ، عن أبي كثير مولى عقبة ، عن عقبة . أخرجه أحمد رقم الحديث: 17363-17370 . وأخرجه أحمد أيضًا رقم الحديث: 17483 من طريق ابن لهيعة ، ولم يسم مولى عقبة . ورواه أبو الخير مرثد بن عبد الله ، عن عقبة ، بلفظ: فسترها عليه ، أدخله الله الجنة . وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: 1481 . وروى هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري عن عقبة ، وهو الذي رجل فيه الى مصر لسماعه من عقبة ، ولفظه: من ستر مؤمنًا في الدنيا على عورة ، ستره الله يوم القيامة . أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 18936 ، والحميدي رقم الحديث: 384 ، وأحمد رقم الحديث: 17490 .

1099- اسنادہ ضعیف، یحییٰ بن ابی کثیر متکلم فی سماعہ من ابی سلام، وعبد اللہ بن زید مجہول . وأخرجه الرويانى رقم الحديث: 184، والبيهقى جلد 10 صفحہ 13 من طريق المصنف . وقد تابع جمع المصنف عليه عن هشام . أخرجه أحمد رقم الحديث: 17338، والدارمى رقم الحديث: 2410، والترمذى رقم الحديث: 1637، وابن ماجه رقم الحديث: 2811، والرويانى رقم الحديث: 184، والطبرانى جلد 17 صفحہ 341-342، وابن عساكر جلد 28 صفحہ 313-314 . وقال الترمذى: حسن . وأخرج رواية معمر: أحمد رقم الحديث: 17375، والبخارى فى التاريخ جلد 3 صفحہ 150 تعليقًا والرويانى رقم الحديث: 188، والطبرانى جلد 17 صفحہ 340، وابن عساكر جلد 28 صفحہ 312-313 وفى مطبوعة تاريخ البخارى: عن يحيى ، عن زيد بن سلام ، عن أبى سلام عن عبد الله ، فالله أعلم . وأخرج رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: أحمد رقم الحديث: 17373، وأبو داؤد رقم الحديث: 2513، والنسائى رقم الحديث: 3146-3580، والرويانى رقم الحديث: 247، والطبرانى جلد 17 صفحہ 342، والخطيب فى

ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا: بے شک اللہ عزوجل ایک تیر کے ساتھ تین آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا، (۱) بنانے والے کو جس کی نیت اسے بنانے سے ثواب کی ہو (۲) مارنے والے کو (۳) اور (تیر اٹھا کر) دینے والے کو۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھو اور تیر اندازی کرنا مجھے گھڑ سواری سے زیادہ محبوب ہے اور ہر وہ کھیل جو آدمی کھیلتا ہے وہ باطل ہے مگر وہ آدمی جو اپنی کمان سے تیر پھینکے یا اپنے گھوڑے کو ادب سکھائے یا جو اپنی بیوی سے (مباشرت کے دوران) کھیلے کیونکہ یہ اس کے حقوق میں سے ہے اور جس نے تیر اندازی چھوڑ دی اسے سیکھنے کے بعد تو بے شک اس نے انکار کر دیا اس کا جس نے اس کو سکھایا۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے وضو کیا اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے میں نے آپ کو فرماتے سنا: جس نے وضو کیا پس اچھی طرح وضو کیا پھر فرض نماز ادا کی تو اس کو مکمل اور اچھی

هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَدْخِلُ الثَّلَاثَةَ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الْجَنَّةَ صَانِعُهُ يَحْتَسِبُ بِصَنْعَتِهِ الْخَيْرَ، وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُمِدَّ بِهِ

1100 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَزْرَقِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْمُوا وَارْكَبُوا، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَكُلُّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمَى الرَّجُلُ بِقَوْسِهِ، أَوْ تَادِيْبَهُ فَرَسَهُ أَوْ مَلَاعِبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهِنَّ مِنَ الْحَقِّ، وَمَنْ تَرَكَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عَلِمَهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عَلِمَهُ

1101 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَخْرَاقٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: تَوَضَّأْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ

الموضح جلد 1 صفحہ 114، والبيهقي جلد 10 صفحہ 13، وابن عساكر جلد 28 صفحہ 314.

1100 - اسنادہ ضعیف، کسابقہ وهو جزء من الحدیث السابق. وأخرج مسلم رقم الحدیث: 1919 من طریق

عبد الرحمن بن شماسه، عن عقبه مرفوعاً.

1101 - حدیث صحیح، واسناد المصنف منقطع، سبق تخريجہ.

الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ يَحْفَظُهَا وَيَعْقِلُهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا كَانَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

طرح ادا کیا یہاں تک کہ نماز پڑھ کر فارغ ہو گیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔

1102 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَيْسِ الْجُدَامِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً كَانَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ مَكَانَ كُلِّ عَضْوٍ عَضْوًا

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی غلام آزاد کیا تو وہ اس کے لیے جہنم سے فدیہ ہو جائے گا ہر عضو کی جگہ (یعنی ہر عضو کے بدلے)۔

1103 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1102 - اسنادہ منقطع 'قتادة لم يسمعه من قيس' بينهما الحسن بن عبد الرحمن الشامي 'كما سيأتي' وهو مجهول' ترجم له ابن حبان في الثقات' وقال: شيخ. والحديث عزاه البوصيري في التحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 1699 الى المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17394' وأبو يعلى رقم الحديث: 1760' والطبراني جلد 17 صفحہ 333 من طريق هشام' به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17364' والطبراني جلد 17 صفحہ 333 من طريق ابن أبي عروبة' عن قتادة' به. وأخرجه الروياني رقم الحديث: 241' والحاكم جلد 2 صفحہ 211 من طريق الطيالسي' عن هشام' عن قتادة' عن الحسن بن عبد الرحمن الشامي' عن قيس' عن عقبه. وقال: صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبراني جلد 17 صفحہ 333 من طريق همام' عن قتادة' عن الحسن بن عبد الرحمن' عن قيس' به.

1103 - حديث صحيح. وقد سمي سعيد بن أبي أيوب عن أسامة بن زيد الواسطة بين يزيد وبين عقبه' وأنه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني. أخرجه الدارمي رقم الحديث: 2409' والحاكم جلد 2 صفحہ 328' والا أن رواية الدارمي موقوفة. وقال الحاكم: صحيح الاسناد على شرط الشيخين' ولم يخرجه البخاري' لأن صالح بن كيسان أوقفه. وأخرجه الترمذي رقم الحديث: 3083' والطبري في التفسير جلد 10 صفحہ 30 من طريق وكيع وغيره' عن أسامة بن زيد' عن صالح بن كيسان' عن رجل' عن عقبه. وأخرجه الطبري جلد 10 صفحہ 30 من طريق آخر عن أسامة' عن صالح' عن عقبه' ولم يدركه. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17468' ومسلم رقم الحديث: 1917' وأبو داؤد رقم الحديث: 2514'

اللّٰهُ بِنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ (وَأَعَدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) (الانفال: 60) فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ

رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا تو یہ آیت پڑھی: ”کافروں (کے ساتھ مقابلے) کے لیے تیار رکھو جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔“ پس فرمایا: خبردار! بے شک قوت تیر اندازی ہے، خبردار! قوت تیر اندازی ہے۔

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ

عنه کی نبی اکرم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم

ﷺ کے پاس ایک ہار لایا گیا، اس میں سونے کے

72- وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1104 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي

وابن ماجہ رقم الحدیث: 2814، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 1743، والطبری جلد 10 صفحہ 30 وغیرہم من طریق ابی علی الہمدانی، عن عقبہ . وأخرجه الطبری جلد 10 صفحہ 30 من طریق آخر عن عقبہ . وانظر العلل لابن ابی حاتم رقم الحدیث: 1696 .

1104- حدیث صحیح . أخرجه مسلم رقم الحدیث: 1591، وأبو داؤد رقم الحدیث: رقم الحدیث: 3351، والترمذی رقم الحدیث: 1255، والطبرانی جلد 18 صفحہ 302، والبیہقی جلد 5 صفحہ 293 من طرق عن ابن المبارک، به . وقال الترمذی: حسن صحیح . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24008، ومسلم رقم الحدیث: 1591، وأبو داؤد رقم الحدیث: 3352، والترمذی رقم الحدیث: 1255، والنسائی رقم الحدیث: 4587، والطبرانی جلد 18 صفحہ 302، والبیہقی جلد 5 صفحہ 292 من طرق عن اللیث بن سعید، عن سعید بن یزید ابی شجاع، به . وأخرجه النسائی رقم الحدیث: 4588 من طریق ہشیم، عن اللیث، عن خالد، به، باسقاط ابی شجاع . وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 1591، والبیہقی جلد 5 صفحہ 292 من طریق آخر عن فضالہ .

جواہرات لگائے گئے تھے اس کو ایک آدمی نے سات یا نو دنانیر کا خرید لیا یہ بات نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں ذکر کی گئی تو آپ نے فرمایا: اس کو اس طرح فروخت نہ کرنا یہاں تک کہ ان کو اس ہار سے جدا نہ کر لو۔

شُجَاعٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ فَضَالَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزَةٌ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبٍ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ بِسَبْعَةِ أَوْ تِسْعَةِ دَنَانِيرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَا حَتَّى يُمَيِّزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ

73- وَائِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ عَنِ

عنه کی نبی اکرم ﷺ سے

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

روایت کردہ احادیث

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھے تورات کی جگہ سب سے دی گئی ہیں اور زبور کی جگہ میں دی گئی ہے اور انجیل کی جگہ مثانی دی گئی ہے اور مجھے مفصل (سورتوں) کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔

1105 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّوْرَةِ السَّبْعَ وَمَكَانَ الزَّبُورِ الْمِثِينَ وَمَكَانَ الْأَنْجِيلِ الْمَثَانِي وَفُضِّلْتُ بِالْمُفْصَلِ

حضرت ابوسعید الشامی فرماتے ہیں کہ میں نے

1106 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1105- حدیث حسن بمجموع طریقہ . واسنادہ ہنا فیہ عمران القطان صدوق بہم . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17022 والطبری فی التفسیر جلد 1 صفحہ 44 والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 1379 والبیہقی فی الدلائل جلد 5 صفحہ 475 من طریق المصنف . وأخرجه الطبرانی جلد 22 صفحہ 75 من طریق عمران القطان' بہ . وأخرجه الطبری جلد 1 صفحہ 44 والطبرانی جلد 22 صفحہ 76 من طریق سعید ابن بشیر' عن قتادة' بہ' وسعيد بن بشير ضعيف' وقد صححه الألبانی .

1106- اسنادہ ضعیف' لضعف الفرغ بن فضالة' وجهالة أبي سعد' وأخرجه ابن عساكر فی تاریخہ (64/19-

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور یہ صحابی ہیں دمشق کی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے پس انہوں نے اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکا پھر اس کو زمین پر رگڑ دیا جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو میں نے عرض کی: یہ آپ نے کیا کیا؟ حالانکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الشَّامِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ عَرَكَهَا بِالْأَرْضِ فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ: أَتَضَعُ هَذَا وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ

حضرت ابو ثعلبہ حسنی رضی اللہ عنہ کی

74- وَحَدِيثُ أَبِي ثَعْلَبَةَ

حدیث جو نبی اکرم ﷺ سے

الْحُسَيْنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

روایت کردہ احادیث

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابو ثعلبہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ثعلبہ

1107- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

مخطوط) والمزی فی تہذیب الکمال جلد 33 صفحہ 345 من طریق المصنف . وخرجه احمد رقم الحدیث: 16052 ' وأبو داؤد رقم الحدیث: 184 ' والطبرانی جلد 22 صفحہ 88 من طریق الفرّج بن فضالة ' به . وسيتكرر هذا الحدیث برقم رقم الحدیث: 1454 .

1107- حدیث صحیح . وهذا الحدیث وللذان بعده حدیث واحد . وخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار جلد 1 صفحہ 149 من طریق المصنف . وقد اختلف في هذا الحدیث على أيوب ' فرواه حماد بن زيد وشعبة ومعمروا بن جريج وابن أبي عروبة وغيرهم ' عن أيوب ' عن أبي قلابة ' عن أبي ثعلبة . وخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 8503 ' وأحمد رقم الحدیث: 17766-17772 ' والترمذی رقم الحدیث: 1560-1796 ' والطبرانی جلد 22 صفحہ 230 ' والحاكم جلد 1 صفحہ 143 ' والبيهقي جلد 1 صفحہ 33 . قال الترمذی: أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة ' الما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة . وخرجه الحاكم جلد 1 صفحہ 143 من طریق الثوري ' عن خالد الحذاء ' عن أبي قلابة ' به . ورواه حماد بن

خشنی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں ایسے ملک میں رہتا ہوں جس میں اہل کتاب بھی ہیں، وہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، تو ان کے برتن اور ہانڈی کا کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو اس میں بدبو ہو اس کو چھوڑ دو اور اگر اس میں بدبو ظاہر نہ ہو تو اس برتن کو پانی سے دھولیا کرو یا فرمایا: دھولیا کرو پھر اس میں پکالیا کرو اور کھاؤ۔ کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ آپ نے (یہ بھی) فرمایا: اور پیو۔

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْنِيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي بَارِضٌ أَهْلُهَا أَهْلُ الْكِتَابِ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ، فَكَيْفَ بَأْتِيهِمْ وَقُدُورِهِمْ؟ فَقَالَ: دَعُوهَا مَا وَجَدْتُمْ مِنْهَا بُدًّا، فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ أَوْ قَالَ: اغْسِلُوهَا، ثُمَّ اطْبُخُوا فِيهَا وَكُلُوا قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَاشْرَبُوا

1108 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17785 والترمذی رقم الحديث: 1797، والطبرانی جلد 22 صفحہ 218، والحاكم جلد 1 صفحہ 144. وأخرجه الترمذی رقم الحديث: 1797 من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، والحاكم جلد 1 صفحہ 144 من طريق هشيم، عن خالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة، به. وقال الترمذی: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، فان علاه بحديث حماد بن سلمة وهشيم عن خالد حيث زادوا أبا أسماء الرحبي في الاسناد فانه أيضا صحيح يلزم اخراجه في الصحيح، على أن أبا قلابة قد سمع من أبي ثعلبة. ورجح الدارقطني رواية من لم يذكر أبا أسماء، وانظر جامع الترمذی رقم الحديث: 1560، وثم خلافاً آخر انظرها في العلل للدارقطني جلد 6 صفحہ 321. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17787، والبخاری رقم الحديث: 5488-5496، ومسلم رقم الحديث: 1930، وأبو داؤد رقم الحديث: 2852-2855-2856، والترمذی رقم الحديث: 1560، والنسائي رقم الحديث: 4277، وابن ماجه رقم الحديث: 3207، وابن الجارود رقم الحديث: 917، وغيرهم من طريق أبي ادريس، عن أبي ثعلبة. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17768، ومسلم رقم الحديث: 1930، وأبو داؤد رقم الحديث: 3839، والترمذی رقم الحديث: 1464، وابن ماجه رقم الحديث: 2831 من طرق أخرى عن أبي ثعلبة.

1108 - حديث صحيح وهو جزء من الحديث السابق.

نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، وہ شکار کو پکڑ لیتا ہے (اس کا کیا حکم ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: جب تو اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑے تو اللہ کا نام لے کر چھوڑ، جو وہ پکڑے اس کو کھا، اور جب تو ایسا کتا چھوڑے جو سکھایا ہوا نہیں، پس وہ شکار پکڑے تو اگر تو اسے زندہ پائے تو اس کو کھالے اور اگر زندہ نہ پائے تو نہ کھا۔

حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر پھاڑ کھانے والے درندے سے اور گھریلو یا فرمایا: پالتو گدھے کھانے سے منع کیا۔ اور ہشیم نے اس حدیث کا بعض حصہ از خالد از ابو قلابہ از حضرت ابواسماء از حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے۔

بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ كَلْبِي فَيَأْخُذُ الصَّيْدَ؟ قَالَ: إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبُكَ الْمُعْلَمَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَآخَذَ فَكُلْ وَإِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبُكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ فَآخَذَ فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذَكَاتَهُ فَكُلْ وَإِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ

1109 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَآكُلِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ أَوْ قَالَ: الْإِنْسِيَّةِ وَيَرْوِي هُشَيْمٌ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ

حضرت وائل بن حجر رضی اللہ

عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے

روایت کردہ احادیث

حضرت علقمہ بن وائل حضری اپنے والد سے

75- وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1110 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1109- حديث صحيح . وهو جزء من الحديثين السابقين . وأما ما ذكره من تحريم كل ذي ناب : فأخرجه

مالك جلد 2 صفحہ 496 والحمیدی رقم الحديث: 875 وأحمد رقم الحديث: 17770-17772

والبخاری رقم الحديث: 5527-5530 ومسلم رقم الحديث: 1932 وأبو داؤد رقم الحديث: 3802 .

1110- حديث صحيح . وسامع شعبة من سماك قديم صحيح وقد توبع سماك عليه . وعلقمة خلافا لابن

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بِنَ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَهُ
أَرْضًا لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: بِحَضْرَمَوَاتٍ

1111- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بِنَ

حضرت سوید بن طارق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے
ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے سوال کیا، پس عرض

معین قد ثبت سماعه من أبيب بصريحه بالسماع في احاديث، وبالثبات البخاري والترمذي وغيرهما
للسماع، وقد خرج مسلم احاديث من طريقه عن أبيه . وأخرجه الترمذي رقم الحديث: 1381
والبيهقي جلد 6 صفحہ 144 من طريق المصنف . وقال الترمذي: حسن صحيح . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 27282، وابن زنجويه في الأموال رقم الحديث: 1018-1019، والدارمي رقم
الحديث: 2612، والبخاري في الصغير جلد 1 صفحہ 145، وأبو داؤد رقم الحديث: 3058، والترمذي
رقم الحديث: 1381، وابن حبان رقم الحديث: 7205، والطبراني جلد 22 صفحہ 13، والبيهقي
جلد 6 صفحہ 144 من طريق شعبة ' به . وأخرجه البخاري في رفع اليدين 93، وأبو داؤد رقم الحديث:
3059، والطبراني جلد 22 صفحہ 9 من طريق جامع بن مطر، عن علقمة ' به .

1111- حديث صحيح . ورواية أبي مسعود باثبات وائل بن حجر والد علقمة في اسناده الصحيحة . كذا
أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2046 من طريق المصنف : وقال: حسن صحيح . ورواه كذلك
جماعة من الثقات عن شعبة . أخرجه ابن أبي شيبة رقم الحديث: 3542، وأحمد رقم الحديث:
27281، والدارمي رقم الحديث: 2101، والبخاري في تاريخه جلد 4 صفحہ 352، ومسلم رقم
الحديث: 1984، وأبو داؤد رقم الحديث: 3873، والترمذي رقم الحديث: 2046، وابن حبان رقم
الحديث: 6065، والطبراني جلد 22 صفحہ 14، والبيهقي جلد 10 صفحہ 4 . وأخرجه عبد الرزاق رقم
الحديث: 17101، وعنه أحمد رقم الحديث: 18879 عن اسرائيل، عن سماك ' به . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 18809، والبخاري في التاريخ جلد 4 صفحہ 352، وابن ماجه رقم الحديث: 3500 من طريق
حماد بن سلمة، عن سماك، عن علقمة، عن طارق بن سويد، ولم يذكر وائلا . وصحح هذا الوجه ابن
عبد البر . انظر التلخيص جلد 4 صفحہ 75، والاصابة جلد 3 صفحہ 508-509 .

کی: یا رسول اللہ! ہمارے باغات ہیں انگوروں کے، ہم ان کو نچوڑتے ہیں، پس شراب کا ذکر کیا۔ تو آپ ﷺ نے اس سے منع کیا، تو انہوں نے عرض کی: (یا رسول اللہ!) یہ دواء ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلکہ یہ بیماری ہے۔ ابو بشر نے کہا: میری کتاب میں یہ حدیث ان کے والد سے روایت کی گئی ہے اور حضرت ابومسعود نے فرمایا: انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔

حضرت علقمہ بن وائل سے روایت ہے کہ حضرت سلمہ بن یزید رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے سامنے کھڑے ہوئے اس حالت میں کہ آپ عصر کے بعد خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے عرض کی: ہم کو بتائیں کہ اگر آپ کے بعد ہم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنا حق لیں اور ہمارا حق نہ دیں تو؟ پس آپ ﷺ خاموش رہے پھر انہوں نے اپنا سوال دہرایا تو گویا آپ ناراض ہوئے اور خاموش رہے۔ حضرت اشعث نے انہیں جھڑکا اور کہا: اللہ کی قسم! میں سورج غروب ہونے تک آپ سے سوال کرتا رہوں گا یا پھر آپ مجھے جواب دیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان پر ان کا

وَإِلَى الْحَضْرَمِيِّ، يُحَدِّثُ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ طَارِقٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا، فَذَكَرَ الْخَمْرَ فَتَنَاهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا دَوَاءٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ هِيَ دَاءٌ. قَالَ أَبُو بَشِيرٍ: لَيْسَ فِي كِتَابِي هَذَا عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: عَنْ أَبِيهِ

1112 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَإِلٍ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ، قَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ بَعْدَكَ يَسْأَلُونَا الْحَقَّ وَيَمْنَعُونَا؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَسْأَلَةَ فَكَانَهُ غَضِبَ، وَسَكَتَ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أزالَ أَسْأَلُهُ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ أَوْ يُجِيبَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلْتُمْ وَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَهَبٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ

1112 - حدیث صحیح . أخرجه البخاری فی التاريخ جلد 1 صفحہ 42 من طریق اسرائیل عن سماك بالاسناد الأول . وأخرجه البخاری فی التاريخ جلد 1 صفحہ 42 'ومسلم رقم الحديث: 1846' والترمذی رقم الحديث: 2199' والطبرانی جلد 22 صفحہ 16 من طریق شعبة بالاسناد الثاني وقال الترمذی: حسن صحيح . أخرجه الطبرانی جلد 22 صفحہ 16 من طریق أبي الأحوص وشريك عن اسرائيل بالاسناد الثاني . وأخرجه البخاری فی التاريخ جلد 1 صفحہ 42 من طریق آخر عن علقمة 'عن أبيه .

حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ سَلْمَةَ بْنَ يَزِيدٍ

گناہ ہے اور تم پر تمہارا تم سنو اور اطاعت کرو۔ اس حدیث کو وہب نے از شعبہ از حضرت سماک بن حرب از حضرت علقمہ از والد خود روایت کیا کہ حضرت سلمہ بن یزید نے فرمایا۔

1113 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ

حضرت وائل حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی پس میں نے کہا: میں آپ کی احادیث سب سے زیادہ جانتا ہوں آپ نے نماز کی ابتداء کی تو اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ کانوں تک پہنچ گئے اور آپ نے بائیں (ہاتھ) کو دائیں سے پکڑا پھر جب رکوع کا ارادہ کیا آپ نے تکبیر کہی اور ہاتھ اٹھائے جیسے کہ شروع نماز میں اٹھاتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جب رکوع کیا پھر جب رکوع سے سر انور اٹھایا تو آپ نے رفع یدین کیا جیسے کہ شروع نماز میں اٹھاتے تھے پھر سجدہ کیا پس بیٹھے تو بائیں پاؤں بچھا دیا پس اس پر بیٹھے فرمایا: پھر اپنی دائیں ہتھیلی اپنی دائیں ران پر رکھی

بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كَلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: لَا أَحْفَظَنَّ صَلَاتَهُ فَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ أُذُنَيْهِ، وَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا رَفَعَهُمَا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حِينَ رَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَمَا رَفَعَهُمَا حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ سَجَدَ فَافْتَرَشَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى فَقَعَدَ عَلَيْهَا قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فِخْذِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ

1113 - حدیث صحیح . أخرجه الخطيب في المدرج جلد 1 صفحہ 431-432 من طريق المصنف . وأخرجه

الطبرانی جلد 22 صفحہ 34 من طريق سلام' به . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 885' وأحمد رقم

الحديث: 18891' والدارمی رقم الحديث: 1364' والبخاری فی رفع الیدین رقم الحديث: 67' وأبو

داؤد رقم الحديث: 957' والترمذی رقم الحديث: 292' والنسائی رقم الحديث: 888-1267' وابن

ماجه رقم الحديث: 867' وابن الجارود رقم الحديث: 202' وابن حبان رقم الحديث: 1945' وغيرهم

من طرق عن عاصم' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18886' ومسلم رقم الحديث: 401' وأبو داؤد

رقم الحديث: 723' وابن حبان رقم الحديث: 18621' والطبرانی جلد 22 صفحہ 28 من طريق علقمة بن

وائل' عن أبيه' بنحوه مختصراً .

يَدْعُو هَكَذَا يَعْنِي بِالسَّبَابَةِ يُشِيرُ بِهَا

اور بائیں ہتھیلی بائیں ران پر رکھی، پھر شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنے لگے۔

1114 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت وائل حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ اللہ اکبر کہتے اٹھتے بیٹھتے اور رفع یدین کرتے تھے ہر تکبیر کے وقت اور اپنے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے تھے۔ حضرت شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابان بن تغلب نے کہا: اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ جب اسلام پھیرتے تھے تو آپ کے چہرے کی سفیدی دیکھی جاتی تھی، میں نے یہ بات حضرت عمرو سے ذکر کی کہ کیا حدیث میں ہے حتیٰ کہ آپ کے چہرہ انور کی سفیدی نظر آتی؟ تو حضرت عمرو نے اسی کی مثل فرمایا۔

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصَبِيِّ، عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ، وَإِذَا رَفَعَ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقَالَ لِي ابْنُ بَنُو تَغْلِبَ: إِنَّ فِي ذَا الْحَدِيثِ حَتَّى يَبْدُوَ وَضَحُ وَجْهِهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرٍو أَفِي الْحَدِيثِ حَتَّى يَبْدُوَ وَضَحُ وَجْهِهِ؟ فَقَالَ عَمْرُو نَحْوَ ذَلِكَ

1115 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت عبدالجبار بن وائل فرماتے ہیں کہ مجھے

1114 - حدیث صحیح . وفی اسنادہ هنا عبد الرحمن بن الیحصبی 'لم یوثقه غیر ابن حبان . وأخرجه الطبرانی جلد 22 صفحہ 42 من طریق المصنف . وأخرجه ابن أبی شیبہ جلد 1 صفحہ 298 . وأحمد رقم الحدیث: 18873، والدارمی رقم الحدیث: 1255، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 129، والطبرانی جلد 22 صفحہ 41 من طرق عن شعبه 'به . وأخرجه الطبرانی جلد 22 صفحہ 42 من طریق عمرو بن مرّة 'به . وأخرجه الطبرانی جلد 22 صفحہ 42 من طریق آخر، عن عبد الرحمن بن الیحصبی، وانظر الحدیث السابق، والآتی برقم رقم الحدیث: 1117، وانظر رقم الحدیث: 277 .

1115 - حدیث صحیح . واسناد المصنف ضعیف، للابہام الواقع فی الاسناد، وقد تابع وکیع ویزید بن زریع المصنف علیہ عن المسعودی، وروایتہما عن قبل الاختلاط . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 18864، وأبو داؤد رقم الحدیث: 725، والطبرانی جلد 22 صفحہ 32-33 من طرق عن المسعودی 'به مختصراً' لیس فیہ ذکر التسلیم . وأخرجه أبو داؤد رقم الحدیث: 997 من طریق عن علقمة بن وائل، عن أبیہ . وقال الزیلعی فی نصب الرایة جلد 1 صفحہ 432 اسنادہ صحیح .

المَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاِئِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِي عَنْ أَبِي أَنَّهُ، صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

میرے بعض گھر والوں نے میرے والد سے روایت بیان کی کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنی دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا۔

1116 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

حضرت عبد الجبار بن وائل الطائی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اس نے کہا: "اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا" تو جب آپ ﷺ نماز پڑھ چکے تو آپ نے فرمایا: یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ اس آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے (کہے ہیں) میرا ارادہ ان کلمات کے ساتھ صرف بھلائی کا تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں تا حدنگاہ سوائے عرش کے۔

عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَاِئِلٍ الطَّائِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: مَنْ الْقَائِلُ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أَرَدْتُ بِهِنَّ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فُتِحَتْ فَمَا تَنَاهَى دُونَ الْعَرْشِ

1117 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت وائل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

1116 - اسنادہ منقطع، عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. وعزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 1099 الى المصنف. وأخرجه مسدد كما في الاتحاف رقم الحديث: 1100، والطبراني جلد 22 صفحہ 26، وفي الدعاء رقم الحديث: 518 من طريق أبي الأحوص سلام، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18880، والنسائي رقم الحديث: 931، وابن ماجه رقم الحديث: 3802، والطبراني جلد 22 صفحہ 25-27، وفي الدعاء رقم الحديث: 519 من طرق عن أبي اسحاق، به.

1117 - حديث صحيح. وقد خطأ البخاري وغيره شعبة في بعض الفاظه كما سيأتي. وأخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 178 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18875، وابن حبان رقم الحديث: 1805، والطبراني جلد 22 صفحہ 9-45، والدارقطني جلد 1 صفحہ 334، والحاكم

نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ نے غیر
المغضوب علیہم والضالین کہا تو آمین آہستہ
آواز میں کہی اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا
اور اپنی دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرا۔

قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجْرًا
أَبَا الْعَنْبَسِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بِنَ وَائِلٍ، يُحَدِّثُ
عَنْ وَائِلٍ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ وَائِلٍ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ (غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (الْفَاتِحَةَ:
7) قَالَ: آمِينَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے پاس تھے کہ دو
آدمی اپنا زمین کا جھگڑا لے کر آئے ان میں سے ایک
امرو القیس بن عامر الکندی تھا اور دوسرا ربیعہ بن عیدان
تھا، امرؤ القیس نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس آدمی نے
میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے

1118 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِنِ
وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ خَصْمَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ،
أَحَدُهُمَا امْرُؤُ الْقَيْسِ بْنِ عَابِسٍ الْكِنْدِيُّ وَالْآخَرُ
رَبِيعَةُ بْنُ عِيدَانَ فَقَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

جلد 2 صفحہ 232 من طریق شعبہ 'بہ . وصححه الحاكم على شرطهما' وأقره الذهبي . وأخرجه ابن
أبي شيبة جلد 2 صفحہ 425، وأحمد رقم الحديث: 18862، والدارمي رقم الحديث: 1250، وأبو داؤد
رقم الحديث: 932-933، والترمذي رقم الحديث: 248-249، والطبراني جلد 22 صفحہ 44،
والدارقطني جلد 1 صفحہ 333-334، والبيهقي جلد 2 صفحہ 57، وغيرهم من طريق الثوري، والعلاء بن
صالح، وغيرهما، عن حُجْر بن العنيس، عن وائل، بلفظ: ومد بها صوته .

1118 - حديث صحيح . أخرجه الخطيب في المبهمات صفحہ 429 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 18883، ومسلم رقم الحديث: 139، وابن الجارود رقم الحديث: 1004، والطحاوي في
المشکل رقم الحديث: 3223 من طرق عن أبي عوانة 'بہ . وأخرجه الطبراني جلد 22 صفحہ 18 من
طريق آخر عن عبد الملك بن عمير 'بہ . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 139، وأبو داؤد رقم الحديث:
3623-3245، والترمذي رقم الحديث: 1340، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5989، والبيهقي
جلد 10 صفحہ 179-254 من طريق سماك، عن علقمة 'بہ . وقال الترمذي: حسن صحيح .

إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَيَّ أَرْضِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَتُكَ قَالَ: لَيْسَتْ لِي بَيْنَةٌ قَالَ: إِذَا يَحْلِفُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا يَذْهَبُ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ حَلَفَ ظَالِمًا لِيَذْهَبَ بِأَرْضِهِ لِيَلْقَيْنَا اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

فرمایا: گواہ لاؤ! اس نے کہا: میرے پاس گواہ نہیں ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تب پھر یہ قسم کھائے گا۔ (امروء نے) کہا کہ یا رسول اللہ! اس طرح یہ زمین لے جائے گا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے، پس جب وہ آدمی قسم دینے کے لیے کھڑا ہوا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے قسم اٹھائی ظلماً کسی کی زمین پر قبضہ کے لیے، تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے ہوگا۔

76- وَأَحَادِيثُ

حضرت عدی بن حاتم رضی

اللہ عنہ کی احادیث

عَدِيَّ بْنِ حَاتِمٍ

1119 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کی موجودگی میں یہ بیان کرنے لگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خاموش ہو جا! تو برا خطیب ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ عَدِيَّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: تَشْهَدُ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْكُتْ فَبُئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ

1119 - حدیث صحیح، و قیس متابع من الثوری . و أخرجه الطبرانی جلد 17 صفحہ 98 من طریق قیس، به .

و أخرجه أحمد رقم الحدیث: 18273-19401، و مسلم رقم الحدیث: 870، و أبو داؤد رقم

الحدیث: 1099-4981، و النسائی رقم الحدیث: 3279، و الطبرانی جلد 17 صفحہ 98، و الحاکم

جلد 1 صفحہ 289، و البیہقی جلد 1 صفحہ 86 من طریق الثوری عن عبد العزیز بن رفیع، به .

1120 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ الطَّائِنِيِّ، عَنْ
عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا
فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَتْرِكْ

1121 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ
طَرْفَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ مَائَتِي دِرْهَمٍ
فَغَضِبَ مِنْ قَلْبِهَا وَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطِيَهُ، ثُمَّ
قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا
خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ يَمِينَهُ مَا
أَعْطَيْتَكَ شَيْءًا وَلَكِنْ هِيَ لَكَ فِي عَطَائِي

1122 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو کسی چیز پر قسم اٹھالے پھر اس کے علاوہ میں بہتری دیکھے تو وہ اس کو اختیار کرے اور اسے (یعنی قسم والی چیز کو) چھوڑ دے (اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے)۔

حضرت تمیم بن طرفہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے دو سو درہم مانگے، وہ (یعنی حضرت عدی بن حاتم) کم مانگنے پر ناراض ہوئے اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ اس کو نہیں دے گا، پھر فرمایا کہ اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نہ سنا ہوتا کہ جو آدمی کسی چیز پر قسم اٹھائے پھر وہ اس کے علاوہ میں بھلائی دیکھے تو وہ اس کو اختیار کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ دے، تو میں تجھے کوئی چیز نہ دیتا لیکن یہ میری طرف سے تیرے لیے عطیہ ہے۔

مولیٰ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان فرماتے

1120 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 32 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18299، ومسلم رقم الحديث: 1651، والنسائي رقم الحديث: 3796، وغيرهم من طرق عن شعبة، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 16046، ومسلم رقم الحديث: 1651، والنسائي رقم الحديث: 3795، وابن ماجه رقم الحديث: 2108، والحاكم جلد 4 صفحہ 300، والبيهقي جلد 10 صفحہ 32-53 من طرق عن عبد العزيز بن ربيع، به .

1121 - حدیث صحیح: أخرجه أحمد رقم الحديث: 18270، ومسلم رقم الحديث: 1651 من طريق شعبة عن سماك به .

1122 - حدیث صحیح وفي اسنادہ عبد اللہ بن عمرو مولی الحسن بن علی وهو مجهول وأخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 32 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18277-19399، والدارمي رقم

ہیں کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا: تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں دیں گے، پھر دے دیا، فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے کسی چیز کے نہ کرنے پر قسم اٹھائی پھر اس کے علاوہ میں بھلائی دیکھی تو وہ اس کو اختیار کرے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔

حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اس شکار کے متعلق جو تیر کی چوڑائی سے مر جائے، تو آپ نے فرمایا: اگر اس کو زخم لمبائی میں لگا ہے اور وہ مر گیا ہے تو اس کو کھا، اور جب تیر چوڑائی میں لگے اور وہ مر جائے تو وہ مردار ہے اس کو نہ کھا۔ میں نے عرض کی: جب میں اپنا کتا چھوڑتا ہوں، آپ نے فرمایا: جب تو اپنے کتے کو چھوڑے بسم اللہ

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، سُئِلَ فَحَلَفَ أَنْ لَا يُعْطَى ثُمَّ أُعْطِيَ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيَكْفِرْ يَمِينَهُ

1123 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَقَتَلَ، فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَقَتَلَ فَهُوَ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ: إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبِكَ عَلَى الصَّيْدِ وَسَمَّيْتَ فَاخَذَ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا

الحدیث: 2350، والنسائی رقم الحدیث: 3794، والبیہقی جلد 10 صفحہ 32 من طریق شعبہ بہ .

1123 - حدیث صحیح . أخرجه النسائی رقم الحدیث: 4284 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 19410، والدارمی رقم الحدیث: 2015، والبخاری رقم الحدیث: 5486-5476-2045

ومسلم رقم الحدیث: 1929، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2854 والنسائی رقم الحدیث: 4317-4283 من

طرق عن شعبہ بہ، عن سعید بن مسروق، عن الشعبي . ورواه شعبہ، عن الحكم، عن الشعبي . وسيأتي

فی الحدیث بعده . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 8513، والحمیدی رقم الحدیث: 917-915

وأحمد رقم الحدیث: 18296-18285، والدارمی رقم الحدیث: 2009-2008، والبخاری رقم

الحدیث: 5487-5484-5483-5475، ومسلم رقم الحدیث: 1929، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2853

والترمذی رقم الحدیث: 1471-1469-1467، والنسائی رقم الحدیث: 4275، وابن ماجه رقم

الحدیث: 3214-3212-3208، وابن الجارود رقم الحدیث: 918-915، وغيرهم عن غير واحد، عن

الشعبي، به .

پڑھ کر تو اس (شکار) کو لے لے اور کھا، اگر اس کتے نے اس سے کھایا تو مت کھا کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے۔ میں نے عرض کی: میں اپنا کتا چھوڑوں اور میں اپنے کتے کے ساتھ کسی دوسرے کتے کو پاؤں مجھے معلوم نہیں کہ ان دونوں میں سے کس نے پکڑا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو اس کو مت کھا، تو نے اپنا کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی، اس کے علاوہ پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔

حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں شکار پر کتا چھوڑتا ہوں، پھر اسی کی مثل حدیث ذکر کی۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں تیر کی چوڑائی کے ساتھ شکار کرتا ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: جب تو تیر کی چوڑائی کے ساتھ شکار کرے اور تیر اس کو پھاڑ دے تو اس کو کھا، اور اگر نہ پھاڑے تو اس کو نہ کھا، یا فرمایا: اگر صرف تیر کی چوڑائی لگے تو نہ کھا۔ امام ابو داؤد کو شک ہے۔

تَأْكُلُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ: قُلْتُ أُرْسِلُ كَلْبِي فَاجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ قَالَ: فَلَا تَأْكُلْ؛ إِنَّمَا سَمَّيْتُ عَلَى كَلْبِكَ، وَلَمْ تَسْمِ عَلَى غَيْرِهِ .

1124 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُرْسِلُ كَلْبِي عَلَى الصَّيْدِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

1125 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

وَرَقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ الصَّيْدَ فَخَزَقَ فَكُلْ، وَإِنْ لَمْ يَخْزِقْ فَلَا تَأْكُلْ أَوْ قَالَ: إِنْ أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْ شَبَّكَ

1124 - حدیث صحیح . أخرجه النسائي رقم الحديث: 4282، والبيهقي جلد 9 صفحہ 244 من طريق المصنف

وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18282، ومسلم رقم الحديث: 1929 من طريق شعبة به .

1125 - حدیث صحیح . وورقاء متکلم فی روایتہ عن منصور، لکنہ متابع من ثقات کبار، کالثوری وجریر بن

عبد الحمید وغیرہما . وهذا الحديث والذي بعده حديث واحد . وأخرجه أحمد رقم الحديث:

19391-19413، والبخاری رقم الحديث: 5477-7397، ومسلم رقم الحديث: 1929، وأبو داؤد رقم

الحديث: 2847، والنسائي رقم الحديث: 4276-4278-4316، وابن ماجه رقم الحديث: 3215،

وغیرہم من طرق عن منصور، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 7530، وأحمد رقم الحديث:

19412 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به .

أَبُو دَاوُدَ

1126 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

وَرَقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ
الْحَارِثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّ لَنَا كِلَابًا مُكَلَّبَةً فَنُرْسِلُهَا عَلَى الصَّيْدِ
فَيُمْسِكُنَ عَلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِذَا كُنَّ مُكَلَّبَةً فَأَمْسِكُنَ عَلَيْكَ وَقَتْلَنَ فَكُلْ
مَا لَمْ يَشْرُكْهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا

1127 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرِيَّ بْنَ قَطْرِيٍّ،
يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَخَذُ الصَّيْدَ فَلَا أَجِدُ مَا أَدْبَحُهُ بِهِ إِلَّا الْمَرْوَةَ
وَالْعَصَا فَقَالَ: أَمِّرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ وَادْكُرِ اسْمَ
اللَّهِ

1128 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارا ایک کتا ہے ہم اس کو
شکار پر چھوڑتے ہیں وہ ہمارے لیے (شکار کو) روک لیتا
ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تو کتے کو
چھوڑے تو وہ تیرے لیے شکار روک لے اور اس کو مار
دے تو اس کو کھا، جب تک دوسرا کتا اس کے ساتھ شریک
نہ ہو۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے

ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے پوچھا: یا رسول
اللہ! میں شکار کرتا ہوں تو ذبح کرنے کے لیے صرف
نوک دار پتھر یا عصا پاتا ہوں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تو
خون بہا جتنا تو چاہے اور اللہ کا نام لے۔

1126 - حدیث صحیح . وهو جزء من الحديث السابق بالاسناد نفسه .

1127 - اسنادہ ضعیف، لجهالة مری بن قطری . وأخرجه البيهقي جلد 9 صفحہ 281 من طريق المصنف .

وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18288-19393، والنسائي رقم الحديث: 4315-4413، والطبراني

جلد 17 صفحہ 103 من طريق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18276-18290-18293، وأبو

داؤد رقم الحديث: 2824، وابن ماجه رقم الحديث: 3177، والطبراني جلد 17 صفحہ 103، والحاكم

جلد 4 صفحہ 240، والبيهقي جلد 9 صفحہ 281 من طرق عن سماك، به .

1128 - اسنادہ ضعیف، کسابقہ . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18288-18289-19393، والطبراني جلد 17

صفحہ 104، والبيهقي في الجعديات رقم الحديث: 562 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرا باپ صلہ رحمی کرتا تھا اور اس کے مکارم اخلاق کا ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: تیرے باپ نے جس مقصد کا ارادہ کیا، اسے پایا۔

حضرت عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ سے ایسے کھانے کے متعلق پوچھتا ہوں جو میں صرف مجبوری کے وقت چھوڑوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی کھانے کو مت چھوڑ جس میں عیسائیت کی مشابہت ہو۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دوزخ کا ذکر کیا، تو اس سے پناہ مانگی اور آپ کا چہرہ متغیر تھا، پھر دوزخ کا ذکر کیا تو اس سے پناہ مانگی اور آپ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر تھا، پھر دوزخ کا ذکر کیا تو اس سے پناہ مانگی اور آپ کے چہرہ انور کا رنگ متغیر تھا، آپ نے فرمایا: جہنم سے بچو! اگرچہ

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُرَيِّ بْنَ قَطْرِيٍّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ قَالَ وَذَكَرَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ فَقَالَ: إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ

1129 - وَعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَعَامًا لَا أَدْعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ: فَلَا تَدْعَنَّ طَعَامًا ضَارَعَتْ فِيهِ النَّصْرَانِيَّةَ

1130 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، سَمِعَ خَيْثَمَةَ، سَمِعَ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ

الحدیث: 19405 من طریق الثوری، عن سماك' به .

1129- اسنادہ ضعیف، کسابقہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 18288-19393، والترمذی رقم الحدیث:

1565، والطبرانی جلد 17 صفحہ 104، والبخاری رقم الحدیث: 563 من طرق عن شعبة

به . وله شاهد من حدیث هلب الطائی عند أحمد رقم الحدیث: 22015، وأبى داؤد رقم الحدیث:

3784، والترمذی رقم الحدیث: 1565، وحسنه .

1130- حدیث صحیح . أخرجه أبو نعیم فی الحلیة جلد 7 صفحہ 169 من طرق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 18279، والدارمی رقم الحدیث: 1664، والبخاری رقم الحدیث: 6023-6563، ومسلم رقم

الحدیث: 1016، والنسائی رقم الحدیث: 2552، وابن خزيمة رقم الحدیث: 4248، والبيهقی جلد 4

صفحہ 176 من طرق عن شعبة ' به ' وانظر الحدیث الآتی .

بِشَقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو پس اگر تم
کھجور نہ پاؤ تو اچھی بات کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم کی
آگ سے بچاؤ۔

1131 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جہنم کی آگ
سے بچو! اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی، اگر
تمہیں نہ ملے تو اچھی بات کے ساتھ ہی (جہنم سے اپنا
بچاؤ کرو)۔

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، يَقُولُ: تَصَدَّقُوا فَإِنِّي
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَدِيَّ
بْنَ حَاتِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ
لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

1132 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نبی اکرم ﷺ کے پاس تھا، سوراہہ کاٹنے کا تذکرہ
ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں کوئی نہیں آئے گا
مگر چل کر حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان عورت سفر
کرے گی، کوئی اس کی سواری کی لگام نہیں پکڑے گا، اللہ
کی قسم! تم پر بہت تھوڑے آئیں گے یہاں تک کہ ایک
آدی سونے کی ایک مٹھی پکڑے گا، اس کو لینے والا کوئی
نہیں ملے گا، تم میں سے ہر کوئی عنقریب اللہ عزوجل
سے ملاقات کرے گا اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی
ترجمان نہیں ہوگا، پس وہ اپنے دائیں و بائیں جانب

عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ،
حَدَّثَهُ عَنْ عَدِيَّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ: كُنْتُ
عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ قَطْعُ
السُّبُلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلَّا يَسِيرٌ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ فِيمَا بَيْنَ
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ بِخَطَامِهَا وَاللَّهِ لَا
يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّى يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِلَّةً كَفِّهِ
ذَهَبًا لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْكُمْ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
سَيَلَقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ

1131 - حدیث صحیح . أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 169 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 18298-18300-19396، والبخاری رقم الحدیث: 1417، والطبرانی جلد 17 صفحہ 89،

والبيهقي جلد 4 صفحہ 176 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 18278، ومسلم

رقم الحدیث: 1016 من طريق زهير بن معاوية، عن أبي اسحاق، به .

1132 - حدیث صحیح، واسناده هنا فيه ابهام . وانظر الحدیثین السابقین والآتیین .

آگ ہی دیکھے گا، پس جو کوئی تم میں سے طاقت رکھے وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے اگرچہ ایک کھجور ہی کے ساتھ تو وہ ضرور ایسا کرے۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ قیامت کے دن اللہ عزوجل سے ملاقات کرے گا اور اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اپنے دائیں اور بائیں وہی دیکھے گا جو اس نے اپنے لیے عمل کیے ہوں گے، پس وہ دیکھے گا جہنم کو، سو تم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو مرفوع روایت نہیں کیا اور امام اعمش کے بعض اصحاب ثوری، ابواسامہ اور میراگمان ہے کہ ابو معاویہ بھی ہیں، نے اسے مرفوع ذکر کیا۔

فَيَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقَى وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ

1133 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ حَارِثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَلِقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ وَأَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْءًا أَوَّلَهُ، فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِالنَّارِ فَلْيَتَّقِ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ لَمْ يَرْفَعَهُ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَفَعَهُ أَصْحَابُ الْأَعْمَشِ، الثَّوْرِيُّ، وَأَبُو أُسَامَةَ وَأَظْنُّ أَبَا مُعَاوِيَةَ أَيْضًا

1134 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1133 - حدیث صحیح مرفوعاً . أخرجه أحمد رقم الحديث: 18272-19392، والترمذی رقم الحديث: 2415 من طریق أبي معاوية، به مرفوعاً . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18272، والبخاری رقم الحديث: 7512، ومسلم رقم الحديث: 1516، والترمذی رقم الحديث: 2415، وابن ماجه رقم الحديث: 1843، وغيرهم من طرق عن الأعمش، به مرفوعاً . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 19406 من طريق شريك، عن الأعمش، فزار فيه ابن معقل بين خيثمة وعدي . وأخرجه البخاری رقم الحديث: 6540، ومسلم رقم الحديث: 1016، والخرائطي في مكارم الأخلاق رقم الحديث: 51، وأبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 129، من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن خيثمة، به 'بزيادة عمرو بن مرة في اسناده . وانظر الأحاديث الثلاثة السابقة .

1134 - حدیث صحیح . أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 170 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ دوزخ سے بچو! اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ، سوا اگر تم وہ نہ پاؤ تو اچھی بات ہی کے ساتھ (اپنے آپ کو بچاؤ)۔

عَنْ مُجَلِّ بْنِ خَلِيفَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پاک آیا، تو مجھے یہ خبر پہنچی تھی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ اس کا ہاتھ اللہ میرے ہاتھ میں رکھے گا۔ فرمایا کہ پس میں چلا اپنی سواری کو لے کر، اور میری سواری پر میری لونڈی نے پالان رکھ دیا، یا فرمایا: بچھونا، پس ہم بیٹھ گئے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتا ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: تو انکار کرتا ہے کہ یہ

1135 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو

بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ، يَقُولُ: لَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ كَانَ يَبْلُغُنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ يَدَهُ فِي يَدِي قَالَ: فَأَنْطَلِقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ وَأَلْقَتْ لَنَا الْجَارِيَةُ وَسَادَةً أَوْ قَالَ: بِسَاطًا فَجَلَسْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتُّكِرُ أَنْ يُقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا

الحديث: 18280، والنسائي رقم الحديث: 2551، والطبراني جلد 17 صفحہ 93، والخرائطي في مكارم الأخلاق رقم الحديث: 71، وأبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 170، وغيرهم من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18274، والبخاري رقم الحديث: 1413-3595، والطبراني جلد 17 صفحہ 94، والبيهقي في الدلائل جلد 5 صفحہ 343-344 من طريق سعد الطائي، عن مجل بن خليفة، به.

1135 - حديث صحيح. وشيخ سماك المبهم هو عباد بن حبيش، كما سماه شعبة وغيره، عن سماك، وهو مجهول، لكن الحديث صح من طريق آخر عن عدی، كما سيأتي. والحديث أخرجه أحمد رقم الحديث: 19400، والترمذي رقم الحديث: 2953-2954، وابن حبان رقم الحديث: 6246-7206، والطبراني جلد 17 صفحہ 98-99، والبيهقي في الدلائل جلد 5 صفحہ 339، من طريق شعبة وغيره، عن سماك، به. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث سماك بن حرب..... أخرجه أحمد رقم الحديث: 18295-19397 من طريق ابن أبي عون، وأحمد رقم الحديث: 19403، والحاكم

قَالَ: فَتَنَكَّرُ أَنْ يُقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَهَلْ مِنْ شَيْءٍ أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ: فَإِنَّ الْيَهُودَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَى ضَالُّونَ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنِّي مُسْلِمٌ قَالَ: فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَبَشَرَ لِدَلِكِ أَوْ اسْتَنَارَ لِدَلِكِ

کہے اللہ سب سے بڑا ہے؟ کیا اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا: نہیں! آپ نے فرمایا: یہود پر اللہ کا غضب ہے اور عیسائی گمراہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: میں اسلام لایا ہوں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے چہرہ مبارک کو دیکھا تو وہ اس خوشی کی وجہ سے کھل اٹھایا چمک اٹھا۔

1136 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

وَهَشِيمٌ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُهُ مِنَ الْغَدِ فِيهِ سَهْمِي قَالَ: إِذَا وَجَدْتِ فِيهِ سَهْمَكَ وَعَلِمْتِ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبْعٍ فَكُلِي .

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں شکار کو تیر مارتا ہوں، پھر میں دوسرے دن اس کو پاتا ہوں اور اس میں میرا تیر پیوست ہوتا ہے (اس کا کیا حکم ہے؟) آپ ﷺ نے فرمایا: جب تو اس میں تیر دیکھے اور تجھے یقین ہو کہ اس تیر کی وجہ سے مرا ہے، اور تو اس میں کسی درندے کے نشانات نہ دیکھے تو اس کو کھالے۔

جلد 4 صفحہ 518-519، والبیہقی فی الدلائل جلد 5 صفحہ 342 من طریق ہشام، وابن حبان رقم الحدیث: 6679، وابن الأثیر فی أسد الغابہ جلد 4 صفحہ 8-9 من طریق ایوب ثلاثہم عن ابن سیرین، عن ابی عیلة، عن عدی . وصححه الحاکم علی شرطہما، ووافقه الذہبی . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 19408 من طریق ہشام وجریر، والبیہقی فی الدلائل جلد 5 صفحہ 342 من طریق سعید بن عبد الرحمن وایوب أربعہم عن ابن سیرین، بہ، بزیادة الرجل المبہم فی اسنادہ .

1136 - حدیث صحیح . أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 1468، والبیہقی جلد 9 صفحہ 242 من طریق المصنف، وعند الترمذی: شعبة وحده وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 19388 عن هشیم، والنسائی رقم الحدیث: 4311-4312 من طریق شعبة وهشیم مفرقین بہ . وقال الترمذی: حسن صحیح..... وروی شعبة هذا الحدیث عن ابی بشر، وعبد الملك بن میسرة، عن سعید بن جبیر، عن عدی بن حاتم . وعن ابی ثعلبة الخشنی مثله، وكلا الحدیثین صحیح وفي الباب عن ابی ثعلبة الخشنی . وانظر الحدیث الآتی، والسابق برقم 1123 .

1137 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت سعید بن جبیر، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے سوال کیا، پھر اسی کی مثل روایت ذکر کی۔

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی نبی

77- أَحَادِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ

کریم ﷺ سے روایت کردہ

وَأَسْمُهُ وَهَبُ السُّوَائِيَّ

احادیث ان کا نام وہب بن

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عبداللہ سوائی ہے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1138 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عون بن ابو جحیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے نیزہ گاڑا گیا، تو آپ نے اس کے پیچھے نماز پڑھی حالانکہ اس کے آگے سے گدھے اور عورتیں گزر رہے تھے۔

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِعَتْ لَهُ عَنزَةٌ فَصَلَّى إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ

1137 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 19395، والنسائي رقم الحديث: 4313، وابن الجارود

رقم الحديث: 919-921 والطبرانی جلد 17 صفحہ 91، والبيهقي جلد 9 صفحہ 242 من طرق عن شعبة،

به . وانظر الحديث السابق .

1138 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 18765-18771، والبخاری رقم الحديث: 495-499،

وأبو داؤد رقم الحديث: 688، والطبرانی جلد 22 صفحہ 115، وغيرهم من طرق عن شعبة، به .

وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 892، وأحمد رقم الحديث: 18773-18775-18781-18784،

والبخاری رقم الحديث: 376-633-5786، ومسلم رقم الحديث: 503، وأبو داؤد رقم الحديث: 520،

والترمذی رقم الحديث: 197، والنسائي رقم الحديث: 137-642-771-5393، وأبو يعلى رقم

الحديث: 887، وغيرهم من طرق عن عون بن أبي جحيفة، به، بروايات مطولة ومختصرة .

حضرت عون بن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سینگی لگانے والا غلام خریدا تو میرے والد نے سینگی لگانے والے کے اوزار پکڑ کر اُن کو توڑ دیا، میں نے عرض کی: آپ نے یہ توڑ دیئے؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے خون کی کمائی، کتے کی قیمت، فاحشہ عورت کی کمائی، نر کی جفتی کی کمائی سے منع کیا۔

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ بطحاء کی طرف ہجرت کر کے گئے تو آپ نے وضو کیا اور ظہر و عصر کی دو رکعتیں ادا کیں اور آپ کے سامنے نیزہ تھا۔ اور عون نے اپنے والد کے حوالے سے روایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ اس کے آگے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔

حضرت عون اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی۔

1139 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ غُلَامًا حَبَّامًا فَأَخَذَ أَبِي مَحَاجِمَهُ فَكَسَرَهَا فَقُلْتُ لَهُ: اتَكْسِرُهَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدِّمِّ وَعَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ وَعَنْ كَسْبِ المُوَمِسَةِ وَعَنْ عَسْبِ الفَحْلِ

1140 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُجَيْفَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ بِالْهَاجِرَةِ بِالْهَاجِرَةِ إِلَى البَطْحَاءِ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةٌ قَالَ: وَزَادَ فِيهِ عَوْنُ بْنُ أَبِي حُجَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ: وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا المَرَأَةُ وَالحِمَارُ

1141 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ المَصُورَ

1139- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 18778-18790، والبخاری رقم الحديث: 5945-5962،

وأبو داؤد رقم الحديث: 3483، وأبو يعلى رقم الحديث: 890 من طرق عن شعبة ' به .

1140- حدیث صحیح . أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 188 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 18766-18779-18789، والبخاری رقم الحديث: 187-501، ومسلم رقم الحديث: 503،

والنسائی رقم الحديث: 469، وأبو يعلى رقم الحديث: 891، وأبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 188،

وغيرهم من طرق عن شعبة ' به .

1141- حدیث صحیح وهو جزء من الحديث السابق برقم 1139، وعزاه البوصیری في الاتحاف بذیل

المطالب رقم الحديث: 4034 الى المصنف .

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا، اور میں نے آپ ﷺ کی یہاں سے سفیدی دیکھی اور اشارہ نچلے ہونٹ کے نیچے والے بالوں کی طرف کیا۔ کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا: اے ابو حنیفہ! اس دن آپ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: میں تیر تراشتا اور اس میں پر لگاتا تھا۔

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔

حضرت اشعث بن قیس کی نبی کریم ﷺ سے روایت کردہ احادیث

حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1142- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حُجَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءَ وَأَشَارَ إِلَى الْعَنْفَقَةِ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ يَا أَبَا حُجَيْفَةَ؟ قَالَ: أَبْرَى النَّبْلِ وَأَرِيشَهَا

1143- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ،

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي حُجَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا آكُلُ مَتَكِنًا

78- وَالْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1144- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1142- حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 18791، وابن ماجه رقم الحديث: 3628 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18791، ومسلم رقم الحديث: 2342، وأبو يعلى رقم الحديث: 899 من طرق عن زهير، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18774 من طريق يونس، والبخاري رقم الحديث: 3545 من طريق اسرائيل كلاهما عن أبي اسحاق، به .

1143- حديث صحيح . وقيس قد توبع . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 891، وأحمد رقم الحديث: 18788، والدارمي رقم الحديث: 2077، والبخاري رقم الحديث: 5398-5399، وأبو داؤد رقم الحديث: 3769، والترمذي رقم الحديث: 1830، وفي الشمائل رقم الحديث: 132-133-139-140، وأبو يعلى رقم الحديث: 888، وغيرهم من طرق عن علي بن الأقرم، به .

1144- حديث صحيح . مروى من طريقين يتعاضدان، وله شواهد، وفي اسناده هنا جهالة عبد الرحمن بن

کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل کا سب سے بڑا شکر گزار وہ بندہ ہے جو لوگوں کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْكُرُ النَّاسَ لِلَّهِ أَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ

حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم گمان کرتے ہیں کہ آپ ہم میں سے یا آپ ہم سے ہیں۔ ابو بشر کو شک ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم بنو نضر بن کنانہ کے قبیلہ سے ہیں نہ ہم اپنے باپ کی نفی کرتے ہیں نہ ہم اپنی ماں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حضرت اشعث فرماتے ہیں: اگر میں کسی ایسے آدمی سے ملوں یا جو قریش کے نسب کی

1145 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَزَعُكَ أَوْ أَنْتَ مِنْكُمْ مِنَّا شَكَّ أَبُو بَشِيرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ لَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِيْنَا وَلَا نَقْفُو أُمَّنَا قَالَ: فَقَالَ الْأَشْعَثُ: لَا أَجِدُ أَحَدًا أَوْ

عدی . وأخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج رقم الحديث: 73' والبيهقي جلد 6 صفحہ 182 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 21895' والطبرانی رقم الحديث: 648' والخطيب في الجامع لأخلاق الراوى جلد 1 صفحہ 247 من طرق عن محمد بن طلحة ' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 21887-21896 من طريق زياد بن كليب' عن الأشعث . وهو منقطع بينهما' لكنه يعضد الطريق الأول . وقال العقيلي في الضعفاء جلد 3 صفحہ 112 عن هذا الحديث: روى باسناد صالح عن أبي هريرة' والأشعث بن قيس' وغيرهما .

1145- حديث صحيح . ومسلم بن هيصم خرج له مسلم' وذكره ابن حبان في الثقات' وما جرحه أحد . وأخرجه البيهقي في الدلائل جلد 1 صفحہ 173 من طريق المصنف . وقال البوصيري في الاتحاف رقم الحديث: 3761: هذا اسناد رواه ثقات . وأخرجه ابن سعد جلد 1 صفحہ 23' وأحمد رقم الحديث: 21888-21894' والبخاري في التاريخ جلد 7 صفحہ 274' وابن ماجه رقم الحديث: 2612' والطبرانی رقم الحديث: 645 من طرق عن حماد' به . وانظر البداية والنهاية جلد 3 صفحہ 221-222' والسلسلة الصحيحة رقم الحديث: 2375 .

لَا أُوتَى بِأَحَدٍ نَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةٍ إِلَّا جَلَدْتُهُ
الْحَدَّ

نفی بنی کنانہ سے کرتا ہے تو میں اس کو کوڑوں والی حد
لگاؤں گا۔

1146 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ؛
لَيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ
فَاتَى عَلَيْنَا الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو
عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَأَخْبَرَنَا، فَقَالَ: صَدَقَ فِي نَزَلَتْ
هَذِهِ الْآيَةُ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ
ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ) (آل
عمران: 77) أَلَى آخِرِ الْآيَةِ خَاصَمْتُ رَجُلًا فِي
بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَيْنَتَكَ
أَوْ يَمِينَهُ قُلْتُ: إِذَا يَحْلِفَ وَهُوَ آثِمٌ

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس
نے جھوٹی قسم اٹھائی تاکہ اس کے ساتھ اپنے مسلمان
بھائی کا مال لے لے تو وہ اللہ عزوجل سے اس حال میں
ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضب ناک ہوگا۔ اتنے
میں حضرت اشعث بن قیس آئے انہوں نے کہا:
ابو عبدالرحمن نے تم سے کیا بیان کیا؟ سو ہم نے ان کو بتایا
حضرت اشعث نے کہا: انہوں نے سچ کہا ہے یہ آیت
اس کے متعلق نازل ہوئی ہے: ”وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو
فروخت کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے بدلے یہی لوگ
ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں“ (آل
عمران: 77) آخر آیت تک۔ میں ایک آدمی کے ساتھ
کنویں کا جھگڑا نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں لے کر آیا
تو آپ ﷺ نے فرمایا: تجھ پر گواہ ہیں یا اس پر قسم ہے
میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس طرح یہ قسم اٹھالے گا
اور یہ گنہگار ہوگا۔

1147 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

وَرَقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
آپ نے فرمایا: جس نے جھوٹی قسم اٹھائی تاکہ اس کے

1146 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 21893 والبخاری رقم الحديث: 2673-6659 من

طريق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 21891-4049-3597 والبخاری رقم الحديث: 6676

ومسلم رقم الحديث: 138، وأبو داؤد رقم الحديث: 3621-3243 والترمذی رقم الحديث: 2996

وابن ماجه رقم الحديث: 2322-2323 من طرق عن الأعمش، به .

1147 - حدیث صحیح . انظر الحديث السابق .

ساتھ اپنے مسلمان بھائی کا مال ہتھیالے تو وہ اللہ عزوجل سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس پر غضب ناک ہوگا۔ پس حضرت اشعث بن قیس کنزی ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا: ابو عبد الرحمن نے تم سے کیا بیان کیا؟ ہم نے بتایا کہ ایسے ایسے (حضرت اشعث نے) کہا کہ انہوں نے سچ کہا ہے یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے میں ایک آدمی کے ساتھ کنویں کا جھگڑالے کر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں گیا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: تجھ پر گواہ لازم ہیں یا یہ قسم اٹھائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: اس طرح تو یہ قسم اٹھالے گا اور گنہ گار ہوگا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے قسم اٹھائی اور وہ اس میں جھوٹا ہے تاکہ اس کے ذریعے مال ہتھیالے تو وہ اللہ عزوجل سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر غضب ناک ہوگا اور یہ آیت نازل ہوئی: ”بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑے مال کے عوض فروخت کرتے ہیں“ آخر آیت تک۔

حضرت خباب بن ارت

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت سعید بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

79- وَخَبَابُ

بْنِ الْأَرْتِ

1148 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1148- حدیث صحیح۔ أخرجه أحمد رقم الحديث: 21090 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 21100 والطبرانی رقم الحديث: 3699 من طريقين عن شعبة، به. ورواه الثوري وأبو

الأحوص وزهير بن معاوية وغيرهم، عن أبي اسحاق، به. وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2055،

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابًا، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِدَّةَ الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا

کہ میں نے حضرت خباب سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے سخت گرمی کی شکایت کی تو آپ نے ہماری شکایت کو دور نہیں کیا۔

1149 - حَدَّثَنَا دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ مُضَرِّبٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ وَقَدْ اِكْتَوَى فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ أَحَدًا لَقِيَ مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَقَيْتُ لَقَدْ مَكَثْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَجْدُ دِرْهَمًا وَإِنَّ فِي نَاحِيَةِ بَيْتِي هَذَا أَرْبَعِينَ أَلْفًا،

حضرت حارثہ بن مضرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خباب کے پاس آئے اور آپ کو داغا گیا تھا (حضرت خباب نے) فرمایا: میں نہیں جانتا کہ کسی کو اتنی آزمائش پہنچی ہو جتنی مجھے پہنچی، میں نبی اکرم ﷺ کے عہد میں رہا ہوں، میں ایک درہم بھی نہیں پاتا تھا اب میرے گھر کے کونے میں چالیس ہزار درہم ہیں اور اگر

والحمیدی رقم الحدیث: 152، وأحمد رقم الحدیث: 21100، ومسلم رقم الحدیث: 619، والنسائی رقم الحدیث: 496، والطحاوی جلد 1 صفحہ 185، والطبرانی رقم الحدیث: 3700-3701-3703، والبیہقی جلد 2 صفحہ 105. ورواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضَرَّبٍ، عن خباب. أخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 153، وابن ماجه رقم الحدیث: 675، والبزار رقم الحدیث: 2136، والطبرانی رقم الحدیث: 3676. ورجح أبو حاتم وأبو زرعة طريق شعبة والثوري ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب. انظر علل ابن أبي حاتم رقم الحدیث: 198-255-375.

1149- حدیث صحیح. أخرجه أبو نعیم فی الحلیة جلد 1 صفحہ 144 من طریق المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 21103، والترمذی رقم الحدیث: 970، والطبرانی رقم الحدیث: 3669 من طریقین عن شعبة به. وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 20635، وأحمد رقم الحدیث: 21092-21109-26262، والترمذی رقم الحدیث: 2483، وابن ماجه رقم الحدیث: 4163، والطبرانی رقم الحدیث: 3674، وغيرهم من طرق عن أبي إسحاق، به، وعند أحمد زیادة. وأخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 154، وأحمد رقم الحدیث: 21116-27259، والبخاری رقم الحدیث: 5672-6349-6430-7234، ومسلم رقم الحدیث: 2681، والنسائی رقم الحدیث: 1822، والطبرانی رقم الحدیث: 3632-3637، وغيرهم من طرق عن قیس بن أبی حازم، عن خباب.

مجھے رسول اللہ ﷺ نے منع نہ کیا ہوتا موت کی تمنا کرنے کو تو میں ضرور موت کی تمنا کرتا۔

حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانے میں لوہے کا کام کرتا تھا، میرے عاص بن وائل کے پاس کچھ درہم تھے، میں اس کے پاس آیا اور اپنے قرض کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا: میں آپ کو قرض نہیں دوں گا یہاں تک کہ آپ محمد (ﷺ) کا انکار کریں۔ میں نے کہا: میں حضرت محمد ﷺ کا انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مر جائے پھر اٹھے۔ کہتے ہیں کہ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دے یہاں تک کہ میں مر جاؤں پھر زندہ ہوں گا، میرے پاس مال اور اولاد ہوگی، اس کے بعد میں تیرا قرض دے دوں گا۔ کہا کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی: "أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا"۔

وَلَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَوْ نَهَى أَنْ يَتَمَنَّى أَحَدُ الْمَوْتِ لَتَمَنَيْتُهُ

1150 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ خَبَابٍ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمٌ فَاتَيْتُهُ أَنْقَاضَهُ فَقَالَ: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ: لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ، ثُمَّ يَبْعَثَكَ قَالَ: فَقَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ أُبْعَثَ فَيَصِيرَ لِي مَالٌ وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ قَالَ فَفَزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةُ (أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا) (مريم: 77)

80- وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1151 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عمرو بن حریت رضی

اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

حضرت عمرو بن حریت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1150 - حدیث صحیح . أخرجه البخاری رقم الحدیث: 2091-2425-4743 والطبرانی رقم الحدیث: 3651

من طرق عن شعبة ' به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 21105-21112-21113 والبخاری رقم

الحدیث: 4732-4735، ومسلم رقم الحدیث: 2795، والترمذی رقم الحدیث: 3162 .

1151 - حدیث صحیح . وقد تابع وكيع وأبو نعيم المصنف عليه ' وهما ممن سمع من المسعودی قديماً .

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيحٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فَلَمَّا
أَتَى عَلَى هَذِهِ الْآيَةِ (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ وَالصُّبْحِ
إِذَا تَنَفَّسَ) (التكوير: 18) قُلْتُ فِي نَفْسِي مَا
اللَّيْلُ إِذَا عَسَسَ وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ؟

میں نے نبی اکرم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی پس آپ
نے ”إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ“ پڑھی جب اس آیت پر
آئے: ”وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ“
تو میں نے اپنے دل میں کہا: ”مَا اللَّيْلُ إِذَا عَسَسَ
وَالصُّبْحُ إِذَا تَنَفَّسَ“؟

حضرت عروہ بن الجعد الباری

81- وَعُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

الْبَارِقِي

حضرت عروہ بن ابو الجعد الباری رضی اللہ عنہ

1152 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

أخرجه أحمد رقم الحديث: 18755، والدارمی رقم الحديث: 1303، والنسائی رقم الحديث: 950.
وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2721، والحمیدی رقم الحديث: 567، وأحمد رقم الحديث:
18755-18760، والدارمی رقم الحديث: 1304، ومسلم رقم الحديث: 456-475، والنسائی رقم
الحديث: 950، وفي الكبرى رقم الحديث: 11651، والبيهقی جلد 2 صفحہ 194-388 من طریق مسعر
وغيره عن الوليد، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18759، وأبو داؤد رقم الحديث: 817، والنسائی
في الكبرى رقم الحديث: 11650، وابن ماجه رقم الحديث: 817، من طريقين عن عمرو بن حريث.
1152 - حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم الحديث: 19384، والدارمی رقم الحديث: 2432، والبخاری رقم
الحديث: 2850، والنسائی رقم الحديث: 3579، والطبرانی جلد 17 صفحہ 155 من طرق عن شعبة،
عن عبد الله بن أبي السفر وحصين، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 19377، والنسائی رقم
الحديث: 3578، من طريق شعبة، عن ابن أبي السفر وحده به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 19387،
والنسائی رقم الحديث: 3577، من طريقين عن شعبة، عن حصين وحده به. وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 19373، والبخاری رقم الحديث: 3119، ومسلم رقم الحديث: 1873، والترمذی رقم
الحديث: 1694، والنسائی رقم الحديث: 3576، وابن ماجه رقم الحديث: 2305، والطبرانی جلد 17
صفحہ 155 من طرق عن حصين، به. وأخرجه الحمیدی رقم الحديث: 842، وأحمد رقم الحديث:

فَرَمَاتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: گھوڑے کی پیشانی میں اللہ عزوجل نے قیامت تک خیر رکھ دی ہے، عرض کی گئی: یا رسول اللہ! خیر کیا ہے؟ فرمایا: اجر و ثواب اور مال غنیمت۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَحُصَيْنٍ، سَمِعَا الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْخَيْرُ؟ قَالَ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

حضرت عروہ بن ابو الجعد الباری رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: گھوڑے کی پیشانی میں اللہ عزوجل نے قیامت تک خیر رکھ دی ہے، عرض کی گئی: یا رسول اللہ! خیر کیا ہے؟ فرمایا: اجر و ثواب اور مال غنیمت۔

1153 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعِيزَارَ بْنَ حُرَيْثٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْخَيْرُ؟ قَالَ: الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ

حضرت عروہ الباری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

1154 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

19376-19378-19385، والدارمی رقم الحدیث: 2431، والبخاری رقم الحدیث: 2852، ومسلم رقم الحدیث: 1873، والطبرانی جلد 17 صفحہ 154-156 من طریقین عن الشعبي، به. وأخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 841، وأحمد رقم الحدیث: 19374، والبخاری رقم الحدیث: 3643، ومسلم رقم الحدیث: 1873، وابن ماجه رقم الحدیث: 2786، والطبرانی جلد 17 صفحہ 157-160 من طرق أخرى عن عروة.

1153 - حدیث صحیح. أخرجه أحمد رقم الحدیث: 19379، ومسلم رقم الحدیث: 1874، والطبرانی جلد 17 صفحہ 157 من طریقین عن شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 19376، والطبرانی جلد 17 صفحہ 157 من طریق اسرائیل وغيره، عن أبي اسحاق، عن عروة بن أبي الجعد، ولم يذكر العيزار.

1154 - حدیث صحیح، وفي اسناده هنا أبو حميدة، وهو مجهول، لكنه متابع. وأخرجه الطبرانی جلد 17 صفحہ 159 من طریق المسعودی، به. وأخرجه الطبرانی جلد 17 صفحہ 159، وفي الأوسط رقم

الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدَةَ الطَّاعِنِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ -
الْبَارِقِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ فَقِيلَ: وَمَا
الْخَيْرُ؟ قَالَ: الْأَجْرُ وَالْغَنِيمَةُ

حضرت نعیم بن ابی ہند الاشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کو دیکھا گیا کہ آپ گھوڑے کے
رخسار کو صاف کر رہے ہیں اس کے متعلق آپ ﷺ
سے پوچھا گیا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک
جبریل علیہ السلام نے گھوڑے کے متعلق مجھے وصیت کی
ہے۔ ابو بشر نے کہا کہ ہمیں خبر دی احمد بن الفرات نے
از مسلم بن ابراہیم از سعید بن زید از زبیر بن خریث از نعیم
بن ابی ہند از حضرت عروہ۔

1155 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ
بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ خَرِيثِ الْأَزْدِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنِي نَعِيمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ الْأَشْجَعِيُّ، قَالَ:
رَأَيْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ خَدَّ
فَرَسٍ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جَبْرِيْلَ عَاتَنِي فِي الْفَرَسِ قَالَ
أَبُو بَشْرٍ: أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَاتِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خَرِيثِ
عَنْ نَعِيمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عُرْوَةَ

حضرت کعب بن عجرہ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

82- وَكَعْبِ

بْنِ عَجْرَةَ

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1156 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحديث: 1919 من طريق الأوزاعي عن أبي حميدة، به. وانظر الحديثين السابقين.

1155 - حديث صحيح. والاسناد الأول مرسل، لكنه وصل في الاسناد، وعرفت الواسطة، وسعيد بن زيد ثقة

على الصحيح، فوصله حجة، والحديث عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 2154-2155 الى

المصنف. وأخرجه الطبراني جلد 17 صفحہ 158 من طريق حرمي بن حفص، عن سعيد بن زيد، به

موصولاً، بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل ناصية فرسه بين اصبعيه، ثم قال:

الخيال معقود..... الحديث. وانظر الأحاديث السابقة، وصحيح مسلم رقم الحديث: 1872.

1156 - حديث صحيح، وقد اختلف على الحكم في رفعه ووقفه، والأصح من رواية شعبة ومنصور عن الحكم

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ،
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ عَنْ كَعْبِ بْنِ
عُجْرَةَ، قَالَ: مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ قَالَ
فَاعِلُهُنَّ أَنْ تُكَبِّرَ اللَّهُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ وَتُسَبِّحَهُ ثَلَاثًا
وَثَلَاثِينَ، وَتَحْمَدَهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ
قَالَ الْحَكَمُ: فَمَا تَرَكَتُهُنَّ بَعْدُ وَرَوَى هَذَا .

یہ ایسی تسبیحات یا ایسے اذکار ہیں جن کو پڑھنے والا ناکام
نہیں ہوگا، وہ کلمات یہ ہیں: چونتیس مرتبہ اللہ اکبر
تینتیس مرتبہ سبحان اللہ، تینتیس مرتبہ الحمد للہ، ہر فرض نماز
کے بعد۔ حضرت حکم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے
یہ کلمات نہیں چھوڑے۔ اور یہ حدیث ابو عامر نے
حضرت سفیان سے انہوں نے منصور سے انہوں نے حکم

الوقف، ورواه مرفوعاً عمرو بن قيس وحمزة الزيات ومالك بن مغول وغيرهم . وأخرجه الحافظ في
نتائج الأفكار جلد 2 صفحہ 254 من طريق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 10 صفحہ 228
والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 142 عن وكيع، وابن الجعد، عن شعبة 'به' موقوفاً . وأخرجه
الحافظ في النتائج جلد 2 صفحہ 254 من طريق ابن منده باسناد عن عفان، عن شعبة 'به' مرفوعاً . وقال
الحافظ: وأخرجه ابن منده أيضاً من رواية يزيد بن هارون، عن شعبة 'مرفوعاً' . وقال ابن منده: ورواه
يحيى بن أبي بكير، عن شعبة . وأخرجه ابن حبان رقم الحديث: 2019، والطبراني رقم الحديث:
123-19 من طريق شعيب ابن حرب، عن شعبة 'وحمزة الزيات، ومالك بن مغول، عن الحكم 'به'
مرفوعاً، وعند الطبراني ذكر أن الذي رفعه حمزة ومالك، وجزم الترمذی والدارقطنی بأن شعبة يرويه
موقوفاً . أما رواية منصور، فرواها عنه بالوقف: الثوري من رواية عبد الرزاق عنه وزهير وأبو
الأحوص . أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 3193، وابن أبي شيبة جلد 10 صفحہ 228، والبخاري في
الأدب المفرد رقم الحديث: 622، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 9984 . وأخرجه النسائي في
الكبرى كما في التحفة جلد 8 صفحہ 303، والطبراني جلد 19 صفحہ 122 من طريق قبيصة، عن
الثوري، عن منصور، مرفوعاً . وقبيصة متكلم في روايته عن الثوري . وأخرج رواية مالك بن مغول
وحمزة الزيات وعمرو بن قيس بالرفع: ابن أبي شيبة جلد 10 صفحہ 228، ومسلم رقم الحديث: 596،
والترمذی رقم الحديث: 9812، والنسائي رقم الحديث: 1348، وفي الكبرى رقم الحديث: 9983،
وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 246-247، والطبراني جلد 19 صفحہ 122، وأبو نعيم في الحلية جلد 5
صفحہ 104، والبيهقي جلد 2 صفحہ 187، والحافظ في النتائج جلد 2 صفحہ 252-254 . وقال الترمذی:

حسن .

السَّيِّئَاتِ أَبُو عَامِرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ
الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے انہوں نے ابن ابی لیلیٰ سے انہوں نے حضرت
کعب سے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے روایت کی۔

1157 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى،
قَالَ لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي إِلَيْكَ
هَدِيَّةً؟ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: قَدْ
عَرَفْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيُ عَلَيْكَ؟
قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں، نبی اکرم ﷺ نکلے تو
ہم نے عرض کی: بلاشبہ ہم پہچان گئے کہ ہم آپ پر کس
طرح سلام اور کس طرح درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا:
یوں پڑھو "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

1157 - حدیث صحیح . أخرجه أبو عوانة جلد 2 صفحہ 212 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم
الحدیث: 18130، والدارمی رقم الحدیث: 1348، والبخاری رقم الحدیث: 6357، ومسلم رقم
الحدیث: 406، وأبو داؤد رقم الحدیث: 976-977، وابن ماجه رقم الحدیث: 904، والنسائی رقم
الحدیث: 1288، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 2234، وابن حبان رقم الحدیث: 912،
والطبرانی جلد 19 صفحہ 125، والبیہقی جلد 2 صفحہ 147 من طرق عن شعبة به وأخرجه عبد الرزاق
رقم الحدیث: 3105، وأحمد رقم الحدیث: 18129-18152، والبخاری رقم الحدیث: 4797، ومسلم
رقم الحدیث: 406، وأبو داؤد رقم الحدیث: 978، والترمذی رقم الحدیث: 483، والنسائی رقم
الحدیث: 1287، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 2231-2233، وابن حبان رقم الحدیث:
1957، والطبرانی جلد 19 صفحہ 123-129 من طرق عن الحكم به . وأخرجه عبد الرزاق رقم
الحدیث: 3106، وأحمد رقم الحدیث: 18158، والبخاری رقم الحدیث: 3370، والطحاوی فی
المشکل رقم الحدیث: 2235، والحاکم جلد 3 صفحہ 148، والطبرانی جلد 19 صفحہ 129-132 من
طرق عن عبد الرحمن بن أبي لیلیٰ به . ورواه غير واحد عن كعب عند عبد الرزاق رقم الحدیث:
3107، والطبرانی جلد 19 صفحہ 128-154 .

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

1158 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عبداللہ بن معقل فرماتے ہیں کہ میں

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس مسجد میں

بیٹھا سو میں نے آپ سے اللہ عزوجل کے ارشاد

”فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ“ (البقرہ:

۱۹۶) کے متعلق سوال کیا تو انہوں (حضرت کعب رضی

اللہ عنہ) نے فرمایا: یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی

مجھے رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا اس حالت

میں کہ جو میں میرے سر سے میرے چہرے پر گر رہی

تھیں آپ نے فرمایا: میں نہیں سمجھتا تھا کہ تجھے اتنی

تکلیف پہنچ جائے گی جو میں دیکھ رہا ہوں ایک بکری ذبح

کرو (اور اپنے سر کو منڈالو) میں نے عرض کی: مجھ میں

(قربانی کرنے کی) طاقت نہیں تو یہ آیت اُتری:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ، يَقُولُ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ

عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ

وَجَلَّ: (فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)

(البقرة: 196) قَالَ: فِي نَزَلَتْ؛ حُمِلْتُ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَنَاءَرُ

عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى الْجَهْدَ يَبْلُغُ بِكَ

مَا أَرَى أَنْحَرُ شَاةً فَقُلْتُ: لَا أَجِدُ فَنَزَلَتْ: (فَفِدْيَةٌ

مِّنْ صِيَامٍ) (البقرة: 196) ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّةِ

مَسَاكِينَ نِصْفَ صَاعٍ نَزَلَتْ فِي خَاصَّةٍ وَهِيَ لَكُمْ

عَامَّةً

1158- حدیث صحیح . وَاخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 18134، وَابْنُ خَرِيفٍ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 4517-1816

وَمُسْلِمٌ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1201، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكَبِيرِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 4113-11031، وَابْنُ مَاجَةَ رَقْمَ

الْحَدِيثِ: 3079، وَابْنُ حِبَانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3985-3987، وَالطَّبْرَانِيُّ جُلْد 19 صَفْحَةَ 136 وَغَيْرُهُمْ مِنْ

طَرِيقِ عَنْ شُعْبَةَ، بِهِ . وَخَرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 18136-18144-18145، وَمُسْلِمٌ رَقْمَ

الْحَدِيثِ: 1201، وَالطَّبْرَانِيُّ جُلْد 19 صَفْحَةَ 136-137، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ،

بِهِ . وَخَرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 18148، وَالتِّرْمِذِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2973، وَالطَّبْرَانِيُّ

جُلْد 19 صَفْحَةَ 138، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ، بِهِ . وَخَرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ

الْحَدِيثِ: 18149، وَأَبُو دَاوُدَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1858، وَالتِّرْمِذِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2973، وَالنَّسَائِيُّ رَقْمَ

الْحَدِيثِ: 2852، وَابْنُ مَاجَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3080، وَالطَّبْرَانِيُّ جُلْد 19 صَفْحَةَ 106، وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ . وَسَيَاتِي بِرَقْمِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1161 مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ

وَالظَّرُّ مَا سَبَقَ بِرَقْمِ 85 .

”فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ“ تین دن کے روزے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا نصف صاع، یہ صرف میرے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ یہ تمہارے لیے بھی عام ہے۔

1159 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت

1159- حدیث صحیح . واسنادہ هنا ضعيف، لجهالة المبهمين مولی بنی سالم وأبيه، وقد سميا عند بعض المخرجين وجزم به ابن خزيمة رقم الحديث: 443 بسعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة، عن أبيه، فان يكون هما فسعد ثقة معروف، لكن أباه لم يمس بجرح ولا تعديل، غير ذكر ابن حبان له في ثقاته، وسمى المبهمان عند مخرجين آخرين وجزم به الحافظ في التهذيب جلد 12 صفحہ 51 بسعد بن اسحاق، عن أبي ثمامة الحنات، وهو مجهول أيضا، ولكنهما قد تويعا . والحديث رواه عن المقبري: ابن أبي ذئب هنا، وتابعه مع شيء من الاختلاف أب ومعشر وشبابه . أخرجه البيهقي جلد 3 صفحہ 230 من طريق المصنف . ثم علقه البيهقي عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، الا أنه فيه: رجل من بنی سليم . بدل مولی بنی سالم . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18137 عن حجاج، وابن خزيمة رقم الحديث: 443 من طريق ابن أبي فديك كلاهما عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن رجل من بنی سالم، عن أبيه، عن جده، عن كعب . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 3331، ومن طريقه الطبراني جلد 19 صفحہ 153-154 من طريق أبي معشر، عن المقبري، به . وأخرج الطبراني جلد 19 صفحہ 146 من طريق داؤد بن عطاء، عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه، عن كعب . وأخرج رواية ابن عجلان باختلافاتها: عبد الرزاق رقم الحديث: 3332-3336، وأحمد رقم الحديث: 18140-18155، والدارمي رقم الحديث: 1411، والترمذي رقم الحديث: 386، وابن ماجه رقم الحديث: 967، وابن خزيمة رقم الحديث: 440، والطبراني جلد 19 صفحہ 153، ورواه أبو ثمامة الحنات، عن كعب . أخرجه أحمد رقم الحديث: 18128، وعبد بن حميد رقم الحديث: 369، والدارمي رقم الحديث: 1411، وأبو داؤد رقم الحديث: 562، وابن خزيمة رقم الحديث: 442، وابن حبان رقم الحديث: 2036، والطبراني جلد 19 صفحہ 151-152، والبيهقي جلد 3 صفحہ 230 . ورواه عبد الرحمن بن أبي لیلی، عن كعب . أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 2150، والبيهقي جلد 3 صفحہ 230-231، وانظر الارواء جلد 2 صفحہ 99-102 .

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے پھر نماز کے لیے نکلے تو وہ نماز میں ہے پس تم میں سے کوئی بھی وضو کرنے کے بعد اور نماز میں داخل ہونے کے بعد اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے۔

أَبِي ذُنَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبِرِيِّ، عَنْ مَوْلَى لَيْبِي سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ خَرَجَ لِلصَّلَاةِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ فَلَا يُشَبِّكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ أَوْ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ الصَّلَاةَ

حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس مسجد میں آئے آپ نے فرمایا: یہاں کون ہے؟ کیا تم سنتے ہو؟ عنقریب میرے بعد حکمران آئیں گے وہ اللہ کی اطاعت میں عمل نہیں کریں گے پس جو ان کے کام میں شریک ہو اور ان کے اس ظلم پر ان کی مدد کی تو وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں ہوں اور جو ان کے عمل میں شریک نہیں ہو اور ان کے

1160 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى الْهَلَالِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا؟ هَلْ تَسْمَعُونَ؟ إِنَّهُ يَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَعْمَلُونَ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَمَنْ شَارَكَهُمْ فِي عَمَلِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ

1160- حدیث صحیح . واسنادہ هنا ضعیف لجهالة أبي موسى الهلالي وابيه . واخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 2064، والطبرانی جلد 19 صفحہ 159 من طریق شیبان بن فروخ، عن سليمان بن المغيرة، به . والحديث يرويه غير واحد عن كعب، منهم اسحاق بن كعب بن عجرة . اخرجہ حدیثہ: ابن ابی عاصم فی السنة رقم الحدیث: 758، والطبرانی جلد 19 صفحہ 145 . ومنهم عاصم العدوی . اخرج حدیثہ: أحمد رقم الحدیث: 18151، وعبد بن حمید رقم الحدیث: 370، والترمذی رقم الحدیث: 2259، والنسائی رقم الحدیث: 4219، وابن ابی عاصم فی السنة رقم الحدیث: 756، وابن حبان رقم الحدیث: 279-285، والطبرانی جلد 19 صفحہ 135 وغيرهم . وقال الترمذی: حدیث صحیح غریب . ومنهم طارق بن شهاب . اخرج حدیثہ: الترمذی رقم الحدیث: 614-615، والطبرانی جلد 19 صفحہ 105-106 . وقال الترمذی: حسن غریب . واستغربه البخاری جلدًا . وله طرق أخرى عن كعب عند الترمذی رقم الحدیث: 2259، والطبرانی جلد 19 صفحہ 140-142-156-160-162، والبيهقي جلد 8 صفحہ 165 .

ظلم پر ان کی اس نے مدد نہیں کی تو وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔

يَشْرِكُهُمْ فِي عَمَلِهِمْ وَلَمْ يُعْنَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کے زمانے میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے اور ہم محرم تھے، مشرکین نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ہم کو گھیر رکھا تھا، میرے بال لمبے تھے، جو میں میرے سر سے مجھ پر یا فرمایا: میرے چہرے پر گر رہی تھیں، تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: کیا تمہیں یہ تکلیف دیتی ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: اپنے سر کے بال کاٹ لے، اور تین روزے رکھ اور چھ مسکینوں کو کھانا کھلا، یا ایک بکری کی قربانی کر۔

1161 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَالَ الْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ وَلِي وَفِرَّةٌ فَجَعَلَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَيَّ أَوْ قَالَ: عَلَيَّ وَجِهِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوْ انْصُكْ نُسْكًَا

حضرت سعد بن اسحاق اپنے چچا سے روایت

1162 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

1161 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 18126، والبخاری رقم الحديث: 4159، والترمذی رقم الحديث: 2973، والطبرانی جلد 19 صفحہ 109 من طریق هشيم وحده عن أبي بشر، به . وأخرجه الطحاوی جلد 3 صفحہ 120، والطبرانی جلد 10 صفحہ 108 من طریق شعبة، عن أبي بشر، به . وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 417، وأحمد رقم الحديث: 18131-18132-18156، والبخاری رقم الحديث: 1814-1815-1818-5665، ومسلم رقم الحديث: 1201، وأبو داؤد رقم الحديث: 1861، والترمذی رقم الحديث: 2974-953، والنسائی رقم الحديث: 2851، وابن خزيمة رقم الحديث: 2677، وابن حبان رقم الحديث: 3978-3979، وغيرهم من طرق عن مجاهد، به . ويرويه كذلك أبو قلابة والحكم والشعبي، عن ابن أبي لیلی، به . أخرجه أحمد رقم الحديث: 18147، وأبو داؤد رقم الحديث: 1856-1857-1860، وابن خزيمة رقم الحديث: 2676، وابن حبان رقم الحديث: 3980-3981 وغيرهم .

1162 - اسنادہ ضعیف لحال عبد الملك بن كعب عم سعد فانه شبه المجهول وعزاه الحافظ في المطالب رقم

کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید کے دن نکلا، انہوں نے عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی، پھر جب ہم نے نماز پڑھی، لوگوں کو دیکھا کہ ایک ٹولی کی شکل میں مسجد کی طرف جا رہے ہیں، تو (حضرت کعب نے) کہا: یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا: مسجد کی طرف جا رہے ہیں (حضرت کعب نے) فرمایا: یہ بدعت ہے اور سنت کو چھوڑنا ہے۔

أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمِيهِ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا رَأَى النَّاسَ عُقًّا وَاحِدًا يَنْطَلِقُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ قُلْتُ: يَنْطَلِقُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ لِبِدْعَةٌ وَتَرَكْتُ لِلسُّنَّةِ

حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ جو

83- وَحُدَيْفَةَ بْنِ

أَسِيدِ الْغِفَارِيِّ

1163 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحديث: 766 الى المصنف، وأخرجه الطبراني رقم الحديث: 19-148-149، من طريق آدم بن أبي اياس وعاصم بن علي كلاهما عن ابن أبي ذئب به. وأخرجه الشافعي في مسنده جلد 1 صفحہ 316-317، والطبراني جلد 19 صفحہ 149، والبيهقي في معرفة السنن والآثار جلد 3 صفحہ 52 من طرق عن سعد بن اسحاق به.

1163- حديث صحيح. وقد توبع المصنف عليه. وأخرجه الترمذی جلد 4 صفحہ 415 من طريق المصنف عن المسعودی وشعبة، عن فرات، به. وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 11482، والطبراني رقم الحديث: 3029 من طريق المسعودی، به. وأخرجه الحميدى رقم الحديث: 827، وأحمد رقم الحديث: 16188-16189، ومسلم رقم الحديث: 2901، وأبو داؤد رقم الحديث: 4311، والترمذی رقم الحديث: 2183، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 11380، وابن ماجه رقم الحديث: 4055، وابن حبان رقم الحديث: 6791-6843، والطبراني رقم الحديث: 3028-3030-3033 وغيرهم من طرق عن فرات القزاز، به. ورواه قتادة، عن أبي الطفيل، به. أخرجه الطبراني رقم الحديث: 3034. ورواه عبد العزيز بن رفيع، عن أبي الطفيل، موقوفاً. أخرجه أحمد رقم الحديث: 16188، ومسلم رقم

اہل صفہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں: (۱) دھواں (۲) دجال (۳) جانور (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور تین دھنسنے (۵) مشرق کا دھنسا (۶) مغرب کا دھنسا (۷) جزیرہ عرب کا دھنسا (۸) حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نزول (۹) یاجوج و ماجوج کا دیوار کو کھولنا (۱۰) اور آگ کا نکلنا زمین کی گہرائی سے جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔

حضرت حذیفہ بن اُسید رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ نبی اکرم ﷺ کو حضرت نجاشی کی وفات کی خبر پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا بھائی تمہارے غیر ملک میں فوت ہو گیا، اٹھو اس کی نماز جنازہ پڑھو پس ہم نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے صفیں بنائیں اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ فِرَاتِ الْقَزَازِ، عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيدِ الْغِفَارِيِّ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ قَالَ: اطَّلَعَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَكَّرُ السَّاعَةَ فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ حَتَّى يَكُونَ عَشْرُ آيَاتِ الدُّخَانِ، وَالدَّجَالِ، وَالدَّابَّةُ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَثَلَاثَةٌ خُسُوفٍ خَسْفٍ بِالشَّرْقِ وَخَسْفٍ بِالمَغْرِبِ وَخَسْفٍ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَنُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَفَتْحُ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدْنٍ تَسُوقُ النَّاسَ إِلَى الْمَحْشَرِ

1164 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ مَوْتُ النَّجَاشِيِّ فَقَالَ: إِنَّ أَخَاكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ، فَقومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَصَفَّهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ

الحديث: 2901، وابن حبان رقم الحديث: 6791 من طرق عن شعبة، عن عبد العزيز، به. وانظر الالتزامات صفحة 228، وشرح مسلم للنووي جلد 18 صفحة 27.

1164- حديث صحيح، ان كان قتادة سمعه من أبي الطفيل. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16191-16192، والبخاري في التاريخ جلد 8 صفحة 432، وابن ماجه رقم الحديث: 1537، والطبراني رقم الحديث: 3046 من طرق عن المثني، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16190، والطبراني رقم الحديث: 3047-3048، والخطيب جلد 14 صفحة 445 من طريق ابن أبي عروبة وعمران القطان، عن قتادة، به. ورواه حميران بن أعين وهو ضعيف عن أبي الطفيل، عن مجمع بن جارية الأنصاري. أخرجه أحمد رقم الحديث: 16657، وابن ماجه رقم الحديث: 1536.

84- عَبْدُ اللَّهِ بْنِ

حضرت عبداللہ بن یزید انصاری

يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1166, 1165 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ:

حضرت عبداللہ بن یزید انصاری رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے لوٹ مار کرنے اور
مثله کرنے سے منع فرمایا۔حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ
ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ،
يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
النُّهْبِيِّ وَالْمُثَلَّةِ

85- وَحَدِيثُ

حضرت قرہ بن ایاس

قُرَّةَ بْنِ أَيَّاسٍ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

1167 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت

1165, 1166- اسنادہ ضعیف . روایۃ جریر ہی المقدمۃ لثقتہ ، لکنہا ضعیفۃ للمبہم ، وطلحة متروک ، وقد خالف .

وفی الحدیث خلاف آخر فی الرفع والوقف ، ووقفہ أصح . وعزاه الحافظ فی المطالب رقم

الحدیث: 5034 الی المصنف . وقال ابن کثیر فی البدایۃ والنہایۃ جلد 19 صفحہ 249-250: هكذا

رواه مرفوعاً من هذا الوجه بهذا السياق ، وفيه غرابة . وأخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 3035 ، وفي

الطوالات رقم الحدیث: 34 ، والحاکم جلد 4 صفحہ 484 من طرق عن طلحة ، به . وصححه الحاکم ،

وتعقبه الذہبی بضعف طلحة . وعزاه السيوطی فی تنوير الحوالک صفحہ 137 الی ابن مردويه من

طريق سفيان ابن عيينة ، عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة بن

أسيد أراه رفعه به . ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانی فی الأوسط رقم الحدیث: 1657 من طريق حمزة

بن سعيد المروزي عن ابن عيينة ، به . وفيه عن ابن جريج . ورواه هشام بن حسان ، عن قيس بن

سعد ، عن أبي الطفيل ، عن حذيفة ، به ، موقوفاً . أخرجه الحاکم جلد 4 صفحہ 484 من طريق عبد

الأعلى ، عن هشام ، به . وصححه على شرط الشيخين ، ووافقه الذہبی .

1167- حدیث صحیح . أخرجه البيهقي فی الدلائل جلد 1 صفحہ 264 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد

کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے اپنی مہر نبوت دکھائیں! آپ نے فرمایا: اپنا ہاتھ داخل کرو! کہا کہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کی قمیص میں داخل کیا تو میں اس کو چھونے لگا، میں نے مہر نبوت کی طرف دیکھا، انڈے کی طرح آپ کے کندھے پر ابھری ہوئی تھی، آپ نے مجھے اس سے منع نہیں کیا، آپ میرے لیے دعا کرنے لگے اس حالت میں کہ میرے ہاتھ آپ کی قمیص کے اندر تھے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرِنِي الْخَاتَمَ فَقَالَ: ادْخُلْ يَدَكَ قَالَ فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي جُرْبَانِهِ فَجَعَلْتُ الْمَسَّ أَنْظُرُ إِلَى الْخَاتَمِ فَإِذَا هُوَ عَلَى نَعْصِ كَتِفِهِ مِثْلَ الْبَيْضَةِ فَمَا مَنَعَهُ ذَلِكَ أَنْ جَعَلَ يَدْعُو لِي، وَإِنَّ يَدِي لَفِي جُرْبَانِهِ

حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا جبکہ آپ کی قمیص مبارک کا گلا کھلا ہوا تھا۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے کا گلا بھی کھلا رہتا تھا۔

1168 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ

بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مُطْلِقُ الْأَزْرَارِ فَكُنْتُ لَا تَرَى مُعَاوِيَةَ وَابْنَهُ إِلَّا مُطْلِقِي الْأَزْرَارِ

رقم الحديث: 20385-15620 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8307 والطبراني جلد 19 صفحہ 24-25 من طريق قره بن خالد، به . ورواه زياد الجصاص والفضيل بن طلحة و فرات بن أبي فرات، عن معاوية بن قره، به . أخرجه الطبراني جلد 19 صفحہ 22-30، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفحہ 103، وابن عدي جلد 6 صفحہ 2048 .

1168 - حديث صحيح . أخرجه ابن سعد جلد 1 صفحہ 460، وأحمد رقم الحديث: 20384-16288-15619، وأبو داود رقم الحديث: 4082، والترمذي في الشمائل رقم الحديث: 58، وابن ماجه رقم الحديث: 3578، والرويانى رقم الحديث: 941، والبعقوى في الجعديات رقم الحديث: 2693، وابن حبان رقم الحديث: 5452، والطبراني جلد 19 صفحہ 21، وغيرهم من طرق، عن زهير، به . قال البغوى كما فى الاصابة جلد 5 صفحہ 433 غريب، لا أعلم رواه غير زهير عن عروة .

1169 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ أَبُو مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُطْرَدُ طُرْدًا أَنْ نَقُومَ بَيْنَ السَّوَارِي فِي الصَّلَاةِ

حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں بکھرے بکھرے ہوتے، ہم نماز پڑھتے وقت اپنی سواریاں آگے کر لیتے۔

1170 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ وَافْطَارُهُ

حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر ماہ تین دن روزے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے زمانہ بھر کے روزے رکھنا اور افطار کرنا ہے۔

1171 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے

1169- اسنادہ ضعیف، ہارون ابو مسلم مجہول۔ وأخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 1002، والرويانى رقم الحديث: 950، والدولابى فى الكنى جلد 2 صفحہ 113، والمزى فى التهذيب جلد 3 صفحہ 431 من طريق المصنف. وأخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 1002، وابن خزيمة رقم الحديث: 1567، وابن حبان رقم الحديث: 2219، والطبرانى جلد 19 صفحہ 21، والحاكم جلد 1 صفحہ 218 من طريق هارون، به .

1170- حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم الحديث: 20387-20380، والدارمى رقم الحديث: 1754، والبخارى (1059- كشف) والرويانى رقم الحديث: 939، وابن حبان رقم الحديث: 3652-3653، والطبرانى جلد 19 صفحہ 26 من طرق عن شعبة، به . وقال ابن حبان: قال وكيع عن شعبة فى هذا الخبر: وافتارہ . وقال يحيى القطان عن شعبة: وقيامه . وهما حافظان متقنان . وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخارى رقم الحديث: 1975، ومسلم رقم الحديث: 1159 .

1171- حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم الحديث: 20382-20381-15633، والنسائى رقم الحديث: 1860، والرويانى رقم الحديث: 938، والطبرانى جلد 19 صفحہ 27، والحاكم جلد 1 صفحہ 384، والبيهقى فى الآداب رقم الحديث: 1064 من طرق عن شعبة، به . وصححه الحاكم وأقره الذهبى . وأخرجه النسائى رقم الحديث: 2087، والطبرانى جلد 19 صفحہ 31، والبيهقى جلد 4 صفحہ 59 من طريق خالد بن ميسرة، عن معاوية بن قره، به .

ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے ایک انصاری آدمی اختلاف کرنے لگا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، رسول اللہ ﷺ نے اس کو ایک دن فرمایا: اے فلاں! کیا تو اس سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! یا رسول اللہ! (فرمایا:) اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے جس طرح تو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے اس کو نہ پایا تو اس کے متعلق پوچھا، صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا وہ اس بات پر راضی نہیں ہے یا کہا: تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو قیامت کے دن جس دروازے سے آئے گا وہ دوڑتا ہوا آئے گا حتیٰ کہ تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ تو اس آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا یہ صرف اسی لیے ہے یا ہم سب کے لیے ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلکہ تم سب کے لیے ہے۔

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا فَلَانُ أَتُحِبُّهُ؟ فَقَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا أُحِبُّهُ فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَ ابْنُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا يَرْضَى أَوْ آلا تَرْضَى أَنْ لَا تَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَبَاكَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا جَاءَ يَسْعَى حَتَّى يَفْتَحَهُ لَكَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَهُ وَحَدَهُ أَمْ لِكُلِّنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ لِكُلِّكُمْ

1172 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ

حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب اہل شام فساد کریں گے تو تم میں کوئی خیر نہیں

1172 - حدیث صحیح . أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 2192، والخطیب فی شرف أصحاب الحدیث رقم الحدیث: 44 من طریق المصنف . وقال الترمذی: حسن صحیح . وأخرجه ابن أبی شیبہ جلد 12 صفحہ 190، وأحمد رقم الحدیث: 15634-15635-20377-20388، وابن ماجہ رقم الحدیث: 6، والروایانی رقم الحدیث: 949، وابن حبان رقم الحدیث: 61-7302-7303، واللکائی فی شرح أصول الاعتقاد رقم الحدیث: 172، والطبرانی جلد 19 صفحہ 27، والحاکم فی معرفة علوم الحدیث صفحہ 2، وغيرهم من طریق شعبه 'به' وبعضهم لا يذكر فيه: إذا فسد أهل الشام . ورواه إياس بن معاوية عن أبيه عن جدّه . أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 230 .

ہوگی، ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا غالب رہے گا ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو ان کو ذلیل کرے گا یہاں تک کہ قیامت آجائے گی۔

حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے، آپ نے دودھ دوا اور تھنوں کو تھیلی سے باندھ دیا۔

حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کی مسواک لینے کے لیے گئے (جب درخت پر چڑھے) تو صحابہ ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کو دیکھنے لگے اور تعجب کرنے لگے ان کے چھوٹے پن پر تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں چھوٹی پنڈلیاں میزان میں اُحد سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ اسی طرح اسے ابوداؤد نے روایت کیا اور ابوداؤد کے علاوہ نے از شعبہ از معاویہ بن قرہ از والد خود روایت کیا۔

فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

1173 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ: أَتَى أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَلَبَ وَصَرَ

1174 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، ذَهَبَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسِّوَاكِ، فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَى دِقَّةِ سَاقِهِ أَوْ يَعْجَبُونَ مِنْ دِقَّةِ سَاقِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُمَا اثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أَحَدٍ هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُ أَبِي دَاوُدَ: عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ

1173 - أثر صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 16290، والبخاري (2749- كشف) والطبراني جلد 19

صفحة 27 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16295، والرويانى رقم الحديث: 947،

وابن معين فى تاريخه جلد 3 صفحة 58، والطبرانى جلد 19 صفحة 27 من طرق عن شعبة ' به .

1174 - حديث صحيح، واسناد المصنف مرسل . وأخرجه الفسوى فى المعرفة جلد 2 صفحة 546، والبخاري

(2677- كشف) وابن معين فى تاريخه جلد 3 صفحة 59، والرويانى رقم الحديث: 548، والطبرانى

جلد 19 صفحة 28، والحاكم جلد 3 صفحة 317 من طريق سهل بن حماد الدلال، عن شعبة ' عن معاوية'

عن ابنه . وصححه الحاكم، وأقره الذهبى . وقال البخاري: لا نعلم رواه عن شعبة الا سهل .

حضرت عیاض بن حمار الجاشعی

کی نبی اکرم ﷺ سے

روایت کردہ احادیث

86- وَعِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ

الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1175 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطْرِفِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ
الْمُجَاشِعِيِّ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا إِنَّ رَبِّي أَوْ إِنَّ رَبِّي
أَمَرَنِي أَنْ أَعْلِمَكُم مَّا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي
هَذَا، كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُ عَبْدِي حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ
عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ

حضرت عیاض بن حمار الجاشعی سے روایت ہے کہ

اللہ کے نبی ﷺ نے ایک دن اپنے خطبہ میں فرمایا:
خبردار! بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں
تم کو سکھاؤں جس سے تم جاہل ہو جو مجھے میرے رب
نے آج سکھایا ہے وہ یہ ہے: ہر وہ مال جو میں نے اپنے
بندوں کو ہبہ کر دیا ہے وہ حلال ہے اور میں نے اپنے
تمام بندوں کو ہر باطل سے الگ بنایا ہے ان کے پاس
شیاطین آتے ہیں ان کو ان کے دین سے بہکاتے ہیں

1175 - حدیث صحیح . أخرجه أبو نعیم فی الحلیة جلد 2 صفحہ 16 من طریق المصنف 'مقتصرًا علی: أهل

الجنة ثلاثة..... وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17519، ومسلم رقم الحديث: 2865 من طريقين عن

هشام، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18366، والبخاری فی خلق أفعال العباد رقم الحديث: 48،

وابن حبان رقم الحديث: 653، والطبرانی جلد 17 صفحہ 360-361، من طريق همام، عن قتادة، به،

وفیه تسمية الواسطة بين قتادة ومطرف . وأخرجه معمر فی جامعه رقم الحديث: 20088، وأحمد رقم

الحديث: 17525-18364، ومسلم رقم الحديث: 2865، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 8070،

وابن ماجه رقم الحديث: 4179، وابن خزيمة فی التوحيد صفحہ 30، والطبرانی جلد 17 صفحہ 358 من

طرق عن قتادة، به . وجاء عند أحمد رقم الحديث: 17519، ومسلم رقم الحديث: 2765 تصريح

قتادة بسماعه من مطرف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18365، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث:

8071، وابن حبان رقم الحديث: 654، والطبرانی جلد 17 صفحہ 362 من طريق الحسن، عن مطرف،

به . وانظر معجم الطبرانی جلد 17 صفحہ 361-363 .

اور میں نے ان پر حرام کر دیا جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا، وہ ان کو حکم دیتا ہے میرے ساتھ شریک ٹھہرانے کا، جس پر میں نے ان پر کوئی واضح دلیل نہیں اتاری، بے شک اللہ عزوجل نے زمین والوں کی طرف دیکھا، وہ ان سب عرب و عجم والوں سے ناراض ہے سوائے چند اہل کتاب کے۔ اللہ نے فرمایا: اے محمد! میں آپ کو مبعوث کرتا ہوں، اس میں آپ کو آزماؤں گا اور تیرے ذریعے ان کو آزماؤں گا اور میں نے تجھ پر ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کو پانی سے دھویا نہیں جاسکتا ہے، اس کو سوتے جاگتے پڑھے۔ بے شک اللہ عزوجل نے مجھے حکم دیا قریش کو جلانے کا، تو میں نے غرض کی: اے میرے رب! اس وقت وہ میرے سر کو کھائی ہوئی روٹی بنا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا: ان کو نکالو جیسے تم کو انہوں نے نکالا ہے اور ان سے لڑائی کرو تمہاری مدد کی جائے گی اور ان مجاہدین پر خرچ کرو آپ پر خرچ کیا جائے گا، اور ایک لشکر بھیجیں ہم پانچ گنا فرشتے اس کی مثل بھیجیں گے اور آپ کے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کو ماریں جو آپ کے نافرمان ہیں۔ اور فرمایا: جنت والے پانچ طرح کے لوگ ہوں گے: انصاف کرنے والا بادشاہ میانہ روی کے ساتھ صدقہ کرنے والے اور وہ آدمی جو رحم کرنے والا ہو نرم دل ہر قریبی مسلمان کے لیے اور فقیر مانگنے سے بچنے والا، صدقہ کرنے والا اور جہنم والے پانچ طرح کے لوگ ہوں گے: کمزور جن کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ

فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَمْتَ عَلَيْهِمْ مَا آخَلْتُمْ لَهُمْ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقْتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِابْتِلَاكِ وَأَبْتَلِي بِكَ وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقَرُّوهُ نَائِمًا وَيَقْظَانِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُحْرِقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ إِذَا يَثْلَغُوا رَأْسِي فَيَدْعُوهُ خُبْرَةٌ فَقَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا أَخْرَجُوكَ، وَأَغْزِهِمْ يُغْزِ بِكَ وَأَنْفِقْ فَسَيُنْفِقُ عَلَيْكَ وَأَبْعَثْ جَيْشًا نَبَعَتْ خَمْسَةَ أَمْثَالِهِ، وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مِنْ عَصَاكَ وَقَالَ: أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْتَصِدٌ مُتَّصِدٌ مُوَفَّقٌ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ قُرْبَى مُسْلِمٍ، وَفَقِيرٌ عَفِيفٌ مُتَّصِدٌ وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتَّبِعُونَ أَهْلًا وَلَا مَالًا، وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمَسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكُذْبَ وَالسُّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ قَتَادَةَ فَذَكَرْنَا هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ يُونُسُ الْهَدَادِيُّ وَمَا كَانَ فِيْنَا أَحَدٌ أَحْفَظَ مِنْهُ: إِنَّ قَتَادَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: فَعَبْنَا عَلَيْهِ ذَلِكَ قَالَ: فَاسْأَلُوهُ فَهَبْنَاهُ قَالَ وَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقُلْنَا

لِلْأَعْرَابِيِّ: سَلْ قَتَادَةَ عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَدِيثِ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَسْمَعْتَهُ مِنْ مُطَرِّفٍ؟ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا أَبَا الْخَطَّابِ أَخْبِرْنِي عَنْ خُطْبَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي حَدِيثَ عِيَاضٍ أَسْمَعْتَهُ مِنْ مُطَرِّفٍ؟ فَغَضِبَ وَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ ثَلَاثَةٌ عَنْهُ حَدَّثَنِيهِ يَزِيدُ أَخُوهُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، وَحَدَّثَنِيهِ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ عَنْهُ وَذَكَرَ ثَالِثًا لَمْ يَحْفَظْهُ هَمَّامٌ

تمہارے تابع ہوں، وہ اپنے اہل و عیال کے لیے محنت مزدوری نہ کرتے ہوں، اور خائن جس کی طمع مخفی نہ ہو، اگرچہ ذرہ بھر بھی ہو تو وہ خیانت کرے، اور ایک وہ آدمی جو صبح و شام تجھے دھوکہ دیتا ہے، تم کو تمہارے مال و اہل خانہ کے بارے میں، اور بخیل کا یا جھوٹے کا ذکر کیا، اور گندی باتیں کرنے والا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمام نے بیان کیا کہ ہم حضرت قتادہ کے پاس تھے تو ہم نے اس حدیث کا ذکر کیا تو حضرت یونس ہدادی نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا حافظ نہیں تھا، بے شک قتادہ نے یہ حدیث مطرف سے نہیں سنی، فرمایا کہ ہم نے اس پر عیب لگایا، کہا کہ ان سے پوچھو، ہم اس کو ہبہ کر دیں گے، کہا کہ ان کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس کے بعد ہم نے دیہاتی سے کہا: قتادہ سے نبی اکرم ﷺ کے خطبہ کے متعلق پوچھو، اس حدیث کے متعلق جو علی بن حماد کے حوالہ سے روایت کی گئی کہ کیا آپ نے یہ مطرف سے سنی ہے؟ اس دیہاتی نے کہا: اے ابو خطاب! مجھے نبی اکرم ﷺ کے خطبہ کے متعلق بتائیں، یعنی عیاض والی حدیث کے متعلق، کیا آپ نے مطرف سے سنی ہے؟ تو وہ ناراض ہوئے اور فرمایا: مجھ سے تین آدمیوں نے بیان کی، مجھ سے یزید بن عبد اللہ بن شخیر کے بھائی نے بیان کی اور علاء بن زیاد العدوی نے بیان کی اور تیسرے آدمی کا بھی ذکر کیا تھا لیکن ہمام کو یاد نہیں ہے۔

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1176 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری قوم کا ایک آدمی مجھے گالیاں دیتا ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو شخص جو گالیاں دیتے ہیں وہ شیطان ہیں جو بکواس کرتے اور جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کی ابتداء جھوٹ بولنے والے پر ہوتی ہے یہاں تک کہ مظلوم بھی زیادتی کرے۔

عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ هَمَّامٌ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، وَقَالَ، عِمْرَانُ: عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُوَ دُونِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَاذِبَانِ، فَمَا قَالَا فَهُوَ عَلَى الْبَادِي حَتَّى يَغْتَدِيَ الْمَظْلُومَ

1177 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

کلا من یزید و مطرف ثقة رفیع فلا اشکال . و عمران القطان صدوق یہم' لکنہ متابع . و أخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 235 من طریق المصنف' عن عمران و همام' به . و أخرجه البزار (2032 - كشف) من طریق المصنف' عن عمران القطان' عن قتادة' عن یزید' عن عیاض . و أخرجه البخاری فی الأدب المفرد رقم الحدیث: 427' والطبرانی جلد 17 صفحہ 365' وفي الأوسط رقم الحدیث: 2525 من طریق عمران القطان' به ' مثله . و أخرجه البخاری فی الأدب المفرد رقم الحدیث: 428' وأبو داؤد رقم الحدیث: 4895 من طریق حجاج بن حجاج' عن قتادة' عن یزید' به . و أخرجه أحمد رقم الحدیث: 17521-18363' والطبرانی جلد 17 صفحہ 365-366 من طریق همام' به . و أخرجه أحمد رقم الحدیث: 17518-17524' وابن حبان رقم الحدیث: 5726-5771' والطبرانی جلد 17 صفحہ 365 من طریق ابن ابی عروبة و شیبان مفرقین عن قتادة' عن مطرف' به . وله شاهد عن أبی هريرة عند مسلم رقم الحدیث: 2587 . وانظر الصحيحة رقم الحدیث: 570 .

1177 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 6 صفحہ 187 من طریق المصنف . و أخرجه أحمد رقم الحدیث: 18369' والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 1268' والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 3133-4716' وابن حبان رقم الحدیث: 4894' والطبرانی جلد 17 صفحہ 358-359 من طرق عن شعبة' به . و أخرجه أحمد رقم الحدیث: 17516-18362' وأبو داؤد رقم الحدیث: 1709' والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 5808' وابن ماجه رقم الحدیث: 2505' وابن الجارود رقم

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو کوئی گری ہوئی چیز پائے تو اسے چاہیے کہ اس پر دو عادل آدمیوں کو گواہ بنائے اور نہ چھپائے نہ غائب کرے، پس جب اس کا مالک آ جائے تو وہ زیادہ حق دار ہے اس گم شدہ چیز (کو وصول کرنے) کا، ورنہ وہ اللہ کا مال ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ ابو بشر فرماتے ہیں: اور میں نے دوسری جگہ میں دیکھا، وہ سند اس طرح ہے: حضرت ابوداؤد نے حضرت شعبہ سے انہوں نے خالد سے انہوں نے یزید سے انہوں نے عیاض سے روایت کی اور اس سند میں مطرف نہیں ہیں۔

قَالَ: سَمِعْتُ خَالِدًا الْحَدَّاءَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، قَالَ ابْنُ الشَّخِيرِ: عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ التَّقَطَّ لِقِطَّةٍ فَلْيُشْهَدْ ذَوِي عَدْلٍ أَوْ ذَا عَدْلٍ وَلَا يَكْتُمُ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ قَالَ أَبُو بَشِيرٍ: وَرَأَيْتُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عِيَاضٍ وَلَيْسَ فِيهِ مُطَرِّفٌ

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو میں نے ہدیہ پیش کیا، یا فرمایا: ایک

1178 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا

الحدیث: 671، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 4714-4715، والطبرانی جلد 17 صفحہ 360 والبیہقی جلد 6 صفحہ 193، وغیرہم من طرق عن خالد، بہ . وأخرجه الطبرانی جلد 17 صفحہ 360 من طریق یزید، عن عیاض، بالوجه الثانی . وروی هذا الحدیث حماد بن سلمة، فقال مرة: عن خالد الحداء، عن یزید، عن مطرف، عن عیاض، مثل رواية المصنف . وقال مرة: عن خالد، عن أبي قلابة، عن مطرف، عن عیاض . أخرجه الطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 4717-3134، وقال مرة: عن سعید عن یزید عن مطرف عن أبي هريرة . أخرجه الطحاوی رقم الحدیث: 4718-3135 .

1178 - حدیث صحیح، أخرجه البيهقي جلد 9 صفحہ 216، من طریق المصنف . وأخرجه الطحاوی فی

المشکل رقم الحدیث: 2567، وابن زنجويه فی الأموال رقم الحدیث: 365 من طریق حماد بن زید، بہ . وأخرجه الطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 4355-2568 من طریق أبي التياح، بہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17517 من طریق الحسن، عن عیاض . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 12 صفحہ 469، وأبو عبيد فی الأموال رقم الحدیث: 630، وابن زنجويه فی الأموال رقم الحدیث: 963، والطبرانی جلد 17 صفحہ 364 من طرق عن الحسن، أن عیاضاً..... مرسلًا .

اونٹنی دی، تو مجھے آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو مسلمان ہے؟ میں نے عرض کی: نہیں! تو آپ نے اس اونٹنی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا: ہم مشرکین کے زبد قبول نہیں کرتے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن سے پوچھا کہ زبدالمشرکین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ان کے کجاوے۔

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو میں نے ایک اونٹنی ہدیہ دی، یا فرمایا: ہدیہ دیا، تو مجھے آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو مسلمان ہے؟ میں نے عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: ہم کو مشرکین کے ہدیے قبول کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

الْحَسَنُ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً أَوْ قَالَ: نَاقَةً فَقَالَ لِي: أَسَلَّمْتَ؟ فَقُلْتُ: لَا فَاَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: إِنَّا لَا نَقْبَلُ زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ مَا زَبْدُ الْمُشْرِكِينَ؟ قَالَ: رِفْدُهُمْ

1179 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، قَالَ: أَهْدَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً أَوْ قَالَ: هَدِيَّةً فَقَالَ: أَسَلَّمْتَ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ زَبْدِ الْمُشْرِكِينَ

حضرت قیس بن عاصم تمیمی

رضی اللہ عنہ کی احادیث

87- قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ

التَّمِيمِيُّ

حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت

1180 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1179- حدیث صحیح . وعمران القطان صدوق یہم' وقد توبع . وأخرجه أبو داؤد رقم الحدیث: 3057 والترمذی رقم الحدیث: 1577، والبیہقی جلد 9 صفحہ 216، من طریق المصنف . وقال الترمذی: حسن صحیح . وأخرجه ابن الجارود رقم الحدیث: 1110، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 4354، والطبرانی جلد 17 صفحہ 364 من طریق عمران' به . وأخرجه البخاری فی الأدب المفرد رقم الحدیث: 428م' من طریق حجاج بن حجاج' عن قتادة' به .

1180- اسنادہ ضعیف' لجهالة مقسم والد مغيرة' وشعبة بن التوام . وعزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب جلد 7 صفحہ 103 الی المصنف . وأخرجه ابن ابی شیبہ' وأبو یعلیٰ فی مسندیہما کما فی الاتحاف والبخاری (1915- کشف) والطبرانی جلد 18 صفحہ 337 من طریق جریر' به . وأخرجه أحمد

ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اسلام میں قسم کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اسلام میں قسم نہیں ہے، تم جاہلیت والی قسم کو اختیار کرو۔

قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوَّامِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِلْفِ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ: لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ وَتَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ

1181 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت حکیم بن قیس تمیمی سے روایت ہے کہ ان کے والد نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر نوحہ نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ ﷺ پر نوحہ نہیں کیا گیا۔

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ التَّمِيمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، أَوْصَى بَنِيهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ: إِذَا أَنَا مُتُّ، فَلَا تَنُوحُوا عَلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

رقم الحديث: 20632، وابنه في الزوائد رقم الحديث: 20633، والطبري في التفسير جلد 5 صفحہ 55 وأبو يعلى كما في التحاف والطبراني جلد 18 صفحہ 337 من طريق مغيرة به . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 1206، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 5994-1616، والطبري جلد 5 صفحہ 55 وابن حبان رقم الحديث: 4369، من طرق عن جرير، عن مغيرة، عن أبيه عن شعبة قال: سأل قيس بن عاصم..... مرسلاً . وفي الباب عن جبير بن مطعم عند مسلم رقم الحديث: 2530، وغيره، وعن عبد الله بن عمرو عند أحمد رقم الحديث: 6917، والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 570، وانظر الفتح جلد 4 صفحہ 472-474 .

1181- حديث صحيح . أخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 36-37، وأحمد رقم الحديث: 20631، والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 361، والنسائي رقم الحديث: 1850، والطبراني جلد 18 صفحہ 339، والحاكم جلد 1 صفحہ 382، وابن عبد البر في الاستيعاب جلد 3 صفحہ 1269، وغيرهم من طريق شعبة به . صححه الحاكم، وأقره الذهبي . وأخرجه ابن حبان في الثقات جلد 6 صفحہ 320، والطبراني جلد 18 صفحہ 339، وابن عدی جلد 3 صفحہ 1045، وبحشل في تاريخ واسط صفحہ 132 من طريق زياد بن أبي زياد الجصاص، عن الحسن، عن قيس . وأخرجه بحشل صفحہ 184، والطبراني جلد 18 صفحہ 341، والحاكم جلد 3 صفحہ 611-612 من طريق آخر عن قيس .

وَسَلَّمَ لَمْ يَنْخَ عَلَيْهِ

88- وَالْهَلْبُ

الطَائِيُّ

حضرت ہلب الطائی

رضی اللہ عنہ کی احادیث

1182 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هَلْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ،
 أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ
 وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ فَقَالَ: لَا يَجِيئَنَّ أَحَدُكُمْ بِشَاةٍ لَهَا
 يُعَارُ

حضرت قبیسہ بن ہلب رضی اللہ عنہ اپنے والد
 کے حوالے سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے
 نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا، اور زکوٰۃ کا ذکر کیا تو
 فرمایا: تم میں کوئی بھی ایسی بکری نہ لائے جو میا رہی ہو
 (یعنی قیامت کے دن جس نے اپنی بکریوں کی زکوٰۃ نہ
 دی ہوگی وہ اپنے کندھوں پر ایسی بکری لادے ہوگا اور وہ
 میا رہی ہوگی)۔

1183 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت قبیسہ بن ہلب اپنے والد سے روایت

1182 - حدیث صحیح، روایۃ شعبۃ عن سماک صحیحۃ، وقبیسۃ وان تفرد عنه سماک الا أنه ثقة، وثقه المعجلی
 وابن حبان، ومن جهله عرف غیره ما لم يعرفه. والحدیث أخرجه أحمد رقم الحدیث: 22031، وابن
 فی زوائده رقم الحدیث: 22020 من طریق المصنف. وأخرجه عبد الله رقم الحدیث: 22028 من
 طریق یحیی بن عبدویہ، عن شعبۃ، به. وهاتان الروایتان فی المطبوع من روایۃ عبد الله عن أبيه،
 والتصویب من أطراف المسند جلد 5 صفحہ 435. وله شاهد عن أبي هريرة عند البخاری رقم
 الحدیث: 3073، ومسلم رقم الحدیث: 1831، وعن أبي حميد الساعدي.

1183 - اسنادہ صحیح، کسابقہ. وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 305، وأحمد رقم الحدیث: 22030،
 وابنہ فی زوائده رقم الحدیث: 22029، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1041، والطبرانی جلد 22 صفحہ 163
 من طرق عن شعبۃ، به. وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 3207، وأحمد رقم الحدیث:
 22017-22032-22033، وابنہ عبد الله رقم الحدیث: 22018-22019-22021-22023-22025،
 والترمذی رقم الحدیث: 252-301، وابن ماجه رقم الحدیث: 809-929، والطبرانی جلد 22
 صفحہ 163-165، والبيهقي جلد 2 صفحہ 295، وغيرهم من طرق عن سماک، به. وقال الترمذی:

عَنْ سِمَاكِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقِيهِ

کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ دونوں نماز کے بعد پھرتے تھے۔

حضرت ابوزین العقیلی

89- وَأَحَادِيثُ أَبِي

رضی اللہ عنہ کی احادیث

رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ

حضرت ابوزین العقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت

1184 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بندہ مؤمن کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے چالیسواں جزء ہے یہ پرندے کے پاؤں سے معلق رہتی ہے جب تک وہ کسی کو بیان نہ کرے جب وہ اسے بیان کر دے تو گر جاتی ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا:

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكَيْعَ بْنَ عُدُسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوءَةِ وَهِيَ عَلَى رِجْلِ طَائِرٍ مُعَلَّقَةٌ مَا لَمْ يُحَدِّثْ

حسن . وانظر العلل لابن أبي حاتم رقم الحديث: 395-399 .

1184 - اسنادہ ضعیف، وکیع بن عدس مجہول . وأخرجه الترمذی رقم الحديث: 2278، والطحاوی فی المشکل رقم الحديث: 861، والخطیب فی الموضح جلد 2 صفحہ 333 من طریق المصنف . وقال الترمذی: حسن صحیح . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16240-16250، والدارمی رقم الحديث: 2154، والبخاری فی التاريخ جلد 8 صفحہ 178، والترمذی رقم الحديث: 2279، والبغوی فی الجعديات رقم الحديث: 1772، وابن حبان رقم الحديث: 6049، والطبرانی جلد 19 صفحہ 204-205، والحاکم جلد 4 صفحہ 390 من طرق عن شعبة، به . وصححه الحاكم، وأقره الذهبي . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 11 صفحہ 50، وأحمد رقم الحديث: 16236، والبخاری فی التاريخ جلد 8 صفحہ 178، وأبو داؤد رقم الحديث: 5020، وابن ماجه رقم الحديث: 3914، وابن حبان رقم الحديث: 6055، والطبرانی جلد 19 صفحہ 204-205 من طرق عن يعلى بن عطاء، به . وله شاهد من حديث أنس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر عند البخاری رقم الحديث: 6983-6989، ومسلم رقم الحديث:

2265-2263 .

بِهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا سَقَطَتْ قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَلَا تُحَدِّثَ بِهَا إِلَّا حَبِيْبًا أَوْ لَبِيْبًا

اور اسے صرف اپنے دوست یا کسی سمجھ دار آدمی سے بیان کرے۔

1185 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكَيْعَ بْنَ عُمْدُسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى؟ قَالَ: أَمَا مَرَرْتُ بِوَادٍ مُمَحِلٍ ثُمَّ مَرَرْتُ بِهِ خَضِرًا قَالَ: بَلَى قَالَ: فَكَذَلِكَ النُّشُورُ أَوْ قَالَ: كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اللہ مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو کسی گری ہوئی بستی کے پاس سے نہیں گزرا؟ کیا تو سرسبز بستی کے پاس سے نہیں گزرا؟ انہوں نے عرض کی: کیوں نہیں! (گزرا ہوں) فرمایا: اسی طرح زندہ ہونا ہے، یا فرمایا: اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔

1186 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1185 - اسنادہ ضعیف، کسابقہ . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات صفحة 507 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16238-16241، وابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 639، والطبراني جلد 19 صفحة 208 من طريق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16237، وابن خزيمة في التوحيد صفحة 179، والحاكم جلد 4 صفحة 560، والبيهقي في الأسماء والصفات صفحة 507 من طريق حماد بن سلمة، عن يعلى، به . وصححه الخاكم، وأقره الذهبي . ورواه الأسود بن عبد الله بن حاجب، وعاصم بن لقيط وغيرهما، عن أبي رزین في أثناء حديث طويل . أخرجه أحمد رقم الحديث: 16239-16251، وابن خزيمة في التوحيد صفحة 186، وابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 636، وعبد الله بن أحمد في السنة جلد 1 صفحة 286، والطبراني جلد 19 صفحة 211، وفي مسند الشاميين رقم الحديث: 319-395-602، والحاكم جلد 4 صفحة 560، وصححه الخاكم، وتعقبه الذهبي .

1186 - اسنادہ ضعیف، کسابقہ . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16234، وابن أبي عاصم في السنة رقم

الحديث: 638، والطبراني جلد 19 صفحة 208 من طريق شعبة، به . ورواه الأسود بن عبد الله بن حاجب وعاصم بن لقيط في أثناء حديث . أخرجه أحمد رقم الحديث: 16251، وابنه عبد الله في السنة جلد 2 صفحة 485، وابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 636، وابن خزيمة في التوحيد

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری والدہ صلہ رحمی کرتی تھی اور یہ یہ (یعنی نیک) کام بھی کرتی تھی لیکن حالت شرک میں مر گئی ہے وہ کہاں ہے؟ فرمایا: وہ جہنم میں ہے کہا کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کی والدہ کہاں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تیری والدہ میری والدہ کے ساتھ ہو۔

حضرت ابورزین عقیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے والد بہت بزرگ ہیں نہ وہ حج کی اور نہ ہی اور عمرہ کی طاقت رکھتے ہیں اور سواری پر سوار ہونے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، آپ ﷺ نے فرمایا: تو اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کر لے۔

عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكَيْعَ بْنَ عُدْسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ وَمَاتَتْ مُشْرِكَةً فَأَيْنَ هِيَ؟ قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيْنَ أُمُّكَ؟ قَالَ: أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ أُمَّكَ مَعَ أُمِّي

1187 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّنَّ قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيكَ أَوْ اعْتَمِرْ

1188 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

حضرت ابورزین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی

صفحہ 186، والطبرانی جلد 19 صفحہ 211، والحاکم جلد 4 صفحہ 560، وغیرہم، وصححه الحاکم وتعقبه الذہبی بضعف أحد رجاله .

1187 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 329 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16244، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1810، والترمذی رقم الحدیث: 930، والنسائی رقم الحدیث: 2620-2636، وابن ماجه رقم الحدیث: 2906، وابن خزيمة رقم الحدیث: 3040، والبخاری فی الجعديات رقم الحدیث: 1726، وابن حبان رقم الحدیث: 3991، والطبرانی جلد 19 صفحہ 203، والحاکم جلد 1 صفحہ 481، والبيهقي جلد 4 صفحہ 350، وغیرہم من طرق عن شعبة، به .

1188 - اسنادہ ضعیف، وکیع بن حدس مجهول . وأخرجه البيهقي فی الأسماء والصفات صفحہ 596، من طريق المصنف . وأخره أحمد رقم الحدیث: 16232-16246، وابن ماجه رقم الحدیث: 181، وابن أبی عاصم فی السنة رقم الحدیث: 554، والطبرانی جلد 19 صفحہ 207، والآجری فی الشریعة رقم الحدیث: 638، وغیرہ من طریق حماد، به . ورواه الأسود بن عبد اللہ بن حاجب وأبوہ وعاصم بن

اکرم ﷺ نے فرمایا: ہمارا رب عزوجل خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے مایوس ہر کر دوسروں کے قریب ہوتا ہے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کا رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں! (حضرت ابورزین نے) عرض کی: جب رب تعالیٰ بھلائی پر خوش ہوتا ہے پھر تو ہم جیسے لوگ ہرگز مایوس نہیں ہوں گے۔

بُنْ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ حُدْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَحِكَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَيَضْحَكُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ فَقَالَ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا

حضرت ابورزین عقیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

نبی اکرم ﷺ سوال کرنے کو ناپسند کرتے تھے سو جب ابورزین سوال کرتے تو آپ پسند فرماتے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارا رب عزوجل زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کہاں تھا؟ آپ نے فرمایا: وہ عماء (جیسے اس کی شان کے لائق) میں تھا، اس کے اوپر

1189 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بُنْ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ حُدْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَالَ فَإِذَا سَأَلَهُ أَبُو رَزِينٍ أَعْجَبَهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ؟

لقیط، عن أبي رزین، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16251، وعبد الله في السنة جلد 2 صفحہ 485، وابن خزيمة في التوحيد صفحہ 186، والطبرانی جلد 19 صفحہ 211، والحاكم جلد 4 صفحہ 560، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي . ولائبات صفة الضحك شواهد عدة عن أبي هريرة وغيره . انظر صحيح البخاري رقم الحديث: 806، ومسلم رقم الحديث: 182 .

1189- اسنادہ ضعیف، کسابقہ . وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات صفحہ 376 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16233-16245، والترمذی رقم الحديث: 3109، وابن ماجه رقم الحديث: 182، وابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 640، وعبد الله بن أحمد في السنة جلد 1 صفحہ 245، والطبرانی في التفسير جلد 12 صفحہ 4، وفي التاريخ جلد 1 صفحہ 37، وابن حبان رقم الحديث: 8141، والطبرانی جلد 19 صفحہ 207، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة، به . قال البيهقي: هذا حديث تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن حُدس . وله شاهد عن عمران عند البخاري رقم الحديث: 3191 .

قَالَ: كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ، وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ
ثُمَّ خَلَقَ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ

بھی ہوا تھی اور نیچے بھی پھر پانی پر اس نے عرش پیدا کیا۔

1190 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ
بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ
حُدْسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
كُلَّمَا يَرَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَمَا آيَةُ
ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: أَلَيْسَ كَلُّكُمْ يَرَى الْقَمَرَ
مُخْلِياً بِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْظَمُ

حضرت ابورزین عقیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم سب قیامت کے دن
اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! (دیکھو
گے) میں نے عرض کی: اس کی مخلوق میں کوئی نشانی
ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم چودھویں رات کے
چاند کو دیکھتے نہیں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! فرمایا:
اللہ عزوجل (اس سے) بہت بڑا ہے۔

حضرت طلق بن علی یمامی

90- وَطَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

الْيَمَامِيِّ

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت

1191 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1190 - اسنادہ ضعیف، کسابقہ . وأخرجه الآجری فی الشریعة رقم الحدیث: 606 من طریق المصنف .
وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16231-16245، وأبو داؤد رقم الحدیث: 4731، وابن ماجه رقم
الحدیث: 180، وابن أبی عاصم فی السنة رقم الحدیث: 459، وعبد اللہ بن أحمد فی السنة جلد 1
صفحة 245-247، وابن خزيمة فی التوحيد صفحة 179، وابن حبان رقم الحدیث: 6141، والطبرانی
جلد 19 صفحة 206، والآجری رقم الحدیث: 605، والحاكم جلد 4 صفحة 560، واللالکائی فی شرح
أصول الاعتقاد جلد 3 صفحة 483 من طریق حماد بن سلمة، به . وأخرجه أبو داؤد رقم الحدیث:
4731، وابن أبی عاصم فی السنة رقم الحدیث: 460، وعبد اللہ بن أحمد فی السنة جلد 1 صفحة 244،
وابن خزيمة فی التوحيد صفحة 178، والطبرانی جلد 19 صفحة 206، واللالکائی جلد 3 صفحة 483،
وغيرهم من طریق شعبة وهشيم، عن يعلى، به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16251، وابن أبی عاصم
فی السنة رقم الحدیث: 636، وعبد اللہ بن أحمد فی السنة جلد 2 صفحة 485 .

1191 - حدیث حسن . وفي اسنادہ هنا أيوب عن عتبة، وهو ضعيف، لكنه متابع، وحسنه الحافظ في الفتح

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ كَرْتِيهِ بْنِ كَرْتِيٍّ، أَنَّ نَبِيَّ الْأَكْرَمِ ﷺ نَزَلَ فِيهِ فِي لَيْلَةٍ مِنْ لَيْلَاتِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا وَتَرَانٍ فِي لَيْلَةٍ

1192 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت

جلد 2 صفحہ 482 . وأخرجه محمد بن نصر المروزي في قيام الليل صفحہ 283 من طريق المصنف .
 وأخرجه ابن سعد جلد 5 صفحہ 552، وأحمد كما في أطراف المسند جلد 2 صفحہ 623، والطحاوي
 جلد 1 صفحہ 342، والطبراني رقم الحديث: 8247 من طريق أيوب بن عتبة ' به . وأخرجه ابن أبي شيبة
 جلد 2 صفحہ 286، وأحمد رقم الحديث: 16339، وأبو داؤد رقم الحديث: 1439، والترمذي رقم
 الحديث: 470، والنسائي رقم الحديث: 1678، وابن خزيمة رقم الحديث: 1101، والطحاوي
 جلد 1 صفحہ 324، وابن حبان رقم الحديث: 2449، والبيهقي جلد 3 صفحہ 36، وغرهم من طريق ملازم
 بن عمرو، عن جده عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق ' به، وقال الترمذي: حسن غريب . قال عبد
 الحق الاشبيلي في الأحكام الوسطى جلد 2 صفحہ 47: وغيره يصحح الحديث . وأخرجه أحمد رقم
 الحديث: 16332 من طريق محمد بن جابر، عن عبد الله بن بدر ' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث:
 16339 من طريق سراج بن عقبة ' عن قيس ' به . وانظر علل ابن أبي حاتم رقم الحديث: 111، والفتح
 جلد 2 صفحہ 482 .

1192 - حديث صحيح . وأيوب متابع عليه . وأخرجه البيهقي في المعرفة جلد 1 صفحہ 232، والحازمي في

الاعتبار صفحہ 40 من طريق المصنف . وأخرجه ابن سعد جلد 5 صفحہ 552، وأحمد رقم الحديث:
 16329، والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 3335، والطحاوي جلد 1 صفحہ 75-76، والطبراني رقم
 الحديث: 8249، وابن عدی جلد 1 صفحہ 344، وتمام في الفوائد (197-198-الروض البسام)
 والبيهقي في المعرفة جلد 1 صفحہ 232، والحازمي صفحہ 39 من طريق أيوب بن عتبة ' به . وأخرجه
 عبد الرزاق رقم الحديث: 426، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 165، وأحمد رقم الحديث: 16338، وأبو
 داؤد رقم الحديث: 182-183، والترمذي رقم الحديث: 85، والنسائي رقم الحديث: 165، وفي
 الكبرى رقم الحديث: 160، وابن ماجه رقم الحديث: 483، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم
 الحديث: 1675، وابن الجارود رقم الحديث: 20-21، والطحاوي جلد 1 صفحہ 75-76، وابن حبان

بُنُّ عُبَّةَ، عَنِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ،
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَكُونُ أَحَدُنَا فِي الصَّلَاةِ
فَيَمَسُّ ذَكَرَهُ أَيْعِيدُ الْوُضُوءُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ
مِنْكَ

کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کی:
یا رسول اللہ! کیا ہم میں سے کوئی نماز میں اپنے ذکر کو
چھوئے تو اس کو دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ آپ ﷺ نے
فرمایا: نہیں! وہ تیرے جسم کا ٹکڑا ہی تو ہے۔

1193 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
بُنُّ عُبَّةَ، عَنِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ
تَمْنَعَ زَوْجَهَا وَلَوْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کسی عورت کے
لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کو (جماع سے) روکے
اگرچہ وہ تنور پر ہی کیوں نہ ہو۔

1194 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
بُنُّ عُبَّةَ، عَنِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ

حضرت قیس بن طلق اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ سے

رقم الحدیث: 1119-1121، وتمام رقم الحدیث: 196، والبیہقی جلد 1 صفحہ 135، وفی الخلافیات
- 2 صفحہ 286-287، وغیرہم من طریق عبد اللہ بن بدر و محمد بن جابر وغیرہما، عن قیس بن
طلق، بہ۔

1193 - حدیث صحیح، کسابقہ۔ وأخرجه ابن سعد جلد 5 صفحہ 552، والطبرانی رقم الحدیث: 8248، وابن
عدی جلد 1 صفحہ 345 من طریق أيوب بن عتبة، بہ۔ وتابعه عبد الله بن بدر و محمد بن جابر عن
قیس، بہ۔ أخرجه ابن أبي شيبة جلد 4 صفحہ 306، وأحمد رقم الحدیث: 16331، والترمذی رقم
الحدیث: 1160، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 8971، وابن حبان رقم الحدیث: 4165،
والطبرانی رقم الحدیث: 8235-8240، والبیہقی جلد 7 صفحہ 292، وغیرہم۔ وقال الترمذی:
حسن۔

1194 - حدیث صحیح، کسابقہ۔ وأخرجه ابن سعد جلد 5 صفحہ 552، والطبرانی رقم الحدیث: 8253، وابن
عدی جلد 1 صفحہ 345 من طریق أيوب بن عتبة، بہ۔ وتابعه عبد الله بن بدر و غيره، عن قيس، بہ۔
أخرجه أحمد رقم الحدیث: 16328-16330، وأبو داؤد رقم الحدیث: 629، والطحاوی
جلد 1 صفحہ 379، وابن حبان رقم الحدیث: 2297، والطبرانی رقم الحدیث: 8245، والبیہقی
جلد 2 صفحہ 240۔

سوال کیا گیا: کیا آدمی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ خاموش رہے، حتیٰ کہ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھائی، جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان لٹک رہا تھا۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّصَلِي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَسَكَتَ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ طَارِقَ بَيْنَ طَرْفَيْهِ

حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم

91- وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

النصاري رضی اللہ عنہ کی احادیث

عَاصِمِ الْأَنْصَارِيِّ

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1195 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

میں نے نبی اکرم ﷺ کو کلائیوں تک ہاتھ دھوتے دیکھا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَادَ بْنَ تَمِيمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَدَلَكَ ذِرَاعَيْهِ

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1196 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

1195 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 16488 من طريق المصنف . وأخرجه ابن خزيمة رقم الحديث: 118، والرويانى رقم الحديث: 1009، وابن حبان رقم الحديث: 1082-1083، والحاكم جلد 1 صفحہ 161، والبيهقى جلد 1 صفحہ 196 من طريق شعبة ' به . وانظر الخلافات للبيهقى جلد 1 صفحہ 429 .

1196 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 16483-16486-16515، وعبد بن حميد رقم الحديث: 516، والبخارى رقم الحديث: 1024-1025، وأبو داؤد رقم الحديث: 1162، والنسائي رقم الحديث: 1518-1521، وابن خزيمة رقم الحديث: 1420، والبيهقى جلد 3 صفحہ 348 من طريق ابن أبى ذئب ' به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 4889، وأحمد رقم الحديث: 16502-16507، والدارمى رقم الحديث: 1542، والبخارى رقم الحديث: 1023، ومسلم رقم الحديث: 894، وأبو داؤد رقم الحديث: 1161-1163، والترمذى رقم الحديث: 556، والنسائي رقم الحديث: 1511-1518، وابن خزيمة رقم الحديث: 1410-1424، والبيهقى جلد 3 صفحہ 347-348 من طرق عن الزهرى ' به .

أَبِي ذُنَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ
عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ النَّاسَ
ظَهْرَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَقَلَبَ رِذَاءَهُ وَصَلَّى
رَكْعَتَيْنِ بِالنَّاسِ وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ

رسول اللہ ﷺ نماز استسقاء کے لیے نکلے، تو لوگ آپ
کے پیچھے کھڑے ہو گئے، آپ نے قبلہ کی طرف منہ کیا
اور اپنی چادر کو پلٹا اور لوگوں کو دو رکعتیں پڑھائیں اور
اوپنی آواز میں قراءت کی۔

1197 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذُنَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ
عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ
وَإِضْعًا أَحَدِي رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو مسجد میں لیٹے ہوئے دیکھا،
آپ نے اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا
تھا۔

1198 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت عمرو بن یحییٰ انصاری اپنے والد سے

وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 190، وعبد الرزاق رقم الحديث: 4890، والحميدي رقم الحديث:
416-415، وأحمد رقم الحديث: 16495-16512-16520، والدارمي رقم الحديث: 1541، والبخاري
رقم الحديث: 1005-1011-1012-1026-1027، ومسلم رقم الحديث: 894، وأبو داؤد رقم
الحديث: 1164-1166-1167، والنسائي رقم الحديث: 1504، وابن ماجه رقم الحديث: 1267، وابن
خزيمة رقم الحديث: 1406-1407-1414-1415، والطحاوي جلد 1 صفحہ 324، وابن حبان رقم
الحديث: 2867، والدارقطني جلد 2 صفحہ 66، والبيهقي جلد 3 صفحہ 350 من طرق عن عباد بن تميم
به .

1197 - حديث صحيح . أخرجه مالك جلد 1 صفحہ 172، والحميدي رقم الحديث: 414، وأحمد رقم

الحديث: 16477، وعبد بن حميد رقم الحديث: 517، والدارمي رقم الحديث: 2659، والبخاري رقم

الحديث: 6287، ومسلم رقم الحديث: 2100، وأبو داؤد رقم الحديث: 4866، والترمذي رقم

الحديث: 2765، والنسائي رقم الحديث: 720، والطحاوي جلد 4 صفحہ 277، وغيرهم من طرق عن

الزهري، به .

1198 - حديث صحيح . وخارجه بن مصعب ضعيف، وقد توبع، رواه مالك وابن عيينة، ووهيب، وغيرهم، عن

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ کیا میں تم کو رسول اللہ ﷺ کا وضو کر کے نہ بتاؤں! ہم نے عرض کی: کیوں نہیں! سو انہوں نے گلّی کی اور ایک چلو کے ساتھ تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا پھر تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا پھر کلائیوں کو دو مرتبہ دھویا پھر اپنے سر کا مسح کیا یوں کہ اپنے ہاتھ کو آگے کیا اور پیچھے کیا اور اپنے پاؤں کو تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا وضو ایسا ہی تھا۔

1199 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت

عمرو بن یحییٰ بہ . أخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 4171، وأحمد رقم الحدیث: 16516، والدارمی رقم الحدیث: 701-700، والبخاری رقم الحدیث: 185-191-197-199، ومسلم رقم الحدیث: 235، وأبو داؤد رقم الحدیث: 100-118-119، والترمذی رقم الحدیث: 28-32-47، والنسائی رقم الحدیث: 97-99، وابن ماجہ رقم الحدیث: 405-434-471، وابن الجارود رقم الحدیث: 70-73، وابن خزیمہ رقم الحدیث: 172-173، والطحاوی جلد 1 صفحہ 30، وابن حبان رقم الحدیث: 1084، والدارقطنی جلد 1 صفحہ 82، والبیہقی جلد 1 صفحہ 50-59. ورواه واسع بن حبان، عن عبد اللہ بن زید . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 16504-16506، والدارمی رقم الحدیث: 715، ومسلم رقم الحدیث: 236، وأبو داؤد رقم الحدیث: 120، والترمذی رقم الحدیث: 35، وابن خزیمہ رقم الحدیث: 154، وابن حبان رقم الحدیث: 1085، وغيرهم .

1199- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لحال محمد بن عمرو الواقفی، وقد اختلف فی اسناده، أخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 399 من طريق المصنف، وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16523، عن زيد بن الحباب، عن محمد بن عمرو، بہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16525، والدارمی رقم الحدیث: 1190-1191، والبخاری فی خلق أفعال العباد رقم الحدیث: 137-138، وابن الجارود رقم الحدیث: 158، وابن حبان رقم الحدیث: 1679، والدارقطنی جلد 1 صفحہ 241، والبیہقی جلد 1 صفحہ 390، وفي

ہے کہ انہوں نے خواب میں اذان پڑھتے ہوئے فرشتہ کو دیکھا، پس وہ نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے (اس خواب کا) تذکرہ کیا، تو آپ ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا، اور میرے چچا نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے، عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے خواب دیکھا ہے، اور بلال اذان دیتے ہیں، آپ نے فرمایا: تو اقامت کہہ لیا کر۔ پس میرے چچا نے اقامت کہی۔

مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الْوَاقِفِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ رَأَى الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَأَذَنَ بِلَالٍ قَالَ: وَجَاءَ عَمِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَرَى الرُّؤْيَا وَيُؤَذِّنُ بِلَالٌ قَالَ: فَأَقِمِ أَنْتَ قَالَ: فَأَقَامَ عَمِي

حضرت معاویہ بن حکم

رضی اللہ عنہ کی احادیث

92- أَحَادِيثُ مُعَاوِيَةَ

بْنِ الْحَكَمِ

حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے

1200 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے قال کے بارے

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي

الدلائل جلد 7 صفحہ 17 من طریق محمد بن اسحاق قال: حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث

التميمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، عن أبيه . وأخرجه الترمذي رقم الحديث: 194،

والدارقطني جلد 1 صفحہ 241 من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن

عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن زيد . قال الترمذي: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من

عبد الله بن زيد . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16524، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم

الحديث: 1737، وابن خزيمة رقم الحديث: 373، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد

الله بن زيد مطولاً، وهو منقطع بين سعيد وعبد الله .

1200 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 23814، ومسلم رقم الحديث: 537 من طريق ابن أبي

ذئب، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 9500، وأحمد رقم الحديث: 23815-23819-23820،

ومسلم رقم الحديث: 537، والطبراني جلد 19 صفحہ 396، من طرق عن الزهري، به . وهو جزء من

الحديث الآتي .

سَلَمَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّيْرَةِ فَقَالَ: هُوَ شَيْءٌ تَجِدُونَهُ فِي صُدُورِكُمْ فَلَا يَصُدُّكُمْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَأْتُوهُمْ

میں سوال کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ایسی بات ہے جو تم اپنے دلوں میں پاتے ہو سو یہ تم کو ہرگز (اپنے کاموں سے) نہ روکے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کچھ لوگ کہانوں کے پاس جاتے ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم ان کے پاس نہ جایا کرو۔

حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، تو میرے پہلو والے آدمی کو چھینک آئی، میں نے کہا: یرحمک اللہ! تو لوگ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے، میں نے کہا: اس کی ماں روئے! تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، پس وہ لوگ مجھے خاموش کروانے کے لیے اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے، سو جب رسول اللہ ﷺ اپنی نماز سے فارغ ہوئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد بھی ایسا اچھا استاذ

1201 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ

بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَطَسَ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِي فَقُلْتُ: يَرَحِمُكَ اللَّهُ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ: وَاتَّكَلْ أُمِّيَاهُ، مَا لِي أَرَاكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَيَّ أَفْخَاذِهِمْ يُصَيِّمُونِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ

1201- حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 250 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 23817، والبخاری فی القراءۃ خلف الامام رقم الحدیث: 69، من طریق ابان بن یزید و حدہ

بہ . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 19501، وابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 391، وأحمد رقم

الحدیث: 23813-23816-23818، والبخاری فی خلق أفعال العباد رقم الحدیث: 537، وأبو داؤد رقم

الحدیث: 930-3282-3909، والنسائی رقم الحدیث: 1217، وابن حبان رقم الحدیث: 165-2247

من طرق عن یحیی بن ابی کثیر، بہ . وأخرجه البخاری فی خلق أفعال العباد رقم الحدیث: 418، وفي

القراءۃ خلف الامام رقم الحدیث: 68، وأبو داؤد رقم الحدیث: 931، من طرق عن فلیح، عن هلال بن

ابی ميمونة، بہ .

نہیں دیکھا، اللہ کی قسم! آپ نے مجھے نہ تو جھڑکانہ گالی دی اور نہ مجھے مارا، لیکن مجھ سے یہ فرمایا: یہ نماز ہے اس میں لوگوں والی کلام نہیں ہے، یہ نماز صرف تسبیح و تحمید اور قرآن کی قراءت کا نام ہے، یا جس طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ (فرماتے ہیں:) اور میرے پاس بکریاں تھیں، ان بکریوں کو میری لونڈی اُحد اور جوانیہ کے درمیان چرایا کرتی تھی، ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ ایک بھیڑیا میری ایک بکری لے گیا، اور میں بھی انسان تھا سو مجھے غصہ آیا جس طرح دوسرے لوگوں کو غصہ آتا ہے، تو میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، پھر میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آیا، تو میں نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا، آپ ﷺ اس بات پر مجھ سے سخت ناراض ہوئے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو بلاؤ، سو میں نے اسے بلوایا، کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا: آسمان میں، پھر آپ نے فرمایا: میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے کہا: آپ اللہ کے رسول ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو آزاد کر دے، یہ تو مؤمنہ ہے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہماری قوم خط کھینچتی ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پہلے انبیاء میں سے ایک نبی بھی خط کھینچتے تھے، سو جس کا خط ان کے موافق ہو گیا وہ درست ہے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! بے شک ہم میں کچھ لوگ وہ ہیں جو فال نکالتے ہیں، آپ نے فرمایا: وہ ایسی چیز

فَبَابِي وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحَدًا أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، وَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا سَيَّنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَكِنَّهُ قَالَ لِي: إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ الصَّلَاةُ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَوْ كَأَلِدِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ لِي غَنَمٌ تَرَعَى بَيْنَ أَحَدٍ وَالْجَوَانِيَةِ فِيهَا جَارِيَةٌ لِي فَاطَلَعْتُهَا ذَاتَ يَوْمٍ وَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفٌ كَمَا يَأْسَفُونَ فَرَفَعْتُ يَدِي فَصَغَّكْتُهَا صَكَّةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: ادْعُهَا فَدَعَوْتُهَا قَالَ: فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللَّهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتِقُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِينَا قَوْمًا يَخْطُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخْطُ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَلِكَ قُلْتُ: إِنَّ فِينَا قَوْمًا يَطْفِرُونَ قَالَ: هُوَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ وَلَكِنْ لَا يَصُدُّنَهُمْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِينَا قَوْمًا يَأْتُونَ الْكُهَّانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَأْتُوهُمْ

ہے جو لوگ اپنے سینوں میں پانتے ہیں، لیکن وہ انہیں ان کے کاموں سے نہ روکیں، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہماری قوم میں کچھ لوگ کہانوں کے پاس جاتے ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم ان کے پاس نہ جایا کرو!

رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کی احادیث

رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو خطبہ دیا، تو فرمایا: کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو دجال سے نہ ڈرایا ہو (میں بھی اسی طرح اپنی امت کو ڈراتا ہوں) سنو! وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کا دایاں ناخن سخت ہوگا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان ک'ف' (کافر) لکھا ہوگا، اور وہ دو وادیاں لے کر نکلے گا، ان میں سے ایک جنت ہوگی اور دوسری دوزخ، جس کو وہ دوزخ کہے گا وہ جنت ہوگی اور جس کو جنت کہے گا وہ دوزخ ہوگی۔ دجال لوگوں کو کہے گا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں

93- وَسَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1202 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمَهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَ الدَّجَالَ أُمَّتَهُ إِلَّا وَأَنَّهُ أَعْوَرَ عَيْنِ الشِّمَالِ وَبِالْيَمَنِ ظَفْرَةٌ غَلِيظَةٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَعْنِي مَكْتُوبٌ: ك ف ز، وَيَخْرُجُ مَعَهُ وَإِدْيَانُ أَحَدَهُمَا جَنَّةٌ وَأُخْرَى نَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ فَيَقُولُ الدَّجَالُ لِلنَّاسِ: أَلَسْتُ رَبِّكُمْ أَحْيَى وَأَمِيثٌ؟ وَمَعَهُ نَبِيَّانِ

1202- اسنادہ حسن . والحشرج وسعيد الصحيح فيهما التوثيق، لتوثيق الكبار لهما وعدم الجرح المعتبر

وقال الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم جلد 19 صفحہ 164: اسنادہ لا بأس به، ولكن في

متنه غرابة ونكارة . وقال الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 340: رجاله ثقات، وفي بعضهم كلام لا

يضر . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 21979، والرويانى رقم الحديث: 669، والطبرانى رقم

الحديث: 6445، وابن عدى في الكامل جلد 2 صفحہ 846 من طريق الحشرج به مع اختلاف في بعض

الفاظه .

مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِنِّي لَا عَرِفُ اسْمَهُمَا وَاسْمَ آبَائِهِمَا لَوْ
 شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُمَا سَمِّيْتُهُمَا، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ
 وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقُولُ: أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَحِبِّي
 وَأَمِيتُ؟ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: كَذَبْتُ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ
 مِنَ النَّاسِ إِلَّا صَاحِبُهُ وَيَقُولُ الْآخَرُ: صَدَقْتُ
 وَيَسْمَعُهُ النَّاسُ وَذَلِكَ فِتْنَةٌ ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِيَ
 الْمَدِينَةَ فَيَقُولُ: هَذِهِ قَرْيَةُ ذَاكَ الرَّجُلِ فَلَا يُؤْذَنُ لَهُ
 أَنْ يَدْخُلَهَا ثُمَّ يَسِيرُ حَتَّى يَأْتِيَ الشَّامَ فَيُهْلِكُهُ اللَّهُ
 عِنْدَ عَقَبَةِ أْفِيقِ

زندہ کرتا اور مارتا ہوں؟ اور اس کے ساتھ انبیاء میں سے
 دو نبی ہوں گے، میں ان دونوں کے ناموں کو جانتا ہوں،
 اگر میں چاہوں تو ان دونوں کے نام لوں، ان میں سے
 ایک اس کے دائیں طرف ہوگا اور دوسرا اس کے بائیں
 طرف ہوگا۔ وہ کہے گا: کیا تمہارا رب نہیں ہوں، میں زندہ
 کرتا اور مارتا ہوں، ان میں سے ایک کہے گا: تو جھوٹا ہے،
 لوگوں میں سے اس کی کوئی بات نہیں سنے گا مگر اس کا
 ساتھی، اور دوسرا کہے گا: تو نے سچ کہا، اور لوگ اس کی
 بات سنیں گے، یہ آزمائش کا باعث ہوگا۔ پھر وہ چلے گا حتیٰ
 کہ مدینہ منورہ آئے گا، پس وہ کہے گا: اس بستی میں اس
 آدمی کے لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ اس میں داخل ہو،
 پھر وہ چلے گا حتیٰ کہ ملک شام آئے گا، یہاں (وادی)
 عقبہ ایتق کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے گا۔

حضرت سعید بن جمہان فرماتے ہیں کہ مجھے

1203 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1203- حدیث صحیح . أخرجه أبو نعیم فی الامامة والرد علی الرافضة رقم الحدیث: 180، والبیہقی فی
 المدخل رقم الحدیث: 52 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 21978، والترمذی رقم
 الحدیث: 2226، والطبرانی جلد 7 صفحہ 97، والبیہقی فی الدلائل جلد 6 صفحہ 342، وابن عساکر فی
 تاریخ دمشق السیرة النبویة جلد 2 صفحہ 278 من طرق عن الحشرج، به . وقال الترمذی: حدیث
 حسن . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 21969-21978، وأبو داؤد رقم الحدیث: 4646-4647،
 والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 8155، وابن ابی عاصم فی السنة رقم الحدیث: 1181، والبزار رقم
 الحدیث: 3827-3828، والرویانی رقم الحدیث: 66-668، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث:
 3349، وابن حبان رقم الحدیث: 6657-6943، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 3359،
 والطبرانی جلد 1 صفحہ 79، والحاکم جلد 3 صفحہ 71، وغیرہم من طرق عن سعید بن جمہان، به . قال
 المروری کما فی المنتخب من العلل للخلال صفحہ 127: ذکر لأبی عبد اللہ حدیث سفینة صححه

حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو خطبہ دیا، تو ارشاد فرمایا: خلافت میری امت میں تیس سال ہوگی، پھر بادشاہت ہوگی۔ پھر حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ٹھہر جا! حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت بارہ سال چھ ماہ تک رہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بارہ سال تک رہی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک خلافت تیس سال مکمل ہوگئی۔ (سعید بن جبہ ان فرماتے ہیں کہ) میں نے کہا: تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ (کی خلافت)۔ تو حضرت سفینہ نے کہا: وہ پہلے بادشاہ ہیں۔

الْحَشْرَجُ بْنُ نُبَاتَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُمَهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَفِينَةُ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْخِلَافَةُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يَكُونُ مُلْكٌ ثُمَّ قَالَ سَفِينَةُ: أَمْسِكَ، خِلَافَةُ أَبِي بَكْرٍ وَخِلَافَةُ عُمَرَ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَنَةً وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ وَخِلَافَةُ عُثْمَانَ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَنَةً وَسِتَّةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خِلَافَةُ عَلِيٍّ تَكْمِلَةُ الثَّلَاثِينَ قُلْتُ: فَمُعَاوِيَةُ؟ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ الْمُلُوكِ

حضرت اوس بن حذیفہ ثقفی

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت عثمان بن عبد اللہ بن اوس بن حذیفہ ثقفی

اپنے دادا حضرت اوس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے

94- وَحَدِيثُ أَوْسِ

بْنِ حُذَيْفَةَ الثَّقَفِيِّ

1204 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيُّ،

وقال: هو صحيح . وانظر جامع بيان العلم وفضله رقم الحديث: 2313 . وفي مسائل الامام احمد لعبد

الله رقم الحديث: 1833 . قال احمد: واما الخلافة، فنذهب الى حديث سفينة . وانظر فتاوى شيخ

الاسلام جلد 35 صفحہ 18، والسلسلة الصحيحة رقم الحديث: 460 .

1204- اسنادہ ضعیف . شیخ المصنف لیس بالقوی، وشیخ شیخہ لم یوثقہ الا ابن حبان . وأخرجه الخطيب

فی الموضع جلد 1 صفحہ 326-327، وابن الأثیر فی أسد الغابة جلد 1 صفحہ 168 من طریق المصنف .

وأخرجه ابن سعد جلد 5 صفحہ 510، وابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 501-502، وفي مسنده رقم

الحديث: 539، وأحمد رقم الحديث: 16211، وأبو داؤد رقم الحديث: 1393، وابن ماجه رقم

الحديث: 1345 من طرق عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، به . وأخرجه الطبراني رقم

الحديث: 600 من طريق آخر عن عثمان بن عبد الله، به .

قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حُدَيْفَةَ الثَّقَفِيُّ، عَنْ جَدِّهِ أَوْسٍ قَالَ: قَدِمْنَا وَفَدَّ ثَقِيفٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ الْأَحْلَافِيُّونَ عَلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَأَنْزَلَ الْمَالِكِيِّينَ قُبَّتَهُ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَحْدِثُنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ حَتَّى يُرَاحَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ فَكَانَ أَكْثَرُ مَا يُحْدِثُنَا اشْتِغَاءَ فُرَيْشٍ يَقُولُ: كُنَّا بِمَكَّةَ مُسْتَدْلِينَ مُسْتَضْعَفِينَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ انْتَصَفْنَا مِنَ الْقَوْمِ فَكَانَتْ سِجَالُ الْحَرْبِ عَلَيْنَا وَكُنَّا فَاحْتَبَسَ عَنَّا لَيْلَةً عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ ثُمَّ أَتَانَا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْتَبَسَتْ عَنَّا اللَّيْلَةَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كُنْتَ تَأْتِينَا فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَاحْبَبْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَقْرَأَهُ أَوْ قَالَ: أَقْضِيهِ قَالَ: فَلَمَّا أَصْبَحْنَا سَأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَحْزَابِ الْقُرْآنِ كَيْفَ تُحْرَبُونَ؟ فَقَالُوا: ثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاحِدَى عَشْرَةَ وَثَلَاثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفْصَلِ

ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم وفد ثقیف نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے، احلافیوں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرے اور مالکین اپنے قبہ میں ٹھہرے اور رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس عشاء کے بعد آئے، سو ہم سے آپ نے گفتگو فرمائی، حتیٰ کہ آپ کے قدمین مبارک کے درمیان لمبے قیام کی وجہ سے ورم پڑے ہوئے تھے، آپ ہم کو وہ سناتے جو قریش نے آپ کے ساتھ سلوک کیا تھا اور فرماتے، ہم مکہ میں گھٹیا اور کمزور سمجھے جاتے تھے، پھر جب مدینہ آئے تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، پس جنگ کا ڈول ہمارے اور ان کے درمیان رہا، ایک رات آپ اس وقت سے دیر سے آئے جس وقت پر پہلے آتے تھے، پھر جب ہمارے پاس آئے تو ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! آج آپ اس وقت سے دیر سے آئے ہیں جس وقت پر پہلے آپ ہمارے پاس آتے تھے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آج کچھ قراءۃ القرآن کا کچھ حصہ رہ گیا تھا، میں نے پسند کیا کہ اس حصہ کو پڑھے بغیر نہ نکلوں، یا فرمایا کہ اسے پورا کر لوں، پھر جب صبح ہوئی تو ہم نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب سے آپ ﷺ کی تلاوت کے حصہ کے متعلق پوچھا کہ قرآن کی تلاوت کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا: تین (سورۃ فاتحہ البقرہ، آل عمران، النساء) وپانچ (ماندہ سے سورۃ التوبہ تک) سات (سورۃ یونس سے سورۃ نمل تک) نو (بنی اسرائیل سے سورۃ فرقان تک) گیارہ (سورۃ شعراء سے لے کر

سورہ یسین تک اور والصافات سے ہجرات تک)‘
آخری حزب مفصل تک۔

حضرت ابن اوس سے روایت ہے اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ ان کے دادا تھے کہتے ہیں کہ ان کے دادا نے ان کی طرف اشارہ کیا اس حالت میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ مجھے جوتے دیں تو میں نے ان کو دیئے انہوں نے دونوں جوتوں کو پہنا نماز کی حالت میں پس جب انہوں نے نماز پڑھ لی تو فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو نعلین مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

1205 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَوْسٍ، وَكَانَ أَوْسٌ جَدَّهُ قَالَ: أَشَارَ إِلَيَّ جَدِّي أَنَّ أُنَاوِلَهُ نَعْلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَنَاوَلْتُهُ فَلَبِسَهُمَا وَهُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ

حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے

1206 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1205 - حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، ابن اوس لا یعرف . وأخرجه ابن سعد جلد 5 صفحہ 512، وأحمد رقم الحدیث: 16202-16204-16212-16214-16226، والدارمی رقم الحدیث: 698، والنسائی رقم الحدیث: 83، وابن ماجه رقم الحدیث: 1037، والطبرانی رقم الحدیث: 602-610، والبیہقی جلد 1 صفحہ 46، والخطیب فی الموضح جلد 1 صفحہ 323، وعند بعضهم زیادة ستاتی فی الحدیث رقم الحدیث: 1207، وبعضهم أفرد زیادة كالمصنف، وجاء فی رواية الدارمی، والبیہقی، والخطیب: ابن عمرو بن اوس، عن جده . وفي رواية الطبرانی رقم الحدیث: 610: ابن اوس، عن جده . وفي مسند أحمد رقم الحدیث: 16225، والطبرانی رقم الحدیث: 602: عمرو بن اوس، عن جده . وهو خطأ، لأن أوساً والد عمرو، وليس جده، وهو على الصواب فی أطراف المسند رقم الحدیث: 1109: ابن عمرو بن اوس، عن جده . وانظر الموضح للخطیب، وتعلیق الشیخ المعلمی علیه . وأخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 609 من طریق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن ابي اوس، عن جده . وأخرجه ابن سعد جلد 5 صفحہ 512 من طریق عبد الملك بن المغيرة الطائفي، عن اوس .

1206 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 17205، والنسائی رقم الحدیث: 3993، والدارمی رقم الحدیث: 2450، والطبرانی رقم الحدیث: 592 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه النسائی رقم

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ، وَكَانَ فِي الْوَفْدِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ وَمَا مِنَ الْقَوْمِ أَحَدٌ إِلَّا نَأَيْتُمْ غَيْرِي فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَارَهُ فَقَالَ: اذْهَبْ فَأَقْتُلْهُ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: الْيَسَّ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا شَهِدُوا فَاقْتُلْهُمْ مَنَعُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ - أَوْ قَالَ: قَدْ مَنَعُوا - إِلَّا بِحَقِّهَا

ہیں اور وہ وفد میں شریک تھے کہا کہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھا، ایک قبہ میں اور قوم میں میرے علاوہ کوئی سویا ہوا نہیں تھا، تو ایک آدمی آیا، اس نے آپ سے آہستہ گفتگو کی، فرمایا: جا اس کو قتل کر دے! پھر اس کو بلوایا، فرمایا: کیا وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے کہا کہ جی ہاں! آپ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جہاد کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، پس جب وہ اس کی گواہی دیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال بچا لینے یا فرمایا: وہ منع کر دیئے گئے مگر حق کے ساتھ۔

1207 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ابن اوس رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے تین مرتبہ استوقف کیا۔

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْكَفَ

الحديث: 3992، والطبرانی رقم الحديث: 593-594، وعنه أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 348 من طريق سماك بن حرب، عن النعمان، به، بنحوه. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16208-16209، والنسائي رقم الحديث: 3994، وابن ماجه رقم الحديث: 3928، من طريق حاتم بن أبي صغيرة، عن النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن أبيه، به. وأخرجه النسائي رقم الحديث: 3991 معلقاً من طريق سماك عن النعمان بن سالم، عن رجل حدثه، به. ووصله في الكبرى كما في تحفة الأشراف رقم الحديث: 1738.

1207 - حديث صحيح، واسناد المصنف ضعيف، ابن اوس لا يُعرف. وأخرجه أبو نعيم في المعرفة جلد 2 صفحہ 355 من طريق المصنف مقروناً بغيره، وعنده: ابن عمرو بن أوس، عن جده. وهذا الحديث السابق برقم 1205، فانظر تخريجه هناك.

ثَلَاثًا قُلْتُ: مَا اسْتَوْكَفَ ثَلَاثًا؟ قَالَ: صَبَّ عَلَيَّ يَدِيهِ (راوی حدیث فرماتے ہیں کہ) میں نے پوچھا: استوکف تین مرتبہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: آپ نے ہاتھ پر تین مرتبہ پانی ڈالا۔

1208 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةَ الطَّائِفِيِّ، عَنْ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْفِتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

حضرت اوس ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا وفد ثقیف نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا، پس ہم آپ کے پاس پندرہ دن ٹھہرے سو میں نے آپ کو دائیں اور بائیں جانب تھوکتے ہوئے دیکھا۔

1209 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ

حضرت اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

1208- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لضعف شیخہ . وعزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 935 الی المصنف . وأخرجه ابن سعد فی الطبقات جلد 5 صفحہ 512، والطبرانی رقم الحدیث: 597 من طریق قیس، بہ .

1209- حدیث ضعیف، لا اضطرابہ . أخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 287 من طریق المصنف، وقال هذا الاسناد غير قوى . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16226، وابن حبان رقم الحدیث: 1339، والطحاوی جلد 1 صفحہ 96، والطبرانی رقم الحدیث: 506 من طرق عن حماد بن سلمة، عن يعلى، عن أوس بن أبى أوس، عن أبيه، بہ . وأخرجه ابن أبى شيبه جلد 1 صفحہ 90، وأحمد رقم الحدیث: 16213، والطحاوی جلد 1 صفحہ 97، والطبرانی رقم الحدیث: 606 من طرق عن شريك، عن يعلى، بہ، كرواية حماد . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16201، وأبو داؤد رقم الحدیث: 160، والطبرانی رقم الحدیث: 603-607-608، والبيهقي جلد 1 صفحہ 286، والحازمی فی الاعتبار صفحہ 61، وأبو نعیم فی المعرفة جلد 2 صفحہ 335، من طرق عن هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن أوس بن أبى أوس مرفوعًا، وقد أوراد ابن الجوزی هذا الطريق فی العلل المتناهية جلد 1 صفحہ 348، ونقل عن أحمد أنه قال: هشيم يدلس، فلعله سمعه من بعض الضعفاء، ثم أسقطه . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16203، عن يحيى، عن شعبة، عن يعلى بن أمية، عن أوس بن أبى أوس مرفوعًا . والحدیث أعله الحازمی بالاضطراب،

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَوْسِ الثَّقَفِيِّ،
 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ
 وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ

1210 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
 حضرت اوس بن ابو اوس ثقفی رضی اللہ عنہما سے

وقال ومع هذا الاضطراب لا يمكن المسير اليه ولو ثبت لكان منسوخاً . وضعف اسناده ابن عبد البر
 في الاستيعاب جلد 1 صفحہ 120 . وقال ابن رجب في شرح العلل جلد 1 صفحہ 14: اتفق العلماء على
 عدم العمل بأحاديث المسح على النعلين . وقال البخاري في صحيحه: باب غسل الرجلين في النعلين
 ولا يُمسحُ على النعلين . وانظر الفتح جلد 1 صفحہ 267-268 .

1210- حديث صحيح متنه 'واسناده هنا موضوع' محمد بن سعيد كذاب . وأخرجه عبد الرزاق رقم
 الحديث: 5566، ومن طريقه أحمد رقم الحديث: 16206، والطبراني رقم الحديث: 587-588،
 والخطيب في الموضع جلد 2 صفحہ 246 من طريق محمد بن سعيد الأسدي، به . وقد صح الحديث
 من طريق أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 93، ومن طريقه
 ابن ماجه رقم الحديث: 1087، وأحمد رقم الحديث: 16280-17001، والترمذي رقم الحديث: 396،
 والنسائي رقم الحديث: 1380، وابن حبان رقم الحديث: 2781، وابن خزيمة جلد 3 صفحہ 12، وتمام
 في فوائده (443-447-روض) والحاكم جلد 1 صفحہ 281، والبيهقي جلد 3 صفحہ 227، وابن عساكر
 في تاريخه جلد 9 صفحہ 398-402، وغيرهم من طرق عن أبي الأشعث، عن أوس، به . وقال الترمذي:
 حديث حسن . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي، وجود اسناده العقيلي
 جلد 2 صفحہ 211، والنووي كما في تحفة الأحوذى جلد 1 صفحہ 352، والزبيدي كما في المستخرج
 محمود حداد جلد 1 صفحہ 488 . وأخرجه الحاكم جلد 1 صفحہ 282، والبيهقي جلد 3 صفحہ 227 من
 طريق ثور بن يزيد، عن عثمان الشيباني، عن أبي الأشعث، عن أوس، عن عمرو، به . والصحيح الوجه
 الأول، وعثمان مجهول، فلا عبرة بمخالفته . ورواه عبادة بن نسي عن أوس . أخرجه أبو داؤد رقم
 الحديث: 346 من طريق سعيد بن أبي هلال، عن عبادة، به . وأخرجه الطبراني رقم الحديث: 558 من
 طريق سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن سعيد المصلوب، عن أوس، فرجع الى المصلوب . وانظر
 المعجم الكبير للطبراني جلد 1 صفحہ 183-186، والعلل للدارقطني جلد 1 صفحہ 246، وفتح الباري

روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جلدی جلدی چلا سوار نہیں ہوا تو اس کو اس کے ہر قدم کے بدلے ایک سال روزے رکھنے اور اس کی راتوں میں قیام کرنے کا ثواب عطا ہوگا۔

مَعَشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا

غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی

اللہ عنہ حضرت بلال رضی

اللہ عنہ کی احادیث

95- وَبِلَالٍ

مَوْلَى

أَبِي بَكْرٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ فتح مکہ کے دن کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ

1211- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَمْرِيُّ، وَابْنُ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

شرح البخاری لابن رجب الحنبلی جلد 8 صفحہ 97-100 .

1211- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 4891، ومسلم رقم الحديث: 1329، وأبو داؤد رقم

الحديث: 2025، وابن حبان رقم الحديث: 3203 من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن نافع، به .

وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 398، وعبد الرزاق رقم الحديث: 9064، والحميدي رقم الحديث: 149،

وأن ابن شيبه جلد 4 صفحہ 12، وأحمد رقم الحديث: 23940-23946-23967، وعبد بن حميد رقم

الحديث: 360، والبخاري رقم الحديث: 1599-4289-4400، ومسلم رقم الحديث: 1329، والنسائي

رقم الحديث: 2905، وابن ماجه رقم الحديث: 3063، والطحاوي جلد 1 صفحہ 389-390، وابن حبان

رقم الحديث: 3202-3204، والطبراني رقم الحديث: 1038-1042-1054، والبيهقي جلد 2

صفحہ 327 من طرق عن نافع، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 23396، والبخاري رقم الحديث:

397-1167-1598، ومسلم رقم الحديث: 1329، والترمذي رقم الحديث: 874، والنسائي رقم

الحديث: 2906-2908، والطحاوي جلد 1 صفحہ 389-390، والطبراني رقم الحديث: 1055، والبيهقي

جلد 2 صفحہ 327-328 من طرق عن ابن عمر، انظر العليل للدارقطني جلد 7 صفحہ 183 .

عُمَرَ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الْكَعْبَةَ فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَابَ وَدَخَلَ مَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ فَلَمَّا خَرَجُوا سَابَقَتْ النَّاسَ فَسَبَقْتُهُمْ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ حِيَالَ الْجَزْعَةِ

پر دروازہ بند کر دیا گیا، آپ کے ساتھ حضرت فضل بن عباس، حضرت عثمان بن طلحہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم داخل ہوئے، پس جب یہ حضرات باہر نکلے، تو لوگ آگے بڑھے، سو میں بھی آگے بڑھا، میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا: رسول اللہ ﷺ نے نماز کس جگہ پڑھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ آگے والے کھجور کے ستونوں کے درمیان۔

1212 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم

1212- حدیث صحیح، واسناد المصنف منقطع، ابن ابی لیلیٰ لم یلق بلالاً، لکنہ صح بذکر کعب بن عجرة بینہما کما أشیر الیہ، وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 23944-23964، والنسائی رقم الحدیث: 106، والرویانی رقم الحدیث: 733، والبزار رقم الحدیث: 1370، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 144، والطبرانی رقم الحدیث: 1088 من طرق عن شعبة، به. ورواه أبان بن تغلب ومحمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ وزید بن ابی أنیسة وغيرهم، عن الحكم، به، كرواية شعبة. أخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 735، والحمیدی رقم الحدیث: 150، وأحمد رقم الحدیث: 23944-23950، والطبرانی رقم الحدیث: 1087-1089-1090. ورواه الأعمش عن الحكم، واختلف عليه، فرواه شريك، والثوري، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن ابی لیلیٰ، به، كرواية شعبة، وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 736، ومن طريقه أحمد رقم الحدیث: 23962، والطبرانی رقم الحدیث: 1086، والشاشی جلد 1 صفحہ 111. ورواه أبو معاوية الضرير وعلی بن مسهر وابن نمير وغيرهم، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن ابی لیلیٰ، عن كعب بن عجرة، عن بلال. أخرجه ابن ابی شيبه جلد 1 صفحہ 22، وأحمد رقم الحدیث: 23950، ومسلم رقم الحدیث: 275، والترمذی رقم الحدیث: 101، والنسائی رقم الحدیث: 104، وابن ماجه رقم الحدیث: 561. والطبرانی رقم الحدیث: 1060-1061، والبيهقي جلد 1 صفحہ 61-271، وغيرهم. وأخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 1062 من طريق ليث بن ابی سليم، عن الحكم، عن ابن ابی لیلیٰ، عن كعب بن عجرة، عن بلال. ورواه زائدة بن قدامة، وعمار بن رزيق، عن الأعمش، عن الحكم، عن ابن ابی لیلیٰ، عن البراء، عن بلال، به. أخرجه أحمد رقم

ﷺ موزوں اور عمامہ پر مسح کرتے تھے۔ اور یہ حدیث امام اعمش نے حضرت حکم سے انہوں نے ابن ابی لیلیٰ سے انہوں نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

قَالَ: اُنْبَاَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ أَنَّ بِلَالَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ بِلَالٍ

مؤذن رسول اللہ ﷺ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کیونکہ اس وقت سورج شیطان کے دو سینگوں کے یا فرمایا: شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔

1213 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، يُحَدِّثُ عَنْ بِلَالٍ، مُؤَذِّنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نُهِينَا إِلَّا عَنْ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ أَوْ قَالَ: عَلَى قَرْنَيْ شَيْطَانٍ

حضرت شداد بن اوس رضی

اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے

روایت کردہ احادیث

96- وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1214 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحديث: 23961 والنسائي رقم الحديث: 105، والبزار رقم الحديث: 1359-1360، وانظر العليل لابن

أبي حاتم جلد 1 صفحہ 15-16، وعلل صحيح مسلم لابن عمار الشهيد صفحہ 62.

1213 - حديث صحيح . عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 495 الى المصنف .

وأخرجه أحمد رقم الحديث: 23933، والحارث في مسنده (211-بغية) والطبراني رقم

الحديث: 1070 من طريق شعبة ' به . ورواه أبو قطن ويحيى بن سعيد، عن شعبة ' به ' بلفظ: لم ننه عن

الصلاة الا عند طلوع الشمس . أخرجه ابن منيع ومسدد كما في الاتحاف بذييل المطالب رقم

الحديث: 496-497 . ورواه الثوري عن قيس ' فقال: الا عند غروب الشمس .

1214 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 17167، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 3150 من

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ
 أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ،
 قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ
 بِرَجُلٍ يَحْتَجِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

کہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی آپ
 کے پاس سے گزرا، اس نے پچھنا لگوا یا ہوا تھا، تو رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا: پچھنے لگانے اور لگوانے والے
 دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔

1215 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
 عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
 میں نے دو باتیں نبی اکرم ﷺ سے یاد کی ہیں، آپ

طریق شعبة ' به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 7520 والنسائي في الكبرى رقم الحديث:
 3149-3151 والطحاوي جلد 2 صفحہ 99 والطبراني رقم الحديث: 7125-7126 والحاكم جلد 2
 صفحہ 428-429 من طرق عن عاصم ' به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 7521 وأحمد رقم
 الحديث: 17153-17165 وأبو داؤد رقم الحديث: 2369 والنسائي في الكبرى رقم الحديث:
 3150-3151 وابن حبان رقم الحديث: 3534 والبيهقي جلد 4 صفحہ 268 وغيرهم من طرق عن أبي
 قلابة ' به .

1215 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 17179، ومسلم رقم الحديث: 1955، وأبو داؤد رقم
 الحديث: 2815 والنسائي رقم الحديث: 4426 والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 1270
 والطبراني رقم الحديث: 7115 من طرق عن شعبة ' به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 8604
 وأحمد رقم الحديث: 17154 والدارمي رقم الحديث: 1976، ومسلم رقم الحديث: 1955، والترمذي
 رقم الحديث: 1409 والنسائي رقم الحديث: 4417-4424 وابن ماجه رقم الحديث: 3170 وابن
 حبان رقم الحديث: 5883-5884 وابن الجارود رقم الحديث: 839-899 وغيرهم من طرق عن خالد
 الحداء ' به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 8603 وأحمد رقم الحديث: 17157 والنسائي رقم
 الحديث: 4425 والطبراني رقم الحديث: 7121 من طريق أيوب ' عن أبي قلابة ' به . ورؤى هذا
 الحديث عن خالد الحداء ' عن أبي قلابة ' عن أبي أسماء الرحبي ' عن أبي الأشعث ' عن شداد ' بزيادة
 أبي أسماء . أخرجه النسائي رقم الحديث: 4423 وانظر جامع العلوم والحكم جلد 1 صفحہ 372
 (الحديث السابع عشر) .

نے فرمایا: (۱) بے شک اللہ عزوجل نے احسان ہر چیز پر ضروری کیا ہے، پس جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو (۲) اور جب تم قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو (قصاص میں) اور چاہیے کہ ذبح کرنے والا چھری تیز کرے تاکہ اس کے ذبیحہ کو آرام پہنچے۔

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا: جس نے نماز ریاکاری کے لیے پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے روزہ ریاکاری کے لیے رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے زکوٰۃ ریاکاری کے لیے دی اس نے بھی شرک کیا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا کہ جو ہونا تھا اس نے کیا ہے، پس وہ اس کو قبول کرے اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دے؟ حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ

الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِي، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: خَصَلَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ لِيُحَدِّثَ شَفْرَتَهُ ثُمَّ لِيُرِخَ ذَبِيحَتَهُ

1216 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مُرَائِيًّا فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ مُرَائِيًّا فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ مُرَائِيًّا فَقَدْ أَشْرَكَ. فَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ: أَفَلَا يَعْمِدُ اللَّهُ إِلَى مَا كَانَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقْبَلَهُ وَيَدْعُ مَا سِوَى ذَلِكَ؟ قَالَ: فَقَالَ شَدَّادٌ: أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا خَيْرُ شَرِيكٍ أَوْ قَسِيمٍ، مَنْ أَشْرَكَ بِي فَعَمَلُهُ قَلِيلٌ

1216- اسنادہ حسن، لحال شهر۔ وهذا الحديث لم يسمعه من شداد، بينهما عبد الرحمن ابن غنم، كما ذكره

يونس بن حبيب عقب الحديث. وعزاه البوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 28 الى

المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17180، والطبراني رقم الحديث: 7139، والبزار رقم

الحديث: 3482، وابن عدی جلد 4 صفحہ 1357، والحاكم جلد 4 صفحہ 329، وأبو نعيم في الحلية

جلد 1 صفحہ 269، وابن عساکر في تاريخه جلد 26 صفحہ 169-178 من طريق عبد الحميد بن شهر

عن عبد الرحمن ابن غنم، عن شداد. وقال البزار: وهذا الحديث بهذا اللفظ لا نعلم يرويه الا شداد بن

اوس. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17161، وابن ماجه رقم الحديث: 4205، والطبراني رقم

الحديث: 7145-7160-7167، والحاكم جلد 4 صفحہ 33، وأبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 268 من

طرق عن شداد، وصححه الحاكم وأقره الذهبي.

وَكَثِيرُهُ لِشَرِيكِي وَأَنَا مِنْهُ بَرٌّ قَالَ أَبُو
بِشْرِ: وَوَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ لِأَبِي
دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ شَدَّادٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ
وَالْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ

میں شریک یا جو میرے مد مقابل ہے اس سے بہتر ہوں،
جس نے میرے ساتھ شرک کیا چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو،
میں اس کے عمل سے بری ہوں۔ حضرت ابو بشر فرماتے
ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابوداؤد کی کتاب میں از
عبدالحمید از حضرت شہر بن حوشب از عبدالرحمن بن غنم از
شداد روایت پائی ہے اور یہ صحیح ہے اور حدیث مختصر ہے۔

1217 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ،
قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ غَنَمٍ، أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ، حَدَّثَهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ: لِيَحْمِلَنَّ
شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى مَنْ مَضَى مِنْ قَبْلِهِمْ حَدْوَ
الْقُدَّةِ بِالْقُدَّةِ

حضرت ابن غنم بیان کرتے ہیں کہ حضرت شداد
بن اوس رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی
اکرم ﷺ نے ان سے بیان فرمایا: اس امت کے
برے لوگ ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر
چلیں گے، جس طرح تیر کا ایک پر دوسرے پر کے برابر
ہوتا ہے (مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کے طریقے کے
مطابق چلو گے، جس طرح کہ آج معاشرہ میں سب کچھ
ہو رہا ہے)۔

1218 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1217- اسنادہ حسن، لحال شہر۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17175، والبغوي في الجعديات رقم
الحديث: 3459، والطبراني رقم الحديث: 7140، والآجری فی الشريعة رقم الحديث: 34، وابن عدی
جلد 4 صفحہ 1357 من طریق عبد الحمید بن بہرام، به۔ وله شاهد عن أبي سعيد الخدري عند
البخاري رقم الحديث: 7320، ومسلم رقم الحديث: 2669.

1218- اسنادہ ضعیف، ابو بکر بن ابی مریم ضعیف اختلط۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17164، والترمذی
رقم الحديث: 2459، وعبد الله بن أحمد فی زوائد الزهد رقم الحديث: 206، ومن طريقه القضاعي فی
مسند الشهاب رقم الحديث: 185، والبخاری رقم الحديث: 1218، والطبراني رقم الحديث: 8143، وابن
عدی جلد 2 صفحہ 472، والحاكم جلد 1 صفحہ 57، وأبو نعيم جلد 1 صفحہ 267، والبيهقي جلد 3
صفحہ 369 من طریق ابن المبارك، به۔ وأخرجه الترمذی رقم الحديث: 2459، وابن ماجه رقم

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَتِيسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ

المُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَتِيسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: سمجھ دار وہ ہے جو اپنی موت کے بعد والے مراحل کے لیے عمل کرے اور عاجز وہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرے اور اللہ تعالیٰ (کے کرم) پر امید رکھے۔

97- وَبَشِيرِ ابْنِ

الْخَصَاصِيَّةِ

حضرت بشیر بن خصاصیہ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت بشیر بن نہیک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ کے بشیر ابن خصاصیہ نے حدیث بیان کی اور رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام بشیر رکھا تھا اس سے پہلے ان کا نام زحم تھا۔

1219 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ نَهَيْكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَاهُ بِشِيرًا وَكَانَ اسْمُهُ

الحديث: 4260، وابن عدی جلد 2 صفحہ 472، والبيهقي جلد 3 صفحہ 369، والبغوي رقم الحديث: 4116-4117 من طرق عن ابن أبي مریم، به . قال الترمذی: هذا حديث حسن . وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاری، ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله، أبو بكر واه . والحديث أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 7 صفحہ 338، وفي الصغير جلد 2 صفحہ 36 من وجه آخر عن شداد، وفيه رجل متروك .

1219- حديث صحيح . عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 3991 الى المصنف . وأخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 55، والبخاری في التاريخ جلد 2 صفحہ 97 من طريق الأسود بن شيبان، به . وروى من طرق عن الأسود مقرونا بالحديث الآتي . انظر تخريجه هناك . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20805-22006، والبخاری في الأدب المفرد رقم الحديث: 830 من طريق آخر عن بشر، بتغير اسمه فقط .

قَبْلَ ذَلِكَ: رَحِمَ

1220 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ،
 قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ نَهْيِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَشِيرُ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِيرِ ابْنِ
 الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَأُمَا شِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذٌ بِيَدِهِ - أَوْ قَالَ آخِذٌ بِيَدِي -
 إِذْ قَالَ لِي: يَا ابْنَ الْخَصَاصِيَّةِ مَا أَصْبَحْتَ تَنْقُمُ
 عَلَيَّ اللَّهُ؟ أَصْبَحْتَ تُمَاشِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَنْقُمُ عَلَيَّ اللَّهُ شَيْءًا
 بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، كُلُّ خَيْرٍ صَنَعَ اللَّهُ بِي كُلُّ خَيْرٍ

حضرت بشیر بن نہیک فرماتے ہیں کہ مجھ سے
 رسول اللہ ﷺ کے بشیر حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی
 اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ
 چل رہا تھا آپ نے ان کا یا فرمایا: میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا،
 اچانک مجھے فرمایا: اے ابن خصاصیہ! تو نے صبح اس
 حالت میں کی کہ تجھ سے اللہ ناراض نہیں ہے؟ تو نے صبح
 کی ہے کہ تو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں
 نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! میں
 اللہ سے ناراض نہیں ہوں کسی شی پر ہر بھلائی جو اللہ نے
 میرے ساتھ کی ہے وہ اللہ نے بہتر کی ہے۔ کہا کہ پس

1220 - حدیث صحیح . أخرجه الطحاوی جلد 1 صفحہ 510 من طریق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة
 جلد 3 صفحہ 396 وأحمد رقم الحديث: 22003-20806 والنسائي رقم الحديث: 2047 وابن ماجه
 رقم الحديث: 1568 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 1651 من طرق عن أسود به .
 وأخرجه ابن حبان رقم الحديث: 3170 وأبو نعیم في معرفة الصحابة جلد 3 صفحہ 104 من طریق
 المصنف عن الأسود، مقرونًا بالحديث السابق . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20807 والبخاری في
 الأدب المفرد رقم الحديث: 775-829، وأبو داؤد رقم الحديث: 3230 وابن حبان رقم الحديث:
 3170 والطبرانی رقم الحديث: 1230 وابن قانع في معجم الصحابة جلد 1 صفحہ 88-89، والحاكم
 جلد 1 صفحہ 373 والبيهقي جلد 4 صفحہ 80 من طريق الأسود به، كسابقه . قال ابن مهدي: كنت
 أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائز، فلما بلغ المقابر، حدثته بهذا الحديث، فقال: حديث جيد
 ورجل ثقة . ثم خلع نعليه، فمشى بين القبور . انظر سنن ابن ماجه رقم الحديث: 1568، وصحيح ابن
 حبان رقم الحديث: 3170 . وكذلك قال أحمد كما في المغني جلد 3 صفحہ 514: انه جيد، أذهب
 اليه . وصححه الحاكم . وانظر السنن للبيهقي جلد 4 صفحہ 80، والفتح جلد 3 صفحہ 206، وأحكام
 الجنائز للألباني صفحہ 199-200 .

صَنَعَ بِي اللَّهِ قَالَ: فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثُمَّ أَتَى عَلَى قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا، أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثُمَّ حَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظْرَةٌ فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي بَيْنَ الْقُبُورِ فِي نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا صَاحِبَ السِّتِيَّتَيْنِ أَلْقِ سِتِيَّتِكَ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى بِهِمَا

رسول اللہ ﷺ مشرکوں کی قبروں پر آئے، آپ نے فرمایا: ان تمام لوگوں سے بھلائی آگے چلے گی، ان تمام سے بھلائی آگے چلی گئی، انہوں نے بہت زیادہ بھلائی کو پالیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی نظر اچانک ایک آدمی پر پڑی جو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چل رہا تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے جوتیوں والے! اپنی سستی جوتیوں کو اتار دے! سو اس نے جب رسول اللہ ﷺ کو دیکھا تو اس نے دونوں جوتیوں کو پھینک دیا۔

حضرت لیلیٰ، حضرت بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ عنہما کی بیوی فرماتی ہیں کہ میں نے لگا تار دو روزے رکھنے کا ارادہ کیا، میں نے اس کا ذکر حضرت بشیر سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے اور پھر فرمایا کہ ایسا یہود کرتے ہیں لیکن تم روزہ رکھو، پھر جب رات ہو جائے تو افطار کرو۔

1221 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيْطِ السَّدُوسِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرِ ابْنِ الْخِصَاصِيَّةِ قَالَتْ: كُنْتُ أَنْ أَصُومَ، يَوْمَيْنِ مُوَاصِلًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبَشِيرٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ وَقَالَ: يَفْعَلُ ذَلِكَ الْيَهُودُ وَلَكِنْ صُومُوا إِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَأَفْطَرُوا

حضرت ابو امامہ الباہلی

رضی اللہ عنہ کی احادیث

98- أَحَادِيثُ أَبِي

أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم

1222 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1221- حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 22005، وعبد بن حميد رقم الحديث: 429، والطبراني

رقم الحديث: 1231 من طريق عبيد الله بن اياد، به بلفظ: النصارى .

1222- اسنادہ منقطع، سالم بن ابی الجعد لم يسمع من ابی امامة . وعزاه البوصيري في الاتحاف بذيل

المطالب رقم الحديث: 2018 الى المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22273-22365، وأحمد

رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ کے پاس ایک عورت آئی اور اس کے پاس اس کا ایک بچہ یا دو بچے تھے وہ دونوں کو اٹھائے ہوئے تھی اور بیٹا اور بھی تھا کہا کہ میرا گمان ہے کہ اسے اٹھائے ہوئے تھی کہا: اور میں نے خیال کیا کہ رسول اللہ ﷺ سے آج جو مانگے گی آپ اس کو ضرور عطا کریں گے۔ سو جب وہ چلی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے بچوں کو اٹھانے والی مائیں اپنے بچوں پر کتنی شفقت کرتی ہیں اگر یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرتی ہوتیں تو ان میں سے نماز پڑھنے والی عورتیں جنت میں جاتیں۔

قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا أَوْ صَبِيَّانِ لَهَا حَامِلَتُهُمَا وَبَنِيٌّ آخَرُ قَالَ: وَأَحْسَبُهَا حَامِلًا قَالَ: وَأَحْسَبُهَا لَمْ تَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهَا فَلَمَّا أَدْبَرْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَامِلَاتُ وَالِدَاتِ رَحِيمَاتٌ لَوْلَا مَا يَأْتِينَ إِلَى آزْوَاجِهِنَّ دَخَلَ الْمُصَلِّيَاتُ مِنْهُنَّ الْجَنَّةَ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

1223 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

من منيع في مسنده كما في الاتحاف رقم الحديث: 2019 من طريق شريك وغيره 'عن منصور' به . وأخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 2013، والرويانى فى مسنده رقم الحديث: 1256، والطبرانى رقم الحديث: 7985-7986، وفى الأوسط رقم الحديث: 7211، والحاكم جلد 4 صفحه 173، وأبو نعيم جلد 7 صفحه 131 من طرق عن سالم بن أبى الجعد' به . وقال الحاكم: صحيح الاسناد على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقد أعضله شعبة .

1223- اسنادہ حسن، لحال اسماعیل بن عیاش، وشیخہ ہنا شامی . وهذا الحديث والذي بعده حديث واحد . وأخرجه البيهقي جلد 4 صفحه 193-194 من طريق المصنف . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 16308، وسعيد بن منصور رقم الحديث: 427، وابن أبى شيبه رقم الحديث: 10765، وأحمد رقم الحديث: 22348، وأبو داؤد رقم الحديث: 2870-3565، والترمذى رقم الحديث: 1265-2120، وابن ماجه رقم الحديث: 2405-2713، والطبرانى رقم الحديث: 7615، والبيهقي جلد 6 صفحه 264، وغيرهم من طريق اسماعيل بن عياش' به . وقال الترمذى فى الموضوع الأخير: حسن صحيح . وفى الأول: حسن . وزاد فى الثانى: غريب . وأخرجه النسائى فى الكبرى رقم الحديث: 5782، وابن حبان

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ موجود تھا، میں نے آپ کو فرماتے سنا: بے شک اللہ عزوجل نے ہر حق والے کو حق دیا ہے، وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں اور ان کے حساب کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا، یا اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی تو اس پر اللہ کی قیامت تک لعنت ہوگی لگاتار، خبردار! کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کے مال سے کوئی شی اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے۔ ایک آدمی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ ہمارے مالوں میں افضل ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قرض ادا کرنا ہوتا ہے، اور مانگی گئی چیز واپس کرنی ہوتی ہے، اور دودھ دینے والا جانور جو کسی نے دیا ہو اس کو واپس کرنا ہوتا ہے اور قرض والا ضمانت والا ہوتا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَاثٍ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، إِلَّا لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْءًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا

1224 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، سَمِعَ أَبَا أَمَامَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ

1225 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

رقم الحديث: 5094 والطبرانی رقم الحديث: 7637 وغيرهم من طريق آخر عن أبي أمامة . وبعض

متن هذا الحديث متواتر . وانظر الرسالة للشافعي صفحة 139، والسنن للبيهقي جلد 6 صفحة 264

وفتح الباری جلد 5 صفحة 372، والتلخیص الحبیر جلد 3 صفحة 92، والارواء جلد 6 صفحة 87 .

1224 - اسنادہ حسن . وهو جزء من الحديث السابق .

1225 - اسنادہ حسن، لحال شہر بن حوشب . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22216، والطبرانی رقم

الحديث: 7572 من طريق هشام، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22216-22307، والطبرانی رقم

اکرم ﷺ نے فرمایا: وضو پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور نماز اضافی ثواب ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا: کیا آپ نے یہ رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے؟ فرمایا: ایک، دو، تین، چار اور پانچ مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ سنا ہے۔

هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوُضُوءُ يُكْفِرُ مَا قَبْلَهُ وَتَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً فَقِيلَ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا ثَلَاثٍ وَلَا أَرْبَعٍ وَلَا خَمْسٍ

1226 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ

بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْفِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْخَلْقَ وَقَضَى الْقَضِيَّةَ وَأَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَعَرَّشَهُ عَلَى الْمَاءِ فَأَهْلُ الْجَنَّةِ أَهْلُهَا وَأَهْلُ النَّارِ أَهْلُهَا

1227 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور فیصلہ فرمایا اور انبیاء سے پختہ وعدہ لیا اور اس کا عرش پانی پر تھا، سو اہل جنت اس کے اہل ہو گئے اور اہل دوزخ اس کے اہل ہو گئے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی

الحديث: 7571 من طريق قتادة 'به . وروى بلفظ: اذا توضأ الرجل المسلم خرجت ذنوبه من سمعه وبصره..... أخرجه أحمد رقم الحديث: 22335 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10643 والطبراني رقم الحديث: 7560-7567 وغيرهم من طرق عن شهر' به .

1226 - اسنادہ ضعیف جداً، جعفر بن الزبير متروك . والحديث عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 3285 الى المصنف . وأخرجه الطبراني رقم الحديث: 7940 من طريق جعفر بن الزبير 'به . وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية رقم الحديث: 42-244 وفي الرد على بشر المريسي صفحہ 87 والعقيلي في الضعفاء جلد 1 صفحہ 139، وأبو الشيخ في العظمة رقم الحديث: 230 من طريق بشر بن نمير، عن القاسم' به . وبشر مثل جعفر بن الزبير .

1227 - اسنادہ ضعیف جداً، کسابقہ . وأخرجه الطبراني رقم الحديث: 7938 من طريق بشر بن نمير، عن القاسم' به . وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 323، والطبراني رقم الحديث: 7547، وابن عساكر (385/13 - مخطوط) من طريق عمرو بن يزيد، عن أبي سلام، عن أبي امامة . واسنادہ

جَعْفَرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُكْذِبٌ بِالْقَدْرِ

اکرم ﷺ نے فرمایا: جنت میں نافرمان اور احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا داخل نہیں ہوگا۔

1228 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: طُوبَى لِمَنْ رَأَى وَآمَنَ بِبِي وَطُوبَى سَبْعًا لِمَنْ لَمْ يَرِنِي وَآمَنَ بِبِي

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور خوشخبری ہے اس کے لیے سات مرتبہ جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پر ایمان لایا۔

1229 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ،

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی

ضعيف، لضعف عمرو، وأبو سلام لم يسمع من أبي أمامة، وقد حسنه المنذرى والألبانى. وانظر الصحيحة رقم الحديث: 1785.

1228- اسنادہ ضعیف، لجهالة أيمن. وعزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 1132 الى المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22192-22268-22331، والبخارى في التاريخ جلد 2 صفحہ 27، وابن حبان رقم الحديث: 7233، وعبد الله في زوائد المسند رقم الحديث: 22193، والطبرانی رقم الحديث: 8009 من طريق همّام، به. وأخرجه ابن عاصم في السنة رقم الحديث: 1483، والرويانى رقم الحديث: 1266م، وعبد الله بن أحمد رقم الحديث: 22193 من طريق قتادة، به. وقال البخارى: ولم يذكر قتادة سماعه من أيمن، ولا أيمن من أبي أمامة. وانظر الميزان جلد 1 صفحہ 422. ورؤى عن همّام، عن قتادة، عن أيمن، عن أبي هريرة. أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 7232، والأول أولى، لكثرة من رواه. وانظر الصحيحة رقم الحديث: 1241.

1229- اسنادہ ضعیف، لضعف ليث وشيخه. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22251 من طريق ليث، به. وأخرجه الجميدى رقم الحديث: 909، ومن طريقه الخطابى في العزلة صفحہ 52 عن سفيان، عن أبي المهلب، عن عبيد الله بن زحر، به. ورواه على بن صالح، والحسن بن صالح، عن أبي المهلب، عن عبيد الله بن زحر، عن على بن يزيد، به. أخرجه أحمد رقم الحديث: 22221-22252، وفي الزهد صفحہ 11. ورؤى عن ليث، عن عبيد الله بن زحر، عن على بن يزيد، عن القاسم. أخرجه الطبرانى رقم

عَنْ كَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ،
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ عِنْدِي عَبْدًا
ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَطَاعَ رَبَّهُ وَأَكْثَرَ عِبَادَتَهُ فِي
السِّرِّ، وَكَانَ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَكَانَ غَامِضًا
فِي النَّاسِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا عَجَلَتْ مَنِيَّتُهُ وَقَلَّ
تُرَاثُهُ وَقَلَّتْ بَوَاكِيهِ

اکرم ﷺ نے فرمایا: لوگوں میں سے سب سے زیادہ
میرے نزدیک قابل رشک وہ ہے جس کی نماز بہت
زیادہ ہو اور وہ اپنے رب کی اطاعت کرتا ہو اور تنہائی میں
اپنے رب کی کثرت سے عبادت کرتا ہو اور اس کی طرف
انگلیوں سے اشارہ نہ کیا جاتا ہو اور لوگوں میں نامشہور ہو
اس کے پاس کھانا بطور کفایت ہو اور اس کی وراثت کم
ہو۔

1230 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی

الحديث: 7860؛ وأبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحه 25. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (196-زوائد
نعيم بن حماد)؛ ومن طريقه الترمذي رقم الحديث: 2347؛ والبغوي في شرح السنة رقم
الحديث: 4044 عن يحيى بن أيوب؛ عن عبيد الله بن زحر؛ عن علي بن يزيد؛ به. وسقط من الزهد
ذكر يحيى بن أيوب. وأخرجه الطبراني رقم الحديث: 7829؛ والحاكم جلد 4 صفحه 123 من طريق
آخر عن يحيى بن أيوب؛ به. وقال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: هذا اسناد للشاميين
صحيح عندهم؛ ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: لا؛ بل الى الضعف هو. وأخرجه ابن ماجه رقم
الحديث: 4117 من طريق آخر عن أبي امامة؛ وفيه ضعيفان. وفي الباب عن معاذ. أخرجه وكيع في
أخبار القضاة جلد 3 صفحه 17؛ واسناد تالف.

1230- اسنادہ ضعیف؛ لضعف الفرغ بن فضالة؛ وعلي بن يزيد الألهاني. وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 22272-22361؛ ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية جلد 2 صفحه 298؛ والعقيلي
جلد 3 صفحه 255؛ والطبراني رقم الحديث: 7803 من طريق الفرغ؛ به. وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 22223-22334؛ والترمذي رقم الحديث: 1282-3195؛ والطبراني رقم الحديث: 7804؛
والآجري في تحريم الرد والشطرنج والملاهي رقم الحديث: 59-60 من طريق عبيد الله بن زحر؛ عن
علي بن يزيد؛ به. وأشار الترمذي الى ضعفه وخرابته. وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 910 من
طريق عبد الله بن زحر؛ به؛ وليس فيه علي بن يزيد. وأخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 2168؛ وليس
فيه علي بن يزيد؛ والقاسم.

اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے مجھے تمام جہان والوں کے لیے باعث رحمت اور ہدایت والا بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا موسیقی کے آلات اور مزامیر اور بتوں اور صلیب اور جاہلیت کے کام ختم کرنے کا اور میرے رب نے اپنی عزت و جلال اور اپنی قسم کا حلف اٹھا کر فرمایا ہے: میرے بندوں میں سے جس بندے نے شراب ایک گھونٹ بھی جان بوجھ کر پی دنیا میں تو میں اس کے بدلے اسے قیامت کے دن کھولتی ہوئی پیپ پلاؤں گا، اس کے بعد اس کو معاف کر دوں گا یا عذاب دوں گا اور مسلمانوں کا اگر کوئی نابالغ بچہ بھی شراب پیے گا تو میں اس کے بدلے قیامت کے دن اس کو پیپ پلاؤں گا (اس کے بعد) چاہوں گا تو اس کو بخش دوں یا عذاب دوں گا اور جو اس کو میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دے گا، میں اس کو حظیرۃ القدس کی شراب پلاؤں گا، ان (دونوں) کو فروخت کرنا اور خریدنا اور تجارت کرنا جائز نہیں ہے اور ان کی کمائی حرام ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے پھر اگر وہ بیٹھا تو بخشا بخشایا بیٹھا اور اگر اس نے نماز پڑھی تو وہ اس کے لیے فضیلت کا باعث ہو

الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي هُدًى وَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَمْرَنِي بِمَحَقِّ، الْمَعَازِفِ، وَالْمَزَامِيرِ، وَالْأَوْثَانِ وَالصُّلْبِ وَأَمْرٍ الْجَاهِلِيَّةِ، وَحَلَفَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ أَوْ يَمِينِهِ: لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ مُتَعَمِّدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا، وَلَا يَسْقِيهِ صَبِيًّا ضَعِيفًا مُسْلِمًا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا وَلَا يَتْرُكُهَا مِنْ مَخَافَتِي إِلَّا سَقَيْتُهُ إِيَّاهَا فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ، لَا يَحِلُّ بَيْعُهُنَّ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِنَّ وَتَمْنُهُنَّ حَرَامٌ

1231 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ وَإِنْ صَلَّى كَانَتْ لَهُ فَضِيلَةٌ فَيَقِيلُ لَهُ: أَوْ

1231- حدیث حسن، ابو غالب صدوق، وقد اختلف عليه في رفعه ووقفه، والصحيح الرفع لموافقته لغيره .

وعزاه البوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 93 الى المصنف . واخرجه احمد رقم

الحديث: 22250، والطبراني رقم الحديث: 8062 من طريق ابي غالب، به . واخرجه احمد رقم

الحديث: 22242، والطبراني رقم الحديث: 8061-8063 من طريق ابي غالب، به، مرفوعًا .

جائے گی، ان سے عرض کیا: یا نقل؟ فرمایا کہ نوافل نبی اکرم ﷺ کے لیے ہیں۔

حضرت ابو غالب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، آپ خارجیوں کے سروں کو لے کر آئے، پس انہیں دمشق کے دروازے پر لٹکایا۔ (حضرت ابو امامہ نے) فرمایا: یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ تین مرتبہ فرمایا، بدترین قتل کیے ہوئے جو آسمان کے نیچے قتل کیے گئے ہیں، وہ بہترین لوگ ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے، تین مرتبہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا: آپ نے اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کچھ سنا ہے یا اپنی رائے سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں اگر ایسے کروں تو میں بڑی جرأت کرنے والا ہوں گا، بلکہ یہ ایسی شے ہے جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے۔

نَافِلَةً؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ النَّوَافِلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1232 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي أَمَامَةَ فَجِئْتُ بِرُئُوسٍ مِنْ رُئُوسِ الْخَوَارِجِ فَنُصِبَتْ عَلَيَّ دَرَجٌ دِمَشْقَ فَقَالَ: كِلَابُ النَّارِ قَالَهَا ثَلَاثًا شَرُّ قَتْلَى قُتِلُوا تَحْتَ ظِلِّ السَّمَاءِ خَيْرٌ قَتْلَى مَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتْلُوهُ قَالَهَا ثَلَاثًا قُلْتُ: شَيْءٌ أَسَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَيْءٌ اتَّقَوْلُهُ بِرَأْيِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ، إِنِّي إِذَا لَجَرِيءٌ بَلْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1232- حدیث صحیح، واسناد المصنف حسن، لجال ابی غالب، وقد توابع. وأخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 188 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22262، والترمذی رقم الحديث: 3000، وعبد الله بن أحمد في السنة رقم الحديث: 1542، والطبرانی رقم الحديث: 8034 من طريق حماد بن سلمة، به. وقال الترمذی: حسن. وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 18663، والحمیدی رقم الحديث: 908، وابن أبي شيبة جلد 15 صفحہ 307، وأحمد رقم الحديث: 22237، والترمذی رقم الحديث: 3000، وابن ماجه رقم الحديث: 176، وعبد الله بن أحمد في السنة رقم الحديث: 1543-1544، والطبرانی رقم الحديث: 8049-8052-8055-8056، والآجری في الشريعة رقم الحديث: 58-60، والبيهقي جلد 8 صفحہ 188، والخطيب جلد 9 صفحہ 394 من طرق عن ابی غالب، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22205-22368، وعبد الله بن أحمد في السنة رقم الحديث: 1546، والطبرانی رقم الحديث: 7753، والحاكم جلد 2 صفحہ 149-150 من طرق أخرى عن ابی امامة، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي.

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اس امت سے ایک قوم رات گزارے گی کھانے پینے، کھیل تماشے میں، وہ صبح کریں گے اس حالت میں کہ وہ بندروں و خنزیروں کی شکلیں اختیار کر چکے ہوں گے، انہیں دھنسا دیا جائے گا اور سزا ملے گی حتیٰ کہ وہ لوگ صبح کریں گے تو کہیں گے: رات کو بنی فلاں دھنسا دیئے گئے، فلاں کے گھروں کو دھنسا دیا گیا، اور ان پر ضرور صبح کے وقت آسمان سے پتھر برسیں گے، جیسے کہ قوم لوط پر ان کے قبائل پر ان کے گھروں پر برسے تھے اور ضرور ان پر ہوا بھیجے گا جو ان کو ہلاک کر دے گی جیسے ہلاک کیا قوم عاد کے قبائل کو اور ان کے گھروں کو، اور وہ شراب پییں گے اور ریشم پہنیں گے، گانے والی عورتوں کو جائز سمجھیں گے اور سورا کھائیں گے اور قطع رحمی کریں گے اور ایک خصلت حضرت جعفر بھول گئے۔

1233 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ فَرْقِدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَبِيْتُ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى طُعْمٍ وَشُرْبٍ وَلَهُوٍ وَلَعِبٍ فَيُضْبِحُونَ قَدْ مُسْخُوا قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ وَيُصِيبُهُمْ خُسْفٌ وَقَذْفٌ حَتَّى يُصْبِحَ النَّاسُ فَيَقُولُ خُسْفَ اللَّيْلَةِ بَيْنِي فَلَانَ وَخُسْفَ اللَّيْلَةِ بَدَارِ فَلَانَ خَوَاصَّ وَيُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمْ حَاصِبًا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَى قَوْمِ لُوطٍ عَلَى قَبَائِلَ مِنْهَا وَعَلَى دُورٍ وَيُرْسِلَنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ الَّذِي أَهْلَكَتْ عَادًا عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَعَلَى دُورٍ بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمَ وَخَصْلَةَ نَسِيهَا جَعْفَرُ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوة تبوک میں تین دن تک اپنے پاؤں

1234 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: تَرَكَ

1233- اسنادہ ضعیف، لضعف فرقد . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22285، والحاكم جلد 4 صفحہ 515 من طریق جعفر بن سليمان، به . وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم لجعفر، فأما فرقد فانهما لم يخرجاه . وقال فرقد في رواية أحمد: وحدثني قتادة، عن سعيد بن المسيب . وحدثني به ابراهيم النخعي، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكره وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22842م والطبرانی رقم الحديث: 7997 من طريق فرقد به .

1234- اسنادہ ضعیف جدًا، جعفر بن الزبير متروك . وأخرجه الطبرانی رقم الحديث: 7558-7710 من طريقين ضعيفين عن أبي امامة نحوه .

میں موقین (وہ موٹا موزہ جو باریک موزے پر پہنا جائے) یعنی موٹے موزوں کو پہننا ترک کیا تھا۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: پانچ خوشخبریاں اس کے لیے جو وہ بھاری چیزیں چھوڑے (۱) ”سبحان اللہ اور الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ“ اور ”اللہ اکبر“ اور نیک اولاد جو مر جاتی ہے تو اس کے والدین اس کی وفات پر صبر کریں۔

حضرت امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی: یا رسول اللہ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی تھی؟ آپ نے فرمایا: میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، میری ماں نے دیکھا کہ ان سے نور نکلا، اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُوقِنِينَ فِي رَجَلِهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثَلَاثًا

1235 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَخِ بَخِ خَمْسٌ مَا أَثْقَلَهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يَمُوتُ فَيُحْتَسِبُهُ وَالِدُهُ

1236 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ لُقْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَ بَدَأُ أَمْرِكَ؟ قَالَ: دَعَا أَبُو إِبْرَاهِيمَ وَبُشَيْرَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا، وَرَأَتْ أُمِّي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَتْ مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ

1235 - اسنادہ ضعیف، لجهالة الراوى عن ابى امامة . وعزاه البوصيرى فى الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 4798 الى المصنف . واخرجه احمد رقم الحديث: 22232 عن بهز، عن حماد، به . واخرجه مسدد كما فى الاتحاف رقم الحديث: 4799 من طريق يعلى بن عطاء، به . وقال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف، لجهالة التابعى . انظر صحيح ابن حبان رقم الحديث: 1833، والصحيحة رقم الحديث: 1204 .

1236 - اسنادہ ضعیف، لضعف الفرغ . واخرجه البيهقى فى الدلائل جلد 1 صفحہ 84 من طريق المصنف . واخرجه احمد رقم الحديث: 22315، والحارث فى مسنده (931-بغية)، والرويانى رقم الحديث: 1267، والطبرانى رقم الحديث: 7729، وابن عدى جلد 6 صفحہ 2055، من طريق الفرغ، به . وقال ابن عدى: غير محفوظ . وله شاهد عن العرباض عند احمد رقم الحديث: 17203، واسنادہ ضعیف . وانظر الصحيحة رقم الحديث: 1546 .

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی جنت کے دروازے کی طرف چلا اس نے اپنا سر اٹھایا تو جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا: صدقہ کا ثواب دس گنا ہے اور ایک قرض اٹھارہ گنا زیادہ ہوگا کیونکہ صاحب قرض تیرے پاس نہیں آئے گا مگر اس حال میں کہ وہ صرف محتاج ہوگا اور کبھی کبھار صدقہ مال دار کو دے دیا جاتا ہے۔

1237 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْفِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ أَبِي أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقْ بِرَجُلٍ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَإِذَا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبٌ الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ الْوَاحِدُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ؛ لِأَنَّ صَاحِبَ الْقَرْضِ لَا يَأْتِيكَ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاجٌ وَإِنَّ الصَّدَقَةَ رُبَّمَا وَضِعَتْ فِي غَنِيِّ

حضرت عامر بن ربیعہ البدری

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے

99- وَحَدِيثُ عَامِرِ

بْنِ رَبِيعَةَ الْبَدْرِيِّ

1238 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1237- اسنادہ ضعیف جداً، جعفر بن الزبير متروك . وأخرجه الخطيب في المدرج صفحه 376 من طريق المصنف . وقال: كذا رواه أبو داؤد الطيالسي عن جعفر ابن الزبير، وفي المتن كلام أدرج فيه وليس منه، وهو قوله: لأن صاحب القرض الى آخر الحديث . هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما حكاه جعفر عن بعض الفقهاء ولم يسمه، بين ذلك مكى بن ابراهيم البلخي في روايته هذا الحديث عن جعفر بن الزبير . ثم أسنده عن مكى بن ابراهيم، وفصل المدرج من المسند . وأخرجه الطبراني رقم الحديث: 7976 من طريق القاسم، به . وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه رقم الحديث: 2431، واسنادہ ضعیف .

1238- اسنادہ ضعیف، لضعف عاصم بن عبيد الله . وأخرجه أبو نعیم في الحلیة جلد 1 صفحه 180 من طريق المصنف . وأخرجه ابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 1026، وابن أبي شيبه جلد 11 صفحه 507، وأحمد رقم الحديث: 15718-15727، وعبد بن حميد رقم الحديث: 317، وابن ماجه رقم الحديث: 907، وابن عدی جلد 5 صفحه 1868، واسماعيل بن اسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقم الحديث: 6، وغيرهم من طريق غندر، ووكيع، وحجاج وغيرهم عن شعبة،

روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ جو کوئی آدمی مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے وہ درود میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اب بندے کی مرضی ہے چاہے وہ کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ أَوْ لِيُكْثِرْ

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہما اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ فزارہ سے ایک عورت نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں لائی گئی، اس نے کسی مرد سے شادی کی تھی دو جو توں پر، تو رسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا: کیا تو دل سے راضی ہے اور تجھے جو توں سے کیا فائدہ؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! (میں راضی ہوں) سو آپ نے اسے جائز قرار

1239 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ فِزَارَةَ جِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ

بہ۔ وخالقہم عیسیٰ بن یونس، فرواہ عن شعبۃ، عن یعلیٰ بن عطاء، عن عبد اللہ بن عامر، بہ۔ أخرجه الطبرانی فی الأوسط رقم الحدیث: 1654، وقال: لم یرو هذا الحدیث عن شعبۃ عن یعلیٰ الا عیسیٰ، ورواہ الناس عن شعبۃ عن عاصم۔ وأخرجه ابن المبارک فی مسنده رقم الحدیث: 50، عن عاصم، بہ۔ وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 3115، ومن طریقہ أبو نعیم فی الحلیۃ جلد 1 صفحہ 180 عن عبد اللہ بن عمر العمری، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد اللہ بن عامر، بہ۔

1239 - استنادہ ضعیف، کسابقہ، أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 239 من طریق المصنف۔ وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 15717، والترمذی رقم الحدیث: 1113، وابن عدی جلد 5 صفحہ 1868، وغيرهم من طرق عن شعبۃ، بہ۔ وأخرجه ابن ابی شیبۃ جلد 4 صفحہ 186، وأحمد رقم الحدیث: 15174-15729، وابن ماجہ رقم الحدیث: 1888 من طریق الثوری، وأخرجه البزار رقم الحدیث: 3815 من طریق شریک کلاهما عن عاصم، بہ۔ وأنکر هذا الحدیث أبو حاتم کما فی العلل لابنہ جلد 1 صفحہ 424، وقال الترمذی: حسن صحیح۔

دیا۔

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے

روایت بیان کرتے ہیں کہ ان گنت دفعہ میں نے رسول

اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ روزہ کی حالت میں مسواک

کرتے تھے۔

1240 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا أَحْصَى

- أَوْ قَالَ: مَا أَكْثَرَ - مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے

1241 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1240- اسنادہ ضعیف، کسابقہ۔ أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 7484، وأحمد رقم الحديث: 15726،

وعبد بن حميد رقم الحديث: 318، وأبو داؤد رقم الحديث: 2364، والترمذی رقم الحديث: 725،

وابن خزيمة رقم الحديث: 2007، والعقيلي في الضعفاء جلد 3 صفحہ 334، وغيرهم من طريق الثوري،

به . وقال الترمذی: حسن . وأخرجه الحميدى رقم الحديث: 141، وأبو داؤد رقم الحديث: 2364،

وابن خزيمة رقم الحديث: 2007، وغيرهم من طريق ابن عيينة، وشريك، عن عاصم بن عبيد الله، به .

وعلقه البخارى بصيغة التمريض . الفتح جلد 4 صفحہ 158 . وفي مشروعية السواك مطلقاً للصائم

وغيره أحاديث . انظر صحيح البخارى رقم الحديث: 887، وابن خزيمة رقم الحديث: 2007،

والتلخيص الحبير جلد 2 صفحہ 214 .

1241- اسنادہ ضعیف، کسابقہ، ولضعف الأشعث بن سعيد أبي الربيع السمان، وعمر ابن قيس . وأخرجه

البيهقي من طريق يونس بن حبيب، عن الطيالسي . وأخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 1020، عن يحيى

بن حكيم، والدارقطني جلد 1 صفحہ 272 من طريق يعقوب بن اسماعيل كلاهما عن الطيالسي، عن

الأشعث، وحده . وأخرجه الترمذی رقم الحديث: 345، والبزار رقم الحديث: 3812، والطبرانی في

الأوسط رقم الحديث: 460، من طريق الأشعث أبي الربيع السمان، به . وقال الترمذی: هذا الحديث

ليس بذلك، لا نعرفه الا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في

الحديث . وقال الطبرانی: لم يرو هذا الحديث عن عاصم، الا أبو الربيع السمان . وقد ضعف الحديث

جمع من الأئمة . انظر ضعفاء العقيلي جلد 1 صفحہ 31، والمحلى لابن حزم جلد 3 صفحہ 231، والسنن

للبیهقي جلد 2 صفحہ 12، ونصب الراية جلد 1 صفحہ 304 .

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ایک دفعہ سفر کی حالت میں اندھیرا ہو گیا اور ہم پر قبلہ مشتبه ہو گیا، سو ہم میں سے ہر آدمی نماز پڑھنے لگا اپنے اندازے سے جب اندھیرا ختم ہوا تو ہم میں سے بعض نے قبلہ کی سمت کی طرف نہیں نماز پڑھی تھی اور ہم میں سے بعض نے قبلہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی تھی، سو ہم نے اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں کیا تو آپ نے فرمایا: تمہاری نماز ہو گئی ہے اور یہ آیت نازل ہوئی: ”تم جس طرف بھی منہ کرو ادھر اللہ عزوجل کی تجلیوں کا ظہور ہے۔“

الْأَشْعَثُ بْنُ سَعِيدِ أَبِي الرَّبِيعِ، وَعُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَظَلَمْتُ مَرَّةً وَنَحْنُ فِي سَفَرٍ فَاشْتَبَهَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةَ فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا حَيْالَهُ فَلَمَّا انْجَلَتْ إِذْ بَعْضُنَا قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَبَعْضُنَا قَدْ صَلَّى لِلْقِبْلَةِ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَضَتْ صَلَاتُكُمْ وَنَزَلَتْ (فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فِثْمَ وَجْهِ اللَّهِ) (البقرة: 115)

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھا طواف کرتے ہوئے تو آپ ﷺ کا تسمہ ٹوٹ گیا، میں نے عرض کیا: دیجئے! میں آپ کو صحیح کر دیتا ہوں، فرمایا کہ یا رسول اللہ! مجھے دیں میں ٹھیک کر دوں! تو آپ ﷺ نے جواب دیا: یہ خود غرضی ہے اور میں ایسی خود غرضی کو ناپسند کرتا ہوں۔

1242 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ

بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الطَّوَافِ فَأَنْقَطَعَتْ شِسْعُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَاوِلْنِي أُصْلِحْهُ قَالَ: هَذَا أَثْرَةٌ وَلَا أَحِبُّ الْأَثْرَةَ

1242 - اسنادہ ضعیف جداً، عمر بن قیس متروک کما سبق . وعزاه الحافظ فی المطالب رقم الحدیث: 1284

الی المصنف . وأخرجه ابن عدی فی جلد 5 صفحہ 1868 من طریق عمر بن قیس، به . وأخرجه البزار

رقم الحدیث: 3801، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 7204، والطبرانی فی الأوسط رقم الحدیث: 2840 من

طریق عمر مولیٰ آل منظور، عن عاصم، به . وعمر هذا لا يعرف، كما قال الهیثمی فی المجمع

جلد 9 صفحہ 21 .

100- وَحَدِيثُ عَبْدِ

حضرت عبداللہ بن شخیر

اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

1243 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت مطرف بن عبداللہ بن شخیر اپنے والد سے

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ مُطَرِّفَ بْنَ

روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے صوم

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ

الدھر کے متعلق فرمایا: نہ یہ روزہ ہے نہ افطار ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ لَا صَامَ

وَلَا أَفْطَرَ

1244 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں

1243 - حديث صحيح . أخرجه النسائي رقم الحديث: 2380' وابن ماجه رقم الحديث: 1705 من طريق

المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 78' وأحمد رقم الحديث: 16347-16358-16388'

وابن ماجه رقم الحديث: 1705' وابن حبان رقم الحديث: 3583' والحاكم جلد 1 صفحہ 435 من طرق

عن شعبة' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16351-16361-16363' والدارمي رقم الحديث:

1751' والنسائي رقم الحديث: 2379' وغيرهم من طرق عن قتادة' به . وأخرجه النسائي رقم

الحديث: 2378' من طريق الجريري' عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير .

1244 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 16348' ومسلم رقم الحديث: 2958' والطحاوي في

المشكل رقم الحديث: 1657' وابن حبان رقم الحديث: 3327' والحاكم جلد 2 صفحہ 533' وأبو نعيم

في الحلية جلد 6 صفحہ 281' والخطيب جلد 1 صفحہ 359 من طرق عن هشام الدستوائي' به .

وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16367-16370' وعبد بن حميد رقم الحديث: 512' ومسلم رقم

الحديث: 2958' والترمذي رقم الحديث: 3342-3354' والنسائي رقم الحديث: 3615' وفي الكبرى

رقم الحديث: 11696' والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 1656-1658' وابن حبان رقم

الحديث: 3327' وأبو نعيم في الحلية جلد 6 صفحہ 281' والبيهقي جلد 4 صفحہ 61 من طرق عن قتادة'

به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16368' وعبد بن حميد رقم الحديث: 514' والنسائي في الكبرى

رقم الحديث: 11695' وغيرهم من طريق غيلان بن جرير' عن مطرف' به .

کہ انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی ﷺ کے پاس آیا آپ سورہ ”الہاکم التکائر“ پڑھ رہے تھے (کہ ”انسان کو کثرت مال (کی حرص) نے ہلاک کر دیا ہے“۔ انسان کہتا ہے: میرا مال، حالانکہ میرا مال اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ضائع کر دیا یا پہن لیا اس کے بعد ضائع کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔

حضرت مقدم بن معدی کرب

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت مقدم بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو آدمی کسی قوم کا مہمان ٹھہرا، پس صبح کو وہ مہمان محروم رہا تو اس کی مدد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے یہاں تک کہ وہ رات کی مہمانی ان کی کھیتوں اور مال سے لے۔

حضرت مقدم رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے

هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ الْهَآكُمُ التَّكَاثُرُ وَهُوَ يَقُولُ: وَيَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِستَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

101- وَحَدِيثُ الْمِقْدَامِ

بْنِ مَعْدِي كَرَبَ

1245 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْجُودِيِّ الشَّامِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُهَاجِرِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا إِلَّا كَانَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ نَصْرُهُ حَتَّى يَأْخُذَ بِقَرَى لَيْلَتِهِ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ

1246 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1245- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لجهالة سعيد بن المهاجر، وقيل: ابن أبي المهاجر. وأخرجه البيهقي جلد 9 صفحہ 197 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17236-17237، والدارمی رقم الحديث: 2043، وأبو داؤد رقم الحديث: 3751، والحاكم جلد 4 صفحہ 132 من طرق عن شعبة، به.

1246- اسنادہ حسن، علی بن ابی طلحة صدوق. وأخرجه سعيد بن منصور رقم الحديث: 172، وأحمد رقم الحديث: 17214-17242، وأبو داؤد رقم الحديث: 2899، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث:

عَنْ بُدَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَنِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا - قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ - فَإِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ، وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو مال چھوڑے تو اس نے اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا اور اس نے قرض چھوڑا تو وہ میرے ذمہ ہے۔ بسا اوقات فرماتے: اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ ہے، میں اس کا وارث ہوں جس کا کوئی وارث نہیں ہے، میں وارث ہو کر اس کی دیت ادا کروں گا، اور خالو وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، خالو اس کی دیت دے گا اور اس کا وارث ہوگا۔

1247 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حضرت ابو کریمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

6356' وابن ماجه رقم الحديث: 2738' والطحاوی جلد 4 صفحہ 397' وفي المشكل رقم الحديث: 2749' وابن حبان رقم الحديث: 6035' والطبرانی جلد 20 صفحہ 264-265' والبيهقي جلد 6 صفحہ 214 من طرق عن شعبة' به . وأخرجه الطحاوی جلد 4 صفحہ 398' وفي المشكل رقم الحديث: 2748' والدارقطني جلد 4 صفحہ 85-86' والحاكم جلد 4 صفحہ 344 من طريق حماد بن زيد' عن بدیل' به . وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 2900' والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 6355' وابن الجارود رقم الحديث: 965' والطبرانی جلد 20 صفحہ 265' والبيهقي جلد 6 صفحہ 214 من طريق حماد بن زيد' به ' بلفظ: قال مولی من لا مولی له . وقال الحاكم صحيح علي شرط الشيخين . وتعقبه الذهبي بقوله: علي' قال أحمد: له أشياء منكرات . قلت: لم يخرج له البخاري . ورواه معاوية بن صالح' عن راشد بن سعد أنه سمع المقدم . ولم يذكر فيه أبا عامر . أخرجه أحمد رقم الحديث: 17238' والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 6419' والطحاوی جلد 4 صفحہ 398' وفي المشكل رقم الحديث: 2750' والطبرانی جلد 20 صفحہ 266 . وقد صحح الطحاوی الوجهين عن راشد' ورجح الدارقطني رواية شعبة' وحماد ابن زيد . انظر الجوهر النقي جلد 6 صفحہ 214 . ورواه محمد بن الوليد الزبيري' عن راشد بن سعد' عن ابن عائذ' عن المقدم' فذكر عبد الرحمن بن عائذ بدلا من أبي عامر . أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 612' والطبرانی رقم الحديث: 627 .

1247 - حديث صحيح . أخرجه الطحاوی في المشكل رقم الحديث: 2812' والبيهقي جلد 9 صفحہ 197 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17211-17235' والطبرانی جلد 20 صفحہ 263 من

انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا کہ ایک رات کی مہمانی کرنا مسلمان پر لازم ہے، جس مہمان نے کسی کے صحن میں صبح کی تو اس کی مہمانگی اس پر حق ہے یا فرمایا: قرض ہے، اگر چاہے تو وہ اس کا تقاضا کرے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔

عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَنْ أَصْبَحَ الضَّيْفُ بِفِنَائِهِ فَهُوَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ - أَوْ قَالَ: دَيْنٌ - إِنْ شَاءَ اقْتِضَاهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

حضرت عمرو بن عبسہ سلمیٰ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

102- وَحَدِيثُ عَمْرِو

بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ

حضرت عمرو بن عبسہ سلمیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جس نے

1248 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَلِيلِ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ

طريق شعبة' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17212-17234-17241 والبخارى فى الأدب المفرد رقم الحديث: 744' وأبو داؤد رقم الحديث: 375' وابن ماجه رقم الحديث: 3677' وهناد فى الزهد رقم الحديث: 1055' والطحاوى فى المشكل رقم الحديث: 2813' والطبرانى جلد 20 صفحہ 264 من طرق عن منصور' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17213' والطبرانى جلد 20 صفحہ 282-284' والدارقطنى جلد 4 صفحہ 287 من طريق آخر عن المقداد . وانظر الحديث ما قبل السابق . وفى هذا الحديث بعض الخلافات اليسيرة على المقدم' فبعض الرواة سماه المقداد' وبعضهم جعله من مسند المقداد بن الأسود . انظر علل ابن أبى حاتم رقم الحديث: 2218-2361 .

1248- اسنادہ نقطع' شهر بن حوشب لم يسمع من عمرو بن عبسة' كما قال غير واحد من أهل العلم' وبينهما فى هذا الحديث أبو ظبية' فقد أخرج أحمد رقم الحديث: 17064-19457' وعبد بن حميد رقم الحديث: 304' من طريق عبد الحميد بن بهرام' عن شهر' عن أبى ظبية' عن عمرو' ضمن حديث طويل . وعزاه الحافظ فى المطالب' والبوصيرى فى الاتحاف رقم الحديث: 2470 الى المصنف . وأخرجه مسدد كما فى الاتحاف من طريق عبد الجليل' به' مقتصرأ على المرفوع . وانظر السلسلة الصحيحة رقم الحديث: 1244' وجنة المراتب صفحہ 469' والتحدیث بما قيل لا يصح فيه حديث صفحہ 179 .

حَوْشِبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ - أَوْ قَالَ: فِي سَبِيلِ اللَّهِ - كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا لَمْ يَخْضِبْهَا أَوْ يَنْتِفِهَا قُلْتُ لِشَهْرٍ: إِنَّهُمْ يُصْفِرُونَ وَيَخْضِبُونَ بِالْحِنَاءِ؟ قَالَ: أَجَلُ قَالَ: كَأَنَّهُ يَعْنِي السَّوَادَ

اسلام میں بزرگی پائی یا فرمایا: اللہ کی راہ میں تو اس کے لیے یہ قیامت کے دن نور ہوگی جب تک وہ خضاب نہ لگائے یا اس کی نفی نہ کرے۔ میں نے کہا: ایک ماہ کے لیے کیونکہ وہ زرد رنگ لگاتے ہیں اور مہندی کا خضاب لگاتے ہیں۔ کہا کہ ہاں کہا کہ گویا کالا رنگ ہے (جس کی ممانعت کی گئی ہے)۔

1249 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت قیس بن سعد جو کہ اہل شام کے فقہاء میں

الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا رُبُعُ الْإِسْلَامِ، آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ؟ قَالَ: حُرٌّ وَعَبْدٌ يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا

سے ہیں حضرت عمرو بن عبسہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لانے والوں میں سے چوتھا تھا میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس معاملہ میں آپ کی کس نے بات مانی ہے؟ فرمایا: ایک غلام اور ایک آزاد نے یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما نے۔

1250 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت ابو یوسف سلمیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم

1249- حدیث صحیح، وفي اسناد المصنف الربيع والرجل المبهم. وأخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 2 صفحہ 15-16 من طريق المصنف. وأخرجه ابن سعد جلد 4 صفحہ 215-216 وأحمد رقم الحديث: 17057-17060، ومسلم رقم الحديث: 832، وأبو داؤد رقم الحديث: 1277، والترمذی رقم الحديث: 3579، والنسائی رقم الحديث: 583، وفي الكبرى رقم الحديث: 174-1460، وابن خزيمة رقم الحديث: 1147، والحاكم جلد 3 صفحہ 66، وأبو نعيم في الدلائل صفحہ 112، والبيهقي جلد 2 صفحہ 454، وفي الدلائل جلد 2 صفحہ 168 من طرق عن أبي أمامة، عن عمرو بن عبسة، مطولاً ومختصراً. وأخرجه ابن سعد جلد 4 صفحہ 215-217، وأحمد رقم الحديث: 19454، وعبد بن حميد رقم الحديث: 297-300، وعبد الله في زوائد الفضائل رقم الحديث: 299، والنسائی رقم الحديث: 583، وابن ماجه رقم الحديث: 1364، وغيرهم من طرق أخرى عن عمرو بن عبسة.

1250- حدیث صحیح. أخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 272 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد رقم

نبی اکرم ﷺ کے ساتھ طائف کے قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جس کو اللہ کی راہ میں حصہ ملا وہ اس کے لیے عدل ہوگا، مجھے اس دن سولہ حصے ملے میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جس نے اللہ عزوجل کی راہ میں تیر پھینکا اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہوگا اور جو اسلام میں بوڑھا ہوا وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، جو مسلمان کسی مسلمان آدمی کو آزاد کرے گا تو بے شک اللہ عزوجل اس کی ہڈیوں میں سے ہر ہڈی کو جہنم سے اس کے بدلے آزاد کرے گا اور جو مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرنے بے شک اللہ عزوجل اس کی ہڈیوں میں سے ہر ہڈی کے بدلے قیامت کے دن اسے جہنم سے آزاد کرے گا۔

هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَمْرِيّ، عَنْ أَبِي نَجِيحِ السُّلَمِيّ، قَالَ: حَاصِرُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنِ الطَّائِفِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ بَلَغَ بِسَنِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ عِدْلٌ مُحَرَّرٌ قَبْلَ أَنْ يَوْمِئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمًا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَمَى بِسَنِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزًّا وَجَلًّا فَهُوَ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِيْمًا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ جَاعِلٌ وَقَاءٌ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ مُحَرَّرَةٌ مِنَ النَّارِ، وَإِيْمًا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءٌ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا مُحَرَّرَةً مِنَ النَّارِ

1251 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت سلیم بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

الحديث: 19447، وأبو داؤد رقم الحديث: 3965، والترمذی رقم الحديث: 1638، والنسائی رقم الحديث: 3143، وابن حبان رقم الحديث: 2984-4615، والحاكم جلد 3 صفحہ 49-50، والبيهقي جلد 9 صفحہ 161، وغيرهم من طرق عن هشام، به . قال الترمذی: حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح عال . وأقره الذهبي . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 19448، والبيهقي جلد 9 صفحہ 161 من طريق آخر عن قتادة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 19459، وعبد بن حميد رقم الحديث: 302، وأبو داؤد رقم الحديث: 3966، والترمذی رقم الحديث: 1635، والنسائی رقم الحديث: 3144-3145، وفي الكبرى رقم الحديث: 4350-4353، وابن ماجه رقم الحديث: 2812، والحاكم جلد 2 صفحہ 96 .

1251 - اسنادہ منقطع، سلیم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة . وأخرجه الترمذی رقم الحديث: 1580 من

حضرت امیر معاویہ اور روم کے درمیان معاہدہ تھا، حضرت امیر معاویہ روم کی طرف چل پڑے کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا ان پر حملہ کر دیں گے، تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جانور پر یا گھوڑے پر سوار تھا، کہہ رہا تھا: اللہ اکبر! وعدہ پورا کرنا ہے، اس میں دھوکہ نہیں کرنا ہے، اس نے دو مرتبہ کہا اور جب دیکھا تو وہ حضرت عمرو بن عبسہ سلمی تھے، ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ (حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: میں نے وہی کہا جو میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے، آپ نے فرمایا: جس کا کسی قوم کے درمیان معاہدہ ہو، وہ ہرگز نہ گرہ کو کھولے، نہ اس کو باندھے یہاں تک کہ ان کے درمیان معاہدہ ختم ہو جائے۔ سو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ واپس آ گئے۔

عَنْ أَبِي الْفَيْضِ الشَّامِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَهْدٌ فَكَانَ يَسِيرُ فِي بِلَادِهِمْ حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدُ أَغَارَ عَلَيْهِمْ وَإِذَا رَجُلٌ عَلَى دَابَّةٍ أَوْ عَلَى فَرَسٍ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَقَاءٌ لَا غَدْرٌ مَرَّتَيْنِ - وَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ السُّلَمِيُّ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلِّنَ عُقْدَةً وَلَا يَشُدَّهَا حَتَّى يَمْضِيَ أَمْدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سِوَاءٍ فَرَجَعَ مُعَاوِيَةُ بِالنَّاسِ

حضرت خالد بن ولید

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت محمد بن عبدالرحمن بن یزید اپنے والد سے

103- وَأَحَادِيثُ

خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ

1252 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

طريق المصنف، وقال: حسن صحيح. وأخرجه أبو عبيد في الأموال رقم الحديث: 448، وابن أبي شيبة جلد 12 صفحہ 459، وأحمد رقم الحديث: 17056-17066-19455، وابن زنجويه في الأموال رقم الحديث: 660-661، وأبو داؤد رقم الحديث: 2759، والنسائي رقم الحديث: 8732، وابن حبان رقم الحديث: 4871، والبيهقي جلد 9 صفحہ 231 وغيرهم من طريق شعبة، به.

1252- حديث صحيح. وظاهر الاسناد هنا الرسالة، لكن جاء تصريح الأثر بالسماع من خالد عند غير واحد من المخرجين كالنسائي والطبراني والحاكم، وبصيغة العنعنة عند آخرين، فالاسناد متصل، أخرجه

روایت کرتے ہیں، وہ حضرت اشتر سے کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمار اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے درمیان گفتگو ہوئی تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے پاس شکایت کی، تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے خالد! بے شک جس نے عمار سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی رکھتا ہے اور جو اس سے بغض رکھے، اللہ اس سے بغض رکھتا ہے اور جو عمار کو گالی دے، اللہ اسے برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت سلمہ نے بھی یہی یا اس کی مثل کہا ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَشْتَرِ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ عَمَّارٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ كَلَامٌ فَشَكَا عَمَّارٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا خَالِدُ، إِنَّهُ مَنْ يُعَادِي عَمَّارًا يُعَادِيهِ اللَّهُ، وَمَنْ يُبْغِضُهُ يُبْغِضُهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسُبَّ عَمَّارًا يَسُبُّهُ اللَّهُ قَالَ سَلْمَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1253 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

النسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 8270، والحاکم جلد 3 صفحہ 389 من طریق المصنف، وفیہ الأشتر، عن خالد . وقال الحاکم: صحیح الاسناد . وأقره الذهبی . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16867، وفی فضائل الصحابة رقم الحدیث: 1604، والطبرانی رقم الحدیث: 3831 من طریق شعبة، به . وأخرجه النسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 8272، والطبرانی رقم الحدیث: 3830-3832-3833، والحاکم جلد 3 صفحہ 389-390، من طریق عبد الرحمن بن یزید، عن الأشتر، عن خالد . وأخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 3834، والحاکم جلد 3 صفحہ 390-391 من طریق العوام بن حوشب، عن سلمة بن كهيل، فقال: عن علقمة بن قيس، عن خالد، مطولاً . وقال الحاکم: صحیح الاسناد علی شرط الشيخين..... علی أن شعبة أحفظ منه (یعنی العوام) . قال أبو حاتم وأبو زرعة كما فی العلل جلد 2 صفحہ 356: أسقط العوام بن حوشب من هذا الاسناد عدة، ورواه شعبة..... (فذكره) .

1253- حدیث صحیح . أخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 562، ومن طريقه الطبرانی رقم الحدیث: 4121،

وأحمد رقم الحدیث: 16865، والبخاری فی التاريخ جلد 3 صفحہ 143 من طرق عن ابن عيينة، به .

وانظر الآحاد والمثاني جلد 1 صفحہ 426، وأسد الغابة جلد 2 صفحہ 92، والاصابة

جلد 2 صفحہ 230-231 . وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 2613، من حدیث هشام بن حکيم أخى خالد بن

حکيم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

عُيِّنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ
خَالِدِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشَدَّهُمْ عَذَابًا لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيَا

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک قیامت کے دن سب
سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو لوگوں کو دنیا میں
عذاب دیتا ہے۔

جو حضرت مقداد بن اسود کی

104- الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ

نبی اکرم ﷺ سے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

روایت کردہ احادیث

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ہمام بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ
ایک قوم آئی اور وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریف
کرنے لگے اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ مسجد کے ایک
کونے میں تشریف فرما تھے جب حضرت مقداد نے

1254 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا فِي مَسْجِدِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ قَوْمٌ يُثْنُونَ
عَلَى عُثْمَانَ وَيَمْدَحُونَهُ وَالْمِقْدَادُ فِي نَاحِيَةِ

1254- حدیث صحیح . وفی روایة ورقاء عن منصور ضعف، وقد توبع . وأخرجه الخطيب في المبهمات
صفحة 201 من طريق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 9 صفحہ 5، وأحمد رقم الحديث:
23878-23881 ومسلم رقم الحديث: 3002، وأبو داؤد رقم الحديث: 4804، وابن أبي الدنيا في
الصمت رقم الحديث: 594، والطبرانی جلد 20 صفحہ 244 والبيهقي في الآداب رقم الحديث: 512،
والخطيب في المبهمات صفحہ 200 من طريق منصور، به . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 3002،
والطبرانی جلد 20 صفحہ 243-244 من طريق الأعمش، عن إبراهيم، به . وأخرجه ابن أبي شيبة
جلد 9 صفحہ 5 ومن طريقه مسلم رقم الحديث: 3002، وابن ماجه رقم الحديث: 3742، وأحمد رقم
الحديث: 23875-23877-23879، والبخاری في الأدب المفرد رقم الحديث: 339، والترمذی رقم
الحديث: 2393، والطبرانی جلد 20 صفحہ 239-241-244-246، والبيهقي جلد 10 صفحہ 242،
وغیرهم من طرق عن المقداد .

الْمَسْجِدِ فَلَمَّا سَمِعَهُمْ يَمْدَحُونَهُ قَامَ فَتَنَاوَلَ
الْحَصَى فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ فَقَالَ
عُثْمَانُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا
فِي وُجُوهِهِمْ أَوْ قَال: فِي أَفْوَاهِهِمُ التُّرَابَ أَوْ
قَالَ: الْحَصَى

1255, 1256 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي
شَبِيبٍ، قَالَ: جَعَلَ رَجُلٌ يَمْدَحُ غُلَامًا لِعُثْمَانَ
قَالَ: فَعَمِدَ الْمَقْدَادُ فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ فَقَالَ
لَهُ عُثْمَانُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا
فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ

انہیں ان (حضرت عثمان) کی تعریف کرتے سنا تو اٹھ
کھڑے ہوئے، کنکریاں پکڑیں اور ان کے منہ میں
ڈالنے لگے، حضرت عثمان نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ (حضرت
مقداد نے) فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے
سنا کہ جب تم کسی کو کسی کے منہ پر تعریف کرتے ہوئے
دیکھو تو اس کے منہ میں کنکریاں یا مٹی ڈالو۔

حضرت میمون بن ابی شیبیب رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ ایک آدمی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام کی
تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد اٹھے اور اس کے منہ
میں مٹی ڈالنے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے
فرمایا: یہ کیا ہے؟ (حضرت مقداد نے) فرمایا کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جب تم تعریفیں کرنے
والوں کو دیکھو تو ان کے مونہوں میں مٹی ڈالو۔

حضرت ابوماک اشعری رضی

اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

حضرت ابوسلام، حضرت حارث رضی اللہ عنہ سے

105- وَأَبُو مَالِكِ الْأَشْعَرِيُّ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1257, 1258 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1255, 1256- حدیث صحیح . واسناد هنا معل بالانقطاع بين ميمون وبين المقداد، وبالمخالفة في المتن، حيث

جعل القصة لغلام عثمان، والثابت كما في الحديث السابق أنها لعثمان نفسه . وأخرجه أبو نعيم في

الحلية جلد 4 صفحہ 377 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 23874 والطبرانی

جلد 20 صفحہ 243 من طريق شعبة، به . ورواه غير واحد عن المقداد . انظر الحديث السابق .

1257, 1258- حدیث صحیح . وقد صرح يحيى بالسماع عند ابن حبان . وهذا الحديث والذي يليه حديث

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ أَمَرَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِنَّ: الْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهَجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ أَوْ الْإِيمَانَ مِنْ عُنُقِهِ أَوْ الْإِيمَانَ مِنْ رَأْسِهِ إِلَّا أَنْ يُرَاجَعَ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَى جَاهِلِيَّةٍ فَهُوَ مِنْ جُنَاةِ جَهَنَّمَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى قَالَ: وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، تَدَاعَوْا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں تم کو پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جس کا مجھے اللہ عزوجل نے حکم دیا ہے (۱) جماعت (کولازم پکڑنے) (۲) سننے (۳) اطاعت کرنے (۴) ہجرت کرنے (۵) اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا پس جو جماعت سے ایک بالشت پیچھے ہوا اس نے اسلام کا یا ایمان کا پٹہ اپنی گردن سے اتار دیا یا ایمان اپنے سر سے مگر یہ کہ وہ واپس آ جائے اور جو جاہلیت والا دعویٰ کرے گا وہ جہنم میں جھونکا جائے گا۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے۔ آپ نے فرمایا: اگرچہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے تم اللہ کی

جزاہ المصنف . وأخرجه الترمذی رقم الحدیث: 2864 من طریق المصنف . وقال: حسن صحیح .
 وأخرجه ابن سعد جلد 4 صفحہ 359، والبخاری فی التاريخ جلد 2 صفحہ 260، والترمذی رقم الحدیث: 2863، وابن خزيمة رقم الحدیث: 19، وابن حبان رقم الحدیث: 6233، والطبرانی رقم الحدیث: 2428، والآجری فی الشریعة رقم الحدیث: 7، وابن منده فی الايمان رقم الحدیث: 212، والحاكم جلد 1 صفحہ 117، وأبو الشيخ فی الأمثال رقم الحدیث: 336، وغيرهم من طریق أبان بن یزید، به . وصححه الحاكم علی شرط الشيخین، وأقره الذهبی . قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح غریب . وقال الحاكم: صحیح علی شرط الشيخین . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 22961، والطبرانی رقم الحدیث: 3427-3429-3431، والحاكم جلد 1 صفحہ 117، واللالكاني فی أصول الاعتقاد رقم الحدیث: 157، وابن منده فی الايمان رقم الحدیث: 212، وابن الأثیر فی أسد الغابة جلد 1 صفحہ 383، وغيرهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به . وأخرجه ابن أبي عاصم فی السنة رقم الحدیث: 1036، والنسائي فی الكبرى رقم الحدیث: 8866، وابن خزيمة رقم الحدیث: 483-930، والطبرانی رقم الحدیث: 3430، والحاكم جلد 1 صفحہ 236، والبيهقي جلد 2 صفحہ 29-282، والمزى فی تهذيب الكمال جلد 5 صفحہ 217 من طریق آخر عن زيد بن سلام، به .

ذات کا دعویٰ کرو جس نے تمہارا نام مسلمان ایمان والے اللہ کے بندے رکھا۔

حضرت عرباض بن ساریہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پہلی صف کے لیے تین مرتبہ بخشش مانگی اور دوسری صف کے لیے ایک مرتبہ۔

106- وَالْعَرَبَاضُ

بْنُ سَارِيَةَ

1259 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْعَرَبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَفْغَرَ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِي مَرَّةً

1259- حدیث صحیح . و خالد بن معدان کثیر الارسال، وروی من طریقہ عن جبیر بن نفیر، عن العرباض، وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17181-17188، والدارمی رقم الحديث: 1268، وابن خزيمة رقم الحديث: 1558، والطبرانی جلد 18 صفحہ 256، والحاکم جلد 1 صفحہ 214-217 من طریق هشام، به . وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، به . وأخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 996 من طريق يزيد بن هارون، عن هشام، به . بادخال جبیر بن نفیر بین خالد والعرباض، والذي في المطبوعة بدون ذكر جبیر، ولكنه مذکور في التحفة وجامع المسانيد . ورواه شيبان عن يحيى كذلك، بادخال جبیر في الاسناد . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 376، وأحمد رقم الحديث: 17197، والدارمی رقم الحديث: 1269، وابن حبان رقم الحديث: 2158-2159، والطبرانی جلد 18 صفحہ 255 . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17197-17202، والنسائي رقم الحديث: 816، والطبرانی جلد 18 صفحہ 256 من طريق بحير بن سعد، عن خالد، عن جبیر، به .

حضرت صفوان بن عسال المرادی

107- وَصَفْوَانُ بْنُ عَسَالٍ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

الْمُرَادِيُّ

حضرت صفوان بن عسال المرادی رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ اہل کتاب کے دو آدمی تھے ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہنے لگا: ہمارے ساتھ چلو! اس نبی کی طرف (جاتے ہیں) اس نے کہا: یہ سن نہ لے ورنہ اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی پس وہ دونوں آپ کے پاس آئے ان دونوں نے نو واضح نشانیوں کے متعلق آپ سے سوال کیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (۱) تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ (۲) قتل نہ کرو (۳) زنا نہ کرو (۴) جادو نہ کرو (۵) سود نہ کھاؤ (۶) پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ (۷) جنگ سے نہ بھاگو (۸) کسی بے گناہ کو کسی طاقتور کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کرے یا اس کو ہلاک کرے (۹) اور اے یہودیو! تم کو خصوصیت کے ساتھ تلقین ہے کہ تم ہفتہ کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو

1260 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ الْمُرَادِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ فَقَالَ: لَا يَسْمَعَنَّ هَذَا فَيَصِيرَ لَهُ أَرْبَعَةٌ أَعْيُنٌ، فَاتْيَاهُ فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيَّنَاتٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْحَرُوا، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلَا تَقْدِفُوا الْمُحْصَنَةَ، وَلَا تَفْرُوا مِنَ الزَّحْفِ، وَلَا تَمْشُوا بِبِرِّي إِلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلُوهُ أَوْ لِيُهْلِكُوهُ، وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبِّ فَقَبْلًا يَدِيهِ وَرِجْلِيهِ وَقَالَ: نَشَهُدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالَ: فَمَا يَمْنَعُكُمَا مِنْ اتِّبَاعِي؟ فَقَالَ: إِنَّ

1260- اسنادہ ضعیف، عبد اللہ بن سلمة مختلط، وعمرو بن مرة سمع منه بعد تغیره . وأخرجه الترمذی رقم

الحديث: 3144، والبيهقي جلد 8 صفحہ 166، والخطيب في الموضح جلد 1 صفحہ 328 من طريق

المصنف . وقال الترمذی: حسن صحيح . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18117-18121، والترمذی

رقم الحديث: 3144، والنسائي رقم الحديث: 4089، وفي الكبرى رقم الحديث: 8656، وابن ماجه

رقم الحديث: 3705، والطبري جلد 15 صفحہ 172، والطبراني رقم الحديث: 7396، والحاكم

جلد 1 صفحہ 9، وأبو نعيم في الحلية جلد 5 صفحہ 97، والبيهقي في الدلائل جلد 6 صفحہ 268 من طرق

عن شعبة، به . وقال الحاكم: صحيح، لا نعرف له علة بوجه من الوجوه .

دَاوُدَ دَعَا أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ وَأَنَا نَخْشَى أَنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ مَرَّةً: وَلَا تَقْدِفُوا الْمُحْصَنَةَ أَوْ لَا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحْفِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: شَكَّ شُعْبَةُ

پس اُن دونوں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لیا، دونوں نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ نبی ہیں، آپ نے فرمایا: تم دونوں کو میری اتباع سے کون سی رکاوٹ ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے: بے شک داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ہمیشہ اُن کی اولاد میں نبوت رہے اور ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی اتباع کریں گے تو یہود ہم کو قتل کر دیں گے۔ امام ابوداؤد نے ایک مرتبہ کہا کہ تم پاک دامن عورت پر تہمت نہ لگاؤ اور جنگ کے دوران نہ بھاگو۔ ابوداؤد فرماتے ہیں کہ شعبہ کو شک ہے۔

1261 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1261 - اسنادہ حسن، لحال عاصم۔ واختلف عليه فيه، فرواه حماد بن سلمة وعبدة بن سليمان وزياد بن الربيع اليحمدي وأبو جعفر الرازي، عن عاصم، به مرفوعًا. أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 793-792، وأحمد رقم الحديث: 18118-18114، والدارمي رقم الحديث: 363، وابن ماجه رقم الحديث: 226، وابن خزيمة جلد 1 صفحہ 97، والطحاوي جلد 1 صفحہ 82، وابن حبان رقم الحديث: 1319، والطبراني رقم الحديث: 7359-7379-7388، والدارقطني جلد 1 صفحہ 196-197، والبيهقي في المدخل على السنن رقم الحديث: 350، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم الحديث: 164-166. ورواه شعبة والسفيانان وحماد بن زيد ومسعر ومالك بن مغول وأبو عوانة وغيرهم، عن عاصم، به موقوفًا. أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 795، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 117، وأحمد رقم الحديث: 18120-18125، والترمذي رقم الحديث: 3536، والنسائي رقم الحديث: 158، وابن حبان رقم الحديث: 1321، والطبراني رقم الحديث: 7365-7368-7371، وأبو نعيم في الحلية جلد 4 صفحہ 183، والبيهقي جلد 1 صفحہ 276، وفي المدخل رقم الحديث: 349، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم الحديث: 167-168. ورواه حبيب بن أبي ثابت وطلحة بن مصرف، عن زر، به موقوفًا. أخرجه الطبراني رقم الحديث: 7350، والحاكم جلد 1 صفحہ 101.

بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، وَهَمَّامٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَصِمٍ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ الْمُرَادِيِّ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا زُرُّ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ: أَفَلَا أَبَشْرُكَ؟ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ: وَلَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَرَفَعَ الْحَدِيثَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ

میں صبح کے وقت حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا: اے ابوذر! کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا: علم کی تلاش کے لیے فرمایا: کیا میں آپ کو خوشخبری نہ دوں؟ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ حماد بن سلمہ نے کہا: اس کے بارے ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث مرفوع ہے کہ فرشتے اس طالب علم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے (پاؤں کے) نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔

حضرت زررضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو

1262 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

1262- اسنادہ حسن، لحال عاصم . وهذا الحديث واللذان بعده حديث واحد جزاه المصنف . وأخرجه ابن حزم في المحلى جلد 2 صفحہ 113 من طريق المصنف . وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم الحديث: 163 من طريق الحمادين، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18114، والدارمی رقم الحديث: 363، والطحاوی جلد 1 صفحہ 82، والبيهقي في المدخل الى السنن رقم الحديث: 350، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم الحديث: 166 من طريق حماد بن سلمة وحده عن عاصم، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18125، والترمذی رقم الحديث: 3035، والطحاوی جلد 1 صفحہ 82، والطبرانی رقم الحديث: 7360، وابن عبد البر رقم الحديث: 164 من طريق حماد بن زيد وحده عن عاصم، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 792-793-795، والحمیدی رقم الحديث: 881، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 117، وأحمد رقم الحديث: 18116-18118-18120، والترمذی رقم الحديث: 3535-2387-96، والنسائی رقم الحديث: 126-127-158، وابن ماجه رقم الحديث: 478، وابن خزيمة رقم الحديث: 17-193-196، وابن حبان رقم الحديث: 1319-1321، والطبرانی رقم الحديث: 7761، وغيرهم من طرق أخرى عن عاصم، به . وأخرجه الطبرانی رقم الحديث: 7348-7350، والحاكم جلد 1 صفحہ 101، وابن عبد البر في جامع بين العلم رقم الحديث: 162 من طرق عن زر، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18122، والطحاوی جلد 1 صفحہ 82، والطبرانی رقم الحديث: 7347، والحاكم جلد 1 صفحہ 101 من طريقين عن صفوان .

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، میں نے کہا کہ میرے دل میں موزوں پر مسح کرنے کے متعلق کھٹک ہے، کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے کچھ سنا ہے؟ (حضرت صفوان رضی اللہ عنہ) فرمایا کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ہم کو آپ نے تین دن تین راتیں مسح کرنے کا حکم دیا، بول و براز اور سونے پر (یعنی بول و براز کرنے اور سونے پر موزے اتارنے کی ضرورت نہیں) سوائے جنابت کے (غسل کے کہ پھر موزوں کو اتارنا پڑے گا)۔

بُنْ سَلَمَةَ، وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، وَهَمَّامٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ فَقُلْتُ: إِنَّهُ حَكَ فِي نَفْسِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ شَيْءٌ فَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْءًا؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَفْرًا - أَوْ مُسَافِرِينَ - فَأَمَرْنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ

1263 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

وَحَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، وَهَمَّامٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِصَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُوَى شَيْءًا؟ قَالَ: نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ أَوْ غَزْوٍ فَنَادَاهُ أَعْرَابِيٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌّ فَقَالَ: أَيَا مُحَمَّدُ، أَيَا مُحَمَّدُ، أَيَا مُحَمَّدُ، فَقَدْ نُهَيْتَ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ، فَمَا زَالَ يُنَادِيهِ هَكَذَا فَاجَابَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ: هَاؤُمْ قَالَ: أَرَأَيْتَ الْمَرْءَ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

حضرت زر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے عرض کی: کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے ہدی کے متعلق کچھ سنا ہے؟ (حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: ہاں! ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر یا غزوہ میں تھے کہ ایک دیہاتی نے بلند آواز میں پکارا! یا محمد! یا محمد! اس کو کہا گیا: تیرے لیے بربادی ہو! اپنی آواز کو پست کر۔ آپ ﷺ کی بارگاہ میں آواز بلند کرنے سے منع کیا گیا ہے، پس وہ مسلسل بلند آواز سے ہی پکارتا رہا، تو نبی اکرم ﷺ نے بھی اسے اسی کی زبان میں جواب دیا، فرمایا: میں یہاں ہوں، اس نے عرض کی: آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

1263 - اسنادہ حسن، کسابقہ۔ وانظر تخريجه فيه، والحديث مروى عن عدد من الصحابة، ومذكور في

كتب المتواتر. وانظر ما سبق برقم 154.

آدمی جس سے محبت کرتا ہے، اسی کے ساتھ ہوگا۔

حضرت زر بن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ مجھ سے حدیثیں بیان کرتے رہے حتیٰ کہ آپ نے توبہ کے دروازے کے متعلق ذکر کیا، فرمایا: توبہ کے دروازہ کی چوڑائی مغرب کی جانب چالیس سال کی مسافت جتنی ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا، حتیٰ کہ سورج اس طرف (یعنی مغرب) سے طلوع ہو اور یہی مطلب اللہ کے اس ارشاد کا ہے: ”جس دن آپ کے رب کی نشانیاں آئیں گی، اس دن اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا“ (الانعام: 158)

(۱۵۸)

حضرت عباد بن شریحیل

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عباد بن شریحیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

108- وَعَبَّادُ

بْنُ شُرْحَبِيلَ

1265 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

1264- اسنادہ حسن، کسابقہ۔ وانظر تخريجه في الأول منهما، وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم الحديث: 6506.

1265- حديث صحيح. أخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 2، والمزي في تهذيب الكمال جلد 14 صفحہ 126 من طريق المصنف. وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 6 صفحہ 86، ومن طريقه ابن ماجه رقم الحديث: 2298، وابن أبي عاصم في الأحاد رقم الحديث: 1654، وأحمد رقم الحديث: 17556، وأبو داؤد رقم الحديث: 2620-2621، والحاكم جلد 4 صفحہ 133، وغيرهم من طريق شعبة، به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 54-55، والنسائي رقم الحديث: 5424، والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 8519 من طريق آخر عن أبي بشر، به. وقال الحافظ في الاصابة جلد 2 صفحہ 256: اسنادہ صحيح.

کہ میں مدینہ منورہ آیا اور مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، سو میں ایک باغ میں داخل ہوا تو میں نے ایک خوشہ لیا، اس سے کھایا اور کچھ اپنے کپڑے میں رکھ لیا، پس باغ کا مالک آیا تو اس نے مجھے مارا اور جو میرے کپڑے میں تھا وہ بھی لے لیا، سو ہم دونوں نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے اور آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو نے اس کو کھایا کیوں نہیں! جب کہ یہ جاہل تھا اور نہ تو نے اس کو کھلایا جبکہ یہ بھوکا تھا، پھر آپ نے مجھے نصف وسق جو کے دینے کا حکم فرمایا۔

دَاوُدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ، قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ أَصَابَنِي جُوعٌ شَدِيدٌ فَدَخَلْتُ حَائِطًا فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَأَكَلْتُ مِنْهُ وَجَعَلْتُ فِي ثَوْبِي فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ مَا فِي ثَوْبِي قَالَ: فَاذْهَبْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا، وَلَا أَطَعَمْتَهُ إِذْ كَانَ سَاعِبًا فَأَمْرٌ لِي بِنِصْفِ وَسْقٍ مِنْ شَعِيرٍ

حضرت عمرو بن تغلب

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے ایک بات بتائی جو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے (فرماتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ کے پاس کچھ قیدی آئے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیئے اور کچھ کو نہ دیئے، پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم ایسی قوم کو دیتے ہیں جن سے ہم کو بھوک اور جزع کا ڈر ہوتا ہے، اور ان کو نہیں دیتے جن کے دل میں ایمان

109- عَمْرُو

بْنُ تَغْلِبَ

1266 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ، قَالَ: لَقَدْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً مَا أَحِبُّ أَنْ لِي بِهَا حُمْرَ النَّعَمِ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبِي فَبَاعَطِي قَوْمًا وَمَنَعَ قَوْمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا نُعْطِي قَوْمًا نَخْشَى هَلْعَهُمْ

1266- حدیث صحیح۔ وفی الاسناد هنا مبارک بن فضالة وهو ضعيف، وقد توبع. وأخرجه ابن أبي عاصم في

الأحاد والمثنائی رقم الحدیث: 1665 من طریق المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 20692

والبخاری رقم الحدیث: 923-3145-7535 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثنائی رقم الحدیث: 1664

وأبو نعیم فی الحلیة جلد 2 صفحہ 11، والبیہقی جلد 7 صفحہ 18 من طریق یونس بن عبید وجریر بن

حازم مفرقین عن الحسن، به۔

وَجَزَعَهُمْ وَنَكَلَ قَوْمًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ
مِنَ الْإِيمَانِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ

1267 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

قُضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا
نِعَالُهُمْ الشَّعْرُ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا
قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ وَإِنَّ مِنْ
أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَكْثُرَ التُّجَارُ وَيَظْهَرَ الْقَلَمُ

حضرت عمرو بن تغلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: قیامت کی
نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے
لڑو گے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے اور قیامت
کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑو
گے جن کے چہرے انگوڑی کی طرح ہوں گے اور قیامت
کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تجارت بہت
زیادہ ہوگی اور قلم کا ظہور ہوگا۔

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے

110- حَدِيثُ رَبِيعَةَ

بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ

1268 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1267- حدیث صحیح، واسنادہ هنا کسابقہ . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20693-20696، والبخاری رقم
الحديث: 3592-2927، وابن ماجه رقم الحديث: 4098، والبيهقي جلد 9 صفحہ 176 من طريق عن
جرير بن حازم، عن الحسن، به . دون الفقرة الأخيرة منه . وأخرجه النسائي رقم الحديث: 4468،
والحاكم جلد 2 صفحہ 7 من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، به، بالفقرة
الأخيرة فحسب . وصححه الحاكم على شرطهما، وأقره الذهبي .

1268- حدیث صحیح . أخرجه ابن سعد جلد 4 صفحہ 313، وأحمد رقم الحديث: 16626، والترمذی رقم
الحديث: 3416، وغيرهم من طريق هشام، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2563، وأحمد رقم
الحديث: 16624، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10698، وابن ماجه رقم الحديث: 3879، وابن
حبان رقم الحديث: 2595، والبيهقي جلد 2 صفحہ 486، وغيرهم من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به .
وأخرج مسلم في باب فضل السجود رقم الحديث: 489، وأبو داؤد رقم الحديث: 1320، والنسائي

ہیں کہ میں نبی اکرم ﷺ کے پاس رات گزارتا تھا، میں آپ کو رات کے وقت وضو کا پانی دیا کرتا تھا، سو میں نے رات کے وقت آپ کی آواز سنی، آپ پڑھ رہے تھے: ”سمع الله لمن حمدہ“ (یعنی سن لی اللہ نے اس شخص کی بات جس نے اس کی حمد کی) اور میں نے رات کے وقت آپ کو پڑھتے سنا: ”الحمد لله رب العالمین“ (تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے)۔

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: بَيْتٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ أَنْوِلُهُ الْوُضُوءَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْمَعُهُ الْهَوِيَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَأَسْمَعُهُ الْهَوِيَّ مِنَ اللَّيْلِ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

1269 - حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ

أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كُنْتُ أَخْدِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَتَزَوَّجُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ امْرَأَةً وَمَا أَحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْ خِدْمَتِكَ شَيْءٌ، ثُمَّ قَالَ لِي يَوْمًا آخَرَ: يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَتَزَوَّجُ؟ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ

حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت کرتا تھا، آپ نے ایک دن فرمایا: اے ربیعہ! تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اللہ کی قسم! میرے پاس کوئی شی ہی نہیں کہ (میں) عورت کو ٹھہرا سکوں، مجھے یہ پسند بھی نہیں ہے کہ مجھے آپ کی خدمت سے کوئی شی مشغول کر دے۔ پھر مجھے ایک دن فرمایا: اے ربیعہ! تو شادی کیوں نہیں کر

رقم الحديث: 1137، وغيرهم أصل الحديث من طريق الهقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، به، بلفظ: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتية بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16626 من طريق نعيم بن مجمر، عن ربيعه بن كعب، مطولاً.

1269- اسنادہ حسن۔ عزاء البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحديث: 2048 الی المصنف۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16627، وأبو يعلى كما فی الاتحاف والطبرانی رقم الحديث: 4578، ودعلاج السجزی فی مسند المقلین رقم الحديث: 19، والحاكم جلد 2 صفحہ 172، من طریق المبارك بن فضالہ، به۔ وعند جميعهم ما عدا الطبرانی زيادة فی آخره هی الحديث الآتی عند المصنف۔

لیتا؟ میں نے آپ سے پہلی والی بات عرض کی، کہا کہ پھر میں نے دل میں کہا: اللہ کی قسم! رسول اللہ مجھ سے زیادہ میرے معاملے کو جانتے ہیں جو میرے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے، اللہ کی قسم! اگر رسول اللہ ﷺ نے مجھے تیسری مرتبہ فرمایا تو میں ضرور ہاں کروں گا۔ سو آپ نے مجھے تیسری مرتبہ فرمایا: اے ربیعہ! تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہا کہ میں نے عرض کی: رسول اللہ جیسے چاہیں کریں! آپ نے فرمایا: انصار کے فلاں لوگوں کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور تمہیں آپ حکم دیتے ہیں کہ تم میری فلاں عورت سے شادی کر دو۔ سو میں ان کے پاس آیا، میں نے کہا: بے شک رسول اللہ ﷺ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم میری فلاں عورت سے شادی کر دو! انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ کے بھیجے ہوئے کو خوش آمدید! اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ کا قصد آج اپنی ضرورت پوری کر کے واپس جائے گا۔ سو انہوں نے میری شادی کر دی اور میرا احترام کیا، پھر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، آپ نے مجھے غمگین دیکھا تو آپ نے فرمایا: ربیعہ! تیری کیا حالت ہے؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں ایسی عزت والی قوم کے پاس آیا ہوں، انہوں نے میرا احترام کیا اور میری شادی کی اور میرے پاس حق فہر کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے بریدہ الاسلمی! میرے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کو جمع کرو، پس

قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاللَّهِ لَرَسُولُ اللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا يُصْلِحُنِي مِنْ أَمْرِ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي مِنِّي، وَاللَّهِ لَئِنْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّالِثَةَ لَأَقُولَنَّ نَعَمْ فَقَالَ لِي الثَّالِثَةَ: يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَزَوِّجُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لِيَصْنَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مَا شَاءَ فَقَالَ: انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلَانٍ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقُلْ: رَسُولُ اللَّهِ أَرْسَلَنِي يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ تَزَوِّجُونِي فُلَانَةَ فَاتَيْتُهُمْ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَزَوِّجُونِي فُلَانَةَ فَقَالُوا: مَرَحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَا يَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ الْيَوْمَ إِلَّا بِحَاجَتِهِ، قَالَ: فَزَوِّجُونِي وَأَكْرَمُونِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ كَثِيرًا حَزِينًا فَقَالَ: مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا فَأَكْرَمُونِي وَزَوِّجُونِي وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَسْوَاقُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ اجْمَعْ لِي فِي وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَجَمَعْتُ لِي فِيهَا فَقَالَ: انْطَلِقْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ فَاتَيْتُهُمْ فَاقْبَلُوا ذَلِكَ مِنِّي وَفَرِحُوا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ كَثِيرًا فَقَالَ: مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا فَاقْبَلُوا ذَلِكَ مِنِّي وَفَرِحُوا وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أَوْلَمُ قَالَ: يَا بُرَيْدَةُ اجْمَعُوا لَهُ فِي ثَمَنِ كَبْشٍ فَجَمَعُوا لِي فِي ثَمَنِ كَبْشٍ عَظِيمٍ ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ

عَائِشَةَ فَقُلْ لَهَا يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ: اَدْفَعِي إِلَيْهِ
ذَلِكَ الطَّعَامَ فَاتَيْتُهَا فَقَالَتْ: دُونَكَ الْمِكْتَلِ وَاللَّهِ
مَا عِنْدَنَا غَيْرُهُ، قَالَ: فَأَخَذْتُهُ وَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْطَلِقِي بِهَذَا إِلَيْهِمْ
فَلْيُصْلِحْ هَذَا عِنْدَهُمْ خُبْزًا وَلْيُنْضِجْ هَذَا عِنْدَهُمْ
لَحْمًا فَاتَيْتُهُمْ بِهِ فَقَالُوا: أَمَا الْخُبْزُ فَنَحْنُ
نَكْفِيكُمْوَهُوَ وَانْطَلَقْنَا أَنْتُمْ اللَّحْمَ، فَانْطَلَقْتُ
بِالْكَبْشِ إِلَى أَنْاسٍ مِنْ أَصْحَابِي فَتَعَاوَنَّا عَلَيْهِ
فَفَرَّغْنَا مِنْهُ وَانْطَلَقْتُ بِهِ فَأَوْلَمْتُ فَدَعَوْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاجَابَنِي

میرے لیے جمع کیا گیا، سو میں وہ لے کر ان لوگوں کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے یہ قبول کیا اور بڑے خوش ہوئے، پھر میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آیا، آپ نے مجھے غمگین دیکھا تو فرمایا: اے ربیعہ! کیا ہوا؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں ایسی عزت والی قوم کے پاس سے آیا ہوں، انہوں نے مجھ سے حق مہر قبول کیا اور وہ بہت خوش ہوئے جبکہ میرے پاس ولیمہ کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: اے بریدہ! اس کے لیے ایک بکرے کی قیمت جتنے پیسے جمع کرو! سو میرے لیے ایک بکرے جتنے پیسے جمع کیے گئے، پھر مجھ سے فرمایا: عائشہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ آپ کو رسول اللہ ﷺ نے کہا ہے کہ مجھے وہ غلہ دے دیں۔ سو میں آپ کے پاس آیا، آپ فرمانے لگیں: اللہ کی قسم! ہمارے پاس اس تھیلی کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اس کو پکڑا اور میں رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آیا، آپ نے فرمایا: ان کے پاس لے جا! تاکہ وہ تیرے لیے دو روٹیاں اور گوشت پکا دیں۔ سو میں ان کے پاس لے کر آیا تو انہوں نے کہا: بہر حال روٹیوں کے بارے تو ہم آپ کی کفایت کریں گے اور تم ہماری گوشت کے معاملے میں کفایت کرو۔ سو میں وہ بکرا اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر آیا، انہوں نے اس پر ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہم اس سے فارغ ہو گئے اور میں اس کو لے چلا، پس میں نے ولیمہ کیا، پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کو دعوت دی تو آپ نے میری دعوت قبول فرمائی۔

1270 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
 الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ
 رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضًا وَأَعْطَى أَبَا بَكْرٍ
 أَرْضًا قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا فِي عِدْقٍ يَعْنِي نَخْلَةً فَقُلْتُ
 أَنَا: هِيَ مِنْ أَرْضِي وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هِيَ مِنْ أَرْضِي
 فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَمَا تَرَى أَنْظُرُ أَمَا تَرَى؟ إِنَّهَا مِنْ
 أَرْضِي فَأَبَى وَقَالَ لِي كَلِمَةً نَدِمَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا
 رَبِيعَةُ قُلْ لِي مِثْلَ مَا قُلْتَ لَكَ حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا
 قَالَ: قُلْتُ لَا قَالَ: فَقَالَ: وَاللَّهِ إِذَا لَأَسْتَعِدِينَ عَلَيْكَ
 قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ، نَعَمْ فَانْطَلَقَ يَوْمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ قَوْمِي
 فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ هُوَ الَّذِي قَالَ لَكَ مَا قَالَ
 وَيَسْتَعِدِّي عَلَيْكَ فَانْطَلِقُوا مَعِيَ فَقُلْتُ
 لَهُمْ: اتَّذَرُونَ مِنْ هَذَا؟ هَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ثَانِي
 اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ
 غَضَبَانُ فَيَغْضَبُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لِغَضَبِهِ وَيَغْضَبُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِغَضَبِ
 رَسُولِهِ فَيَهْلِكُ رَبِيعَةُ، ارْجِعُوا فَرَدَدْتُهُمْ وَانْطَلَقْتُ
 وَقَدْ سَبَقَنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے زمین دی اور حضرت
 ابو بکر رضی اللہ عنہ کو زمین دی۔ کہتے ہیں کہ ہمارا کھجور کے
 متعلق اختلاف ہو گیا تو میں نے کہا: یہ میری زمین میں
 ہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ میری
 زمین میں ہے۔ پس انہوں نے کہا: اے ابو بکر! کیا
 رائے ہے آپ کی ذرا دیکھیں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ
 میری زمین میں ہے سو آپ نے انکار کر دیا پھر مجھ سے
 آپ نے ایسی بات کی جس پر آپ نام نہ ہوئے۔
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ربیعہ! مجھے بھی
 وہی بات کہو جو میں نے تم سے کہی ہے یہاں تک کہ تیرا
 بدلہ ہو جائے۔ کہا کہ میں نے عرض کی: نہیں! (حضرت
 ابو بکر رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: اللہ کی قسم! تب تو میں
 تیرے خلاف ضرور مدد چاہوں گا، کہا کہ میں نے عرض
 کی: آپ ٹھیک ہے سو آپ چلے تو نبی اکرم ﷺ
 امامت کروا رہے تھے اور میں آپ کے پیچھے آیا اور میری
 قوم کے لوگ بھی آئے، انہوں نے کہا: اللہ ابو بکر پر رحم
 فرمائے! وہ کیسے کر سکتے ہیں جو خود ہی آپ کے خلاف
 بات کریں گے۔ پس وہ میرے ساتھ چلے میں نے ان
 کو کہا: تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، دو

1270- اسنادہ حسن، کسابقہ . وهذا الحديث جزء من الحديث السابق عند المخرجين، وقد أفرده المصنف

هنا . وعزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 2945 الى المصنف مفرداً ايضاً .

وكذلك أفرده الطبراني رقم الحديث: 4577، وأخرجه ابن سعد جلد 4 صفحہ 313 من طريق أبي

عمران الجوني، مرسلًا .

عَلَيْهِ فَلَمَّا جِئْتُ قَالَ لِي: يَا رَبِيعَةُ مَا لَكَ
وَاللَّصِيقِ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَالَ لِي شَيْءًا
وَقَالَ لِي: قُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ لَكَ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا
فَقُلْتُ: لَا أَقُولُ لَكَ مِثْلَ مَا قُلْتَ لِي قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجَلٌ فَلَا تَقُلْ لَهُ مِثْلَ
مَا قَالَ لَكَ وَلَكِنْ قُلْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ
فَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا
بَكْرٍ فَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ يَبْكِي

میں سے دوسرے جو دونوں غار میں تھے۔ پس رسول
اللہ ﷺ تشریف لائے تو آپ کو غصہ تھا اور رسول اللہ
ﷺ کے غصہ کی وجہ سے اللہ عزوجل ناراض ہوتا ہے سو
رسول اللہ ﷺ کی ناراضگی کی وجہ سے ربیعہ ہلاک ہو گیا،
واپس جاؤ! پس میں نے اُن کو لوٹا دیا اور میں چل پڑا، آپ
مجھ سے پہلے نبی ﷺ کے پاس پہنچ گئے، سو آپ کو بتایا تو
جب میں آپ کے پاس آیا، مجھے آپ نے فرمایا: اے
ربیعہ! تجھے اور صدیق کو کیا ہوا؟ میں نے عرض کی: یا رسول
اللہ! انہوں نے مجھے کوئی بات کہی ہے اور انہوں نے مجھ
سے فرمایا کہ تم مجھے وہی کہو جو میں نے کہا ہے۔ تو رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے، تم نہ کہنا اس طرح جو اس نے
کہا ہے۔ لیکن کہو: اے ابوبکر! اللہ آپ کو معاف فرمائے!
سو میں نے کہا: اے ابوبکر! اللہ آپ کو معاف فرمائے! اے
ابوبکر! اللہ آپ کی مغفرت فرمائے! تو حضرت ابوبکر اس
حالت میں پلٹے کہ آپ رورہے تھے۔

حضرت حمزہ بن عمرو سلمیٰ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

111- وَحَمْرَةَ بِنُ عَمْرِو

الْأَسْلَمِيِّ

حضرت حمزہ سلمیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

1271 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1271- حدیث صحیح، واسناد المصنف منقطع، قتادة لم يسمع من سليمان بن يسار. وأخرجه النسائي رقم
الحدیث: 2293، والطحاوی جلد 2 صفحہ 69، والطبرانی رقم الحدیث: 2981-2982، من طرق عن
هشام به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16080، والطبرانی رقم الحدیث: 2983، من طريق قتادة به.
ورواه عمران بن أبي أنس، عن سليمان بن يسار به. أخرجه النسائي رقم الحدیث: 2295-2296،
والرويانى رقم الحدیث: 1485، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2153. وقد اختلف على عمران في هذا.

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفِطِرْ

نے رسول اللہ ﷺ سے سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اگر تو چاہے تو روزہ رکھ اور اگر چاہے تو روزہ نہ رکھ۔

حضرت جرہد اسلمی رضی اللہ عنہ کی حدیث

112- وَجَرُّهُدُ

الْأَسْلَمِيُّ

حضرت جرہد اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

1272- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

انظر سنن النسائي رقم الحديث: 2294-2301. وأخرجه مسلم رقم الحديث: 1121، والنسائي رقم الحديث: 2301، وابن خزيمة رقم الحديث: 2026، والطبراني رقم الحديث: 2981، والدارقطني جلد 2 صفحہ 189، والبيهقي جلد 4 صفحہ 243 من طريق عروة بن الزبير، عن أبي مرواح، عن حمزة .

1272- اسنادہ مضطرب . وهكذا روى المصنف هذا الحديث عن مالك، وقد اختلف على مالك وغيره في هذا الحديث اختلافاً كثيراً حتى وصف غير واحد من الأئمة هذا الحديث بالاضطراب . انظر فتح الباري لابن رجب جلد 2 صفحہ 405-406، وللحافظ جلد 1 صفحہ 478، وتغليق التعليق جلد 2 صفحہ 209، وتهذيب التهذيب جلد 2 صفحہ 69 . فأما رواية مالك عند غير المصنف: فقد روى عنه 'عن أبي النضر' عن زرعة ابن عبد الرحمن بن جرهد، عن أبيه، عن جده . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15968، والطحاوي جلد 1 صفحہ 475، والطبراني رقم الحديث: 2143-2144، وغيرهم . وروى عنه 'عن أبي النضر' عن زرعة، عن أبيه قال: كان جرهد، مرسلًا . أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 4014، والبخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 249، والبيهقي جلد 2 صفحہ 228، وغيرهم . وروى عنه 'عن أبي النضر' عن زرعة بن جرهد، عن أبيه . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15973 . ورواه ابن عيينة، عن أبي النضر، واختلف عنه كذلك، فروى عنه 'عن أبي النضر' عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن أبيه، عن جده . أخرجه الدارقطني جلد 1 صفحہ 224 . وروى عنه 'عن أبي النضر' عن زرعة بن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد . أخرجه الحميدي رقم الحديث: 857، والبخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 249، والترمذي رقم الحديث: 2795 . وقال البخاري: هذا لا يصح . وقال

کہ نبی اکرم ﷺ ان کے پاس سے گزرے اس حالت میں کہ ان کی ران کھلی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا: اے جربہد! اپنی ران کو ڈھانپ، کیونکہ ران بھی شرمگاہ کا حصہ ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ جَرَّهَدٍ، عَنْ جَرَّهَدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَقَدْ كَشَفَ عَنْ فِخْدِهِ فَقَالَ: يَا جَرَّهَدُ خَمِّرْ فِخْدَكَ فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ

حضرت امام حسن بن علی

رضی اللہ عنہما کی احادیث

113- وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت ابو حوراء سعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ

1273 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ

الترمذی: ما اری اسنادہ بمتصل . وروى عنه ' عن أبى النضر ' عن زرعة بن مسلم ' أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم رأى جرهداً ' مبرسلاً . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15969 . وقد روى فى هذا الحديث غير ذلك من الوجوه ' منها ما أخرجه أحمد رقم الحديث: 15971 ' والترمذى رقم الحديث: 2798 ' وغيرهما من طريق أبى الزناد ' عن ابن جرهد ' عن أبيه . ومنها ما أخرجه أحمد رقم الحديث: 15970 ' والبخارى فى التاريخ جلد 2 صفحہ 249 ' وغيرها من طريق أبى الزناد قال: حدثنى آل جرهد ' بنحوه . وكذلك روى عن أبى الزناد ' عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن جدہ جرهد . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15975 ' والبخارى فى التاريخ جلد 2 صفحہ 248 ' وغيرهما . ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل ' عن عبد الله بن جرهد ' عن أبيه جرهد . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15972 ' والترمذى رقم الحديث: 2797 ' وغيرهما . ومن طرق أخرى عن جرهد عند الطحاوى جلد 1 صفحہ 475 ' والطبرانى رقم الحديث: 2145-2149 ' وغيرهما .

1273- حديث صحيح . أخرجه البزار رقم الحديث: 1336 من طريق المنصف . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 1727 ' والدارمى رقم الحديث: 1591 ' وأبو يعلى رقم الحديث: 6762 ' وابن خزيمة رقم

الحديث: 2347 ' وابن حبان رقم الحديث: 722 ' والطبرانى رقم الحديث: 2710 ' وغيرهم من طرق

شعبة ' به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 4984 ' وأحمد رقم الحديث: 1725 ' والطبرانى رقم

الحديث: 2714-2711 ' وغيرهما من طريق بريد بن أبى مريم ' به . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 1727-1723 ' والطبرانى رقم الحديث: 2741-2713 ' وغيرهما من طريق أبى الحوراء ربيعة

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرِيَمَ السَّلُولِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيَّ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَخَذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِي فَتَزَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُعَابِهَا فَأَلْقَاهَا فِي التَّمْرِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَمْرَةٌ مِنْ صَبِيٍّ فَقَالَ: إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ

میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے عرض کی: ہم کو نبی اکرم ﷺ کی بات سنائیں! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے زکوٰۃ کی کھجور اٹھائی تو میں نے اس کو منہ میں ڈال لیا، سو نبی اکرم ﷺ نے اس کھجور کو (میرے منہ سے) لعاب سمت نکال دیا اور کھجور پھینک دی، صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! بچے نے کھجور لی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ہم آل محمد کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔

حضرت ابو الحوراء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے عرض کی کہ ہم کو نبی اکرم ﷺ کی حدیث سنائیں! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ ﷺ فرمایا کرتے تھے: جو چیز تجھے شک ڈالے اس کو چھوڑ دے کیونکہ سچائی میں طمانیت ہوتی ہے اور جھوٹ میں شک ہوتا ہے۔

1274 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرِيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَا تَذْكُرُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: دَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَآنِينَةٌ وَإِنَّ الْكُذْبَ رِيْبَةٌ

بن شیبان، بہ۔ والحديث من رواية أبي هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة..... عند البخاري رقم الحديث: 1485-1491-3072، ومسلم رقم الحديث: 1069.

1274 - حديث صحيح. أخرجه البزار رقم الحديث: 1336، وأبو نعيم في أخبار أصبهان جلد 1 صفحہ 45 والبيهقي جلد 5 صفحہ 335 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 1723-1727، والدارمی رقم الحديث: 2535، والترمذی رقم الحديث: 2518، والنسائی رقم الحديث: 5727، وأبو يعلى رقم الحديث: 6762، وابن خزيمة رقم الحديث: 2348، وابن حبان رقم الحديث: 722، والحاكم جلد 2 صفحہ 13-99، وغيرهم من طريق شعبة، بہ. وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 4984، والدولابی فی الذرية الطاهرة رقم الحديث: 135، والطبرانی رقم الحديث: 2708-2711، والحاكم جلد 2 صفحہ 13 من طريق بريد، بہ. وقال الترمذی: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح الاسناد. وهذا الحديث ربما روى مع الذي قبله، والذي بعده في سياق واحد، فانظر تخريجهما.

حضرت ابوالحوراء فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے کہا کہ آپ ہم کو نبی اکرم ﷺ کے حوالہ سے کوئی بات سنائیں! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ﷺ ہم کو یہ دعا سکھاتے تھے: ”اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ“۔

1275 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بُرَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَوْرَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مَا تَذْكُرُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: يُعَلِّمُنَا هَذَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

1275 - حدیث صحیح . أخرجه البزار رقم الحديث: 1336 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 1727 والدارمی رقم الحديث: 1599 وأبو يعلى رقم الحديث: 6759-6762 وابن خزيمة رقم الحديث: 1096 والدولابی فی الذرية الطاهرة رقم الحديث: 134 وابن حبان رقم الحديث: 722 والطبرانی رقم الحديث: 2707 وفي الدعاء رقم الحديث: 744 وغيرهم من طرق عن شعبة به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 4984 وأحمد رقم الحديث: 1718-1723-1727 والدارمی رقم الحديث: 1600-1601 وأبو داؤد رقم الحديث: 1425-1426 والترمذی رقم الحديث: 464 وابن ماجه رقم الحديث: 1178 والنسائی رقم الحديث: 1744 وابن أبي عاصم فی السنة رقم الحديث: 374 وابن خزيمة رقم الحديث: 1095 والدولابی فی الذرية الطاهرة رقم الحديث: 135-136 والحاكم جلد 3 صفحہ 172 والبيهقی جلد 2 صفحہ 209 وغيرهم من طريق بريد بن أبي مریم به . وقال الترمذی: حدیث حسن ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فی القنوت فی الوتر شيئاً أحسن من هذا . وروته عائشة عن الحسن . أخرجه ابن أبي عاصم فی السنة رقم الحديث: 375 والطبرانی رقم الحديث: 2700 والحاكم جلد 3 صفحہ 172 وصححه الحاكم علی شرطهما . وراجع الحديثين السابقين .

حضرت عبداللہ بن سرجس

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا تھا کہ نبی اکرم ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ"۔

حضرت محمد بن صفوان

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت محمد بن صفوان رضی اللہ عنہ سے روایت

114- وَعَبْدُ اللَّهِ

بْنُ سَرَجِسَ

1276 — حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَرَجِسَ، وَكَانَ قَدْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا قَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

115- وَمُحَمَّدُ

بْنُ صَفْوَانَ

1277 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1276 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 20791-20792، والدارمی رقم الحديث: 2672 والنسائی رقم الحديث: 5513، والطبرانی فی الدعاء رقم الحديث: 815، وغيرهم من طرق عن شعبة به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 9231، وابن أبي شعبة جلد 10 صفحہ 359، وأحمد رقم الحديث: 20791-20795-20800، وعبد بن حمید رقم الحديث: 5009، ومسلم رقم الحديث: 1343، والترمذی رقم الحديث: 3439، والنسائی رقم الحديث: 5514-5515، وفي الكبرى رقم الحديث: 8801-10333، وابن ماجه رقم الحديث: 3888، والطبرانی فی الدعاء رقم الحديث: 813، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 3 صفحہ 122، والبیہقی جلد 5 صفحہ 250 من طرق عن عاصم به .

1277 - حدیث صحیح . أخرجه أبو نعیم فی معرفة الصحابة جلد 2 صفحہ 74، والبیہقی جلد 9 صفحہ 320 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15911، والطبرانی جلد 19 صفحہ 236 من طریق شعبة به . وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 2822، والنسائی رقم الحديث: 4324، وابن ماجه رقم

ہے کہ انہوں نے خرگوش کا شکار کیا اور اسے نوک دار پتھر سے ذبح کیا، پس نبی اکرم ﷺ کے پاس لائے تو اس کا ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے اسے اس کو کھانے کا حکم دیا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّهُ صَادَ أَرْنَبًا فَذَبَحَهَا بِمَرُورَةٍ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا

حضرت سلمان بن عامر

116- وَسَلْمَانُ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

بْنُ عَامِرٍ

حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت

1278 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ روزہ کھجور سے افطار کرے، پس اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے بے شک پانی بھی

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ، تُحَدِّثُ عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الحدیث: 3175، والطبرانی جلد 19 صفحہ 237، وغیرہم من طرق عن عاصم، به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 15192، والنسائی رقم الحدیث: 4411، وابن ماجه رقم الحدیث: 3244، والطبرانی جلد 19 صفحہ 326، وأبو نعیم فی معرفة الصحابة جلد 2 صفحہ 73، والحاكم جلد 4 صفحہ 235، والبيهقي جلد 9 صفحہ 321، وغیرہم من طریق داؤد بن أبی هند وحصین، عن الشعبي، به . وصححه الحاكم، وأقره الذهبي .

1278- اسنادہ ضعیف، لجهالة الرباب بنت صليح . وأخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 239 من طريق المصنف، وقال: هكذا وجدته في المسند قد أقام اسناده أبو داؤد، وقد رواه محمود بن غيلان عن أبي داؤد دون ذكر الرباب، وروى عن روح بن عباد عن شعبة موصولاً، ورواه سعيد بن عامر عن شعبة فغلط في اسناده . ورواه غندر وأبو الوليد ومسلم بن ابراهيم، عن شعبة، به، ولم يذكر الرباب فيه . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 16287-17918، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 3315-6710، وابن قانع فی معجم الصحابة جلد 1 صفحہ 285، والطبرانی رقم الحدیث: 6197 . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17906، والترمذی رقم الحدیث: 658-695، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 3320، وغیرہم من طریق سفیان بن عیینة، عن عاصم، بهذا الاسناد، وذكر فيه الرباب .

قَالَ: إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفِطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ

117- وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ

بُنُّ عُثْمَانَ

حضرت عبدالرحمن بن عثمان

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبدالرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے طیب نے مینڈک کے متعلق پوچھا کہ اس کو دواء میں ڈال لیں؟ تو نبی اکرم ﷺ نے اسے اس کو مارنے سے منع فرمایا۔

1279- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَأَلَ طَيْبٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا

حضرت معمر بن عبد اللہ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

118- وَمَعْمَرُ

بُنُّ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت معمر بن عبد اللہ بن نضلة رضی اللہ عنہ

1280- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1279- حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 9 صفحہ 258، و المزني في تهذيب الكمال جلد 10 صفحہ 405 من طريق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 7 صفحہ 450، وأحمد رقم الحديث: 15795، وأبو داؤد رقم الحديث: 3871-5269، والنسائي رقم الحديث: 4366، والفسوي في المعرفة جلد 1 صفحہ 285، والحاكم جلد 4 صفحہ 410، والبيهقي جلد 9 صفحہ 318، وغيرهم من طرق عن ابن أبي ذنب، به . وصححه الحاكم، وأقره الذهبي . وانظر تبييض الصحيفة لمحمد عمرو بن عبد اللطيف رقم الحديث: 47 .

1280- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15798، وابن حبان رقم الحديث: 4936، والطبراني

جلد 20 صفحہ 446 من طريق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15797-27288-27289،

والترمذي رقم الحديث: 1267، وابن ماجه رقم الحديث: 2154، وغيرهم من طرق عن ابن اسحاق،

فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ذخیرہ اندوزی ہمیشہ گنہگار ہی کرتا ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضَلَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئًا

حضرت معمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، تو میں نے آپ کو فرماتے سنا: قریش کو دیکھو تو ان کی بات سنو اور ان کے فعل کو چھوڑ دو۔

1281 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: انظُرُوا قُرَيْشًا فَاسْمَعُوا قَوْلَهُمْ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ

بہ . وأخرجه ابن سعد جلد 4 صفحہ 139، وأحمد رقم الحديث: 15799، والدارمی رقم الحديث: 2546، ومسلم رقم الحديث: 1605، وأبو داؤد رقم الحديث: 3447، والطبرانی جلد 20 صفحہ 445-446، والبيهقي جلد 6 صفحہ 30، وغيرهم من طريق ابن المسيب، به .

1281- اسنادہ ضعیف، لحال مجالد، وفيه خطأ، فقد ذكره ابن أبي حاتم في العلل جلد 2 صفحہ 362 من طريق المصنف بهذا الاسناد، ونقل عن أبيه قوله: هذا غلط، انما هو الشعبي، عن عامر بن شهر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة جلد 30 صفحہ 99-100 من طريق المصنف . والحديث أخرجه ابن سعد جلد 6 صفحہ 28، وأحمد رقم الحديث: 15575-18311، وأبو يعلى رقم الحديث: 6864، وابن عدی جلد 3 صفحہ 1038 من طرق عن مجالد، عن الشعبي، عن عامر بن شهر . وعند أحمد في الأول قرن مع مجالد اسماعيل بن أبي خالد . وأخرجه ابن حبان رقم الحديث: 4585 من طريق اسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عامر بن شهر . وأخرجه أحمد في العلل جلد 3 صفحہ 346، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني رقم الحديث: 2416 من طريق اسماعيل بن أبي خالد، عن مجالد، عن الشعبي، به . فعاد الحديث الى مجالد . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18312 من طريق شريك، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن عطاء، عن عامر بن شهر .

119- وَمُحَمَّدُ

حضرت محمد بن مسلمہ

بْنُ مَسْلَمَةَ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1282 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت محمد ابوہل اپنے والد سے روایت کرتے

1282- اسنادہ ضعیف مضطرب . أخرجه الطبرانی جلد 19 صفحہ 226 من طریق سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به . وقال: هكذا رواه حماد بن سلمة . وخالف الناس فيه ، وقد اختلف الرواة عن الحجاج بن أرطاة في هذا الحديث ، والصواب عندي والله أعلم ما رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون عن الحجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن عمه سهل بن أبي حثمة عن محمد بن مسلمة . وأخرج رواية حفص وزياد: ابن أبي شيبة جلد 4 صفحہ 356 ومن طريقه ابن ماجة رقم الحديث: 1864 ، وأحمد رقم الحديث: 16071 ، والطبرانی جلد 19 صفحہ 224 وقد تابعهما آخرون . أخرجه سعيد بن منصور رقم الحديث: 519 ، وأحمد رقم الحديث: 18006 ، والبخاري في التاريخ جلد 1 صفحہ 96 ، والطحاوي جلد 3 صفحہ 13 ، والخطيب في الأسماء المبهمة صفحہ 43 . ورواه أبو معاوية عن حجاج عن سهل بن محمد بن أبي حثمة عن عمه سليمان بن أبي حثمة به . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 4 صفحہ 356 ، والبخاري في التاريخ جلد 1 صفحہ 97 ، والطبرانی جلد 19 صفحہ 225 . ورواه عبد الواحد بن زياد عن حجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه عن محمد بن مسلمة . أخرجه الطبرانی جلد 19 صفحہ 225 ، وغيره . ورواه أبو شهاب الحنات عن الحجاج على وجهين آخرين ، انظر التاريخ للبخاري جلد 1 صفحہ 96-97 ، وشرح معاني الآثار جلد 3 صفحہ 13 ، وسنن البيهقي جلد 7 صفحہ 85 . ومهما يكن من أمر ترجيح هذه الطرق ، فان مدارها على حجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف مدلس . وقد روى الحديث من وجوه آخر لا تخلو من مقال عن محمد بن مسلمة عند أحمد رقم الحديث: 18010 ، وابن حبان رقم الحديث: 4042 ، والطبرانی جلد 19 صفحہ 225 ، والحاكم جلد 3 صفحہ 434 ، والخطيب في الأسماء المبهمة صفحہ 43-44 . وله شاهد عن أبي حميد الساعدي عند أحمد رقم الحديث: 23650 ، والبزار رقم الحديث: 3713-3714 . ومن حديث جابر بن عبد الله عند أحمد رقم الحديث: 14626 ، وأبي داؤد رقم الحديث: 2082 . ولأصل الحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم الحديث: 1424 .

ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنے گھر کی چھت سے ایک عورت کو دیکھ رہے تھے میں نے کہا: آپ نبی اکرم ﷺ کے صحابی ہو کر ایسا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے (حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ) نے کہا: میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا: جب اللہ عزوجل تم میں سے کسی کے دل میں عورت کے نکاح کا پیغام ڈالے تو اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَالِعُ امْرَأَةً مِنْ فَوْقِ إِجَارٍ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِ أَحَدِكُمْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

حضرت معقیب بن ابی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت معقیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے کنکریوں کو چھونے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا: ایک دفعہ (یا) فرمایا: اس کو چھوڑ دو۔

120- وَمُعَقِّبُ

بْنُ أَبِي فَاطِمَةَ

1283 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَقِّبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسْحِ الْخِصَاةِ فَقَالَ لِي: مَرَّةً أَوْ دَعُ

1283 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15548-23658-23659 ومسلم رقم الحديث: 546

وأبو داؤد رقم الحديث: 946 والطبرانی جلد 20 صفحہ 351 والبيهقي جلد 2 صفحہ 284 من طريق

هشام به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15550-23661 والبخاری رقم الحديث: 1207 ومسلم

رقم الحديث: 546 وابن ماجه رقم الحديث: 1026 والترمذی رقم الحديث: 380 والنسائی رقم

الحديث: 1191 والطبرانی جلد 20 صفحہ 350 والبيهقي جلد 2 صفحہ 284 وغيرهم من طرق عن

يحيى به . وقال الترمذی: حسن صحيح .

121- وَرُكَاَنَةُ

حضرت رکانہ بن عبد یزید

بْنُ عَبْدِ يَزِيدَ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1284 - حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
 قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّبَيْرُ بْنُ
 سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
 حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس کا نام سہیہ تھا
 میں نے اس کو طلاق بتہ دے دی پس میں رسول

1284 - اسنادہ ضعیف مضطرب . أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 342 والخطيب في الأسماء المبهمة
 صفحہ 113 من طريق المصنف وقال البيهقي: عبد الله بن علي الثاني هو عبد الله بن علي بن السائب
 وعبد الله بن علي الأول هو ابن ركانة بن عبد يزيد . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 5 صفحہ 65 والدارمي
 رقم الحديث: 2277 وأبو داؤد رقم الحديث: 2208، والترمذي رقم الحديث: 1177، وفي العليل
 الكبير صفحہ 171، وأبو يعلى رقم الحديث: 1537، والعقيلي جلد 2 صفحہ 89-90، وابن ماجه رقم
 الحديث: 2051، وابن حبان رقم الحديث: 4274، والطبراني رقم الحديث: 4612، وابن عدی
 جلد 3 صفحہ 1080، والدارقطني جلد 4 صفحہ 34، والبيهقي جلد 7 صفحہ 342 والخطيب في
 المبهمات صفحہ 112 من طرق عن جرير بن حازم، به . وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه الا من
 هذا الوجه . أخرجه الأول الحاكم جلد 2 صفحہ 199 من طريق جرير بن حازم، عن الزبير، عن عبد
 الله . وأخرج الثاني الدارقطني جلد 4 صفحہ 34 من طريق ابن المبارك، عن الزبير عن عبد الله .
 وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 2207، وابن قانع ومن طريقه الخطيب في المبهمات صفحہ 113،
 والدارقطني جلد 4 صفحہ 33 والبيهقي جلد 7 صفحہ 342، والخطيب في المبهمات صفحہ 113 من
 طريق عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع بن عجير، عن ركانة، كما في الاسناد الثاني . وروى عن
 عبد الله بن علي بن السائب، عن نافع، عن ركانة . أخرجه الشافعي في مسنده جلد 1 صفحہ 73، وأبو
 داؤد رقم الحديث: 2206، والعقيلي جلد 2 صفحہ 282، والدارقطني جلد 4 صفحہ 33، والحاكم
 جلد 2 صفحہ 199-200، وفي معرفة علوم الحديث صفحہ 175، والبيهقي جلد 7 صفحہ 342 . وروى
 عن عبد الله بن علي بن السائب، عن ركانة . أخرجه الطبراني رقم الحديث: 4613، والدارقطني
 جلد 4 صفحہ 34 .

جَدِّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَسَمِعْتُ شَيْخًا بِمَكَّةَ
فَقَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ
عُجَيْرٍ ، عَنْ رُكَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَزِيدَ ، قَالَ : كَانَتْ
عِنْدِي امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : سُهَيْةٌ فَطَلَّقْتُهَا الْبَتَّةَ فَجِئْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ ، إِنِّي طَلَّقْتُ سُهَيْةَ الْبَتَّةَ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ إِلَّا
وَاحِدَةً قَالَ : اللَّهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً ؟ قُلْتُ : اللَّهُ
مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً قَالَ : اللَّهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا
وَاحِدَةً ؟ قُلْتُ : اللَّهُ مَا أَرَدْتُ إِلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا
عَلَى عَلِيٍّ وَاحِدَةً

اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آیا تو میں نے عرض کی: یا رسول
اللہ! میں نے سہیہ کو طلاق دے دی اور اللہ کی قسم! میرا
ارادہ ایک طلاق کا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم!
تو نے ایک کا ارادہ کیا تھا؟ میں نے عرض کی: اللہ کی قسم!
میں نے ایک کا ارادہ کیا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی
قسم! تو نے ایک کا ارادہ کیا تھا؟ میں نے عرض کی: اللہ کی
قسم! میں نے ایک کا ارادہ کیا تھا، سو آپ نے مجھے وہ
(سہیہ) ایک طلاق دینے پر واپس کر دی۔

حضرت عبدالرحمن بن خباب

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبدالرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا، آپ نے
جنگ تبوک کے لیے مال دینے پر ابھارا، تو حضرت عثمان
بن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض
کی: میرے ذمہ ایک سواونٹ بمع سامان اور کجاوے اللہ
کی براہ میں۔ آپ ﷺ نے دوبارہ ابھارا، تو حضرت

122- عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنِ خَبَّابٍ

1285 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ : حَدَّثَنَا سَكْنُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي
هِشَامٍ ، عَنْ فَرْقِدِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
خَبَّابٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَضَّ عَلَى جَيْشِ الْعُسْرَةِ فَقَامَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
فَقَالَ : مِائَةٌ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ،

1285- اسنادہ ضعیف، لجهالة فرقده ابی طلحة . وأخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 78، وعبد بن حمید رقم

الحدیث: 311، والترمدی رقم الحدیث: 3700، والدولابی فی الکنی جلد 2 صفحہ 17، والخطیب فی

تلخیص المتشابه جلد 1 صفحہ 188 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث:

16742-16743، وابن ابی عاصم فی السنة رقم الحدیث: 1280، والقطیبی فی زوائدہ علی فضائل

الصحابیة رقم الحدیث: 822-823 من طرق عن سكن بن المغيرة، به .

عثمان رضی اللہ عنہ دوسری مرتبہ کھڑے ہوئے، عرض کیا: میرے ذمہ بمع ساز و سامان اور کجاوے کے دو سو اونٹ ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر آپ ﷺ نے تیسری مرتبہ ابھارا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے اور عرض کی: میرے ذمہ تین سو اونٹ ہیں بمع ساز و سامان اور کجاوے کے۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ منبر سے اترے اور آپ فرما رہے تھے: آئندہ عثمان کے اوپر کوئی گناہ نہیں وہ جو بھی عمل کرے یہ آپ نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا۔

ثُمَّ حَضَّ الثَّانِيَةَ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: مَا تَنَى بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ حَضَّ الثَّلَاثَةَ فَقَامَ عُثْمَانُ فَقَالَ: ثَلَاثِمِائَةَ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ عَنِ الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

حضرت عبید بن خالد

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت اشعث بن ابی الشعثاء اپنی پھوپھی سے وہ

123- وَعَبِيدٌ

بْنُ خَالِدٍ

1286- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1286- اسنادہ ضعیف، لجهالة رهم بنت الأسود عمه الأشعث . وأخرجه الترمذی فی السّمائل صفحہ 75 من طریق المصنف به . وأخرجه ابن سعد جلد 6 صفحہ 43، وأحمد فی العلل جلد 2 صفحہ 316، والبخاری فی التاريخ جلد 5 صفحہ 449، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 9682-9683، وأبو الشيخ فی أخلاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ 108، والخطیب فی الجامع لأخلاق الراوی رقم الحديث: 200، وفی الموضح جلد 1 صفحہ 446، وغيرهم من طرق عن شعبة به . ورواه سفیان وأبو عوانة وشيبان وعمار بن زريق كذلك عن أشعث به . أخرجه أحمد رقم الحديث: 23135، وفی العلل جلد 2 صفحہ 317، والبخاری فی التاريخ جلد 5 صفحہ 438، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 9684، وغيرهم . غير أن شيبان يقول: (حدثني عمتي عن عم أبي) . ويقول عمار بن زريق: (عن أشعث عن امرأة منهم عن عمها) . ورواه سليمان بن قرم فقال: عن أشعث عن عمته رهم، عن عبدة بن خلف . أخرجه أحمد رقم الحديث: 23136، وغلط ابن عبد البر فی الاستيعاب جلد 3 صفحہ 1031، وغيره سليمان بن قرم فی قوله: ابن خلف .

ان کے چچا سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں چلا جا رہا تھا اور میرے اوپر چادر تھی، میں اسے گھسیٹا چلا جا رہا تھا کہ ایک آدمی نے کہا: اپنے کپڑے کو اٹھا، بے شک یہ جسم کیلئے حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور اس میں کپڑے کی بقاء بھی ہے، میں نے دیکھا تو وہ نبی اکرم ﷺ تھے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ سفید و سیاہ رنگ والی چادر ہے، آپ نے فرمایا: تیرے لیے میری زندگی میں اسوہ ہے، سو میں نے دیکھا کہ آپ کا تہبند آپ کی نصف پنڈلی تک تھا۔

حضرت عبید بن خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دو آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا، تو ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا زندہ رہا، اس کے بعد وہ بھی مر گیا، آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اس کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کی بخشش فرمائے اور اس پر رحم فرمائے اور اس کو اپنے ساتھی سے ملا دے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ، عَنْ عَمَّتَيْهِ، عَنْ عَمَّتِهَا، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِي أَجْرُهَا فَقَالَ رَجُلٌ: ارْفَعْ ثَوْبَكَ فَإِنَّهُ اتَّقَى وَأَبْقَى فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ فَقَالَ: أَمَا لَكَ فِي أُسْوَةٍ؟ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ

1287 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرٍو بْنَ مَيْمُونٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبِيدَ بْنَ خَالِدٍ، يَقُولُ: أَخَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا وَبَقِيَ الْآخَرُ ثُمَّ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُلْتُمْ؟ قَالُوا: دَعَوْنَا اللَّهَ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ

1287 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 3 صفحہ 371 من طريق المصنف . وأخرجه ابن المبارك في

مسنده رقم الحديث: 79، وأحمد رقم الحديث: 16118-17950-17952، وأبو داؤد رقم

الحديث: 2524، والنسائي رقم الحديث: 1984، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني رقم

الحديث: 1394 من طرق عن شعبة به . ورواه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: 4358 من طريق زيد

بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة به 'وزاد: ففضل الذي مات على الذي قتل . وأحاديث الشهادة في

سبيل الله كثيرة وفضلها عال، ولا يعارضها هذا الحديث فله محمله، وانظر عون المعبود

جلد 7 صفحہ 199، وبذل المجهود جلد 12 صفحہ 10 .

فرمایا: اس کی نماز اس کی نماز کے بعد کہاں گئی اور اس کا عمل اس کے عمل کے بعد کہاں گیا؟ اس کے روزے اس کے روزوں کے بعد کہاں گئے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ان دونوں کے درمیان (درجات میں) زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے کیونکہ اس کی سند میرے حوالے سے ہے۔

بِصَاحِبِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَيْنَ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَأَيْنَ عَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ؟ وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَأَيْنَ صَوْمُهُ بَعْدَ صَوْمِهِ؟ وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَلَّذِي بَيْنَهُمَا أَبَعْدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ: فَأَعْجَبَنِي هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّهُ أُسْنِدِي

حضرت سوید بن قیس

124- وَسُوَيْدٌ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

بْنُ قَيْسٍ

حضرت سوید بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1288- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1288- حدیث صحیح . وفی اسنادہ هنا قیس بن الربیع، وهو ضعیف، لکن تابعہ الثوری، وهو ممن سمع سماکاً قبل الاختلاط . وأخرجه البيهقي جلد 6 صفحہ 33 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 19121، وفی العلل جلد 2 صفحہ 317، والدارمی رقم الحدیث: 2588، والبخاری فی التاریخ جلد 4 صفحہ 141، وأبو داؤد رقم الحدیث: 3336، وابن ماجه رقم الحدیث: 2220، والترمذی رقم الحدیث: 1305، والنسائی رقم الحدیث: 4606، وفی الکبریٰ رقم الحدیث: 9670، وابن حبان رقم الحدیث: 5147، والطبرانی رقم الحدیث: 6466، وأبو الشیخ فی أخلاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ 120، والحاکم جلد 2 صفحہ 30، والبیہقی جلد 6 صفحہ 32 من طریق الثوری، عن سماک بن حرب به . وقال الترمذی: حسن صحیح . وصححه الحاكم، وأقره الذهبي . وخالفهما شعبه كما سیاتی عند المصنف فی الحدیث التالی فرواه عن سماک عن أبی صفوان مالک بن عمیر، به . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 19122، وفی العلل جلد 2 صفحہ 317، والبخاری فی التاریخ جلد 4 صفحہ 142، وأبو داؤد رقم الحدیث: 3337، وابن ماجه رقم الحدیث: 2221، والنسائی رقم الحدیث: 4607، وفی الکبریٰ رقم الحدیث: 9672، والطبرانی رقم الحدیث: 7402، وأبو الشیخ صفحہ 120، والحاکم جلد 2 صفحہ 30، وغیرهم .

میں اور مخرفہ نے ہجر (علاقہ) سے کپڑے خریدے سو میں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے اس سے شلوار خریدی پھر ایک وزن کرنے والے نے اس کا وزن پیسوں کے بدلے کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو تول اور جھکتا ہوا تول۔

قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةٌ بَنَاءً مِنْ هَجَرَ فَبِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاوِيلَ وَتَمَّ وَزَانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زِنٌ وَأَرْجَحُ

حضرت مالک بن عمیر

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابوصفوان مالک بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے ہجرت سے پہلے ایک شلوار خریدی تین درہموں کے ساتھ تو آپ نے مجھے اس کی قیمت زیادہ دی۔

125- وَمَالِكُ

بْنُ عَمِيرٍ

1289 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَفْوَانَ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: بَعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهَجْرَةِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحُ

حضرت محمد بن حاطب

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت محمد بن حاطب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

126- وَمُحَمَّدُ

بْنُ حَاطِبٍ

1290 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1289 - اسنادہ مرجوح . وقد خولف فيه شعبة . أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 9671، والبخاري في معجمه كما في الإصابة جلد 5 صفحہ 741، والبيهقي جلد 6 صفحہ 33 من طريق المصنف به، وراجع تخريج الحديث السابق .

1290 - حديث صحيح . عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب (1/1812) الى المصنف . ورواه احمد

رقم الحديث: 15490-18307، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10863، وابن أبي الدنيا في

المرض والكفارات رقم الحديث: 192، والطبراني جلد 19 صفحہ 240 من طريق شعبة، به . وخالفه

زكريا بن أبي زائدة ومسعر واسرائيل وشريك، وغيرهم، عن سماك عن محمد بن حاطب به بلفظ:

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ، يَقُولُ: وَقَعْتُ
عَلَى يَدِي الْقِدْرُ فَأَخْتَرَقْتُ فَأَنْطَلَقْتُ بِى أُمِّى إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتْفَلُّ
عَلَيْهَا وَيَقُولُ: أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَأَحْسَبُهُ
قَالَ: وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِىَ

میرے ہاتھ پر ہانڈی گر گئی تو وہ جل گیا پس میری والدہ
مجھے رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئی تو آپ نے اس
پر تھکا را اور یہ دعا پڑھی: "أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ
وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِىَ"۔

حضرت ثعلبہ بن حکم لیشی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

127- وَثَعْلَبَةُ بْنُ

الْحَكَمِ اللَّيْثِيُّ

حضرت ثعلبہ بن حکم لیشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1291 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

..... فجعل يتقل ويتكلم بكلام ما أدرى ما هو، فسألت أمي بعد ذلك: ما كان يقول؟ قالت: كان
يقول..... فذكرت الحديث) وفي رواية اسرائيل عند أحمد: ولا أدرى ما يقول، أنا أصغر من ذلك، وفي
رواية شريك: فلما كان في امرأة عثمان قلت لأمي: من كان ذلك الرجل؟ قالت: رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم. فعاد الحديث إلى أم جميل أم محمد بن حاطب. أخرج أحاديث هؤلاء: أحمد رقم
الحديث: 15492-18302-18303، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10864-10865، وابن أبي
عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 782-3204، والطبراني جلد 19 صفحہ 240-241، وغيرهم.
ورواه عبد الرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب عن أبيه، عن جد أبيه محمد بن حاطب،
عن أمه أم جميل به بأطول من هذا، وجعله من مسند أم جميل صراحة. أخرج أحمد رقم
الحديث: 15491-27506، والبخاري في التاريخ جلد 1 صفحہ 17، وابن حبان رقم الحديث: 2977،
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 783-3205، والطبراني جلد 24 صفحہ 363،
وغيرهم.

1291- حديث صحيح. أخرج الطبراني رقم الحديث: 1375، وأبو نعيم في معرفة الصحابة جلد 3

صفحہ 255 من طريق المصنف. وأخرج البخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 173، والطبراني رقم

الحديث: 1375-1379، وأبو نعيم في المعرفة جلد 3 صفحہ 256، والحاكم جلد 2 صفحہ 134، وغيرهم.

دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَعْلَبَةَ بْنَ الْحَكَمِ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَبَتْ غَنَمٌ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأُكْفِنَتِ الْقُدُورُ

کہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے تو رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت میں لوٹی گئی بکری پکانے سے منع فرمایا تو ہانڈیاں اٹا دی گئیں۔

حضرت ابن لبید انصار کے ایک

128- وَابْنُ لَبِيدٍ

آدمی رضی اللہ عنہ کی حدیث

رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ

انصار کے ایک فرد حضرت ابن لبید رضی اللہ عنہ

1292- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

من طرق عن شعبة، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 18841، والبخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 173، وابن ماجه رقم الحديث: 3938، وابن حبان رقم الحديث: 5169، والطبراني رقم الحديث: 1371-1374-1376-1378-1380، وغيرهم من طرق عن سماك، به . وخالف أسباط بن نصر الجماعة، فرواه عن سماك، عن ثعلبة، عن ابن عباس . أخرجه البخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 173، والصفير جلد 1 صفحہ 171، والطبراني رقم الحديث: 10639، والحاكم جلد 2 صفحہ 135 . قال البخاري: لا يصح فيه ابن عباس . وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة، كما في العلل للرازي رقم الحديث: 2222 . وأخرجه الطبراني رقم الحديث: 1382 من طريق يزيد بن أبي زياد، عن ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

1292- اسنادہ منقطع، سالم بن ابی الجعد لم يسمع من زياد بن لبید، كما قال البخاري وغيره، وانظر التاريخ

الكبير جلد 3 صفحہ 344، والصفير جلد 1 صفحہ 41، والتهذيب جلد 3 صفحہ 433 . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17949، والطبراني رقم الحديث: 5292، والحاكم جلد 1 صفحہ 100 من طريق شعبة، به . وأخرجه أبو خيثمة في العلم رقم الحديث: 52، وأحمد رقم الحديث: 17508-17948، والبخاري في التاريخ جلد 3 صفحہ 344، وابن ماجه رقم الحديث: 4048، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 305، والطبراني رقم الحديث: 5290-5291، وغيرهم من طرق عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، به . وله شاهد من حديث عوف بن مالك عند أحمد رقم الحديث: 24036 .

فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ وقت علم جانے کا ہے یا یہ فرمایا: یہ وقت ہے علم کے ختم ہونے کا۔ حضرت ابن لبید رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیسے علم چلا جائے گا؟ حالانکہ ہمارے درمیان کتاب اللہ موجود ہے، ہم اسے اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھاتے ہیں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابن لبید! تیری ماں تجھ پر روئے! میں تو تجھے مدینہ میں یہود کا سب سے بڑا سمجھ دار آدمی سمجھتا ہوں، کیا یہود و نصاریٰ کو تورات و انجیل نہیں دی گئی، پھر انہوں نے ان سے کسی شی کا نفع نہیں لیا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ، سَمِعَ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْفَدِ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ لَبِيدٍ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا أَوْ أَنْ ذَهَابِ الْعِلْمِ أَوْ هَذَا أَوْ أَنْ انْقِطَاعِ الْعِلْمِ فَقَالَ ابْنُ لَبِيدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ نَعَلِمُهُ أَبْنَاءَنَا وَيَعَلِمُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثِكَلْتِكَ أُمَّكَ يَا ابْنَ لَبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَأَحْسَبُكَ أَعْقَلَ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوْ لَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَدْ أُوتُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ؟

حضرت ثابت بن ضحاک

رضی اللہ عنہ کی حدیث

129- ثابت

بْنُ الضَّحَّاكِ

حضرت ثابت بن ضحاک انصاری رضی اللہ عنہ

1293- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1293- حدیث صحیح . أخرجه أبو نعیم فی معرفة الصحابة جلد 3 صفحہ 225 والبیہقی جلد 10 صفحہ 30 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16439، ومسلم رقم الحدیث: 110، والترمذی رقم الحدیث: 1527، والطبرانی رقم الحدیث: 1332، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 3 صفحہ 75، وغيرهم من طریق هشام، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 15984، والنسائی رقم الحدیث: 3780-3822، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 1535، وابن الجارود رقم الحدیث: 924، وابن حبان رقم الحدیث: 4367، والطبرانی رقم الحدیث: 1331-1337، وغيرهم من طرق عن یحییٰ بن أبی کثیر، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 15972، والحمیدی رقم الحدیث: 850، وأحمد رقم الحدیث: 16439، والبخاری رقم الحدیث: 1363-6105-6652، ومسلم رقم الحدیث: 110، وابن ماجہ رقم الحدیث: 2098، والنسائی رقم الحدیث: 3779، وابن حبان رقم الحدیث: 4366، والطبرانی رقم الحدیث: 1324-1325-1330-1338، وأبو نعیم فی المعرفة جلد 3 صفحہ 226-227 .

بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مؤمن پر اس نذر کو پورا کرنا ضروری نہیں جس کا وہ مالک نہیں، اور مؤمن کا لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے، اور جس نے خودکشی کی، اس کو قیامت کے دن اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا، اور جس شخص نے غیر اسلام پر جھوٹی قسم اٹھائی، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کہا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُدَّ بِه يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ حَلَفَ بِمَلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ

حضرت مرہ بن کعب

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب بہزی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ ہم کو رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے حدیث سنائیں اللہ کے لیے، تجھے تیرے باپ کی قسم! اور ڈر! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جو مسلمان آدمی کسی مسلمان آدمی کو آزاد کرے، تو وہ اس کے لیے جہنم سے کفارہ بن جائے گا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی

130- مَرَّةٌ

بُنْ كَعْبٍ

1294 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرَّةٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ السَّمْطِ، قَالَ قِيلَ لِكَعْبِ بْنِ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّةَ بْنِ كَعْبِ الْبَهْرِيِّ: حَدَّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْدَرُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1294 - اسنادہ منقطع، سالم لم يسمع من شرحبيل بن السمط . وهذا الحديث واللذان بعده قد جاء وافي

سياق واحد عند بعض المخرجين، وسأخرجها كلها هنا . فأخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 272 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18090، وعبد بن حميد رقم الحديث: 372، والطحاوي جلد 1 صفحہ 323، والطبراني جلد 30 صفحہ 318، والحاكم جلد 1 صفحہ 328، والبيهقي جلد 3 صفحہ 355 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18091، وابن ماجه رقم الحديث: 1269، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 4883، وغيرهم من طريق عمرو بن مرة، به . وأخرجه ابن المبارك في مسنده رقم الحديث: 213 من طريق آخر عن شرحبيل، به .

ہڈیوں کو اس کی ہڈیوں کے برابر جہنم سے آزاد کرے گا، اور جو مسلمان دو مسلمان عورتوں کو آزاد کرے گا اس کے بدلے اللہ اس کی دو ہڈیوں کو اس کی دو ہڈیوں کے بدلے قیامت کے دن آزاد کرے گا، اور جو مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرے تو اللہ عزوجل اس کی ہر ہڈی کو اس عورت کی ہڈی کے بدلے آزاد کرے گا۔

يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا كَانَ فِكَائِكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَائِكُهُ مِنَ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْ عِظَامِهِمَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ، وَأَيُّمَا امْرَأَةً مُسْلِمَةً أَعْتَقَتِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فِكَائِكُهَا مِنَ النَّارِ تُجْزَى بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامِهَا

حضرت کعب بن مرہ یا مرہ بن کعب رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ مضر پر بددعا فرمائی، سو میں آپ ﷺ کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! بے شک اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو عطا کر دیا اور آپ کی دعا قبول کر لی اور بے شک آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سے ان کے لیے دعا کریں! تو آپ ﷺ نے دعا کی: "اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيءًا مَرِيءًا، طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِيٍّ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ" فرمایا کہ پس دوسرے جمعہ تک ہم پر بارش ہوئی۔

1295 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا، عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ السَّمْطِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ أَوْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ مَضَرَ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَرَكَ وَأَعْطَاكَ وَاسْتَجَابَ لَكَ وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهَ لَهُمْ قَالَ: فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيءًا مَرِيءًا، طَبَقًا غَدَقًا عَاجِلًا غَيْرَ رَائِيٍّ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ قَالَ: فَمَا كَانَتْ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى أَوْ نَحْوَهَا حَتَّى مُطِرْنَا

حضرت کعب بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1296 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1295 - اسنادہ منقطع کسابقہ . وهو جزء من الحديث السابق، وانظر الحديث الآتي . وللدعاء على مضر

شاهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود عند البخاري رقم الحديث: 1006-1007، ومن حديث أنس في الاستسقاء عند البخاري رقم الحديث: 1013، ومسلم رقم الحديث: 897، وفيه: أن السماء أمطرت في الجبال بعد دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

1296 - اسنادہ منقطع سالم لم يسمع من مرة بن كعب وهو واللذان قبله جاء وافي سياق واحد فانظر تخريجه

عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْفَرِ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَرْثَةَ، قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُكَ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ مَا يَخْطِرُ لَهُمْ بَعِيرٌ وَلَا يَتَزَوَّدُ لَهُمْ رَاعٌ

انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں اپنی قوم کے پاس سے آیا ہوں نہ ان کا کوئی اونٹ ہے اور نہ ان کے پاس زاوراہ۔

131- وَابِصَةُ

بْنِ مَعْبَدٍ

حضرت وابصہ بن معبد

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1297- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ سے روایت

فی الأول .

1297- حدیث صحیح . وقد اختلف على هلال بن يساف فيه ' فروى عنه ' عن عمرو بن راشد' عن وابصة' مباشرة . والوجهان الأولان محفوظان كما قال ابن حبان في الصحيح' وابن حزم في المحلى' وغيرهما . وكذلك الوجه الأخير ففيه: عن هلال أن زيادًا أخذ بيده فأوقفه على وابصة وقال: ان هذا حدثني..... فذكره . وانظر المحلى جلد 4 صفحہ 53' وتهذيب السنن لابن القيم جلد 1 صفحہ 337' والارواء جلد 2 صفحہ 323 . وقد أخرج الوجه الأول: الطحاوي جلد 1 صفحہ 393' والبيهقي جلد 3 صفحہ 104' والخطيب في المبهمات صفحہ 321 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18029-18034' وأبو داؤد رقم الحديث: 682' والترمذي رقم الحديث: 231' والطحاوي جلد 1 صفحہ 393' وابن حبان رقم الحديث: 2199' والطبراني جلد 22 صفحہ 140' وابن حزم في المحلى جلد 4 صفحہ 72' والبقوي في شرح السنة رقم الحديث: 824 من طرق عن شعبة به . وأخرجه ابن حبان رقم الحديث: 2198' والطبراني جلد 22 صفحہ 140-141 من طريق عمرو بن مرة به . وأخرج الوجه الثاني: الحميدي رقم الحديث: 884' وأحمد رقم الحديث: 18036' والدارمي رقم الحديث: 1289' والترمذي رقم الحديث: 230' والطحاوي جلد 1 صفحہ 393' وابن حبان رقم الحديث: 2200' والطبراني جلد 22 صفحہ 142' والبيهقي جلد 3 صفحہ 104-105 من طرق عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف' قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقعة فقام بي علي شيخ يقال له: وابصة بن معبد . فقال زياد: حدثني هذا الشيخ..... فذكره . وأخرجه الطبراني جلد 22

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ
 بَنَ يَسَافٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ رَاشِدٍ، عَنْ
 وَابِصَةَ بِنِ مَعْبَدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي الصَّفِّ وَحَدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ
 يُعِيدَ الصَّلَاةَ

ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اکیلا
 صف میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ
 اپنی نماز دوبارہ پڑھے۔

صفحہ 141-142، والبیہقی جلد 3 صفحہ 104 من طرق عن حصین بہ دون القصة . وأخرجه عبد
 الرزاق رقم الحدیث: 2482، وابن الجارود رقم الحدیث: 319، والطبرانی جلد 22 صفحہ 141 من
 طریق ہلال بہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 18032، والدارمی رقم الحدیث: 1290، وابن حبان رقم
 الحدیث: 2201، والطبرانی جلد 22 صفحہ 141-143، والبیہقی جلد 3 صفحہ 105 من طریق زیاد بہ .
 وأخرجه الوجه الثالث: ابن أبی شیبہ جلد 2 صفحہ 192، وابن ماجہ رقم الحدیث: 1004، والطبرانی
 جلد 22 صفحہ 141 من طریق حصین، عن ہلال، قال: أخذ زیاد بیدی، وأوقفنی علی وابصہ، فقال:
 فذکرہ . ولید فیہ: حدثنی هذا الشيخ، جعله من رواية هلال عن وابصه . وأخرجه الطبرانی
 جلد 22 صفحہ 142-143 من طریق حصین، عن ہلال، عن وابصہ بدون القصة . وأخرجه أحمد رقم
 الحدیث: 18033، والطبرانی جلد 22 صفحہ 143 من طریق ہلال بہ . وقد روى الحدیث أيضا من
 وجوه أخرى عن وابصہ بأسانید فیہا مقال . وانظر علل الرازی رقم الحدیث: 271-281-474، ومعجم
 الطبرانی جلد 22 صفحہ 144-145، وسنن البیہقی جلد 3 صفحہ 105 . وقد ضعف هذا الحدیث
 الشافعی والبخاری وابن عبد البر، ورجح أحمد وأبو حاتم فی العلل رقم الحدیث: 271 رواية عمرو بن
 مرة، بينما رجع الترمذی وغیرہ رواية حصین عن ہلال عن زیاد . ورجح بعضهم تعدد الوقائع، وانظر
 لمزید من البحث: فتح الباری لابن رجب جلد 7 صفحہ 127-131، ونصب الراية جلد 2 صفحہ 38،
 وتحفة المحتاج لابن الملتن جلد 1 صفحہ 461، وتهذیب سنن أبی داؤد لابن القیم جلد 1 صفحہ 336،
 وفتح الباری لابن حجر جلد 2 صفحہ 268 .

132- الْأَغْرُ رَجُلٌ

حضرت الاغر قبیلہ جہینہ کے

ایک آدمی کی حدیث

مِنْ جُهَيْنَةَ

حضرت الاغر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا: اے لوگو! اپنے رب سے توبہ کرو بے شک میں اللہ سے دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔

1298 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَرْثَةَ، سَمِعَ أَبَا بَرْدَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُقَالُ لَهُ الْأَغْرُ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوَبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

1298 - حدیث صحیح . أخرجه مسلم رقم الحديث: 2702، وأبو نعيم في معرفة الصحابة جلد 2 صفحہ 400 والبيهقي في الآداب رقم الحديث: 1165، وابن الأثير في أسد الغابة جلد 1 صفحہ 125 من طريق المصنف . وأخرجه ابن سعد جلد 6 صفحہ 49، وأحمد رقم الحديث: 17880-17883-18318، وفي الزهد صفحہ 39، والبخاری في الأدب المفرد رقم الحديث: 621، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10280-10281، وابن حبان رقم الحديث: 929، والطبراني رقم الحديث: 882 من طرق عن شعبة به وأخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 863، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10279، والطبراني رقم الحديث: 873، والخطيب جلد 5 صفحہ 220 من طريق مسعر، عن عمرو بن مرة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17881-17882-18317، ومسلم رقم الحديث: 2702، وأبو داؤد رقم الحديث: 1515، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10276-10277، وابن حبان رقم الحديث: 931، وحسين المروزي في زوائد علي زهد ابن المبارك رقم الحديث: 1140، والطبراني رقم الحديث: 888-889، والحاكم في معرفة علوم الحديث صفحہ 115، والبيهقي في الآداب رقم الحديث: 1166 من طريق ثابت البناني، عن أبي بردة، به .

133- سَالِمٌ

حضرت سالم بن عبید

بْنِ عَبِيدٍ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1299 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت خالد بن عرفجہ اشجعی کہتے ہیں کہ لوگ

1299- اسنادہ ضعیف . خالد بن عرفطة مجهول، وفي اسنادہ اختلاف علی منصور، فقد رواه ورقاء عنه وروايته عنه ضعيفة كما هنا، وأخرجه البخاري في التاريخ جلد 4 صفحہ 107، والطحاوي جلد 4 صفحہ 301، والخطيب في تلخيص المتشابه صفحہ 714 من طريق المصنف . وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 5032، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10059، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 1300، وابن قانع في معجمه جلد 1 صفحہ 283، من طرق عن ورقاء، به . ورواه جرير وأبو عوانة في رواية عنه واسرائيل والثوري من رواية أبي أحمد الزبيري عنه عن منصور، عن هلال بن يساف، عن سالم بن عبيد بلا واسطة . أخرجه البخاري في التاريخ جلد 4 صفحہ 106، وأبو داؤد رقم الحديث: 5031، والترمذي رقم الحديث: 2740، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10055، وابن حبان رقم الحديث: 599، والطبراني رقم الحديث: 6368، والحاكم جلد 4 صفحہ 267، وقال: الوهم في رواية جرير هذه ظاهر، فان هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره، وبينهما رجل مجهول . ورواه الثوري من طريق يحيى القطان وحسين بن حفص الأصبهاني وغيرهما وأبو عوانة من رواية يحيى بن اسحاق السيلحيني عنه عن منصور، عن هلال، عن رجل، عن سالم . أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 10056، والطبراني رقم الحديث: 6369، والحاكم جلد 4 صفحہ 267 . وأخرجه ابن أبي شيبة في المسند رقم الحديث: 624 من طريق زائدة، والطحاوي جلد 4 صفحہ 301 من طريق حبان بن هلال، عن أبي عوانة، ومن طريق قيس بن الربيع ثلاثتهم عن منصور، به، وفيه: رجل من أشجع . وأخرجه الحاكم جلد 4 صفحہ 267 من طريق زائدة، وفيه رجل من النخع . وأخرجه البخاري في التاريخ جلد 4 صفحہ 107 من طريق أبي عوانة، وفيه: رجل من آل عرفطة . ورواه معاوية بن هشام، عن الثوري، عن منصور، عن هلال، عن رجل عن خالد بن عرفجة، عن آخر، عن سالم أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 10058، ورواه يحيى القطان عن الثوري عن منصور عن هلال عن رجل من آل خالد بن عرفجة عن آخر عن سالم .

قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْفَجَةَ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كَانُوا يَسِيرُونَ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْجَعِيِّ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سَالِمٌ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ، ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ: لَعَلَّكَ كَرِهْتَ مَا قُلْتُ لَكَ؟ قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّكَ لَمْ تَكُنْ ذَكَرْتَ أُمِّي بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ فَقَالَ: إِنَّمَا أَحَدَيْتُكَ مَا شَهِدْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّكَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ وَلْيَقُلْ هُوَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ

حضرت سالم بن عبید اشجعی کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا: السلام علیکم! حضرت سالم رضی اللہ عنہ نے کہا: وعلیک وعلی اُمک! پھر وہ تھوڑی دیر چلتا رہا، پھر حضرت سالم نے اس آدمی سے کہا: ہو سکتا ہے کہ تو نے اسے ناپسند کیا ہو، جو میں نے تجھ کو کہا ہے؟ فرمایا: میں نے چاہا کہ میں تیری ماں کا اچھائی سے ذکر کروں، پس فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے حدیث بتاتا ہوں، ایک آدمی کو رسول اللہ ﷺ کے پاس چھینک آئی، تو اس نے کہا: السلام علیکم! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وعلیک وعلی اُمک! جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے: الحمد لله رب العالمین، یا الحمد لله علی کل حال، اور اس کا بھائی اسے جواباً کہے: یرحمک اللہ! اور وہ اس کے جواب میں کہے: ”یغفر اللہ لی ولکم“۔

حضرت قیس بن ابی غرزہ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس بازاروں میں تشریف

134- قیس بن

ابی غرزہ

1300 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

1300 - حدیث صحیح . أخرجه الطبرانی جلد 18 صفحہ 355 من طریق شعبة ، به . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 18490، وأبو داؤد رقم الحدیث: 3326، والترمذی رقم الحدیث: 1208، وابن ماجه رقم

الحدیث: 2145، والطبرانی جلد 18 صفحہ 355، والبیہقی جلد 5 صفحہ 265، وغيرهم من طرق عن

الأعمش ، به . وقال الترمذی: صحیح . وانظر تخريج الحدیث الآتی .

وَأَيْلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّوقِ وَنَحْنُ نَبِيعُ الْأَوْسَاقِ وَنَحْنُ نُسَمِّي السَّمَايِرَةَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ أَحْسَنَ مِمَّا سَمَّيْنَا بِهِ أَنْفُسَنَا

حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم سے فرمایا: اے تاجروں کے گروہ! تم کو بازار میں بے ہودہ گوئی اور قسم اٹھانی پڑتی ہیں، سو اس میں تم صدقہ یا صدقے کی طرح کسی شے کی آمیزش کر لیا کرو۔

1301 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ إِنَّهُ يُخَالِطُ سُوقَكُمْ هَذِهِ لَغْوٌ وَحَلِفٌ فَشُوبُوهُ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ صَدَقَةٍ

حضرت حرملة عنبری

رضی اللہ عنہ کی احادیث

135- حَرْمَلَةُ

الْعَنْبَرِيُّ

حضرت ضرغامہ بن علیہ بن حرملة العنبری رضی

1302 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1301 - حدیث صحیح . أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث صفحه 158 والبيهقي جلد 5 صفحه 266 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16182-16183 والطبراني جلد 18 صفحه 355 وابن عدی جلد 2 صفحه 814 والحاكم جلد 2 صفحه 65 وغيرهم من طريق عن شعبة ' به . وأخرجه مسدد وأحمد بن منيع في مسنديهما كما في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 1587-1589 والطبراني والحاكم في الموضوعين السابقين من طريق سفيان وغيره عن حبيب بن أبي ثابت ' به . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 438 وأحمد رقم الحديث: 16181 وأبو داؤد رقم الحديث: 3327 والترمذي رقم الحديث: 1208 والنسائي رقم الحديث: 4475 والطبراني جلد 18 صفحه 354-358 والحاكم جلد 2 صفحه 5 وغيرهم من طرق عن أبي وائل ' به .

1302 - اسنادہ ضعیف ' لجهالة ضرغامة وأبيه . وهذا الحديث والذي بعده حديث واحد ' وقد أخرجه ابن أبي

اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اپنے قبیلہ کی سواری میں پھر ہم نے آپ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی تو میں نے اپنے پہلو میں ایک شخص کی طرف دیکھا تو میں اس کو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں سکا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضِرْغَامَةُ بْنُ عَلِيَّةَ بْنِ حَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبٍ الْحَيِّ فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الَّذِي إِلَى جَنْبِي فَمَا أَكَادُ أَنْ أَعْرِفَهُ أَيُّ مِنَ الْغَلَسِ

1303 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ،

قَالَ: حَدَّثَنَا ضِرْغَامَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْحَيِّ فَلَمَّا أَرَدْتُ الرَّجُوعَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسٍ فَقُمْتَ مِنْهُمْ فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ فَاتِهِ، وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا تَكْرَهُ فَلَا تَأْتِهِ

حضرت ضرغامہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اپنے قبیلہ کی سواری میں جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی وصیت کریں! آپ نے فرمایا: اللہ سے ڈرا اور جب تو کسی مجلس میں ہو پھر تو اس مجلس سے اٹھے تو جو تو نے ان سے سنا ہے جو انہوں نے مجلس میں کہا اور تجھ کو پسند بھی ہے تو اس کو اپنا اور جب تو انہیں سنے جو انہوں نے کہا اور تو اس کو ناپسند کرتا ہو تو اس کو نہ اپنانا۔

عاصم فی الآحاد والمثانی رقم الحدیث: 1192، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 1 صفحہ 358 من طریق المصنف، وعند أبي نعیم الحدیث الثانی فقط. وأخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 50، وعبد بن حمید رقم الحدیث: 432، وابن أبي عاصم فی الآحاد والمثانی رقم الحدیث: 1191، والطبرانی رقم الحدیث: 3476 من طرق عن قررة، به. وأخرجه الطحاوی جلد 1 صفحہ 177 من طریق قررة، به. بالحدیث الأول. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 18742 من طریق قررة، بالحدیث الثانی فحسب. وانظر الاصابة جلد 2 صفحہ 51. وأخرجه البخاری فی الأدب المفرد رقم الحدیث: 222، وأبو نعیم جلد 1 صفحہ 359 من طریق آخر عن حرمله بمعناه.

1303 - اسنادہ ضعیف کسابقہ، وهو جزء منه.

136- جَابِرُ بْنُ سُلَيْمٍ

الْهَجِيمِيُّ

حضرت جابر بن سلیم ہجیمی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1304 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمِ الْهَجِيمِيِّ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي بُرْدَةٍ لَهُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى هُدَابِهَا عَلَى قَدَمَيْهِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوْصِنِي قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِيَّائِهِ الْمُسْتَسْقَى وَأَنْ تَلْقَى أَخَاكَ وَوَجْهَكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطًا، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ

حضرت جابر بن سلیم ہجیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ تک پہنچا اور آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے گویا کہ میں اب بھی آپ کے قدموں کی سرخی کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے وصیت کریں! آپ نے فرمایا: اللہ سے ڈرو! نیکی کی کسی شے کو حقیر نہ جاننا! اگرچہ تو اپنے بھائی کو اپنے پانی کے ڈول سے پلائے اور یہ کہ تو اپنے بھائی سے اس حالت میں ملے کہ تو خوش ہو اور اپنا تہبند لٹکانے سے بچ کیونکہ تہبند کا لٹکانا تکبر ہے، اگرچہ اس معاملہ میں کوئی

1304- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لجهالة قرّة بن موسى، ولكنه متابع، أخرجه ابن أبي عاصم

في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 1185، وابن قانع جلد 1 صفحہ 142 من طريق المصنف، وأخرجه

ابن سعد جلد 7 صفحہ 43، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 9692-9693، وابن حبان رقم

الحديث: 521 من طريق قرّة بن خالد به، ورواه كذلك عقيل بن طلحة السلمي وأبو تميمه الهجيمي

وعبد ربه الهجيمي وابن سيرين وغيرهم عن جاب بن سلیم به، أخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 43-44،

وأحمد رقم الحديث: 20651-20652-20655، وهناد في الزهد رقم الحديث: 841، وحسين

المروزي في زوائد الزهد على ابن المبارك رقم الحديث: 1017، والبخاري في التاريخ الصغير جلد 1

صفحہ 117-118، وأبو داؤد رقم الحديث: 4075، والترمذي رقم الحديث: 2721، والنسائي في

الكبرى رقم الحديث: 9694-9695-9699، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم الحديث:

807، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفحہ 109-113-241، والدولابي

جلد 1 صفحہ 22، وابن حبان رقم الحديث: 522، والحاكم جلد 4 صفحہ 186، وغيرهم، قال الترمذي:

حسن صحيح، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وانظر علل الرازي جلد 2 صفحہ 325.

تجھے گالی دے اور عار دلائے تو اس کی عار کی پروا نہ کر،
اس کو چھوڑ دے اس کو گناہ ہوگا اور تیرے لیے ثواب ہوگا
اور ہرگز کسی شی کو گالی نہ دے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
ﷺ کے اس فرمان کے بعد میں نے کبھی کسی جانور اور
انسان کو گالی نہیں دی۔

حضرت عسعس بن سلامہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عسعس بن سلامہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ نبی اکرم ﷺ ایک سفر میں تھے کہ آپ کے صحابہ
میں سے ایک آدمی گم ہو گئے، ان کو آپ کے پاس لایا
گیا، تو انہوں نے عرض کی: میرا ارادہ تھا کہ میں خلوت
میں اپنے رب کی عبادت کروں اور لوگوں سے جدا
رہوں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم ایسا نہ کرو اور تم
میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرے۔ یہ تین مرتبہ آپ نے
ارشاد فرمایا، مسلمانوں کو بعض جگہوں میں ایک گھڑی صبر
کرنا چالیس سال کی عبادت سے بہتر ہے اس عبادت
سے جو تنہائی میں کی جائے۔

الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلَا يُحِبُّهَا
اللَّهُ، وَإِنْ أَمْرٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِأَمْرٍ هُوَ فِيكَ فَلَا
تُعَيِّرْهُ بِأَمْرٍ هُوَ فِيهِ وَدَعُهُ يَكُونُ وَبِاللَّهِ عَلَيْهِ وَاجْرُهُ
لَكَ، وَلَا تَسُبَّنَّ شَيْءًا قَالَ: فَمَا سَبَّبْتُ بَعْدَ قَوْلِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّةً وَلَا إِنْسَانًا

137- عَسْعَسُ

بُنْ سَلَامَةَ

1305 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَزْرَقِيِّ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ
عَسْعَسِ بْنِ سَلَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَدَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَتَى
بِهِ فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَخْلُوَ بِعِبَادَةِ رَبِّي وَأَعْتَزِلَ
النَّاسَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا
تَفْعَلْهُ وَلَا يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ - قَالَهَا ثَلَاثًا - فَلَصَبْرٌ
سَاعَةً فِي بَعْضِ مَوَاطِنِ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ
أَرْبَعِينَ عَامًا خَالِيًا

1305- اسنادہ مرسل، عسعس بن سلامہ لم تثبت صحبته . كما سبق في الترجمة . والحديث أخرجه البيهقي

جلد 10 صفحہ 89 من طريق المصنف . وأخرجه الحارث في مسنده (619-بغية) عن روح بن عبادة

عن شعبة ' به . وللحديث شواهد، منها حديث ابن عمر، وانظر 2783، وحديث أبي أمامة عند أحمد

رقم الحديث: 22345، وحديث أبي هريرة عند الترمذی رقم الحديث: 1650 .

138- عَمْرُو

بْنُ حُرَيْثٍ

حضرت عمرو بن حرث

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1306 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيحٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِ إِذَا الشَّمْسُ
كُوِّرَتْ فَلَمَّا آتَى عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ (وَاللَّيْلِ إِذَا
عَسَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) (التكوير: 18) قُلْتُ
فِي نَفْسِي: مَا اللَّيْلُ إِذَا عَسَسَ وَالصُّبْحُ إِذَا
تَنَفَّسَ؟

حضرت عمرو بن حرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے نبی اکرم ﷺ کے پیچھے صبح کی نماز پڑھی تو
آپ نے (سورہ) ”إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ“ پڑھی
جب آپ اس آیت پر آئے ”وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ“ میں نے اپنے دل میں کہا:
”وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ“ کیا
چیز ہے؟-

139- قَيْسُ بْنُ

سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

حضرت قیس بن سعد بن عبادہ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

1307 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے

1306 - حدیث صحیح وهو مکرر .

1307 - حدیث صحیح . أخرجه الطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 2259 من طریق المصنف . وأخرجه

النسائی رقم الحدیث: 2505، وفی الکبریٰ رقم الحدیث: 2285-2842، والطحاوی جلد 2 صفحہ 75،

وفی المشکل رقم الحدیث: 2258-2260-2261، وأبو نعیم جلد 6 صفحہ 84 من طریق شعبۃ بہ .

وأخرجه الطبرانی جلد 18 صفحہ 349 من طریق ابن ابی لیلیٰ، عن الحکم بہ . وخالف سلمة بن کھیل

الحکم فی اسناده، فرواه عن القاسم بن مخیمرة، عن ابی عمار الهمدانی، عن قیس . أخرجه عبد

الرزاق رقم الحدیث: 5801، وابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 56، وأحمد رقم الحدیث: 23891-23894،

وابن ماجہ رقم الحدیث: 1828، والنسائی رقم الحدیث: 2506، وفی الکبریٰ رقم الحدیث: 2841،

وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 1434، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 2262، والطبرانی جلد 18

ہیں کہ ہم عاشوراء کا روزہ رکھتے اور ہم صدقہ فطرا ادا کرتے رمضان کے روزے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اور زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے تو جب ان دونوں کا حکم نازل ہوا تو ہمیں ان دونوں کا نہ حکم دیا اور نہ ان دونوں سے منع کیا گیا اور ہم ایسا کرتے تھے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبَّادَةَ، قَالَ: كُنَّا نَصُومُ عَاشُورَاءَ وَنُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْنَا صَوْمُ رَمَضَانَ وَالزَّكَاةُ فَلَمَّا نَزَلَا لَمْ نُؤْمَرْ بِهِمَا وَلَمْ نُنَّ عَنْهُمَا وَكُنَّا نَفْعَلُهُ

1308 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ آمَرَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي مُوسَى رَحِمَهُمَا اللَّهُ

حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما میں سے کسی کو بھی عاشوراء کے روزہ کا حکم دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔

حضرت ابو حمید الساعدی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

140- أَبُو حَمِيدٍ

السَّاعِدِيُّ

حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1309 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

صفحة 349 والبيهقي جلد 4 صفحه 159، وغيرهم من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، به . قال

النسائي: سلمة بن كهيل خالف الحكم في اسناده، والحكم أثبت من سلمة بن كهيل .

1308 - اسناده صحيح . عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 1129 الى المصنف . وقال: هذا اسناد

صحيح . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 7836، وابن أبي شيبة جلد 4 صفحه 56، والبخاري في

الجمعيات رقم الحديث: 2536، والبيهقي جلد 4 صفحه 286 من طرق عن أبي اسحاق، به . وأخرجه

ابن أبي شيبة جلد 4 صفحه 56 عن أبي الأحوص، عن أبي اسحاق، عن الحارث، عن علي وحده، وانظر

الحديث السابق .

1309 - حديث صحيح، وفي اسناد المصنف زمعة وابن فضالة، وهما يتعاضدان، وقد توبعا . وأخرجه

الحميدي رقم الحديث: 840، وأحمد رقم الحديث: 23646، والدارمي رقم الحديث: 1676-2496،

قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ. قَالَ: أَبُو دَاوُدَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ فَضَالَةَ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى عَمَلٍ - أَوْ قَالَ: عَلَى
الْصَّدَقَةِ - فَلَمَّا جَاءَ جَاءَ بِمَالَيْنِ فَقَالَ: هَذَا
مَالُكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ إِلَيَّ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ
رِجَالٍ نَبَعْتُهُمْ عَلَى بَعْضِ مَا وَلَّانَا اللَّهُ فَيَجِيءُ
بِمَالَيْنِ فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ
إِلَيَّ، أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ يَنْظُرُ

رسول اللہ ﷺ نے قبیلہ اسد کے ایک آدمی کو زکوٰۃ کا
عامل مقرر کیا، جب وہ آیا تو وہ دو مال لے کر آیا، اس نے
کہا: یہ آپ کا مال ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہیں، سو یہ
بات نبی اکرم ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ خطبہ دینے
کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا: اُن مردوں کا کیا
حال ہے جن کو ہم بھیجتے ہیں اُن کاموں پر جن کا اللہ نے
ہم کو ولی بنایا ہے، تو وہ دو مال لے کر آتا ہے اور کہتا ہے
کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا ہے، وہ اپنے باپ
یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھا رہتا کہ پھر دیکھے
کہ اس کے پاس ہدیہ آتا ہے یا نہیں! اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جو بھی آدمی
اللہ کے مال سے کوئی چیز بغیر حق کے لے، وہ قیامت کے

والبخاری رقم الحدیث: 925-2597-6636-7174، ومسلم رقم الحدیث: 1832، وأبو داؤد رقم
الحدیث: 2946، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2339، ووکیع فی أخبار القضاة جلد 1 صفحہ 57، والبیہقی
جلد 4 صفحہ 159 من طرق عن الزهري، به. وأخرجه الحميدي رقم الحدیث: 840، والبخاری رقم
الحدیث: 7197-6979-1500، ومسلم رقم الحدیث: 1832، وابن زنجويه فی الأموال رقم
الحدیث: 980، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2340، وابن حبان رقم الحدیث: 4515، والبیہقی
جلد 4 صفحہ 159 من طرق عن هشام بن عروة، به. وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 1832، وابن خزيمة
رقم الحدیث: 2382 من طریق أبي الزناد، عن عروة، به. ورواه اسماعيل بن عياش، عن يحيى بن
سعيد، عن عروة، به، بلفظ: هدايا العمال غلول. أخرجه أحمد رقم الحدیث: 23649، والبخاری
(1599-كشف) ووکیع فی أخبار القضاة جلد 1 صفحہ 59، وابن عدی جلد 1 صفحہ 295، والبیہقی
جلد 10 صفحہ 138. قال البزار: رواه اسماعيل بن عياش، فاخصره وأخطأ فيه، انما هو: عن الزهري،
عن عروة، عن أبي حميد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث رجلا على الصدقة. وانظر الفتح
جلد 15 صفحہ 221.

دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا، اگر وہ اونٹ ہوگا تو وہ اس کے اوپر بلبلا رہا ہوگا، اور اگر گائے ہوگی تو وہ ڈکار رہی ہوگی، اگر بکری ہوگی تو وہ آئے گی تو میاں ہی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے یہاں تک کہ میں نے آپ کی بغل کی سفیدی دیکھی، پھر آپ نے فرمایا: اے اللہ! کیا میں نے تیرا حکم پہنچا دیا! اے اللہ! گواہ رہنا۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا اور اپنے دونوں کانوں سے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد سنا، اس بات کے گواہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، نبی اکرم ﷺ کی موجودگی میں میرا گھٹنا زید بن ثابت کے گھٹنے کو چھو رہا تھا۔

أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ لَهَا خُورٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَتْ تَيَعَّرُ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ عُفْرَةَ ابْطِيهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ اللَّهُمَّ أَشْهَدُ قَالَ أَبُو حَمِيْدٍ بَصُرَ عَيْنَايَ وَسَمِعَ أُذُنِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالشَّاهِدُ عَلَى ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ تَحْكُ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

141- وَأَبُو سَيَّارَةَ

الْمُتَعَى

حضرت ابوسیارہ متعی
رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابوسیارہ متعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1310 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1310 - اسنادہ منقطع، سليمان بن موسى لم يسمع من أبي سيارة . وأخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 126 من طريق المصنف . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 6973، وأبو عبيد في الأموال رقم الحديث: 1488، وابن سعد جلد 7 صفحہ 418، وابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 141، وأحمد رقم الحديث: 10089، وابن زنجويه في الأموال رقم الحديث: 2016، وابن ماجه رقم الحديث: 1832، وأبو يعلى كما في نصب الراية جلد 2 صفحہ 391، والطبراني جلد 22 صفحہ 351-352، وغيرهم من طرق عن سعيد بن عبد العزيز، به . قال البخاري وأبو حاتم وغيرهما: لم يلق سليمان بن موسى أباً سيارة، والحديث مرسل . وقال الترمذي: وليس زكاة العسل شيء يصح . وانظر العلل الكبير للترمذي

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي سَيَّارَةَ الْمُتَعَبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي نَخْلًا قَالَ: آدِ الْعُشْرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، احْمِ لِي جَبَلَهَا فَحَمَاهُ

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرا کھجوروں کا باغ ہے آپ ﷺ نے فرمایا: عشر ادا کر، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس پہاڑ کو میرے لیے خاص کر دیں! تو آپ نے اس پہاڑ کو میرے لیے خاص کر دیا۔

حضرت عمیر مولیٰ ابی اللحم

رضی اللہ عنہ کی حدیث

142- عُمَيْرٌ مَوْلَى

أَبِي اللَّحْمِ

حضرت عمیر مولیٰ ابی اللحم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1311 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

صفحة 102، ونصب الراية جلد 2 صفحہ 391، والتلخیص الحبر جلد 2 صفحہ 167-168، وجنة المرتاب صفحہ 319، والتحدیث صفحہ 91. وله شاهد عن عبد الله بن عمرو عند أبي داؤد رقم الحدیث: 1600، والنسائی رقم الحدیث: 2498، والبيهقی جلد 4 صفحہ 126، وعن أبي هريرة عند عبد الرزاق رقم الحدیث: 6972، والبيهقی جلد 4 صفحہ 126.

1311- حدیث صحیح. وروایة ابن المبارك عن ابن لهيعة قديمة صحيحة، وقد توبع ابن لهيعة عليه. وأخرجه

أبو نعيم في معرفة الصحابة جلد 3 صفحہ 43 من طريق المصنف. وأخرجه الطبرانی جلد 17 صفحہ 68

من طريق عبد الله بن لهيعة، به. ورواه بشر بن المفضل وحفص بن غياث وعبد الرحمن بن اسحاق

وهشام بن سعد وغيرهم، عن محمد بن زيد بن قنفذ، به. أخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 9454،

وأبو عبيد في الأموال رقم الحدیث: 882، وابن أبي شيبة جلد 12 صفحہ 406، وأحمد رقم الحدیث:

21990-21991، وابن زنجويه في الأموال رقم الحدیث: 889، والدارمی رقم الحدیث: 2478، وأبو

داؤد رقم الحدیث: 2730، والترمذی رقم الحدیث: 1557، وابن ماجه رقم الحدیث: 2855، وابن أبي

عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحدیث: 2671-2672، وابن الجارود رقم الحدیث: 1087، وابن حبان

رقم الحدیث: 1669، والطبرانی جلد 17 صفحہ 67، والحاكم جلد 2 صفحہ 131، والبيهقی جلد 6

صفحہ 332، وغيرهم. وقال الترمذی: حسن صحيح. وصححه الحاكم، وقال البيهقی: أخرج مسلم

بهذا الاسناد حديثًا آخر في الزكاة، وهذا المتن أيضًا صحيح على شرطه. وفي صحيح مسلم رقم

اور وہ قبیلہ غفار سے تھے فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے ساتھ خیبر میں تھا، پس جب خیبر فتح ہوا، تو میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ میرے لیے تقسیم کر دیں، تو آپ نے میرے لیے تقسیم کرنے سے انکار کر دیا، اور مجھے آپ نے لپ بھر کر سامان دیا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ، مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ وَهُوَ بَطْنٌ مِنْ غِفَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ سَيِّدِي خَيْبَرَ فَلَمَّا فُتِحَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لِي فَاَبَى أَنْ يَقْسِمَ لِي وَأَعْطَانِي مِنْ خُرَّتِي الْمَتَاعِ

حضرت ابوالی العشراء رضی اللہ عنہ کی حدیث

143- أَبُو أَبِي الْعُشْرَاءِ

حضرت ابوالعشراء رضی اللہ عنہ اپنے والد سے

1312 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي الْعُشْرَاءِ،

الحدیث: 1812 أن ابن عباس سئل عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ فقال: ليس

لهما شيء الا أن يحذيا . وانظر سنن البيهقي جلد 6 صفحہ 347 .

1312 - أسناده ضعيف لجهالة أبي العشراء قال البخاري في التاريخ: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر .

والحدیث أخرجه ابن أبي شيبة جلد 5 صفحہ 393، وأحمد رقم الحدیث: 18967-18970، وعبد بن

حميد رقم الحدیث: 473، والدارمي رقم الحدیث: 1978، والبخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 22، وأبو

داؤد رقم الحدیث: 2825، والترمذی رقم الحدیث: 1481، والنسائي رقم الحدیث: 4420، وابن ماجه

رقم الحدیث: 3184، وأبو يعلى رقم الحدیث: 1503-1504-6943، وابن الجارود رقم الحدیث: 901،

وتمام الرازی في جزء حدیث أبي العشراء (1-26)، وأبو نعيم في الحلية جلد 6 صفحہ 257-341،

والبيهقي جلد 9 صفحہ 246 من طرق عن حماد بن سلمة ' به . قال الترمذی: حدیث غريب لا نعرفه الا

من حدیث حماد بن سلمة . وأخرجه تمام (27-29) من طريقين ضعيفين عن أبي العشراء ' به . وانظر

علل الترمذی الكبير صفحہ 242، ونصب الراية جلد 4 صفحہ 202، والتلخيص الحبير

جلد 4 صفحہ 134، وتهذيب الكمال جلد 34 صفحہ 86 .

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ
الذَّكَاءُ إِلَّا فِي اللَّبَّةِ أَوْ الْحَلْقِ؟ قَالَ: لَوْ طَعَنْتَ فِي
فَحِيدِهَا لَأَجْزَأَ عَنْكَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي فِي
الْمُتَرَدِّيَةِ فِي الْبَيْرِ

کی: یا رسول اللہ! اگر میں جانور کو حلق اور لبہ کے درمیان
ذبح نہ کر سکوں تو (کیا حکم ہے)؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
اگر تو اس کی ران پر مارے تو تیرے لیے کافی ہے۔ امام
ابوداؤد نے فرمایا: مراد یہ ہے کہ جو کنویں میں گر گیا
ہے (ایسے جانور کی ران پر مارنا)۔

حضرت عمرو بن خارجہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

144- وَعَمْرُو

بْنُ خَارِجَةَ

حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1313 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1313- حدیث حسن۔ واسنادہ هنا ضعيف، لانقطاعه بين شهر بن حوشب وعمرو بن خارجة. وقد خالف
مسلم بن ابراهيم المصنف فيه، فرواه عن هشام، به، بزيادة عبد الرحمن بن غنم. أخرجه الدارمي رقم
الحدیث: 2532-3262، والطبرانی جلد 17 صفحہ 32، وانظر التحفة جلد 8 صفحہ 151. وأخرجه
بالوجه الأول كرواية المصنف: أحمد رقم الحدیث: 17701-18107، والطبرانی جلد 17 صفحہ 35
من طريق همام، عن قتادة، به. وانظر التحفة جلد 8 صفحہ 151. ورواه بالوجه الثاني: شعبة وأبو
عوانة وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهم، عن قتادة، به، بزيادة عبد الرحمن بن غنم في اسناده.
أخرجه أحمد رقم الحدیث: 17707-18106-18108، والترمذی رقم الحدیث: 2121، والنسائی رقم
الحدیث: 3643-3644، وابن ماجه رقم الحدیث: 2712، وأبو يعلى رقم الحدیث: 1508، والطبرانی
جلد 17 صفحہ 33، والدارقطنی جلد 4 صفحہ 152، والبيهقي جلد 6 صفحہ 264. وانظر التحفة جلد 8
صفحہ 151. ورواه هشيم، عن طلحة أبي محمد الباهلي، عن قتادة، واختلف عنه، فرواه سعيد ابن
منصور عنه في السنن جلد 1 صفحہ 150، كرواية همام. ورواه زحمويه، عن هشيم عند بحثل في
تاريخ واسط صفحہ 116، والطبرانی جلد 17 صفحہ 34، كرواية الجماعة عن قتادة. ورواه مطر الوراق،
واختلف عليه، فرواه ابن أبي عروبة، عنه، كرواية الجماعة عن قتادة. أخرجه أحمد رقم الحدیث:
18112م، وانظر التحفة جلد 8 صفحہ 151. ورواه معمر عنه، كرواية همام. أخرجه عبد الرزاق رقم
الحدیث: 16376. ورواه اسماعيل بن أبي خالد، عن قتادة، عن عمرو بن خارجة، فلم يذكر شهراً ولا

میں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کی ٹھوڑی کے نیچے تھا اور وہ جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے دونوں کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا، میں نے آپ ﷺ سے سنا، آپ فرما رہے تھے: بے شک اللہ عزوجل نے ہر حق والے کا حق مقرر کر دیا ہے وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے اور بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی یا غلام نے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی تو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، قَالَ: إِنِّي لَتَحْتَ جِرَانِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهَا لَتَقْصَعُ بِجِرَّةٍ وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّْ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا تَجُوزُ لِرِوَاثٍ وَصِيَّةٌ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

حضرت خزیمہ بن ثابت

رضی اللہ عنہ کی احادیث

145- خُزَيْمَةُ

بُنْ ثَابِتٍ

1314 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ

ابن غنم - أخرجه النسائي رقم الحديث: 3645، والطبراني جلد 17 صفحہ 35. وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه رقم الحديث: 817: عن عبد الرحمن بن غنم أصح. وأخرج عبد الرزاق رقم الحديث: 16307 عن سفيان، عن ليث، عن شهر، قال: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17699 عن عبد الرزاق، به، وزاد: وعن ابن أبي ليلي، عن عمرو بن خارجة.

1314- حديث صحيح، واسناد المصنف منقطع، ابراهيم التيمي لم يسمع من أبي عبد الله الجدلي. وقد اختلف في اسناد هذا الحديث على أوجه عدة، فروى عن ابراهيم التيمي، كما هنا. وروى عنه، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمه بن ثابت. وروى عنه، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمه. وروى عنه، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمه. وروى عنه، عن الحارث، عن ابن مسعود وعن عمر، موقوفاً. ورواه ابراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي، عن

قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُسَافِرِ الْمَسْحَ ثَلَاثًا وَلَوْ اسْتَزَدْنَا لَزَادَنَا

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مسافر کے لیے تین دن موزوں پر مسح کرنے کی مدت مقرر فرمائی اور اگر ہم زیادہ مدت چاہتے تو آپ ہمارے لیے زیادہ کر دیتے۔

خزیمہ وهو الحدیث الآتی والنخعی انما أخذہ من التیمی، کما سیأتی. وأصح هذه الأوجه هو الوجه الثاني من رواية التیمی، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمه. وقد صححه أبو زرعة كما في علل ابن أبي حاتم رقم الحديث: 31، وصححه كذلك الترمذی. أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 3756 من طريق أبي الأحوص سلام، به. وقال: أسقط أبو الأحوص من الاسناد عمرو بن ميمون. ورواه ابن عيينة وزائدة وجريير وغيرهم، عن منصور، عن ابراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن أبي عبد الله الجدلي، به. أخرجه الحميدي رقم الحديث: 434، وأحمد رقم الحديث: 21908، والترمذی في العلل الكبير صفحہ 53، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 262، والطحاوی جلد 1 صفحہ 81، وابن حبان رقم الحديث: 1332، والطبرانی رقم الحديث: 3754-3755-3757، والبيهقي جلد 1 صفحہ 277، وغيرهم. ورواه سعيد بن مسروق الثوري، عن ابراهيم التيمي، به، كرواية زائدة عن منصور. أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 790، والحميدي رقم الحديث: 435، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 177، وأحمد رقم الحديث: 21920-21931، والترمذی رقم الحديث: 95، وابن حبان رقم الحديث: 1329-1330-1333، والطبرانی رقم الحديث: 3749-3753، والبيهقي جلد 1 صفحہ 377، والخطيب جلد 2 صفحہ 50. ورواه الحسن بن عبيد الله، عن ابراهيم، به مثله. أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 3758، والبيهقي جلد 1 صفحہ 277. وروى عن ابراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمه باسقاط أبي عبد الله الجدلي. أخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 553. وروى عن التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عمرو بن ميمون، عن خزيمه. أخرجه أحمد رقم الحديث: 21902، وابن ماجه رقم الحديث: 554، والطبرانی رقم الحديث: 3759. وروى عن التيمي، عن الحارث، عن ابن مسعود، عن عمر. أخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 276-288. وروى من وجه لا يصح عن الشعبي، عن أبي عبد الله الجدلي، به. أخرجه الترمذی في العلل الكبير صفحہ 54، والطبرانی رقم الحديث: 3761.

1315 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ
اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ: لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ

حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نبی
اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
موزوں پر مسح کی مدت مقیم کے لیے ایک دن اور ایک
رات ہے اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں
ہیں۔

1315- حدیث صحیح . واسنادہ هنا منقطع كما تقدم بيانه في الحديث السابق . وأخرجه الطحاوی
جلد 1 صفحہ 81، والبيهقی جلد 1 صفحہ 278 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 21924، وأبو داؤد رقم الحديث: 157، وابن الجارود رقم الحديث: 86، والبخاری في
الجمعيات رقم الحديث: 181، والطحاوی جلد 1 صفحہ 82، والطبرانی رقم الحديث: 3763، وابن
عدي جلد 2 صفحہ 656 من طريق شعبة، عن الحكم وحماد، به . وأخرجه الطحاوی جلد 1 صفحہ 81
من طريق شعبة، عن الحكم وحده به . وأخرجه الطبرانی رقم الحديث: 3890-3892 من طريق
الحكم، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 791، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 177، وأحمد رقم
الحديث: 21900-21918، والطحاوی جلد 1 صفحہ 81-82، والطبرانی رقم الحديث: 3764-3780،
والخطيب جلد 8 صفحہ 342 من طرق عن حماد، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 21911، والطبرانی
رقم الحديث: 3789 من طريق سفيان، عن حماد ومنصور، عن ابراهيم النخعي، به . وقال أحمد كما
عند الطبرانی: هذا خطأ . قال الطبرانی: أراد أحمد بن حنبل أنه خطأ حديث منصور، عن ابراهيم، عن
أبي عبد الله الجدلي، والصواب من حديث منصور: حديث عمرو بن ميمون . يعني حديث منصور،
عن ابراهيم التيمي، عن عمرو بن ميمون . وأخرج الترمذی رقم الحديث: 96 وفي العلل الكبير
صفحہ 53، والبيهقی جلد 1 صفحہ 277، وغهرهما من طريق زائدة عن منصور قال: كنا في حجرة
ابراهيم النخعي، ومعنا ابراهيم التيمي، فذكرنا المسح على الخفين، فقال ابراهيم التيمي: حدثنا عمرو
بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي..... وأخرجه أحمد رقم الحديث: 21919-21930، والطحاوی
جلد 1 صفحہ 82، والطبرانی رقم الحديث: 3781-3788 من طرق عن أبي معشر وغيره، عن ابراهيم
النخعي، به .

146- ثَابِتٌ

بْنُ وَدِيعَةَ

حضرت ثابت بن ودیعہ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

1316 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ،
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ،
قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبِّ
فَقَالَ: أُمَّةٌ مُسِيخَتْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

حضرت ثابت بن ودیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس گوہ لائی گئی تو آپ
ﷺ نے فرمایا: یہ ایک امت تھی جو مسخ کی گئی اور اللہ
ہی بہتر جانتا ہے۔

1317 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عامر بن سعد بجلی فرماتے ہیں کہ میں

1316- حدیث صحیح . وقد اختلف على زيد بن وهب في هذا الحديث على اوجه ' فروى عنه كما هنا .

وروى عنه ' عن ثابت بن ودیعة . مباشرة وهو الحديث بعد الآتی وروی عنه ' عن عبد الرحمن بن

حسنة . قال البخاری فی التاریخ جلد 2 صفحہ 171: حدیث ثابت أصح ' وفي نفس الحديث نظر .

وصححه الحافظ فی الفتح جلد 9 صفحہ 663 . وقد أخرجه الطحاوی جلد 4 صفحہ 198 من طریق

المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 79 ' وأحمد رقم الحديث: 17961 ' والدارمی رقم

الحديث: 2022 ' والبخاری فی التاریخ جلد 2 صفحہ 171 ' والنسائی رقم الحديث: 4333 ' والفسوی

فی المعرفة جلد 1 صفحہ 323 ' والطحاوی جلد 4 صفحہ 198 ' والطبرانی رقم الحديث: 1364-1363 '

وأبو نعیم فی معرفة الصحابة جلد 3 صفحہ 231-232 ' والبيهقي جلد 9 صفحہ 325 من طرق عن شعبة '

به . ورواه يزيد بن أبي زياد وحصين بن عبد الرحمن وعدی بن ثابت ' عن زيد بن وهب عن ثابت بن

ودیعة ' وسيأتي من هذا الوجه فی الحديث بعد التالي ' فانظر تخريجه . ورواه الأعمش ' عن زيد بن

وهب ' عن عبد الرحمن بن حسنة ' عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . أخرجه ابن أبي شيبة

جلد 8 صفحہ 78 ' وأحمد رقم الحديث: 17792 ' والبزار (1217 - كشف) ' والطحاوی جلد 4

صفحہ 197 ' وابن حبان رقم الحديث: 5266 ' والبيهقي جلد 9 صفحہ 325 من طريق الأعمش ' به .

1317- حدیث صحیح . وعامر الجلی ثقة من كبار التابعين ' خرج له مسلم ' وصحح له الترمذی ' ووثقه ابن

حبان . والحديث أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 289 من طريق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ
الْبَجَلِيِّ، يَقُولُ: شَهِدْتُ ثَابِتَ بْنَ وَدِيعَةَ وَقَرظَةَ بْنَ
كَعْبِ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا غِنَاءٌ فَقُلْتُ لَهُمَا
فِي ذَلِكَ فَقَالَا: إِنَّهُ رُخِصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ،
وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي غَيْرِ نِيَاحَةٍ

حضرت ثابت بن ودیعہ اور حضرت قرظہ بن کعب
انصاری رضی اللہ عنہما کی شادی میں موجود تھا کہ گانا
شروع ہو گیا، میں نے ان مغنوں سے اس بارے بات
کی تو انہوں نے فرمایا کہ شادی میں غناء کی اجازت دی
گئی ہے اور میت پر نوحہ کے بغیر رونے کی اجازت دی
گئی ہے۔

1318 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ

حضرت ثابت بن ودیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک دیہاتی گوہ لے کر

جلد 4 صفحہ 193، والحاکم جلد 2 صفحہ 284 من طریق شعبہ بہ . وصححه الحاكم وأقره الذهبي
وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 4 صفحہ 192، والنسائي رقم الحديث: 3383، والطبراني
جلد 17 صفحہ 247، والحاکم جلد 2 صفحہ 184، والبيهقي جلد 7 صفحہ 289، وغيرهم من طريق
اسرائيل وشريك، عن أبي اسحاق، به . ولم يذكروا فيه ثابت بن وديعه . وللحديث شواهد في اللهو
وضرب الدف عند النكاح عند البخاري من حديث عائشة رقم الحديث: 5162 . وفي البكاء على
الميت حديث أسامة بن زيد وأنس بن مالك وغيرهما عند البخاري رقم الحديث: 1285 .

1318- حديث صحيح، واسناد المصنف ضعيف، لضعف يزيد بن أبي زياد، ولكنه متابع . وأخرجه أبو نعيم في
معرفة الصحابة جلد 3 صفحہ 233 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 23363
والبخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 171، والنسائي رقم الحديث: 4333، والطحاوي جلد 4 صفحہ 198
والطبراني رقم الحديث: 1365 من طريق شعبه، عن عدی بن ثابت، عن زيد بن وهب، به . وأخرجه
أحمد رقم الحديث: 17960، والبخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 170، وأبو داؤد رقم الحديث: 3795
والنسائي رقم الحديث: 4332، وابن ماجه رقم الحديث: 3238، والطحاوي جلد 2 صفحہ 197
والطبراني رقم الحديث: 1367 من طرق عن حصين بن عبدالرحمن، عن زيد، به . وروى عن حصين،
عن زيد بن وهب، عن حذيفة . أخرجه أحمد رقم الحديث: 23363، والبخاري (1215-كشف) . وقال:
هكذا رواه حصين عن زيد . وخالفه الأعمش والحكم عن عتيبة وعدی بن ثابت، خالف كل واحد
منهم صاحبه .

آیا تو اس نے آپ کے سامنے رکھ دی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ ایک امت تھی جس کو مسخ کیا گیا اور میں نہیں جانتا شاید کہ یہ اسی سے ہے۔

بْن وَهَبِ الْجُهَنِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبِّ فَوْضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّةٌ مُسِيخَتْ وَمَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مِنْهُ

حضرت ہشام بن عامر

147- ہشام

رضی اللہ عنہ کی حدیث

بْنِ عَامِرٍ

حضرت ہشام بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کے صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن تک چھوڑے رکھے کیونکہ دونوں حق سے دور رہیں گے جب تک دونوں اس حالت میں رہیں گے ان دونوں میں سے جو پہل کرے گا تو یہ پہل کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور اگر وہ اس کو سلام کرے اور اس کا سلام قبول نہ کرے تو اس کے سلام کا جواب فرشتے دیں گے اور دوسرے جواب نہ دینے والے کا جواب شیطان دے گا سو اگر دونوں

1319 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشِكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صِرَامِهِمَا وَإِنْ أَوَّلَهُمَا فَيءٌ أَيْ كُونَ سَبْقُهُ بِالْفِيءِ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخِرِ شَيْطَانٌ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ

1319- حدیث صحیح . أخرجه البغوي في الجعديات رقم الحديث: 1537، والخطيب في تلخيص المتشابه جلد 2 صفحہ 619 من طريق المصنف . وأخرجه ابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 784، وفي المسند رقم الحديث: 24، وأحمد رقم الحديث: 16301، وأبو يعلى كما في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 4023، وابن حبان رقم الحديث: 5664، والطبراني جلد 22 صفحہ 175 من طريق شعبة به . وأخرجه مسدد، وابن أبي شيبة في مسنديهما كما في الاتحاف رقم الحديث: 4020-4021، والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 402-407، والحاثر في مسنده (873-بغية) والطبراني جلد 22 صفحہ 175، وأبو الشيخ في التوبيخ رقم الحديث: 46 من طريق يزيد الرشك به .

يَدْخُلَا الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ: لَنْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ

ناراضگی کی حالت میں مر گئے تو دونوں جنت میں داخل نہیں ہوں گے یا یہ فرمایا کہ دونوں جنت میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔

148- عَرَفَجَةٌ

حضرت عرفجہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

1320 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عرفجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا کہ عنقریب فسادات ہوں گے پس جو شخص اس امت کے معاملات میں فتنہ ڈالے اور وہ متحد ہوں تو ان کی گردن تلوار سے اڑا دو خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ عَرَفَجَةَ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهَا سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوا رَأْسَهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّا مَنْ كَانَ

149- الْمِنْهَالُ

حضرت منہال رضی اللہ عنہ کی حدیث

1321 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عبدالملک بن منہال اپنے والد سے

1320- حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 168 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20292، ومسلم رقم الحديث: 1852، وأبو داؤد رقم الحديث: 4762، والنسائي رقم الحديث: 4034، والطبراني جلد 17 صفحہ 143 من طريق شعبة وحنده به . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 1825 من طريق أبي عوانة وحنده به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 19021، ومسلم رقم الحديث: 1852، والنسائي رقم الحديث: 4032، وابن حبان رقم الحديث: 4577، والطبراني جلد 17 صفحہ 142-144، والحاكم جلد 2 صفحہ 156، وغيرهم من طرق عن زياد بن علقاة، به . وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 1852، والطبراني جلد 17 صفحہ 145، وغيره من طريق أبي يعفور، عن عرفجة . وأخرجه الطبراني جلد 17 صفحہ 144-145 من طرق عن عرفجة، به .

1321- اسنادہ ضعیف . وقد أخطأ فيه شعبة كما سبق، وعبد الملك بن المنهال إنما هو عبد الملك بن قتادة، وهو مجهول . والحديث أخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 43 من المصنف . وأخرجه أحمد رقم

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ،
 قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ الْمُنْهَالِ، عَنْ أَبِيهِ،
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِصِيَامِ
 الْبَيْضِ وَيَقُولُ: هُنَّ صِيَامُ الدَّهْرِ

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ ایامِ بیض کے
 روزے رکھنے کا حکم دیتے اور آپ فرماتے: یہ صیام
 الدهر (ہمیشہ کے روزہ کی طرح) کے روزے ہیں۔

حضرت معاذ بن عفراء

150- مُعَاذُ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

ابن عفراء

حضرت نصر بن عبد الرحمن اپنے دادا سے روایت

1322 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحدیث: 20336 والنسائی رقم الحدیث: 2429 وابن ماجه رقم الحدیث: 1707 وابن حبان رقم
 الحدیث: 3651 والطبرانی جلد 19 صفحہ 16 والبیہقی جلد 4 صفحہ 294 من طرق عن شعبة 'به' مثل
 رواية المصنف . وكذا رواه بهز' عن شعبة 'به' الا أنه قال: عن عبد الملك رجل من بني قيس بن ثعلبة
 عن أبيه 'ولم يسمه . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 20334 . وأخرجه النسائی رقم الحدیث: 2430 من
 طريق عبد الله بن المبارك' عن شعبة 'وقال: عبد الملك بن أبي المنهال . ورواه همام' عن أنس بن
 سيرين' فقال: عبد الملك بن قتادة بن ملحان' عن أبيه . أخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 43 وأحمد رقم
 الحدیث: 20331-20335 وأبو داؤد رقم الحدیث: 2449 والنسائی رقم الحدیث: 2431 وابن ماجه
 رقم الحدیث: 1707 والطبرانی جلد 19 صفحہ 15 والبیہقی جلد 4 صفحہ 294 من طريق عفان بن
 مسلم وحبان بن هلال وغيرهما عن همام به . وأخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 43 عن المصنف أيضا'
 عن همام' عن أنس' عن قتادة بن ملحان القيسي' عن أبيه . وقال: ولكن سليمان أبا داؤد اضطرب في
 اسناده' وفي الحديثين جميعاً' والحديث ما رواه عفان' وهو الثبت .

1322- اسناده ضعیف' لجهالة نصر بن عبد الرحمن وحده . وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه
 جلد 1 صفحہ 474 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17955-17956 والنسائی رقم
 الحدیث: 517 والطحاوی جلد 1 صفحہ 303 والبیہقی جلد 2 صفحہ 464 والخطيب في تلخيص
 المتشابه جلد 1 صفحہ 474 من طريق شعبة 'به' . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17955 من طريق
 حجاج' عن سعد' به .

بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاذ بن عفرآء کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا، عصر کے بعد یا فجر کے بعد اور نماز نہیں پڑھی، تو میں نے کہا: آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ آپ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے عصر کے بعد (نماز نفل پڑھنے سے) نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ، اَنَّهُ طَافَ مَعَ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ الْعَصْرِ اَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَمْ يُصَلِّ فَقُلْتُ: اَلَا تُصَلِّي فَقَالَ: اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

حضرت مجمع بن جاریہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

151- مُجَمِّعُ

بْنُ جَارِيَةَ

حضرت مجمع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: حضرت ابن مریم (عیسیٰ علیہ السلام) دجال کو باب لد پر قتل کریں گے۔

1323 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

1323- اسنادہ ضعیف، لضعف شیخ المصنف، و جهالة شيخ الزهري . وأخرجه الطبرانی جلد 19 صفحہ 444 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15505-15506، والترمذی رقم الحديث: 2244، وابن حبان رقم الحديث: 6811، والطبرانی جلد 19 صفحہ 443-445 من طرق عن الزهري، به . وقال الترمذی: حسن صحيح . ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري واختلف عنه، فرواه الحميدى رقم الحديث: 828، ومن طريقه الطبرانی جلد 19 صفحہ 443 عن سفيان عن الزهري، كرواية الجماعة عن الزهري . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15504 عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن ثعلبة، عن عبد الله بن يزيد، عن مجمع، عن مجمع . وعلى هذا الوجه الأخير رواه معمر عن الزهري . أخرجه أحمد رقم الحديث: 1018-19496، والطبرانی جلد 19 صفحہ 443 من طريق معمر، به . ويحتمل أن للزهري فيه اسنادين على أن مداره على عبيد الله بن عبد الله بن ثعلبة، وهو مجهول . وللحديث شاهد في صحيح مسلم رقم الحديث: 2937 من حديث النواس بن سمعان .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقْتُلُ ابْنُ مَرِيَمَ الدَّجَالَ
بِبَابِ لُدٍّ

حضرت ابوطلمحہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

152- أَبُو طَلْحَةَ

حضرت ابوطلمحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: فرشتے اس گھر میں داخل
نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویر ہو۔

1324 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ
كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

حضرت صعّب بن جثامہ

153- الصَّعْبُ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

بْنُ جَثَامَةَ

حضرت صعّب بن جثامہ اللیشی رضی اللہ عنہ سے

1325 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1324- حدیث صحیح۔ وفی اسنادہ ہنا زمعة بن صالح' وقد توبع۔ وأخرجه ابن عساكر جلد 19 صفحہ 391
من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون' عن الزهري' به۔ وأخرجه ابن أبي شيبة
جلد 5 صفحہ 410' والحميدي رقم الحديث: 431' وأحمد رقم الحديث: 16391-16400' والبخاري
رقم الحديث: 4002-5949' ومسلم رقم الحديث: 2106' والنسائي رقم الحديث: 5362-5363' وابن
ماجه رقم الحديث: 3649' وأبو يعلى رقم الحديث: 1430' وابن حبان رقم الحديث: 5855' والطبراني
رقم الحديث: 4686-4692 من طرق عن الزهري' به۔ ورواه زيد بن خالد' عن أبي طلحة' أخرجه ابن
أبي شيبة جلد 5 صفحہ 410' وأحمد رقم الحديث: 16389' والبخاري رقم الحديث: 3226-5958'
ومسلم رقم الحديث: 2106' وأبو داؤد رقم الحديث: 4153-4155' والنسائي رقم الحديث: 5365'
وابن حبان رقم الحديث: 5850' والطبراني رقم الحديث: 4696-4698۔

1325- حدیث صحیح۔ أخرجه أحمد رقم الحديث: 16476' والطبراني رقم الحديث: 7433 من طريقين عن

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّغْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ فَرَأَى الْكِرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ بِنَا رَدُّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرْمٌ

روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں شکار کا گوشت ہدیہ دیا گیا، جبکہ آپ محرم تھے تو آپ نے اس آدمی کو واپس کر دیا، سو آپ نے اس آدمی کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہم اس کو تجھے واپس نہ کرتے لیکن ہم حالت احرام میں ہیں۔

1326 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،

حضرت صعّب بن جثامہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم

ابن ابی ذئب، بہ۔ ورواہ مالک والیث وشعیب وابن جریر وغیرہم، عن الزہری، بہ، بلفظ: حماد وحش۔ أخرجه مالک جلد 1 صفحہ 353، وعبد الرزاق رقم الحدیث: 8322، وأحمد رقم الحدیث: 16474-16475، والبخاری رقم الحدیث: 1825-2573-2596، ومسلم رقم الحدیث: 1193، والترمذی رقم الحدیث: 849، والنسائی رقم الحدیث: 2818، وابن ماجہ رقم الحدیث: 3090، وعبد اللہ بن أحمد فی زوائده علی المسند رقم الحدیث: 16733، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2637، والطبرانی رقم الحدیث: 7441-7443، والبیہقی جلد 5 صفحہ 191، وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 1193، وعبد اللہ بن أحمد رقم الحدیث: 16722-16723، والطبرانی رقم الحدیث: 7440، من طریق ابراہیم بن سعد، عن صالح بن کيسان، عن الزہری، بہ، مثل رواية الجماعة، ورواه جماعة بن زید، عن صالح، عن عبید اللہ، بہ، لیس فیہ الزہری، أخرجه النسائی رقم الحدیث: 2189، ورواه ابن عیینة، عن الزہری، بہ، بلفظ: لحم حمار وحش، أخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 783، وأحمد رقم الحدیث: 16469، والدارمی رقم الحدیث: 1837، ومسلم رقم الحدیث: 1193، وعبد اللہ بن أحمد رقم الحدیث: 16709-16731، والبیہقی جلد 5 صفحہ 192، قال المعرفة للفسوی جلد 2 صفحہ 727، والفتح جلد 4 صفحہ 31-33۔

1326 - حدیث صحیح۔ وفی اسنادہ ہنا زمعة، ولكنه متابع۔ وأخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 782، وأبو

عبید فی الأموال رقم الحدیث: 728، وأحمد رقم الحدیث: 16469-16472-16717، وابن زنجویہ فی

الأموال رقم الحدیث: 145-1087، والبخاری رقم الحدیث: 3012-3270، وأبو داؤد رقم الحدیث:

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

رسول ﷺ کے لیے۔

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ

رسول ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: چراگاہ کا محفوظ رکھنا کسی کے لیے جائز نہیں مگر اللہ اور اس کے

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی

154- سُفْيَانُ بْنُ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ

حضرت سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ فرماتے

1327 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

3083-3084 والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 8624 وعبد اللہ بن أحمد فی زوائد المسند رقم الحدیث: 16730-16731 وابن حبان رقم الحدیث: 4684-136 والطبرانی رقم الحدیث: 7428-7419 والدارقطنی جلد 4 صفحہ 238 والبيهقی جلد 6 صفحہ 146 من طرق عن الزهري به .

1327- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لجهالة عبد الرحمن بن معاذ، وقد توبع . وأخرجه النسائی فی الكبرى كما فی التحفة جلد 4 صفحہ 20 عن محمد بن المثنی عن المصنف، وعنده محمد بن عبد الرحمن بن معاذ . بدل عبد الرحمن بن معاذ العامری . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 15456 وابن ماجه رقم الحدیث: 3972 وابن أبي عاصم فی السنة رقم الحدیث: 22 وابن حبان رقم الحدیث: 5700 والطبرانی رقم الحدیث: 6396 والحاكم جلد 4 صفحہ 313 والبيهقی فی الآداب رقم الحدیث: 394 من طرق عن ابراهيم بن سعد به . وعندهم محمد بن عبد الرحمن ابن معاذ . وقال الحاكم: صحيح الاسناد . وأخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 6397 من طريق معاوية بن يحيى والخطيب جلد 11 صفحہ 78 من طريق شعيب بن أبي حمزة كلاهما عن الزهري به مثله . ورواه معمر وشعيب و ابراهيم بن اسماعيل بن مجمع عن الزهري عن عبد الرحمن بن معاذ كما عند المصنف . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 15457 والدارمی رقم الحدیث: 2714 والترمذی رقم الحدیث: 2410 والنسائی كما فی التحفة جلد 4 صفحہ 20 وابن أبي الدنيا فی الصمت رقم الحدیث: 7 وابن حبان رقم الحدیث: 5699 والبيهقی فی الآداب رقم الحدیث: 395 . وقال البيهقی: وهكذا رواه ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن ابن معاذ وهو أصح . ورواه الزبيدي عن الزهري فقال:

ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری ایک ایسے کام کے متعلق راہنمائی کریں جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں، آپ ﷺ نے فرمایا: کہہ! میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت اختیار کر۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کو مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَاعِزٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ قَالَ: قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْتُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكْثَرُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِ نَفْسِهِ

حضرت اسامہ بن شریک

رضی اللہ عنہ کی احادیث

155- أُسَامَةُ

بُنْ شَرِيكٍ

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1328 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

ماعز عن عبد الرحمن . أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 5702 . وقال: ماعز بن عبد الرحيم . قاله الزبيرى وهو متقن . ورواه يونس عن الزهرى عن محمد بن أبى سويد عن جده سفيان . أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 5698 . ورواه عروة بن الزبير عن سفيان بن عبد الله . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15454 . ومسلم رقم الحديث: 38 . وابن أبى عاصم فى السنة رقم الحديث: 21 . وابن حبان رقم الحديث: 942 . والبغوى فى شرح السنة رقم الحديث: 16 . ورواه عبد الله بن سفيان عن أبيه . أخرجه أحمد رقم الحديث: 19450-15455 . والدارمى رقم الحديث: 2713 . وابن أبى الدنيا فى الصمت رقم الحديث: 1 . والنسائى فى الكبرى رقم الحديث: 11490 . والخطيب جلد 2 صفحہ 370 . وانظر التحفة جلد 4 صفحہ 21 .

1328 - حديث صحيح . أخرجه أبو نعيم فى معرفة الصحابة جلد 2 صفحہ 185 . والبيهقى فى المدخل الى السنن رقم الحديث: 657 . من طريق المصنف . وهذا الحديث الذى بعده قد جاء فى سياق واحد عند أكثر المخرجين . وقد أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 3855 . والنسائى فى الكبرى رقم الحديث: 5881 . والخطابى فى غريب الحديث جلد 1 صفحہ 537 . من طريق شعبة وحده به ' بالحديث الأول . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18477 . والطبرانى رقم الحديث: 463 . والحاكم جلد 1 صفحہ 121 من

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ
عَلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ،
يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابُهُ كَمَا نَمَا عَلَى رُئُوسِهِمُ الطَّيْرُ وَجَاءَتْهُ
الْأَعْرَابُ مِنْ جَوَانِبَ فَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ لَا بَأْسَ
بَهَا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا
عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ - أَوْ
قَالَ: رَفَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ - إِلَّا أَمْرًا اقْتَرَضَ أَمْرًا ظُلْمًا
فَذَلِكَ يَحْرَجُ وَيَهْلِكُ

کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ کے صحابہ
آپ کے ارد گرد ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے
سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیہاتی لوگ
آپ ﷺ کے پاس ایک طرف سے آئے سوانہوں
نے کچھ اشیاء کے متعلق آپ سے پوچھا جن میں کوئی
حرج نہیں تھا انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم پر کوئی
حرج ہے فلاں فلاں چیز کے میں؟ تو رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے بندو! اللہ نے حرج کو ختم کر
دیا یا فرمایا: اللہ نے حرج کو اٹھا دیا ہے مگر ایسے کاموں
کے لیے جو ظلماً کیے جاتے ہیں سو یہ گناہ اور باعث
ہلاکت ہے۔

وَسَأَلُوهُ عَنِ الدَّوَاءِ فَقَالَ: عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً

اور انہوں نے آپ سے دواء کے متعلق پوچھا تو
آپ نے فرمایا: اللہ کے بندو! دوائی لیا کرو کیونکہ کوئی

طریق شعبہ وحدہ بہ . بالحديثين معاً . وصححه الحاكم وأقره الذهبي . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 18476، والطبرانی رقم الحديث: 486، والخطيب في الموضح جلد 2 صفحہ 110 من طريق
المسعودی وحده بالحديث الأول فقط، الا الخطيب فعنده الاثنان . والحديث أخرجه ابن أبي شيبة
جلد 7 صفحہ 360، وأحمد رقم الحديث: 18478، وأبو داؤد رقم الحديث: 2015، والترمذی رقم
الحديث: 2038، وابن حبان رقم الحديث: 6064، والطبرانی رقم الحديث: 484، والدارقطنی
جلد 2 صفحہ 251، والخطيب في السابق واللاحق صفحہ 180 من طرق عن زياد بن علاق بالحديث
الأول . وقال الترمذی: حسن صحيح . وأخرجه الحميدى رقم الحديث: 824، وأحمد رقم
الحديث: 18479، وهناد في الزهد رقم الحديث: 1260، والبخارى في الأدب المفرد رقم
الحديث: 292، وابن ماجه رقم الحديث: 3436، وابن حبان رقم الحديث: 486، والطبرانی رقم
الحديث: 464، وفي الصغير جلد 1 صفحہ 202، والخطيب جلد 9 صفحہ 197-198 من طرق عن زياد بن
علاقه بالحديثين معاً .

بیماری ایسی نہیں جس کی اللہ نے دواء نہ بنائی ہو، مگر ایک بیماری ہے جس کا علاج نہیں وہ بڑھاپا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بڑھاپے میں لوگوں سے کہتے: کیا تمہیں میرے لیے کوئی دوا مل سکتی ہے؟

حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ لوگوں کو سب سے بہتر کون سی چیز دی گئی ہے؟ آپ نے فرمایا: اچھا اخلاق۔

حضرت سہل بن ابی حنمہ انصاری
رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبدالرحمن بن مسعود بن نيار رضی اللہ عنہ

إِلَّا دَاءً وَاحِدًا الْهَرَمَ فَكَانَ أَسَامَةُ قَدْ كَبِرَ
فَقَالَ: فَهَلْ تَرَوْنَ لِي مِنْ دَوَاءٍ

1329 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنِ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ؟ قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ

156 - سَهْلُ بْنُ أَبِي

حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ

1330 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ،

1329- اسنادہ صحیح . أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة جلد 2 صفحہ 185، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوى رقم الحديث: 814 من طريق المصنف . وهو جزء من الحديث السابق . وقد أخرجه مفردًا الطبرانی في مكارم الأخلاق رقم الحديث: 12 من طريق شعبة وحده به . وأخرجه وكيع في الزهد رقم الحديث: 423، وهناد في الزهد رقم الحديث: 1259، وابن حبان رقم الحديث: 478، والطبرانی رقم الحديث: 470، والبيهقي جلد 10 صفحہ 246، والخطيب في الموضح جلد 2 صفحہ 110-111 من طرق عن زياد بن علاقة بالحديث الثاني .

1330- اسنادہ ضعیف، لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نيار . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 194، والترمذی رقم الحديث: 643، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 2073 من طريق المصنف . وقال الترمذی: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16138، والدارمی رقم الحديث: 2622، وابن زنجويه في الأموال رقم الحديث: 1992-1993، وأبو داؤد رقم الحديث: 1605، والنسائی رقم الحديث: 2490، وابن الجارود رقم الحديث: 352، وابن خزيمة رقم الحديث: 2320، والطحاوی جلد 2 صفحہ 39، وابن حبان رقم

فرماتے ہیں کہ حضرت سہل بن ابی حشمہ ہماری مجلس میں آئے پس انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم اندازہ لگاؤ تو تہائی کو چھوڑ دو سوا گر تہائی کو نہیں چھوڑتے تو چوتھائی حصہ کو چھوڑ دو۔

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ نِيَّارٍ، قَالَ: أَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا حَرَصْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرَّبْعَ

حضرت جعدہ رضی اللہ عنہ کی احادیث

157- جَعْدَةُ

حضرت جعدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور ایک آدمی آپ کے سامنے خواب بیان کر رہا تھا تو ایک آدمی کو جو کافی موٹا تھا وہ اپنے پیٹ میں کوئی شی مار رہا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ اور آپ فرما رہے تھے: اگر کوئی اور شی اس کے علاوہ ہوتی تو تیرے لیے بہتر ہوتی۔

1331 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْرَائِيلَ الْجُشَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْدَةَ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يَقْضُ عَلَيْهِ رُؤْيَا فَرَأَى رَجُلًا سَمِينًا فَجَعَلَ يَطْعُنُ بَطْنَهُ بِشَيْءٍ كَانَ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: لَوْ كَانَ بَعْضُ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا كَانَ خَيْرًا لَكَ

حضرت جعدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی

1332 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحديث: 3280 والطبرانی رقم الحديث: 5626 والحاكم جلد 1 صفحہ 402 والبيهقي

جلد 4 صفحہ 123 وغيرهم من طريق شعبة به .

1331 - اسنادہ ضعیف، لجهالة أبي اسرائيل الجشمي . وأخرجه ابن عدی فی الكامل جلد 3 صفحہ 1128 من

طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15910-19005 والطبرانی رقم الحديث: 2184

والحاكم جلد 4 صفحہ 121 وغيرهم من طريق شعبة به .

1332 - اسنادہ ضعیف، كسابقه . وعزاه البوصيري فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحديث: 6060 الى

المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة فی المسند كما فی الاتحاف رقم الحديث: 6061 وأحمد رقم

الحديث: 15908-15909 والنسائي فی الكبرى رقم الحديث: 10903 وأبو يعلى كما فی الاتحاف

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَعْدَةَ،
قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَى
بِرَجُلٍ فِقِيلٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَكَ
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ تُرْعَ
لَمْ تُرْعَ لَوْ أَرَدْتَ ذَلِكَ لَمْ يُسَلِّطَكَ اللَّهُ عَلَى قَتْلِي

اکرم ﷺ کے پاس موجود تھا کہ ایک آدمی کو لایا گیا، سو
عرض کی گئی: یا رسول اللہ! اس نے آپ کو قتل کرنے کا
ارادہ کیا تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے اس کو فرمایا: تو نے
خیال نہیں کیا، تو نے خیال نہیں کیا، اگر تو اس کا ارادہ بھی
کر لیتا تو اللہ عزوجل تجھے میرے قتل پر طاقت نہ دیتا۔

158- نَوْفَلُ

حضرت نوفل بن معاویہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

بْنُ مُعَاوِيَةَ

1333 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جس نے
جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس کا اہل اور مال ہلاک ہو

رقم الحدیث: 6062، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 544، والطبرانی رقم الحدیث: 2138 من
طریق شعبۂ 'به'. ولأصل القصة شاهد من حدیث جابر عند البخاری رقم الحدیث: 4135، ومسلم رقم
الحدیث: 843.

1333- حدیث صحیح، وقد خولف ابن ابی ذئب فیہ. وأخرجه ابن الأثیر فی أسد الغابة جلد 5 صفحہ 372 من
طریق طیالسی عن أسد بن موسیٰ عن ابن ابی ذئب، به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 23692،
والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 3195، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 5445، وابن قانع فی معجمہ
جلد 3 صفحہ 154، وابن حبان رقم الحدیث: 1468، والبیہقی جلد 1 صفحہ 445 من طریق ابن ابی ذئب،
به. وخالفه صالح بن کیسان وعبد الرحمن بن اسحاق، فروياه عن الزهري، عن أبي بكر، عن عبد
الرحمن بن مطيع، عن نوفل، به. فزادا فی اسنادہ عبد الرحمن بن مطیع. أخرجه البخاری رقم
الحدیث: 3602، ومسلم رقم الحدیث: 2886، وابن قانع جلد 3 صفحہ 155. ورواه عراك بن مالك، عن
نوفل بن معاویة، وفيه أن الصلاة المقصودة هي صلاة العصر. أخرجه ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 342
والنسائی رقم الحدیث: 477-479، وابن قانع جلد 3 صفحہ 155. وانظر فتح الباری لابن رجب جلد 4
صفحہ 303-306. وله شاهد عن بريدة فی صلاة القصر عند البخاری رقم الحدیث: 553.

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَكَانَ مَا وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ

159- حَارِثَةُ

بْنُ وَهْبٍ

حضرت حارثہ بن وہب

رضی اللہ عنہ کی احادیث

1334 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَعْبِدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ وَقَالَ: أَهْلُ النَّارِ كُلُّ جَوَاطِظٍ عُتِلَّ مُسْتَكْبِرٍ

حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا: کیا میں تم کو اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں! فرمایا: ہر وہ کمزور جس کو کمزور سمجھا جاتا ہو یہ لوگ اگر اللہ پر قسم اٹھالیں تو اللہ ان کی قسم پوری کرے اور فرمایا: دوزخ والے ہر قسم کے بدخلق، کینہ پرور اور متکبر لوگ ہیں۔

1335 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1334 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 194 من طريق المصنف . وأخرجه البخاري رقم الحديث: 6657، ومسلم رقم الحديث: 2853، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 11615، وأبو يعلى رقم الحديث: 1477، وابن حبان رقم الحديث: 5679 من طريق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18750، والبخاري رقم الحديث: 4918، وعبد بن حميد رقم الحديث: 476، ومسلم رقم الحديث: 2853، وأبو داؤد رقم الحديث: 4801، والترمذي رقم الحديث: 2605، وابن ماجه رقم الحديث: 4116، وأبو يعلى رقم الحديث: 1476، وغيرهم من طريق سفيان الثوري، عن معبد بن خالد، به .

1335 - حدیث صحیح . أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 6678 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18748، والبخاري رقم الحديث: 1411-1424-7120، وعبد بن حميد رقم الحديث: 477-478، ومسلم رقم الحديث: 1011، والنسائي رقم الحديث: 2554، وأبو يعلى رقم الحديث: 1475، وابن أبي داؤد في البعث والنشور رقم الحديث: 37، والطبراني رقم الحديث: 3259-3260، وغيرهم من طريق شعبة، به .

کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا: تم صدقہ کیا کرو، عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ آدمی صدقہ لے کر نکلے گا، تو وہ آدمی جس کے پاس وہ لے کر آیا کہے گا: اگر تو کل لے کر آتا تو میں اسے قبول کر لیتا، بہر حال اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، پس وہ کسی ایسے آدمی کو نہیں پائے گا جو اس کو قبول کر لے۔

حضرت حارثہ بن وہب الخزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو دو رکعت نماز (یعنی قصر) منیٰ میں نماز پڑھائی حالانکہ ہم بہت زیادہ تھے اور حالت امن میں تھے۔

عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، سَمِعَ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ، سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بِصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الَّذِي يَأْتِيهِ بِهَا: لَوْ جِئْتَنَا بِالْأَمْسِ قَبْلَتُهَا فَأَمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا

1336 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ الْخُزَاعِيَّ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ بِيَمِينِي رَكَعَتَيْنِ

حضرت عتبان بن مالک سالمی رضی اللہ عنہ کی حدیث

160- عِتْبَانُ بْنُ مَالِكِ السَّالِمِيِّ

حضرت عتبان مالک السالمی رضی اللہ عنہ فرماتے

1337 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1336- حدیث صحیح - أخرجه أحمد رقم الحديث: 18753، والبخاری رقم الحديث: 1083-1656 والنسائی رقم الحديث: 1445، والطبرانی رقم الحديث: 3245، والبيهقي جلد 3 صفحہ 134، وغيرهم من طريق شعبة، به - وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18749، ومسلم رقم الحديث: 696، وأبو داؤد رقم الحديث: 1965، والترمذی رقم الحديث: 882، والنسائی رقم الحديث: 1444، وأبو يعلى رقم الحديث: 1474، والطبرانی رقم الحديث: 3254، وأبو نعيم جلد 4 صفحہ 344، والبيهقي جلد 3 صفحہ 134 من طرق عن أبي اسحاق، به .

1337- حدیث صحیح - أخرجه البخاری رقم الحديث: 424-1186، وابن ماجه رقم الحديث: 754، وابن خزيمة رقم الحديث: 1709، والطبرانی جلد 18 صفحہ 29، والبيهقي جلد 3 صفحہ 53-87 من طريق ابراهيم بن سعد، به - والحديث يرويه كذلك مالك بن أنس ومعمرو ويونس وعقيل والأوزاعي

ہیں کہ میں بنی سالم کی قوم کا امام تھا؛ جب سیلاب آتا تو مجھے اس وادی کو عبور کرنا بہت مشکل ہوتا جو میرے گھر اور مسجد کے درمیان تھی؛ پس میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آیا؛ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے لیے اس نالہ کو پار کرنا مشکل ہے؛ اگر آپ پسند کریں تو آپ میرے ہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں ایک جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو مسجد بنا لوں؛ آپ نے فرمایا: میں ایسا ہی کروں گا۔ پس آپ اگلے دن جب میرے پاس آئے تو میں نے آپ کے لیے قیمہ اور آٹے کا کھانا تیار کیا؛ سو آپ اس وقت تک نہیں بیٹھے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: تم کہاں پسند کرو گے کہ میں

قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ، عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ السَّالِمِيِّ، قَالَ: كُنْتُ اَوْمُ قَوْمِي بِنِي سَالِمٍ وَكَانَ اِذَا جَاءَتِ السُّيُوْلُ شَقَّ عَلَيَّ اَنْ اَجْتَازَ وَاذِيًّا بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَاتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيَّ اَنْ اَجْتَازَهُ فَاِنْ رَاَيْتَ اَنْ تَاتِيَنِي وَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي مَكَانًا اَتَّخِذُهُ مُصَلًّى قَالَ: اَفْعَلُ فَجَاءَنِي الْغَدَا فَاحْتَبَسْتُهُ عَلَيَّ خَزِيْرَةَ فَلَمَّا دَخَلَ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَاَشْرَفْتُ اِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اُصَلِّي فِيهِ فَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ

وغیرہم' عن الزهري بهذا الاسناد . أخرجه مالك جلد 1 صفحه 172، وابن المبارك في مسنده رقم الحديث: 43، وعبد الرزاق رقم الحديث: 1929، وابن سعد جلد 3 صفحه 550، وأحمد رقم الحديث: 23821-23824، والبخاري رقم الحديث: 5401-6423-6938، ومسلم رقم الحديث: 33، والنسائي رقم الحديث: 787-843-1326، وفي الكبرى رقم الحديث: 10948، وابن خزيمة رقم الحديث: 1231-1653-1654، وابن حبان رقم الحديث: 223، والطبراني جلد 18 صفحه 28-34، والدارقطني جلد 2 صفحه 80، وابن منده في الايمان رقم الحديث: 50، والبيهقي جلد 2 صفحه 181، وغيرهم . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 23822، ومسلم رقم الحديث: 33، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10946، وأبو يعلى رقم الحديث: 1505، وابن خزيمة في التوحيد صفحه 215، والطبراني جلد 18 صفحه 25، وابن منده رقم الحديث: 52-53، من طريق أنس بن مالك، عن محمود بن الربيع، عن عتبان . وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 10944-10945، وابن خزيمة في التوحيد صفحه 214-215، والطبراني جلد 18 صفحه 26، وابن منده رقم الحديث: 51، من طريق أنس، عن عتبان مباشرة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16531، والطبراني جلد 18 صفحه 26، من طريق أبي بكر عن أنس، عن محمود، عن عتبان .

فَسَمِعَ بِهِ رَجَالُ الْأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَجَعَلُوا يَجِثُونَ حَتَّى كَثُرُوا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ: مَا فَعَلَ مَالِكُ بْنُ الدُّخْشِمِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ أَمَا نَحْنُ فَلَا نَرَى وَدَّهْ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ النَّارَ عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَتَّعَى بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ قَالَ مَحْمُودٌ: فَحَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ بَارِضِ الرُّومِ فِي غَزْوَةِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَاَنْكَرَ عَلَيَّ ذَلِكَ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ: مَا أَرَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا قَطُّ. قَالَ مَحْمُودٌ: فَالَيْتُ إِنْ اللَّهُ رَدَّنِي صَالِحًا أَنْ أَسْأَلَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا، فَاهْلَلْتُ مِنْ إِبِلِيَاءَ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ عِتْبَانَ شَيْخًا كَبِيرًا أَعْمَى يَوْمَ قَوْمِهِ فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَعَرَفَنِي أَوْ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَحَدَّثَنِي كَمَا حَدَّثَنِي أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ ذَاكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ مُوجِبَاتُ الْأُمُورِ، فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ أَمْرٌ أَدْرَكْنَا الْعُلَمَاءَ وَهُمْ يَرَوْنَ ذَاكَ فَمِنْ اسْتِطَاعِ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَغْتَرَّ فَلَا يَغْتَرَّ، نَخْشَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ

تمہارے گھر میں نماز پڑھوں؟ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، تو آپ نے اس جگہ دو رکعت نماز پڑھی۔ انصار کے لوگوں نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں ہیں تو آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بہت زیادہ لوگ میرے گھر میں آ گئے۔ گھر والوں میں سے ایک آدمی نے کہا: مالک بن دخشم نے کیا کیا؟ تو گھر والوں میں سے ایک آدمی نے کہا: یہ منافق آدمی ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا! انہوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں! لیکن ہم نہیں دیکھتے کہ آپ سے محبت کرتا ہو اور نہ آپ سے گفتگو مگر منافقوں سے کرتا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے جو لا الہ الا اللہ کی رضا کے لیے کہتا ہے۔ حضرت محمود فرماتے ہیں: میں نے یہ حدیث حضرت ابویوب کی مجلس میں بیان کی روم کی سرزمین میں یزید بن معاویہ کے جہاد میں۔ تو حضرت ابویوب نے مجھ پر انکار کر دیا، فرمایا: میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ فرمایا ہو کبھی بھی۔ حضرت محمود فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے صحیح سالم لوٹایا تو میں حضرت عتبان بن مالک سے اس حدیث کے متعلق سوال کروں گا کہ اس مسجد میں اگر وہ زندہ ہوئے، پھر میں نے عمرہ کے لیے ایلپاء سے احرام باندھا، پھر میں مدینہ میں آیا، تو میں نے حضرت عتبان کو بتایا، یہ بہت بزرگ

تھے اور نابینا ہو گئے تھے وہ ایک قوم کو امامت کروا رہے تھے میں نے آپ کو اپنی پہچان کروائی اور میں نے اس حدیث کے متعلق آپ سے پوچھا تو انہوں نے پہلے کی طرح یہ حدیث مجھ سے بیان کی۔ امام زہری فرماتے ہیں: ہم خیال کرتے ہیں کہ یہ (حکم) واجبی امور کے نازل ہونے سے پہلے کا تھا سواب حکم نازل ہو گیا ہے جسے علماء نے پالیا ہے اور وہ خیال کرتے ہیں جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے خراب نہ کرنا تو وہ خراب نہ کرے ہم ڈرتے ہیں کہ یہ حکم ان کی طرف نہ پھر جائے بے شک اللہ عزوجل نے اس کلمہ کے اہل پر یہ امور فرض کیے ہیں ہم خوف کرتے ہیں کہ یہ حکم ان کی طرف نہ پھر جائے۔

قَدْ صَارَ إِلَيْهَا، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ أُمُورًا نَحْشَى أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ قَدْ صَارَ إِلَيْهَا

حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ کی
نبی اکرم ﷺ سے روایت کردہ
حدیث

161- مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
(مجھے) یاد ہے کہ آپ ﷺ نے ایک کلی درہموں میں
ڈالی۔

1338 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ
الرَّبِيعِ، أَنَّهُ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي دَارِهِمْ

1338- حدیث صحیح . أخرجه البخاری رقم الحدیث: 1185، وابن ماجه رقم الحدیث: 754، وابن خزيمة
رقم الحدیث: 1709، وفي التوحيد رقم الحدیث: 502 من طريق ابراهيم بن سعد، به . وأخرجه
البخاری رقم الحدیث: 839، ومسلم رقم الحدیث: 33، والنسائي في الكبرى رقم الحدیث: 10947،
والطبرانی جلد 18 صفحہ 32-33 من طرق عن الزهري، به .

162- سَلَمَةُ بْنُ

الْمُحَبِّقِ الْهَذَلِيِّ

حضرت سلمہ بن المحبق الہذلی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت سلمہ بن المحبق الہذلی رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: چڑے کی
دباغت اس کو پاک کر دیتی ہے۔

1339 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ الْهَذَلِيِّ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دِبَاغُ الْأَدِيمِ
ذَكَاتُهُ

1339- اسنادہ ضعیف، لجهالة جون عن قتادة - أخرجه أحمد رقم الحديث: 20083، والدارقطني
جلد 1 صفحہ 45، والبيهقي جلد 1 صفحہ 21 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15950،
والنسائي رقم الحديث: 4254، والطحاوي جلد 1 صفحہ 471، والطبراني رقم الحديث: 6342،
والدارقطني جلد 1 صفحہ 45، والحاكم جلد 4 صفحہ 141 من طريق هشام، به. وصححه الحاكم
وأقره الذهبي. والحديث يرويه كذلك شعبة وهمام، عن قتادة، به. أخرجه أحمد رقم الحديث:
20073-20074، وأبو داؤد رقم الحديث: 4125، وابن حبان رقم الحديث: 4522، والطبراني رقم
الحديث: 6340، والدارقطني جلد 1 صفحہ 46، والبيهقي جلد 1 صفحہ 21، وغيرهم. وخالفهم ابن أبي
عروبة، فرواه عن قتادة، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، ولم يذكر جون بن قتادة فيه. أخرجه
أحمد رقم الحديث: 20079، والطبراني رقم الحديث: 6343، وغيرهما. ورواه هشيم، عن منصور بن
زاذان، عن الحسن، عن جون بن قتادة، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه
الترمذي في العلل الكبير صفحہ 284. وقد وهم الأئمة هشيمًا في هذا الإسناد. انظر تهذيب الكمال
جلد 5 صفحہ 163، والتلخيص الحبير جلد 1 صفحہ 49. وانظر أيضًا الخلافات للبيهقي جلد 1
صفحہ 208-209.

163- أَبُو سَعْدٍ

الزُّرْقِيُّ

حضرت ابوسعید زرقی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابوسعید زرقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ اشجع کے ایک آدمی نے نبی اکرم ﷺ سے عزل کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا: جو رحم میں مقدر ہے اگر اس نے ہونا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔

1340 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَرْثَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعْدِ الزُّرْقِيِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنْ أَشْجَعٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ: مَا يَقْدَرُ فِي الرَّحِمِ يَكُنْ

حضرت عروہ بن الجعد البارقی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عروہ بن الجعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک بھلائی رکھ دی گئی ہے۔

164- عُرْوَةُ بْنُ

الْجَعْدِ الْبَارِقِيُّ

1341 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

1340- اسنادہ ضعیف، لجهالة عبد الله بن مرة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15770، والنسائي رقم الحديث: 3328، وابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 367، والطبرانی جلد 22 صفحہ 313 وغیرہم من طرق عن شعبة به .

1341- حدیث صحیح . وتقدم برقم رقم الحديث: 1153 بهذا الإسناد والتمن، وفي آخره زيادة مع تصريح أبي اسحاق بالسمع .

165- صَخْرٌ

حضرت صحیح الغامدی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

الْغَامِدِيُّ

1342 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ حَدِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ صَخْرِ
 الْغَامِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ: وَكَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً
 بَعَثَهَا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا
 كَانَ يُرْسِلُ غِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَكَثُرَ مَالُهُ حَتَّى
 كَانَ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَضَعُهُ

حضرت صحیح الغامدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! میری امت
 کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما! فرمایا: اور رسول
 اللہ ﷺ جب کسی لشکر کو بھیجتے تو ان کو دن کے اول حصہ
 میں بھیجتے تھے اور حضرت صحیح رضی اللہ عنہ تاجر آدمی تھے
 اپنے غلاموں کو اول دن میں بھیجتے تھے پس ان کا مال
 بہت زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ اسے کہاں
 رکھیں۔

1342 - اسنادہ ضعیف، لجهالة عمارة بن حديد . وأخرجه البيهقي جلد 9 صفحہ 151، والخطيب
 جلد 2 صفحہ 107، من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 19499، وعبد بن حميد رقم
 الحديث: 431، والدارمي رقم الحديث: 2440، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8833، والبغوي في
 الجعديات رقم الحديث: 1721، وابن حبان رقم الحديث: 4755، والطبراني رقم الحديث: 7275،
 والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 2673، من طريق شعبة، به . ورواه هشيم وغيره كذلك عن
 يعلى بن عطاء، به . أخرجه أحمد رقم الحديث: 19497، وأبو داؤد رقم الحديث: 2606، والترمذي
 رقم الحديث: 1212، وابن ماجه رقم الحديث: 2236، وابن حبان رقم الحديث: 4754، والطبراني رقم
 الحديث: 7276 . وقال الترمذي: حديث حسن . وقال أبو حاتم في العلل رقم الحديث: 2300: لا
 أعلم في: اللهم بارك لأمتي في بكورها . حديثاً صحيحاً . قال العقيلي جلد 1 صفحہ 236: روى من غير
 وجه بأسانيد ثبت .

166- یزید بن الاسود

السوائی

حضرت یزید بن الاسود السوائی

رضی اللہ عنہ کی احادیث

1343- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ بْنَ الْأَسْوَدِ السُّوَائِيَّ،
 يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمِنَى صَلَاةَ
 الصُّبْحِ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ إِذَا رَجُلَانِ فِي مُؤَخَّرِ
 الْمَسْجِدِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ فَأَتَى بِهِمَا النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرَعِدُ فَرَأَيْتُهُمَا فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ
 تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا تَفْعَلَا

حضرت جابر بن یزید بن اسود السوائی اپنے والد
 سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول
 اللہ ﷺ نے ہم کو مسجد خیف منیٰ میں صبح کی نماز پڑھائی
 جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دو
 آدمی دیکھے جو مسجد میں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان دونوں
 نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تو ان دونوں کو نبی
 اکرم ﷺ کی بارگاہ میں لایا گیا وہ ڈر رہے تھے رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کو کون سی چیز مانع تھی کہ تم نے
 ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ ان دونوں نے عرض کی:
 یا رسول اللہ! ہم گھر میں نماز پڑھ چکے تھے رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم دونوں گھر میں نماز پڑھ لیا

1343- اسنادہ حسن . أخرجه الطحاوی جلد 1 صفحہ 363 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 17514، والدارمی رقم الحديث: 1374، وأبو داؤد رقم الحديث: 575-576، وابن حبان رقم

الحديث: 1546، والطبرانی جلد 22 صفحہ 232، والدارقطنی جلد 1 صفحہ 413 والبيهقی

جلد 2 صفحہ 300، وغيرهم من طريق شعبة ' به . ورواه هشيم والثوري وهشام بن حسان وغيرهم عن

يعلى بن عطاء' به . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 274، وعبد الرزاق رقم الحديث: 3934، وأحمد

رقم الحديث: 17509-17513، والترمذی رقم الحديث: 219، والنسائی رقم الحديث: 857، وابن

حبان رقم الحديث: 1565، والطبرانی جلد 22 صفحہ 232-234، والحاكم جلد 1 صفحہ 244، والبيهقی

جلد 2 صفحہ 301، وغيرهم . وقال الترمذی: حسن صحيح . ورواه عبد الملك بن عمير عن جابر بن

يزيد' به . أخرجه الدارقطنی جلد 1 صفحہ 414 . ولأصل الحديث شاهد من حديث أبي ذر عند مسلم

رقم الحديث: 648 .

اِذَا صَلَّى فِي رِحَالِكُمْ ثُمَّ اتَيْتُمَا الْإِمَامَ وَهُوَ
يُصَلِّي فَصَلِّيَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَكُمْ نَافِلَةٌ أَوْ تَطَوُّعٌ
كرو پھر تم مسجد میں آؤ تو امام نماز پڑھا رہا ہو تو دونوں
اس کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو وہ تمہارے لیے نوافل یا
اضافہ ہو جائیں گے۔

1344 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ يَزِيدَ بْنِ
الْأَسْوَدِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ
فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ

حضرت جابر بن یزید بن اسود اپنے والد سے
روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں مسجد میں
رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا میں نے اپنا ہاتھ آپ کے
ہاتھ میں دیا تو آپ کے ہاتھ سے مشک سے زیادہ خوشبو
تھی اور برف سے زیادہ ٹھنڈک۔

167 - عَبْدُ اللَّهِ بْنِ

حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ

حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی

رضی اللہ عنہ کی احادیث

1345 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ فرماتے

1344 - اسنادہ حسن . أخرجه أحمد رقم الحديث: 17513 'والدارمی رقم الحديث: 1374' والبخاری في
التاريخ جلد 8 صفحہ 317' والطبرانی جلد 22 صفحہ 235' والبيهقي في الدلائل جلد 1 صفحہ 256 من
طريق شعبة' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17511' والطبرانی جلد 22 صفحہ 236 من طريق أبي
عوانة وغيلان بن جامع' عن يعلى بن عطاء' به . وله شاهد من حديث أبي جحيفة عند البخاری رقم
الحديث: 3553 .

1345 - حديث صحيح . ورواية الحمادين عن الجريري قبل الاختلاط . وأخرجه أبو نعيم في الأمانة والرد
على الرافضة رقم الحديث: 152 من طريق المصنف . وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم
الحديث: 194' والقطيعي في زوائد الفضائل رقم الحديث: 825 من طريق حماد بن سلمة وحده به .
وزاد القطيعي في آخره الحديث الآتي . وأخرجه أحمد في مسند عبد الله بن حواله رقم الحديث:
17045' وفي فضائل الصحابة رقم الحديث: 719 من طريق ابن علية' عن الجريري' به 'بنحوه . وفيه:
ابن حواله' ولم يسمه . ورواه كهيم بن الحسن' عن عبد الله بن شقيق قال: حدثني رجل من عترة

ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ ایک سایہ دار درخت کے نیچے تشریف فرما تھے ایک کاتب آپ کی طرف سے لکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے ابن حوالہ! کیا میں تیرے لیے لکھ دوں؟ میں نے عرض کی: مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کیا اختیار کیا! پس آپ دوبارہ لکھوانے لگے وہ کتاب لکھنے لگا، میں نے دیکھا کہ اس میں حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا نام لکھا ہوا تھا، سو میں نے پہچان لیا کہ ان دونوں کے لیے بھلائی ہی لکھی ہوگی مجھے آپ نے فرمایا: اے ابن حوالہ! میں تیرے لیے لکھ دوں؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیوں نہیں! پھر فرمایا: اے ابن حوالہ! تیری کیا حالت ہوگی جب فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی: میرے لیے اللہ اور اس کے رسول نے کیا اختیار کیا ہے؟ پھر فرمایا: اے ابن حوالہ! تیری کیا حالت ہوگی جب دوسرا فتنہ ہوگا جو اس سے پہلے ہوگا، ایسے ہوگا جیسے کہ خرگوش کی پھونک ہوتی ہے گویا کہ گائے کے سینگ ہیں! میں نے عرض کی: میرے لیے اللہ اور اس نے رسول نے کیا اختیار کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ادھر سے گزرا، اس نے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، فرمایا: یہ اور اس کے ساتھی اس دن حق پر ہوں گے، سو میں اس کے پاس آیا،

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي ظِلِّ دُومَةٍ وَكَاتِبٌ يُمْلِي عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ أَلَا أَكْتُبُكَ؟ قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ فَجَعَلَ يُمْلِي وَيُمْلِي قَالَ: وَنَظَرْتُ فَإِذَا اسْمُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَعَرَفْتُ أَنََّّهُمَا لَا يُكْتُبَانِ إِلَّا فِي خَيْرٍ، قَالَ لِي: يَا ابْنَ حَوَالَةَ أَلَا أَكْتُبُكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا نَشَأَتْ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي؟ قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا نَشَأَتْ أُخْرَى الَّتِي قَبْلَهَا كَنْفَحَةَ أَرْنَبٍ كَانَتْهَا صِيَاصِي بَقْرٍ؟ قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ قَالَ: وَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ فَقَالَ: هَذَا وَأَصْحَابُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ فَاتَيْتُهُ فَأَخَذْتُ بِمَنْكِبِهِ وَأَقْبَلْتُ بِوَجْهِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذَا فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

اس کو میں نے کندھوں سے پکڑا، میں نے اس کا چہرہ رسول اللہ ﷺ کی طرف کیا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ؟ آپ نے فرمایا: یہ ہی ہے، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔

حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن فرمایا: تم ایک آدمی کے پاس اچانک آؤ گے جو اپنے آپ کو چادر سے لپیٹے ہوگا، وہ اہل جنت سے ہوگا، لوگ اس کی بیعت کریں گے۔ حضرت حوالہ فرماتے ہیں: سو ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس اچانک آئے تو آپ چادر کو لپیٹے ہوئے تھے اور لوگوں سے بیعت کر رہے تھے۔

حضرت نقادہ اسدی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت نقادہ اسدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں ایک آدمی کی طرف بھیجا کہ اس سے اونٹنی لے کر آؤ (میں اس کے پاس گیا) اس

1346 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَوَالَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: تَهْجُمُونَ عَلَيَّ رَجُلٍ مُعْتَجِرٍ بِبُرْدَةٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يُبَايِعُ النَّاسَ قَالَ: فَهَجَمْنَا عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُعْتَجِرٌ بِبُرْدَةٍ يُبَايِعُ النَّاسَ

168- نِقَادَةُ

الْأَسَدِيُّ

1347 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ بُرْزَيْنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلَامَةَ الرَّيَّاحِيُّ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، عَنِ الْبَرَاءِ

1346- حدیث صحیح . واسنادہ هنا کسابقہ . وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 1292

والقطيعي في زوائد الفضائل رقم الحديث: 824-845، والحاكم جلد 3 صفحہ 98 من طريق حماد ابن

سلمة وحده به، وصححه الحاكم، وأقره الذهبي .

1347- اسنادہ ضعیف، لجهالة البراء السليطي . وأخرجه الروياني في مسنده رقم الحديث: 1462 من طريق

المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20754، وابن ماجه رقم الحديث: 4134، وابن أبي عاصم في

الآحاد والمثاني رقم الحديث: 1061، والروياني رقم الحديث: 1462، والطبراني في الدعاء رقم

الحديث: 2014 من طريق غسان بن برزین، به .

نے دینے سے انکار کر دیا، پس وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ کو اس کے متعلق بتایا تو آپ نے اسے دوسرے آدمی کی طرف بھیجا کہ اس سے لے کر آؤ تو اس نے اپنی اونٹنی دے دی۔ حضرت نقادہ اس کو نکیل ڈال کر لے آئے۔ جب رسول اللہ ﷺ نے اس کی طرف دیکھا تو فرمایا: اللہ اس میں برکت دے اور جس نے یہ بھیجی ہے اس کے مال میں برکت دے! حضرت نقادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! جو لے کر آیا ہے اس کے حق میں بھی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو لے کر آیا اس (کے مال) میں برکت دے! سو میں اس کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آیا، اس کا دودھ دوہا گیا تو اس نے بہت دودھ دیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! فلاں کے مال اور اولاد میں برکت دے اور پہلے کے حق میں دعا کی جس نے اونٹنی نہیں دی تھی اور اونٹنی دینے والے کے حق میں یہ دعا کی: اے اللہ! فلاں کو رزق دے دن بدن۔

حضرت حکم بن عمرو

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عاصم الاحول فرماتے ہیں کہ میں نے

169- الْحَكَمُ

بْنُ عَمْرٍو

1348 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1348- اسنادہ صحیح . أخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 191 من طريق يونس بن حبيب عن الطيالسي بهذا الاسناد سواء . ورواه غير واحد عن الطيالسي فقالوا: عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو . أخرجه أحمد رقم الحديث: 20676، والبخاري في التاريخ جلد 4 صفحہ 185، وأبو داؤد رقم الحديث: 82، والترمذي رقم الحديث: 64، والنسائي رقم الحديث: 342، وابن ماجه رقم الحديث: 373، وابن حبان

حضرت ابو حاجب سے سنا، وہ نبی اکرم ﷺ کے صحابہ میں سے کسی سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع کیا۔ اسی طرح ہم کو ابو داؤد نے بیان کیا اور عبد الصمد بن عبد الوارث، حضرت شعبہ سے، وہ حضرت عاصم سے، وہ ابو حاجب سے، وہ حکم بن عمرو سے روایت کرتے ہیں۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ. هَكَذَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو

حضرت مالک بن حویرث

170- مَالِكُ بْنُ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

الْحُوَيْرِثِ

حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1349- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

رقم الحدیث: 1260، والدارقطنی جلد 1 صفحہ 53، والبیہقی جلد 1 صفحہ 191. وقال الترمذی: حدیث حسن. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17898 عن عبد الصمد، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17896، والطحاوی جلد 1 صفحہ 24، والطبرانی رقم الحدیث: 3156، والبیہقی جلد 1 صفحہ 191 من طریق شعبة، به، وفيه التصريح بتسمية الصحابي الحكم. ورواه سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كرواية يونس عن الطيالسي. أخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 33، وأحمد رقم الحدیث: 20674، والبخاری فی التاريخ جلد 4 صفحہ 185، والترمذی رقم الحدیث: 63، والطبرانی رقم الحدیث: 3154-3157.

1349- حدیث صحیح. أخرجه أحمد رقم الحدیث: 20550، والدارمی رقم الحدیث: 1254، والبخاری فی

رفع الیدین رقم الحدیث: 7-98، وأبو داؤد رقم الحدیث: 745، والنسائی رقم الحدیث: 879-1084،

وابن حبان رقم الحدیث: 1863، والطبرانی جلد 19 صفحہ 284 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن

أبي شيبة جلد 1 صفحہ 234، وأحمد رقم الحدیث: 20554-20556، والبخاری فی رفع الیدین رقم

الحدیث: 53-65، ومسلم رقم الحدیث: 391، والنسائی رقم الحدیث: 1023-1055-1085-1086،

وابن ماجه رقم الحدیث: 859، والطحاوی جلد 1 صفحہ 196، والطبرانی جلد 19 صفحہ 284-286،

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَضْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ

کہ نبی اکرم ﷺ دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے اپنا سر انور اٹھاتے تھے۔

حضرت عمرو بن امیہ رضی

171- عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ

اللہ عنہ کی نبی اکرم ﷺ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

سے روایت کردہ حدیث

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہما فرماتے

1350 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ، رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ

حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ ضمری اپنے والد سے

1351 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

والبیہقی جلد 2 صفحہ 25، وغیرہم من طرق قتادة ' به . وأخرجه البخاری رقم الحدیث: 737، ومسلم رقم الحدیث: 391، وغیرہما من طریق ابی قلابہ ' عن مالک بن الحویرث .

1350- حدیث صحیح . وهكذا رواه المصنف عن حرب بن شداد، فقال: عن يحيى بن أبي كثير، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه . وأخرجه النسائي رقم الحدیث: 119 من طریق ابن مہدی، عن حرب، عن يحيى، عن ابی سلمة، عن جعفر، به . زاد أباسلمة . وهكذا رواه جماعة بن يحيى . أخرجه ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 23-178، وفي المسند رقم الحدیث: 903-905، وأحمد رقم الحدیث: 22539، والبدارمی رقم الحدیث: 716، والبخاری رقم الحدیث: 204-205، وابن ماجه رقم الحدیث: 562، وابن خزيمة رقم الحدیث: 181، وابن حبان رقم الحدیث: 1343، وابن قانع جلد 2 صفحہ 210-211، وغیرہم . وانظر العلل لابن ابی حاتم رقم الحدیث: 179 .

1351- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 17651، والبخاری رقم الحدیث: 2923، ومسلم رقم

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو بکری کی دستی کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا، پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَرُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

172- قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ

عنه کی نبی اکرم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

1352 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

الحدیث: 355 من طریق ابراہیم بن سعد، به . وأخرجه البخاری رقم الحدیث: 675 من طریق ابراہیم عن صالح بن کیسان، عن الزهري . زاد صالح بن کیسان . وأخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 898 وأحمد رقم الحدیث: 22532، والدارمی رقم الحدیث: 733، والبخاری رقم الحدیث: 5462-5422، ومسلم رقم الحدیث: 355، والترمذی رقم الحدیث: 1836، وابن ماجه رقم الحدیث: 490، والبيهقي جلد 1 صفحہ 154 من طرق عن الزهري، به .

1352- حدیث صحیح . أخرجه الخطيب في المبهمات صفحہ 270 من طریق المصنف . وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 457، والنسائی رقم الحدیث: 949، وابن حبان رقم الحدیث: 1814، وابن قانع جلد 2 صفحہ 363، والطبرانی جلد 19 صفحہ 17 من طریق شعبة، به . وأخرجه البزار رقم الحدیث: 3704، والطبرانی جلد 19 صفحہ 18 من طریق المسعودی، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 2719، والحمیدی رقم الحدیث: 825، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 353، وأحمد رقم الحدیث: 18923، والدارمی رقم الحدیث: 1301-1302، والبخاری في التاريخ جلد 7 صفحہ 190-191، وفي خلق أفعال العباد رقم الحدیث: 38، ومسلم رقم الحدیث: 457، والترمذی رقم الحدیث: 306، وابن ماجه رقم الحدیث: 816، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1591-527، وابن قانع جلد 2 صفحہ 363، والطبرانی جلد 19 صفحہ 17-19، وغيرهم من طرق عن زياد بن علاقة، به .

وَالْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قُطَيْبَةَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِقَافٍ، قَرَأَ (وَالنَّخْلَ بِاسِقَاتٍ) (ق: 10) قَالَ الْمَسْعُودِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فَلَمَّا قَرَأَ (وَالنَّخْلَ بِاسِقَاتٍ) (ق: 10) قُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا بُسُوقُهَا؟

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز فجر پڑھی آپ نے اس میں سورہ قاف پڑھی تو ”وَالنَّخْلَ بِاسِقَاتٍ“ (ق: 10) حضرت مسعودی اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ”وَالنَّخْلَ بِاسِقَاتٍ“ (ق: 10) پڑھی تو میں نے دل میں کہا: ”بُسُوقُهَا“ کیا ہے؟

حضرت ثعلبہ بن زہد م رضی

اللہ عنہ کی رسول اللہ ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

173- ثَعْلَبَةُ بْنُ زَهْدَمٍ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت اسود بن ہلال رضی اللہ عنہما بنی ثعلبہ بن

1353- جَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1353- حدیث صحیح . وقد اختلف على الأشعث فيه ' فرواه شعبة عنه كما هنا . ورواه الثوري عنه ' وسمى المبهم كما أشير إليه عقب الحديث . ورواه أبو الأحوص وأبو عوانة ' عن الأشعث ' عن أبيه ' عن رجل من بنى ثعلبة . ولعل الأشعث أخذه من الاثنين ' وحدث به على الوجهين ' مرة يسمى الرجل ' ومرة يبهمه ' فالرواة عنه أئمة كبار . وأخرجه النسائي رقم الحديث: 4850 ' والبيهقي جلد 8 صفحہ 27 من طريق المصنف . وأخرجه البزار (918-كشف) من طريق المصنف ' وفيه: عن الأسود بن ثعلبة . وأخرجه النسائي رقم الحديث: 4851 من طريق شعبة ' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16664-23250 ' والنسائي رقم الحديث: 4852 من طريق أبي عوانة . وأخرجه هناد في الزهد رقم الحديث: 962 ' والنسائي رقم الحديث: 4853 من طريق أبي الأحوص كلاهما عن أشعث ' عن أبيه ' عن رجل من بنى ثعلبة . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 212 ' وفي المسند رقم الحديث: 634 ' وهناد في الزهد رقم الحديث: 963 ' والنسائي رقم الحديث: 4848-4849 ' والبزار (917-كشف) ' والفسوي في المعرفة جلد 4 صفحہ 86 ' وابن قانع في المعجم جلد 1 صفحہ 125 ' والطبراني رقم الحديث: 1384 ' والبيهقي جلد 8 صفحہ 345 ' وغيرهم من طريق الثوري عن أشعث ' عن الأسود بن هلال .

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ،
 قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ
 مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنْهُمْ اتَّوَا رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانُوا بَنُو ثَعْلَبَةَ
 أَصَابُوا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ لَاءِ بَنُو
 ثَعْلَبَةَ بْنِ يَرْبُوعٍ، قَتَلْتُ فَلَانًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَيَّ أُخْرَى
 وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ، فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدُ الْمُعْطَى
 الْعُلْيَا، أُمِّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتِكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ
 أَدْنَاكَ هَكَذَا قَالَ شُعْبَةُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ
 وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ

یربوع کے ایک آدمی کے حوالہ سے حدیث بیان کرتے
 ہیں کہ ان کی قوم سے کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس
 آئے اور بنو ثعلبہ نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے
 کسی کو مارا تھا، ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ
 بنو ثعلبہ بن یربوع ہیں، انہوں نے فلاں کو مارا ہے۔ تو
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی جان کی دوسرے پر
 جنایت نہیں ہے اور نبی اکرم ﷺ نے صدقہ کا ذکر کیا۔
 اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اوپر والا دینے
 والا ہاتھ ہے، تیری ماں اور تیرے باپ اور تیری بہن اور
 تیرے بھائی کا ہے، پھر اس سے کم درجہ رشتہ والے کا،
 پھر اس سے کم رشتہ والے کا۔ حضرت شعبہ نے بنی ثعلبہ
 کے ایک آدمی سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ثوری کہتے
 ہیں: ثعلبہ بن زہدم روایت ہے۔

174- عَرَفَجَةُ بْنُ أَسْعَدَ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ

عنه کی رسول اللہ ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

1354 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

حضرت عبدالرحمن بن طرفہ اپنے دادا حضرت عرفجہ

1354- حدیث صحیح . وعبد الرحمن بن طرفة وثقه العجلي وابن حبان، وخرج له في صحيحه وأخرجه ابن

سعد جلد 7 صفحہ 45، وأحمد رقم الحديث: 20284، وأبو داؤد رقم الحديث: 4233، والترمذی رقم

الحديث: 1770، وفي العليل الكبير صفحہ 290، والنسائی رقم الحديث: 5177، وأبو يعلى رقم

الحديث: 1501-1502، وابن حبان رقم الحديث: 5462، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند رقم

الحديث: 20278، والطبرانی جلد 17 صفحہ 146 من طرق عن أبي الأشهب، به . وأخرجه النسائی رقم

الْأَشْهَبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرْفَةَ، عَنْ جَدِّهِ
عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلابِ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرَقٍ فَأَتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ
ذَهَبٍ

بن اسعد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی ناک زمانہ
جاہلیت میں یوم کلاب کے موقع پر ضائع ہو گئی تو انہوں
نے چاندی کی ناک بنوائی، سو اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو
نبی اکرم ﷺ نے ان کو سونے کی ناک بنانے کا حکم
دیا۔

175- جُنْدَبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت جنذب بن عبد اللہ رضی
اللہ عنہ کی رسول اللہ ﷺ سے
روایت کردہ حدیث

1355 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَجْلَزٍ، عَنْ
جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت جنذب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اندھا
دھند جھنڈے کے تلے مارا جائے، اس کی عصبيت کی مدد

الحدیث: 5176 من طریق عبد الرحمن' به . وروی عن عبد الرحمن' عن أبيه' عن جده . أخرج عبد
الله بن أحمد رقم الحديث: 20289' وابن قانع جلد 2 صفحہ 281 . والمحفوظ الأول . قاله المزی فی
التهدیب جلد 17 صفحہ 192' وقال الحافظ فی أطراف المسند جلد 4 صفحہ 341: عن أبيه' عن جده .
غریب جدًا . وروی عن عبد الرحمن' عن جده' مرسلاً . أخرج ابن أبي شيبة فی المسند رقم
الحدیث: 618' وأحمد رقم الحديث: 19028-20283' وأبو داؤد رقم الحديث: 4232' وعبد الله فی
الزوائد رقم الحديث: 20285-20286-20288 . وروی عن عبد الرحمن' عن أبيه' عن عرفجة'
مرسلاً . أخرج أبو داؤد رقم الحديث: 4234 .

1355- حدیث صحیح، وفی اسنادہ هنا عمران القطان، وهو ضعيف . أخرج ابن حبان رقم الحديث: 4579
والطبرانی رقم الحديث: 1671 من طریق المصنف . وأخرج النسائی رقم الحديث: 4126' والطبرانی
رقم الحديث: 1671 من طریق عمران' به . وأخرج مسلم رقم الحديث: 1850 من طریق آخر عن أبي
مجلز' به .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَنْصُرُ
الْعَصْبَةَ وَيَغْضِبُ لِلْعَصْبَةِ فَقَتِيلٌ جَاهِلِيَّةٌ
کی اور عصیت کے لیے غصہ کیا تو وہ جاہلیت کی موت
مارا گیا۔

فائدہ: یعنی وہ شرعی جہاد نہ ہو تو ایسی صورت میں مارا جانے والا شہید نہیں ہے۔

حضرت قیس بن عاصم

رضی اللہ عنہ کی حدیث

176- قَيْسُ

بُنْ عَاصِمٍ

1356 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ
قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَوْصَى فَقَالَ: إِذَا أَنَا مِتُّ،
فَلَا تَنُوحُوا عَلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ

حضرت حکیم بن قیس بن عاصم سے روایت ہے کہ
ان کے والد نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ
پر نوحہ نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ ﷺ پر نوحہ نہیں کیا گیا۔

حضرت سلمان بن عامر

رضی اللہ عنہ کی حدیث

177- سَلْمَانَ

بُنْ عَامِرٍ

1357 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ،
تُحَدِّثُ عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَامَ أَحَدُكُمْ
فَلْيُفِطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ
طَهُورٌ

حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی
روزہ رکھے تو وہ کھجور کے ساتھ افطار کرے، پس اگر کھجور
نہ ملے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ پانی پاک ہے۔

1356 - حدیث صحیح سبق تخریجہ .

1357 - اسنادہ ضعیف لجهالة الرباب بنت صلیح و سبق تخریجہ .

178- مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيُّ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ

عنه کی نبی اکرم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

1358 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ

بْنِ عَاصِمِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصْبِحُ النَّاسُ

مُجْدِبِينَ فَيَأْتِيهِمْ اللَّهُ بِرِزْقٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُونَ

مُشْرِكِينَ فَيَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنُوءٍ كَذَا وَكَذَا

حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ عنه سے روایت ہے

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ صبح کرتے ہیں

بھوکے تو اللہ ان کو اپنی جانب سے رزق دیتا ہے سو

مشرکین صبح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں ستارے

کی وجہ سے ہم پر بارش برسی۔

179- سُوَيْدُ بْنُ

مُقَرَّن

حضرت سوید بن مقرن

رضی اللہ عنه کی حدیث

1359 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ عنه فرماتے ہیں

1358- اسنادہ ضعیف لضعف عمران القطان . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15576، وابن أبي عاصم في

الأحاد والمثاني رقم الحديث: 940، والبخاري (663- كشف) من طريق المصنف . وأخرجه البخاري في

التاريخ جلد 7 صفحہ 329 معلقاً والطبراني جلد 19 صفحہ 430، وابن قانع في معجمه جلد 3 صفحہ 77

من طريق عمران القطان، به . وله شاهد عن زيد بن خالد عند البخاري رقم الحديث: 1038، ومسلم

رقم الحديث: 71 .

1359- حديث صحيح . أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 5012، والمزني في تهذيب الكمال

جلد 33 صفحہ 402 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15741، والبخاري في الأدب

المفرد رقم الحديث: 179، ومسلم رقم الحديث: 1658، والطبراني رقم الحديث: 6453، وابن قانع

جلد 1 صفحہ 292-293 من طريق شعبة، به . ورواه معاوية بن سويد وهلال بن يساف، عن سويد، به .

کہ ایک آدمی نے ایک غلام یا آدمی کو تھپڑ مارا۔ تو حضرت سوید نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ انسان کی صورت قابل احترام ہے، میں نے اپنے آپ کو سات بھائیوں میں دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ہمارا ایک ہی غلام تھا، ہم میں سے کسی ایک نے اسے مارا تو رسول اللہ ﷺ نے اسے آزاد کرنے کا حکم دیا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: مَا اسْمُكَ؟ قُلْتُ: شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو شُعْبَةَ وَكَانَ لَطِيفًا عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ: لَطَمَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ أَوْ إِنْسَانًا فَقَالَ سُوَيْدٌ: أَمَا عَلِمْتُ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةِ إِخْوَةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا إِلَّا خَادِمٌ فَلَطَمَهُ أَحَدُنَا فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْتَقَهُ

حضرت ہلال مازنی رضی اللہ عنہ کی

180- هِلَالُ الْمَازِنِيِّ

حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ

عَنْ سُوَيْدِ

عنه سے روایت کردہ حدیث

بْنِ مُقَرِّنٍ

حضرت ہلال مازنی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں

1360 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، سَمِعْتُ هِلَالَ

أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 17937، وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 23792، وَابْنُ خَالَسَانَ فِي الْأَدَبِ الْمَفْرُودِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 176-178، وَمُسْلِمٌ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1658، وَأَبُو دَاوُدَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 5166-5167، وَالتِّرْمِذِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1542، وَالتَّطَبَّرِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 4651-4652، وَابْنُ قَانِعٍ جُلْدَ 1 صَفْحَةَ 293، وَالحَاكِمُ جُلْدَ 3 صَفْحَةَ 295. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

1360- اسنادہ ضعیف، لجهالة أبي حمزة وهلال. وعزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 2288 الى المصنف. وأخرجه ابن أبي شيبة في المسند كما في الاتحاف رقم الحديث: 2289، وأحمد رقم الحديث: 22794، والبخاري في التاريخ جلد 8 صفحہ 204 معلقاً وابن أبي عاصم في الآحاد والمثالی رقم الحديث: 1084، وابن قانع جلد 1 صفحہ 293، والبيهقي جلد 8 صفحہ 302 من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15742 من طريق شعبة، به، ولم يسم هلالاً.

رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک مٹکا لے کر آیا، اس میں نبیز بنی ہوئی تھی، میں نے اس کے متعلق آپ سے پوچھا تو آپ نے مجھے منع کر دیا، سو میں نے اس مٹکے کو توڑ دیا۔

الْمَازِنِي، يَقُولُ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ مَقْرِنٍ، يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَرَّةٍ انْتَبَذَ فِيهَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَهَانِي فَكَسَرْتُ الْجَرَّةَ

حضرت حنظلہ بن الراہب

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت حنظلہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نے تیمم کیا، اور آپ نے فرمایا: مجھے تیرے سلام کے جواب دینے سے کوئی چیز مانع نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں وضو کی حالت میں نہیں تھا، یا یہ فرمایا کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آپ نے تیمم کر لیا، اس کے بعد آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔

حضرت ابوسعید بن المعلی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابوسعید بن المعلی رضی اللہ عنہ سے روایت

181- حَنْظَلَةُ بْنُ

الرَّاهِبِ

1361 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السُّكَّيْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَمَسَّحَ وَقَالَ: لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا إِنِّي لَمْ أَكُنْ مُتَوَضِّئًا أَوْ قَالَ: لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى تَمَسَّحَ فَرَدَّ عَلَيَّ

182- أَبُو سَعِيدِ بْنِ

الْمُعَلِّي

1362 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1361- اسنادہ ضعیف، لا بہام الراوی عن حنظلہ . وعزاه الحافظ فی المطالب رقم الحدیث: 105 الی المصنف . ولہ شاہد، وعن المهاجر بن قنفذ عند أحمد رقم الحدیث: 19056، وأبی داؤد رقم الحدیث: 17 .

1362- حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 368 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17884، والدارمی رقم الحدیث: 1500-3374، والبخاری رقم الحدیث: 4703-5006، وأبو

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا أَصَلِّي، قَالَ: فَدَعَانِي قَالَ: فَصَلَّيْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي حِينَ دَعَوْتُكَ؟ أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) (الانفال: 24)؟ لَا عَلِمْنَاكَ أَغْظَمَ سُورَةَ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كِدْنَا أَنْ نَبْلُغَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: نَسِيََ فَدَكَّرْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ قُلْتَ لِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ

ہے کہ رسول اللہ ﷺ مسجد میں تھے اور میں نماز پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ مجھے آپ نے بلوایا، کہا کہ میں نے نماز پڑھی پھر میں آیا، تو آپ نے فرمایا: تجھے کون سی ممانعت تھی جس وقت میں نے تجھے بلوایا تھا تو تو نے مجھے جواب نہ دیا؟ کیا تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نہیں سنا کہ (اللہ) فرماتا ہے: ”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جایا کرو جس میں تمہاری زندگی ہو“ (الانفال: 24) کیا میں تم کو قرآن کی سب سے بڑی سورت نہ سکھاؤں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے؟ کہا کہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ مسجد سے نکلنے کے قریب ہو گئے، میں نے سمجھا شاید آپ بھول گئے میں نے آپ کو یاد کروایا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے یہ یہ فرمایا تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ ”الحمد لله رب العالمين“ سب سے بڑی سورت ہے اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا ہے۔

حضرت عتبہ بن عبدالمسلمی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عتبہ بن عبدالمسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت

183- عُبَيْبُ بْنُ

عَبْدِ الْمُسْلِمِيِّ

1363 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

داؤد رقم الحدیث: 1458، والنسائی رقم الحدیث: 912 وابن ماجہ رقم الحدیث: 3785، وابن حبان

رقم الحدیث: 777، وابن قانع جلد 1 صفحہ 186، والطبرانی جلد 22 صفحہ 303 من طرق شعبة، بہ .

1363- حدیث صحیح . وأبو المثنی ثقة، وثقه العجلی وابن حبان وابن عبد البر . وأخرجه البيهقي جلد 9

صفحہ 164 من طريق المصنف . وأخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 430، وأحمد رقم الحدیث: 17694

ہے، انہیں رسول اللہ ﷺ کی صحبت حاصل ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا: شہید تین ہیں، وہ بندہ مؤمن جو اپنا نفس اور اپنا مال لے کر نکلا، پھر دشمن سے اس کا آنا سامنا ہوا اور وہ لڑا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، اس کو اللہ کے خیمہ میں جگہ مل گئی، عرش کے نیچے انبیاء اس سے افضل صرف درجہ نبوت کی وجہ سے ہوں گے۔ اور وہ مرد مؤمن جس نے ساری زندگی گناہ کیے، اس کا دشمن سے آنا سامنا ہوا تو وہ لڑا اور شہید ہو گیا، وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ تلوار گناہ معاف کر دیتی ہے، اس کو کہا جائے گا: جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا! کیونکہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور جہنم کے بھی سات دروازے ہیں، (جنت کے دروازے) بعض بعض سے افضل ہیں۔ ایک وہ منافق آدمی جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ نکلا یہاں تک کہ وہ شہید ہوا تو وہ جہنم میں ہوگا، کیونکہ تلوار نفاق کو ختم نہیں کرتی۔

حضرت سفیان بن حکم، یا حکم بن

سفیان رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت حکم یا ابو حکم (بن سفیان) رضی اللہ عنہ بنی

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو السَّكْسَكِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْمُطَّلِبِيِّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السَّلَمِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَتْلَى ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَقِيَ الْعَدُوَّ فَقَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ فَذَلِكَ الْمُمْتَحَنُ فِي خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ لَا يَفْضُلُهُ النَّبِيُّونَ إِلَّا بِدَرَجَةِ النَّبُوَّةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا لَقِيَ الْعَدُوَّ فَقَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ فَذَلِكَ مَصْمُومٌ مَحَتْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَاءٌ لِلْخَطَايَا وَقِيلَ لَهُ: ادْخُلْ مِنْ آيِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شِئْتَ فَإِنَّهَا ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، وَلِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ، وَرَجُلٌ مُنَافِقٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَقَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ فَذَلِكَ فِي النَّارِ إِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُو النِّفَاقَ

184- سُفْيَانُ بْنُ الْحَكَمِ

أَوْ الْحَكَمُ بْنُ سُفْيَانَ

1364 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ

والدارمی رقم الحدیث: 2416، والفسوی فی المعرفة جلد 2 صفحہ 342، وابن حبان رقم الحدیث:

4663، والطبرانی جلد 17 صفحہ 125-126، والبیہقی فی البعث رقم الحدیث: 235-458 من طریق

صفوان بن عمرو، بہ .

1364 - حدیث مضطرب الاسناد . أخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 161 من طريق المصنف . وأخرجه البغوي في

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ثَقِيفِ كَعِ آدِيٍّ سَعِ رَوَايَتِ كَرْتِي هِي كَر رَسُوْلِ اللّٰهِ الْحَكَمِ، اَوْ اَبِي الْحَكَمِ رَجُلٌ مِّنْ ثَقِيفٍ عَنِ اَبِيهِ، ﷺ نِي وَضُو كِيَا اَوْر (تعليم امت کے لیے) اپنی

الجمعديات رقم الحديث: 821، وابن قانع في معجمه جلد 1 صفحه 205-316 والطبرانی رقم الحديث: 3176، والبيهقي جلد 1 صفحه 161 من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17886، وابن قانع جلد 1 صفحه 206 من طريق منصور، به. وقد اختلف على مجاهد فيه على عشرة أقوال، سردها المزي في تهذيبه جلد 7 صفحه 96. ف قيل: عن مجاهد، عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه. أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 168. وقيل: عن مجاهد، عن الحكم بن سفیان، عن أبيه. أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 3178. وقيل: عن مجاهد، عن الحكم غير منسوب، عن أبيه. أخرجه النسائي رقم الحديث: 134. وقيل: عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن أبيه. أخرجه أحمد رقم الحديث: 23274، وأبو داؤد رقم الحديث: 167، والحاكم جلد 1 صفحه 171، والبيهقي جلد 1 صفحه 161. قال المزي: فهذه أربعة أقوال فيها: عن أبيه. وقيل: عن مجاهد، عن سفیان بن الحكم أو الحكم بن سفیان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 586-587، وأحمد رقم الحديث: 23519، وعبد بن حميد رقم الحديث: 485، وأبو داؤد رقم الحديث: 166، وابن قانع جلد 1 صفحه 206، والطبرانی رقم الحديث: 3181. وقيل: عن مجاهد، عن الحكم بن سفیان، من غير شك. أخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحه 128، وفي مسنده رقم الحديث: 585، والنسائي رقم الحديث: 135، وابن ماجه رقم الحديث: 461، وابن قانع جلد 1 صفحه 206، والطبرانی رقم الحديث: 3175-3180-3182-3183. وقيل: عن مجاهد، عن الحكم، أو أبو الحكم بن سفیان. أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 3176-3177-3184. وقيل: عن مجاهد، عن رجل من ثقيف يقال له: الحكم بن سفیان، أو ابن أبي سفیان. وقيل عن مجاهد، عن أبي الحكم أو أبي الحكم بن سفیان. أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 3179. وقيل: عن مجاهد، عن رجل من ثقيف، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه أحمد رقم الحديث: 23520. قال المزي: فهذه ستة أقوال ليس فيها: عن أبيه. وقال الترمذي جلد 1 صفحه 72: اضطربوا في هذا الحديث. وقال الحافظ في تهذيبه جلد 2 صفحه 426: وقال الخلال عن ابن عيينة: الحكم ليست له صحبة. وكذا نقله الترمذي في العلل صفحه 37 عن البخاري، وقال ابن أبي حاتم في العلل رقم الحديث: 103 عن أبيه: الصحيح: الحكم بن

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ شَرْمِغَاهُ بِرِوَيْهِ حَبْرًا -
فَرَجَهُ

185- عُمَارَةُ

بْنِ رُوَيْبَةَ

حضرت عمارہ بن رویہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت حصین فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت

عمارہ بن رویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان کو بشر بن مروان کی صحبت حاصل تھی انہوں نے جمعہ کے دن دعا میں ہاتھ بلند کیے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو برا بھلا کہا۔ حضرت زائدہ نے کہا کہ اللہ ان دونوں ہاتھوں کو ذلیل کرے! رسول اللہ ﷺ نے اس طرح زیادہ نہیں کیا۔ امام ابوداؤد نے سبابہ انگلی سے اشارہ کیا۔

1365 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَزَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: رَأَى عُمَارَةَ بْنَ رُوَيْبَةَ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ بِبِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ شُعْبَةُ: فَشْتَمَهُ أَوْ نَالَ مِنْهُ وَقَالَ زَائِدَةُ: قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ مَا زَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ هَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّبَابَةِ

سفيان، عن أبيه . وكذا قال الترمذی فی العبل عن البخاری والذهلی عن ابن المدینی، وصحح ابراهيم الحریبی وأبو زرعة وغيرهما أن للحکم بن سفيان صحبة 'فأله أعلم' وفيه اضطراب كثير . وانظر تاریخ البخاری جلد 2 صفحہ 329-330 وتمام المنة صفحہ 66 .

1365- حدیث صحیح . أخرجه ابن خزيمة رقم الحديث: 1794 من طريق المصنف 'عن شعبة وحده به . وأخرجه ابن قانع جلد 2 صفحہ 244-245 من طريق شعبة 'به . وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 1104' وابن قانع جلد 2 صفحہ 245 من طريق زائدة 'به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 5279' وابن أبي شيبه جلد 2 صفحہ 116' وأحمد رقم الحديث: 17263-18325' والدارمی رقم الحديث: 1568-1569' ومسلم رقم الحديث: 874' والترمذی رقم الحديث: 515' وابن أبي عاصم فی الآحاد والمثانی رقم الحديث: 1581-1582' والنسائی رقم الحديث: 1411' وفي الكبرى رقم الحديث: 1714-1715' وابن خزيمة رقم الحديث: 1793-1794' وابن حبان رقم الحديث: 882 من طرق عن حصین 'به نحوه .

186- الشَّرِيدُ بْنُ

حضرت شریذ بن سوید ثقفی

سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

1366 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عمرو بن شریذ ثقفی اپنے والد سے روایت

قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو
 بْنِ الشَّرِيدِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَجْدُومًا أَتَى
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُبَايِعَهُ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَإِنِّي قَدْ

کرتے ہیں کہ ایک مجذوم کو نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں
 لایا گیا تا کہ آپ کی بیعت کرے، تو رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا: اس کو کہو کہ لوٹ جائے بلاشبہ میں نے اس کی
 بیعت کر لی ہے۔

بَايَعْتُهُ

1367 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

حضرت عمرو بن شریذ اپنے والد سے روایت

1366 - حدیث صحیح . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 132، وفي المسند رقم الحديث: 909، وأحمد رقم
 الحديث: 19486، ومسلم رقم الحديث: 2231، والطبرانی رقم الحديث: 7247 من طريق شريك به .
 وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 132، وفي المسند رقم الحديث: 909، وأحمد رقم الحديث:
 19492، ومسلم رقم الحديث: 2231، والنسائي رقم الحديث: 4193، وفي الكبرى رقم الحديث:
 8715، وابن ماجه رقم الحديث: 3544 من طريق هشيم، عن يعلى بن عطاء، به . ونحوه .

1367 - حدیث صحیح . وأخرجه المزى فى تهذيب الكمال جلد 15 صفحہ 228 من طريق المصنف . وأخرجه
 ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 505، وفي المسند رقم الحديث: 913، وأحمد رقم الحديث: 19482،
 والبخارى فى الأدب المفرد رقم الحديث: 869، ومسلم رقم الحديث: 2255، والترمذى فى الشمائل
 رقم الحديث: 240، وابن ماجه رقم الحديث: 3758، وابن أبى عاصم فى الأحاد والمثانى رقم
 الحديث: 1571، وابن قانع جلد 1 صفحہ 342، والطبرانى رقم الحديث: 7237، وفى الأوسط رقم
 الحديث: 2429 من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى، به . وأخرجه الحميدى رقم الحديث:
 809، وابن أبى شيبة جلد 8 صفحہ 504، وأحمد رقم الحديث: 19485، والبخارى فى الأدب المفرد
 رقم الحديث: 799، ومسلم رقم الحديث: 2255، والنسائي فى الكبرى رقم الحديث: 10836، وابن
 حبان رقم الحديث: 5782، والطبرانى رقم الحديث: 7238-7239 من طرق عن ابراهيم بن ميسرة، عن

کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا کہ مجھے امیہ بن صلت کے قافیہ والے سو شعر سناؤ! میں جب کوئی قافیہ سنا دیتا تو آپ فرماتے: اور سناؤ! پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قریب تھا کہ (امیہ) مسلمان ہو جاتا اپنے اشعار کی وجہ سے۔

اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَنْشَدَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ قَافِيَةٍ مِنْ شِعْرِ أُمِّيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ كُلَّمَا أَنْشَدْتُهُ قَافِيَةً قَالَ: هِيَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ كَادَ لَيَسْلِمُ فِي شِعْرِهِ

1368 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن، حضرت عمرو بن شریذ سے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: پڑوسی زیادہ حق دار ہوتا ہے سقبہ کا۔ میں نے حضرت عمرو سے عرض کی: سقبہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: اس کا شفعہ کرنا۔

اللَّهِ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرُو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْءُ أَوْلَى بِسَقْبِهِ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: مَا سَقْبُهُ؟ قَالَ: شُفَعَتُهُ

حضرت جراح اور ابوسفیان اشجعیان

187- الْجَرَّاحُ وَابُو

رضی اللہ عنہما کی احادیث

سِنَانُ الْأَشْجَعِيَّانِ

حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1369 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

عمرو بن الشریذ، بہ، نحوہ، بدون الزیادۃ فی آخرۃ: ان کاد لیسلم، او: فلقد کاد یسلم شعرہ . وأخرجه ابن ابی شیبۃ فی المسند رقم الحدیث: 910، وأحمد رقم الحدیث: 19494، ومسلم رقم الحدیث: 2255 عن ابراہیم بن میسرۃ، عن عمرو او یعقوب بن عاصم بہ .

1368- حدیث صحیح مکرر .

1369- حدیث صحیح، واسناد المصنف منقطع، قتادۃ لم یسمع من خلاص بن عمرو . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 18483، والخطیب فی المبہمات صفحہ 474 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 4099 من طریق ہشام بہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 4276-4278، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2119 من طرق عن قتادۃ عن خلاص، وأبی حسان بہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 18489، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2115، والترمذی رقم الحدیث: 1145، والنسائی رقم الحدیث: 3524، وابن

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ تُوْفِي عَنْهَا زَوْجَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَابِسِي أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْءٌ فَأَتَى فِيهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَقَالَ: أَقُولُ فِيهِ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي، لَهَا صَدَقَةٌ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْنَا بِذَلِكَ فِي بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقِ فَقَالَ: هَلُمَّ شَاهِدَيْنِ عَلَى هَذَا فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعٍ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لایا گیا ایک عورت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے جس کا شوہر فوت ہو گیا اور اس نے اس کے ساتھ نہ دخول کیا نہ اس کے لیے حق مہر مقرر کیا، تو آپ نے فوراً اس مسئلہ کے بارے کچھ کہنے سے انکار کر دیا، ایک ماہ بعد معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میں اس مسئلہ کے متعلق کہتا ہوں کہ اے اللہ! اگر یہ مسئلہ درست ہے تو یہ تیری طرف سے ہے اور اگر یہ غلط ہے تو یہ میری طرف سے ہے۔ (مسئلہ کا جواب یہ ہے کہ) اس کے لیے مہر اس کی عورتوں کی طرح ہے اور اس کے لیے میراث بھی ہے اور اس پر عدت بھی ہے۔ تو قبیلہ اشجع کا ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ہم میں بروع بنت واشق کے مسئلہ میں یہی فیصلہ کیا تھا، (حضرت عبداللہ نے) فرمایا: اس پر دو گواہ لاؤ! پس حضرت ابوسنان اور حضرت جراح نے اشجع کی طرف سے گواہی دی۔

حضرت سلمہ بن قیس

رضی اللہ عنہ کی حدیث

188- سَلَمَةُ

بْنُ قَيْسٍ

حضرت سلمہ بن قیس اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1370 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

ماجہ رقم الحدیث: 1891، وابن الجارود رقم الحدیث: 718، والحاکم جلد 2 صفحہ 180 من طریق

ابراہیم، عن علقمة، عن ابن مسعود، وقال الترمذی: حسن صحیح. و صححه الحاکم. وروی من

طرق أخرى. انظر تفصیل ذلك فی السنن للنسائی رقم الحدیث: 3354-3358، والكبریٰ رقم

الحدیث: 5521-5523، والسنن للبیہقی جلد 7 صفحہ 244-247، والارواء جلد 6 صفحہ 357-360.

1370 - حدیث صحیح. أخرجه الطحاوی جلد 1 صفحہ 121، وابن قانع فی معجمه جلد 1 صفحہ 275.

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لِي: إِذَا كَتَبْتُ إِلَيْكَ فَقَدْ حَدَّثْتُكَ فَقَالَ: سَمِعْتُ هِلَالَ بْنَ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَاثْرُ، وَإِذَا اسْتَجَمَرْتَ فَأَوْتِرْ

کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: جب تو وضو کرے تو ناک صاف کر لیا کر اور جب استنجاء کے لیے ڈھیلے استعمال کرے تو طاق عدد لیا کر۔

حضرت طارق بن عبد اللہ محاربی

189- طَارِقُ بْنُ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيُّ

حضرت طارق رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ سے

1371- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

والطبرانی رقم الحدیث: 6308 من طریق شعبة ' به . وأخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 856، وابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 27، وفي المسند رقم الحدیث: 710، وأحمد رقم الحدیث: 19010-19013، والترمذی رقم الحدیث: 27، والنسائی رقم الحدیث: 43-89، وابن ماجه رقم الحدیث: 406، وابن قانع جلد 1 صفحہ 276، وابن حبان رقم الحدیث: 1436، والطبرانی رقم الحدیث: 6315 من طرق عن منصور ' به ' نحوه . والحدیث فی الازامات للدارقطنی صفحہ 116 . وقال الترمذی: حسن صحیح . وله شاهد عن ابی هريرة عند البخاری رقم الحدیث: 162، ومسلم رقم الحدیث: 237 .

1371- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 27265، وابن قانع فی معجمه جلد 2 صفحہ 44، والطبرانی رقم الحدیث: 8166 من طریق شعبة ' به . وأخرجه ابن قانع جلد 2 صفحہ 44 من طریق ورقاء ' به . وأخرجه أبو داؤد رقم الحدیث: 478، والطبرانی رقم الحدیث: 8168 من طریق ابی الأحوص سلام ' به . وأخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 8168 من طریق قیس ' به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 1688، وابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 364، وفي المسند رقم الحدیث: 821، وأحمد رقم الحدیث: 27266، والترمذی رقم الحدیث: 571، وابن ماجه رقم الحدیث: 1021، وابن ابی عاصم فی الآحاد والمثنائی رقم الحدیث: 1322، والنسائی رقم الحدیث: 725، وابن خزيمة رقم الحدیث: 877، وابن قانع جلد 2 صفحہ 44، والطبرانی رقم الحدیث: 8169-8172، وفي الأوسط رقم الحدیث: 3307

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب تو نماز میں ہو تو اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھوک، لیکن اگر تجھے تھوکنہا ہی ہے تو بائیں طرف تھوک، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو اس کو اپنے قدم کے نیچے دفن کر دے۔ اور حضرت قیس نے فرمایا: یعنی بائیں (قدم) کے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَوَرَقَاءُ، وَوَسَّالَمٌ، وَقَيْسٌ، كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا تَبْزُقْ تَجَاهَ وَجْهِكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ ابْزُقْ تَجَاهَ يَسَارِكَ إِذَا كَانَ فَارِغًا وَالْأَفْتَحَتْ قَدَمَكَ وَقَالَ قَيْسٌ: الْيُسْرَى

حضرت عتبہ بن غزو ان

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت خالد بن عمیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت عتبہ بن غزو ان نے خطبہ دیا اور اپنے خطبہ میں فرمایا: میں ان سات میں ساتواں تھا جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے ہمارے پاس تقریباً ایک ماہ تک کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے سوا کچھ نہیں تھا، یہاں تک کہ ہمارے سوڑھے اس سے پھٹ گئے۔

190- عُتْبَةُ

بْنُ غَزْوَانَ

1372- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَمِيرٍ، قَالَ: خَطَبَنَا عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا وَقَدْ رَأَيْتَنِي لَسَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ

والحاكم جلد 1 صفحہ 256، والبيهقي جلد 2 صفحہ 292 من طرق عن منصور، به . وقال الترمذی:

حسن صحيح . وصححه الحاكم وأقره الذهبي .

1372- حدیث صحیح . أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 534، وأحمد رقم الحديث: 17611

ومسلم رقم الحديث: 2967، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف جلد 7 صفحہ 233

والطبراني جلد 17 صفحہ 114 من طريق سليمان بن المغيرة 'به' مطولاً . وأخرجه ابن أبي شيبة

جلد 13 صفحہ 376، وأحمد رقم الحديث: 20629، ومسلم رقم الحديث: 2967، والطبراني جلد 17

صفحہ 113-114 من طرق عن حميد بن هلال 'به' مطولاً ومختصراً . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 13

صفحہ 376، وفي المسند رقم الحديث: 564، والترمذی في الشمائل رقم الحديث: 358، والطبراني

جلد 17 صفحہ 114، وأبو نعيم في الحلية جلد 2 صفحہ 256 من طرق عن خالد، وغيره 'به' مطولاً .

أَشَدَّ اقْنَانًا مِنْهُ

191- جَابِرُ بْنُ

سَمُرَةَ السُّوَائِيُّ

حضرت جابر بن سمرہ السوائی

رضی اللہ عنہ کی احادیث

1373- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ السُّوَائِيَّ،
 يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ
 فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟
 قَالَ: فَأَحْذَرُوهُمْ

1374- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
 جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: أَلَا إِنَّ
 الْإِسْلَامَ لَا يَزَالُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ
 قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي: مَا قَالَ؟
 فَقَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

حضرت جابر بن سمرہ السوائی رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو خطبہ میں ارشاد فرماتے
 سنا: قیامت سے پہلے جھوٹے ہوں گے، آپ نے ایک
 کلمہ فرمایا جس کو میں نے نہیں سمجھا، میں نے اپنے والد
 سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا:
 ”فَاحْذَرُوهُمْ“ (تم ان سے اپنے آپ کو بچانا)۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے رسول اللہ ﷺ کو خطبہ میں فرماتے سنا: خبردار!
 اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، بارہ خلیفوں تک۔ پھر آپ
 نے ایک بات ارشاد فرمائی، میں اسے نہ سمجھ سکا، میں نے
 اپنے والد سے پوچھا: آپ نے کیا فرمایا؟ تو انہوں نے
 کہا کہ آپ نے فرمایا: وہ سب (خلیفہ) قریش سے
 ہوں گے۔

1373- حدیث صحیح مکرر۔

1374- حدیث صحیح مکرر۔

192- عَبْدُ اللَّهِ بْنِ

حضرت عبداللہ بن بسر السلمی

بُسْرِ السُّلَمِيِّ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1375 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ،
 قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: أَتَانَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلَقَتْ لَهُ أُمِّي
 قَطِيفَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَاتَّبَعَهُ بِتَمْرٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُ
 وَيَقُولُ بِالنَّوَى هَكَذَا - وَلَوْى أَبُو دَاوُدَ أُصْبُعِيهِ
 السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى - كَمَا يَرْمِي بِالنَّوَاةِ فَوْقَ
 أُصْبُعِهِ ثُمَّ دَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ ثُمَّ سَقَى الَّذِي عَنْ
 يَمِينِهِ فَقَالَتْ أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ لَنَا
 فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ
 فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

حضرت عبداللہ بن بسر سلمی رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے تو
 میری والدہ نے آپ کے لیے چادر بچھائی، پس آپ اس
 پر تشریف فرما ہوئے، سو آپ کے پاس کھجوریں لائی گئیں
 تو آپ اس سے کھانے لگے اور فرمانے لگے: گٹھلیاں
 ایسے۔ امام ابوداؤد نے شہادت والی اور درمیانی انگلی
 کے ساتھ اشارہ کیا، جیسے گٹھلی کو انگلی کے اوپر رکھ کر پھینکا
 جاتا ہے، پھر آپ نے پانی منگوا کر اسے نوش فرمایا، پھر
 اپنے دائیں جانب والوں کو پینے کے لیے دے دیا۔
 میری والدہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارے لیے دعا
 کریں! تو نبی اکرم ﷺ نے دعا کی: اے اللہ! ان کو
 ان کے رزق میں برکت دے، اور ان کو بخش دے اور ان

1375- حدیث صحیح . أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 10124 من طريق المصنف . وأخرجه عبد

بن حميد رقم الحديث: 506، وأحمد رقم الحديث: 17731، ومسلم رقم الحديث: 2042، وأبو داؤد

رقم الحديث: 3729، والترمذی رقم الحديث: 3576، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10125،

وابن حبان رقم الحديث: 5298، والطبرانی في الدعاء رقم الحديث: 920، والبيهقي جلد 7 صفحہ 274

من طرق عن شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17714، والنسائي في الكبرى رقم

الحديث: 10126، وابن حبان رقم الحديث: 5298، والطبرانی في الدعاء رقم الحديث: 921، والحاكم

جلد 4 صفحہ 107 من طرق عن عبد الله بن بسر، نحوه . وأخرجه النسائي في الكبرى رقم

الحديث: 10123 من طريق يحيى بن حماد، عن شعبة، عن يزيد بن حمير، عن عبد الله بن بسر، عن

أبيه .

پر رحم فرما!

حضرت طارق بن شہاب الاحمسی

رضی اللہ عنہ کی احادیث

193- طَارِقُ بْنُ

شِهَابِ الْأَحْمَسِيِّ

حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ کے ساتھ جنگوں وغیرہ میں جہاد کیا۔

1376- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ فِي السَّرَايَا وَغَيْرِهَا

حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ بجیلہ کا وفد نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا، آپ نے ارشاد فرمایا: احمسین سے ابتداء کرو اور ہمارے لیے دعا

1377- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُخَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ، يَقُولُ: قَدِمَ وَقَدْ بَجِيلَةَ عَلَيَّ

1376- اسنادہ صحیح . أخرجه ابن سعد جلد 6 صفحہ 66، وابن الأثير في أسد الغابة جلد 3 صفحہ 70، وابن

عساكر في تاريخه جلد 24 صفحہ 428 من طريق المصنف . وأخرجه ابن سعد جلد 6 صفحہ 66، وابن

أبي شيبة في المسند رقم الحديث: 531، وأحمد رقم الحديث: 18849-18855، والبخاري في التاريخ

جلد 4 صفحہ 353، وابن قانع في معجمه جلد 2 صفحہ 45، والطبراني رقم الحديث: 8204-8205،

والحاكم جلد 3 صفحہ 80، وابن عبد البر في الاستيعاب جلد 2 صفحہ 2755، وابن عساكر

جلد 24 صفحہ 427-428 من طرق عن شعبة، به . وصححه الحاكم، وقال الحافظ في الاصابة

جلد 3 صفحہ 510: هذا اسناد صحيح .

1377- حديث صحيح . عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 4596، والبوصيري في الاتحاف بذييل

المطالب رقم الحديث: 4757 الى المصنف . وأخرجه ابن عساكر جلد 24 صفحہ 422 من طريق

المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18853 من طريق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 18854، والطبراني رقم الحديث: 8211 من طريق مخارق، به . وانظر الاصابة

جلد 3 صفحہ 510-511 .

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِبْدُؤُوا
بِالْأَحْمَسِيِّينَ وَدَعَا لَنَا

194- عُرْوَةُ

بْنُ مُضَرِّسٍ

حضرت عروہ بن مضر بن مضر
رضی اللہ عنہ کی حدیث

1378 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ،
قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ لَامٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ: هَلْ لِي مِنْ
حَجٍّ؟ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَوَقَفَ
مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ، أَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ
مِنْ عَرَافَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

حضرت عروہ بن مضر بن مضر بن اوس بن لام رضی اللہ
عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس مزدلفہ
میں آیا، میں نے عرض کی: کیا میرے اوپر حج لازم ہے؟
آپ نے فرمایا: جس نے ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھی
اور ہمارے ساتھ اس جگہ ٹھہرایاں تک کہ وہ لوٹ گیا
جہاں سے وہ پہلے لوٹا تھا، عرفات سے رات یا دن کو تو
اس کا حج مکمل ہو گیا، اس نے اپنی میل کچیل دور کر دی۔

1378 - حدیث صحیح - أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 189 من طريق المصنف - وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 18328-18329-18330، والدارمی رقم الحدیث: 1896، والنسائی رقم الحدیث: 3043
وابن قانع فی معجمہ رقم الحدیث: 783، وابن حبان رقم الحدیث: 3850، والطبرانی جلد 17
صفحہ 150، والحاکم جلد 1 صفحہ 463، وأبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 189 من طريق شعبة به -
وأخرجه الطبرانی جلد 17 صفحہ 150، والدارقطنی جلد 2 صفحہ 240، من طريق عبد الله بن أبي السفر،
به - وأخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 900-901، وأحمد رقم الحدیث: 16254-18328، والدارمی
رقم الحدیث: 1895، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1950، والترمذی رقم الحدیث: 891، والنسائی رقم
الحدیث: 3042، وابن ماجه رقم الحدیث: 3016، وأبو يعلى رقم الحدیث: 946، وابن الجارود رقم
الحدیث: 467، وابن حبان رقم الحدیث: 3851، والطبرانی جلد 17 صفحہ 149، والحاکم جلد 1
صفحہ 463، وأبو نعيم في الحلية جلد 4 صفحہ 334، والبيهقی جلد 5 صفحہ 116 من طرق عن الشعبي،
به - وصححه الحاكم، وأقره الذهبي -

195- ابْنُ أَبِي

الْجَدْعَاءِ

1379 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي الْجَدْعَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ

حضرت ابن ابی الجعد عاء

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبداللہ بن شقیق، نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں ان کو ابن ابی الجعد عاء کہا جاتا تھا انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: میری امت کے ایک آدمی کی شفاعت سے بنی تمیم سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔

196- عَطِيَّةُ

الْقُرْظِيُّ

1380 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عطیہ القرظی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عطیہ القرظی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1379- حدیث صحیح . أخرجه ابن أبي شيبة في المسند رقم الحديث: 571، وأحمد رقم الحديث: 15897 والدارمي رقم الحديث: 2811، وابن ماجه رقم الحديث: 4316 من طريق وهيب، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 23154، والبخاري في التاريخ جلد 5 صفحہ 26 تعليقا والترمذی رقم الحديث: 2438، وابن خزيمة في التوحيد رقم الحديث: 469-470، وابن قانع في معجمه رقم الحديث: 530-591، وابن حبان رقم الحديث: 7376، والحاكم جلد 1 صفحہ 70، والبيهقي في الدلائل جلد 6 صفحہ 378، وفي البعث والنشور رقم الحديث: 261 من طرق عن خالد، به . وقال الترمذی: حسن صحيح غريب . وصححه الحاكم، وأقره الذهبي . وللحديث شواهد كثيرة أوردها الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم جلد 20 صفحہ 236 باب ذكر شفاعة المؤمنين لأهاليهم . وانظر الصحيحة رقم الحديث: 2178 .

1380- حدیث صحیح . وقد صرح عبد الملك بن عمير بالتحديث عند أحمد وغيره . وسماع شعبة منه قبل

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةِ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي سَبِي قُرَيْظَةَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ أَنْبَتْ أَنْ يُقْتَلَ فَكُنْتُ فِيْمَنْ لَمْ يُنْبِتْ فَتَرَكْتُ

میں قریظہ کے قیدیوں میں بھی شامل تھا، رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا: جس کے زیر ناف بال اُگے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے، سو میں اُن میں شامل تھا جن کے زیر ناف بال نہیں اُگے تھے، پس مجھے چھوڑ دیا گیا۔

حضرت عمرو بن حتم

197- عَمْرُو

رضی اللہ عنہ کی احادیث

بْنُ الْحَمِقِ

1381 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عمرو بن حتم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں

التغير . وأخرجه الخطيب في المبهمات صفحة 227 من طريق المصنف . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 18742، والحميدي رقم الحديث: 888، وابن أبي شيبة جلد 12 صفحة 384-539، وفي المسند رقم الحديث: 525، وأحمد رقم الحديث: 18798-19440-19441-22711-22712، وأبو داؤد رقم الحديث: 4404-4405، والترمذي رقم الحديث: 1584، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 2189، والنسائي رقم الحديث: 3430، وفي الكبرى رقم الحديث: 8620-8621، وابن ماجه رقم الحديث: 2541-2542، وابن حبان رقم الحديث: 4783، والطبراني جلد 17 صفحة 165، والحاكم جلد 3 صفحة 35، والخطيب في المبهمات صفحة 227م، والبيهقي جلد 9 صفحة 63، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن عمير، به . قال الترمذي: حسن صحيح . وصححه الحاكم، والجوزقاني في الأباطل جلد 2 صفحة 169 . وفي الباب عن كثير بن السائب قال: حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم قريظة، فمن كان محتلمًا..... فذكر الحديث بنحوه . أخرجه النسائي رقم الحديث: 3429، والجوزقاني جلد 2 صفحة 169 .

1381- حديث صحيح . وفي اسناده هنا محمد بن أبان وهو ضعيف، والسدي وهو صدوق، لكنهما متابعا .

وأخرجه البيهقي جلد 9 صفحة 142 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 21997، والبخاري في التاريخ تعليقًا جلد 2 صفحة 322، والبخاري رقم الحديث: 2308-2309، وابن حبان رقم الحديث: 5982، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 203، والفسوي في المعرفة جلد 3 صفحة 192-193، والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 2551، وفي الصغير رقم الحديث: 584، وأبو

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، عَنِ الشَّيْخِ، عَنِ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا آمَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِلِ وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی کسی آدمی کو امن دے اپنی ذات پر پھر اس کو مارے تو میں قاتل سے بری ہوں، اگرچہ مقتول کافر ہو۔

1382 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: كُنْتُ أَبْطَنَ شَيْءٍ بِالْمُخْتَارِ يَعْنِي الْكُذَّابَ قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: دَخَلْتَ وَقَدْ قَامَ جَبْرِيلُ قَبْلُ مِنْ هَذَا

حضرت رفاعہ بن شداد سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں پسندیدہ چیز کو دل میں چھپالیا کرتا تھا، یعنی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کا عادی تھا، کہتے ہیں: ایک دن میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے کہا: تو حاضر ہوا جالانکہ اس سے پہلے اس کرسی پر حضرت جبریل کھڑے

نعيم في الحلية جلد 9 صفحہ 24 من طرق عن السدي، به . وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: 7781 من طريق آخر عن رفاعه، به . ورواه عبد الملك بن عمير، عن رفاعه . كما في الحديث الآتي، وانظر البحر الزخار جلد 6 صفحہ 286 .

1382- حديث صحيح . أخرجه البيهقي جلد 9 صفحہ 142-143 من طريق المصنف . وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 8741، والحاكم جلد 4 صفحہ 353 من طريق قره بن خالد، به . وأخرجه ابن أبي شيبة في المسند رقم الحديث: 863، وأحمد رقم الحديث: 21996-21998، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8739-8740، وابن ماجه رقم الحديث: 2688، والبخاري رقم الحديث: 2306، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 2345، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 201-202 من طرق عن عبد الملك، به . وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: 8428 من طريق عبد الملك، عن شداد بن الحكم، عن عمرو بن الحمق . وأخرجه البزار رقم الحديث: 2307 من طريق عبد الملك، عن عامر بن شداد، عن عمرو بن الحمق . ويظهر أن رفاعه بن شداد، و عامر بن شداد، وشداد بن الحكم، ثلاثهم راوٍ واحد، كان عبد الملك يخطي في اسمه . وانظر السلسلة الصحيحة رقم الحديث: 441 . وقد صحح الحديث الحاكم، وأقره الذهبي، وصححه أيضًا الحافظ في الفتح جلد 6 صفحہ 617، والبويري في الزوائد جلد 2 صفحہ 355 .

تھے۔ کہتے ہیں: میں نے اپنی تلوار کا قبضہ پکڑنے کیلئے ہاتھ بڑھایا تو میں نے (اپنے آپ سے) کہا: میں اس کے سر اور اس کے جسم کے درمیان چلنے کا انتظار نہیں کروں گا، یہاں کہ میں اس حدیث کا ذکر کروں گا جسے عمرو بن الحمق نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب آدمی کا خون دوسرے آدمی سے محفوظ ہو جائے پھر وہ اسے قتل کر دے تو اس کیلئے بغاوت کا جھنڈا بلند کیا جائے گا اور میں اس سے باز رہوں گا۔

حضرت عبدالرحمن بن ابزی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابن عبدالرحمن بن ابزی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ تکبیر مکمل نہیں کہتے تھے۔

الْكُرْسِيِّ قَالَ: فَاهْوَيْتُ إِلَى قَائِمِ سَيْفِي فَقُلْتُ: مَا أَنْتَظِرُ أَنْ أَمْشِيَ بَيْنَ رَأْسِ هَذَا وَجَسَدِهِ حَتَّى ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ عَمْرُو بْنُ الْحَمِقِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمِنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ رُفِعَ لَهُ لِيَوَاءِ الْغَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَكَفَفْتُ عَنْهُ

198- عَبْدُ الرَّحْمَنِ

بْنُ ابْنِ

1383 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ابْنِ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ

1383- حدیث باطل، تفرد به الحسن بن عمران، وهو مجهول. وأخرجه البخاری فی التاريخ جلد 2 صفحہ 300-301، وأبو داؤد رقم الحدیث: 837 من طریق المصنف، وسمى البخاری فی احدی رواياته ابن عبد الرحمن سعيداً. وقال: قال أبو داؤد: وهذا عندنا لا يصح. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 15388-15406 من طریق شعبة، عن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزی. وأخرجه البخاری فی التاريخ جلد 2 صفحہ 300 عن أبي عاصم، عن شعبة، عن الحسن، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابزی، عن أبيه، أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، وكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خفض ورفع.

199- سُلَيْمَانُ بْنُ

صُرْدٍ وَخَالِدُ

بْنُ عُرْفُطَةَ

حضرت سلیمان بن سرد اور

حضرت خالد بن عرفطہ

رضی اللہ عنہما کی احادیث

1384 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ
سُلَيْمَانَ بْنِ صُرْدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ فَذَكَرَ رَجُلًا
مَاتَ فِي بَطْنِهِ وَأَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَجْنَازَتَهُ فَقَالَ
أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ: أَلَمْ يَقُلْ، أَوْ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الَّذِي يَقْتُلُهُ بَطْنُهُ
لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ؟ فَقَالَ الْآخَرُ: بَلَى

حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں حضرت سلیمان بن سرد اور حضرت خالد بن
عرفطہ رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دونوں نے ایک
بچے کا ذکر کیا جو اپنی والدہ کے پیٹ میں فوت ہو گیا تھا،
دونوں نے اس کے جنازہ میں شریک ہونے کو پسند کیا تو
اُن میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا: کیا آپ نے
نہیں فرمایا یا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے نہیں
سنا کہ جو اپنی والدہ کے پیٹ میں مر جاتا ہے اس کو قبر میں
عذاب نہیں ہوتا؟ تو دوسرے نے کہا: ہاں!

1385 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1384 - حدیث صحیح - أخرجه البيهقي في عذاب القبر رقم الحديث: 152 من طريق المصنف - وأخرجه ابن
أبي شيبة في المسند رقم الحديث: 868، وأحمد رقم الحديث: 22553، والنسائي رقم الحديث:
2051، وابن قانع في معجمه جلد 1 صفحہ 289، وابن حبان رقم الحديث: 2933، والطبرانی رقم
الحديث: 4101 من طرق عن شعبة، به - وأخرجه الطبرانی رقم الحديث: 4102-4104، والبيهقي في
عذاب القبر رقم الحديث: 153 من طريق جامع ابن شداد، به - وأخرجه الطبرانی رقم الحديث:
4105-4108 من طريق عبد الله بن يسار، به - وأخرجه رقم الحديث: 18338، والترمذی رقم
الحديث: 1064، والطبرانی رقم الحديث: 4109-6486 من طريق أبي اسحاق، عن خالد بن عرفطه،
وسليمان بن سرد، به - قال الترمذی: حسن غريب -

1385 - حدیث صحیح - أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 6485 من طريق شعبة، به - وأخرجه ابن أبي شيبة في

عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَيْدٍ،
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ
 الْأَحْزَابِ: الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا

کہ نبی اکرم ﷺ نے احزاب کے دن فرمایا: اب ہم
 ان سے جہاد کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ جہاد نہیں
 کریں گے۔

200- كُرْزُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْخُزَاعِيُّ

حضرت کرز بن علقمہ خزاعی رضی اللہ عنہ کی حدیث

1386 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
 قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
 عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ كُرْزِ بْنِ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ
 رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِلْإِسْلَامِ مِنْ مُدَّةٍ أَوْ
 مُنْتَهَى يَنْتَهَى إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَآيَمُ اللَّهِ مَا مِنْ أَهْلِ
 بَيْتٍ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ أَرَادَ اللَّهُ بِهِمْ خَيْرًا إِلَّا
 أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ قَالَ: ثُمَّ مَهْ؟ قَالَ: ثُمَّ تَقَعُ

حضرت کرز بن علقمہ الخزاعی رضی اللہ عنہ فرماتے
 ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا اسلام کی
 مدت یا انتہاء ہے جس پر اس کی انتہاء ہوگی؟ آپ نے
 فرمایا: ہاں! اللہ کی قسم! عرب و عجم میں سے کوئی گھرایا
 نہیں ہوگا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کر لے
 گا تو اس گھر میں اسلام داخل کرے گا۔ عرض کی: پھر کیا
 ہوگا؟ فرمایا: پھر فتنے ہوں گے، گویا کہ وہ اندھیرے

المسند رقم الحدیث: 867، وأحمد رقم الحدیث: 18334، والبخاری رقم الحدیث: 4109-4110
 وابن قانع فی معجمہ جلد 1 صفحہ 289، والطبرانی رقم الحدیث: 6484، وأبو نعیم فی الحلیة
 جلد 7 صفحہ 133 من طریق ابی اسحاق، بہ۔

1386- حدیث صحیح۔ أخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 574، وابن أبی شیبہ جلد 15 صفحہ 13، وأحمد رقم
 الحدیث: 15958، وابن أبی عاصم فی الآحاد والمثانی رقم الحدیث: 2305، والبزار (3353-کشف)
 وابن قانع فی معجمہ جلد 2 صفحہ 373، والطبرانی جلد 19 صفحہ 197، والحاکم جلد 1 صفحہ 34 من
 طرق عن ابن عیینة، بہ۔ وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 20742، وأحمد رقم الحدیث: 15959،
 والبزار (3354-کشف)، وابن قانع جلد 2 صفحہ 372-373، والطبرانی جلد 19 صفحہ 197، والحاکم
 جلد 1 صفحہ 34 وابن الأثیر فی الأسد جلد 4 صفحہ 469 من طرق عن الزهري، بہ۔ و صححه
 الحاکم۔ وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 15960، والبزار (3355-کشف) من طریق عبد الواحد بن
 قیس، عن عروة، بہ۔

ہیں۔ اس آدمی نے عرض کی: اگر اللہ نے چاہا تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں (ایسا ہوگا) اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! تم رات کے وقت کالے سانپوں کی طرح ہو جاؤ گے، حالت یہ ہوگی کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مار رہا ہوگا۔

الْفِتْنُ كَأَنَّهَا الظُّلْمُ فَقَالَ الرَّجُلُ: كَلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ: بَلَىٰ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ تَعُوذُونَ أَسَاوِدَ صُبًّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

حضرت رفاعہ بن عرابہ الجہنی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت رفاعہ بن عرابہ الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے حتیٰ کہ جنبہ ہم مقام کدید یا قدید پر پہنچے تو ہم میں سے کچھ لوگ اپنے گھر جانے کی اجازت مانگنے لگے سو آپ نے ان کو

201- رِفَاعَةُ بِنُ

عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ

1387 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هَلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بِنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ

1387- حدیث صحیح: وقد صرح يحيى بالسماع من هلال. وهذا الحديث والذي بعده حديث واحد.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 6 صفحہ 286 من طريق المصنف، إلا أن فيه: عن رفاعة عن أبيه. ولعل

ذكر أبيه خطأ. وأخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد رقم الحديث: 1573، وأحمد رقم الحديث:

16260، والدارمي رقم الحديث: 1490، والبزار (3543-كشف) والطبراني رقم الحديث: 4559 من

طريق هشام الدستوائي، به. ورواه ابن المبارك في المسند رقم الحديث: 42، وفي الزهد رقم

الحديث: 918 عن هشام، به، ولم يذكر عطاء. قال ابن صاعد: هكذا قال لنا يعني الحسين المروزي

عن ابن المبارك ونقص في الاسناد عطاء بن يسار. ثم أسنده رقم الحديث: 919 عن الحسين المروزي

وغيره، عن هشام، به، بذكر عطاء فيه. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16263، والدارمي رقم

الحديث: 1489، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10309، وابن ماجه رقم الحديث: 1367، وابن

أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 2560-2561، وابن حبان رقم الحديث: 212، والطبراني

رقم الحديث: 4560 من طريق يحيى بن أبي كثير، به، مختصراً ومطولاً.

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا
بِالْكَدِيدِ أَوْ قَالَ: بِقُدَيْدٍ جَعَلَ رِجَالٌ مِّنَّا يَسْتَأْذِنُونَ
إِلَى أَهْلِيهِمْ فَيَأْذِنُ لَهُمْ فَحَمِدَ اللَّهُ وَقَالَ خَيْرًا ثُمَّ
قَالَ: مَا بَالُ شِقِّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْغَضَ إِلَيْكُمْ مِنَ الشَّقِّ
الْآخِرِ فَلَمْ تَرَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِئًا فَقَالَ
رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذَا
لَسَفِيهٌ قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهُ وَقَالَ خَيْرًا وَقَالَ: أَشْهَدُ
عِنْدَ اللَّهِ لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ
إِلَّا سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ وَقَالَ: وَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يُدْخِلَ
الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا
عَذَابَ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوُّوْا
أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِينَ
فِي الْجَنَّةِ

اجازت دی اس کے بعد آپ نے اللہ کی حمد اور بھلائی
کے الفاظ کہے پھر فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے درخت کا
وہ حصہ جو اللہ کے رسول ﷺ کے قریب ہے وہ ان کو
دوسرے حصہ سے زیادہ ناپسند ہے تو آپ کے پاس
جتنے لوگ تھے وہ رونے لگے ایک آدمی نے عرض کی:
یا رسول اللہ! اس کے بعد آپ سے جو اجازت چاہے گا
وہ بیوقوف ہوگا۔ فرمایا کہ آپ نے اللہ کی حمد اور بھلائی
کے الفاظ کہے اور فرمایا: میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا
جو بندہ اس حالت میں مرے جو اس بات کی گواہی دیتا
ہو کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور بے
شک حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں صدق دل
سے اور اچھی نیت سے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور
فرمایا: میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری
امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب و عذاب کے جنت
میں داخل ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ اس وقت تک
جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ تم اور تمہاری
ازواج اور تمہاری اولاد جو نیک ہوں جنت میں داخل نہ
ہو جائیں۔

حضرت رفاعہ الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب رات کا تہائی حصہ چلا
جاتا ہے یا یہ فرمایا: دو تہائی حصہ چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ
آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے:

1388 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

هَشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَضَى ثُلُثُ

1388- حدیث صحیح۔ وهو جزء من الحدیث السابق۔ وله شاهد من حدیث ابی ہریرۃ عند البخاری رقم

الحدیث: 1145، ومسلم رقم الحدیث: 758.

اللَّيْلِ - أَوْ قَالَ: ثُلُثَا اللَّيْلِ - يَنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا وَقَالَ: لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي أَحَدًا
غَيْرِي مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي أَغْفِرُ لَهُ؟ مَنْ ذَا
الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي
أُعْطِيهِ؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

میرے بندوں میں سے کوئی بندہ میرے علاوہ کسی سے
نہ مانگے، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں
اس کو معاف کر دوں گا؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے
کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے
سوال کرے تو اس کو عطا کیا جائے گا، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو
جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عکیم

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

202- عَبْدُ اللَّهِ

بْنِ عَكِيمٍ

1389 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1389- حدیث صحیح . والکتابہ أحد أوجه التحمل الصحيحة ' وقد جاء في بعض الطرق رواية ابن عكيم له
عن مشيخة له من جهينة . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 202، وابن سعد جلد 6 صفحہ 113، وابن
أبي شيبة جلد 8 صفحہ 503، وأحمد رقم الحديث: 18802-18807، وأبو داؤد رقم الحديث: 4172،
والنسائي رقم الحديث: 4260، وابن ماجه رقم الحديث: 3613، والطحاوي جلد 1 صفحہ 468، وفي
المشکل رقم الحديث: 3328، وابن حبان رقم الحديث: 1278، وتمام في فوائده (143-الروض
البسام) والبيهقي جلد 1 صفحہ 14) من طرق عن شعبة' به . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 503،
وأحمد رقم الحديث: 18804-18805، وعبد بن حميد رقم الحديث: 487، والترمذي رقم الحديث:
1729، والنسائي رقم الحديث: 4261، وابن ماجه رقم الحديث: 3613، وابن حبان رقم الحديث:
1277، وغيرهم من طرق عن الحكم' به . ورواه خالد الحذاء' عن الحكم' واختلف عليه ' انظر مسند
أحمد رقم الحديث: 17705، وسنن أبو داؤد رقم الحديث: 4128، والاعتبار للحازمي صفحہ 56،
والروض البسام جلد 1 صفحہ 198 . وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 2575،
وابن حبان رقم الحديث: 1279، والطحاوي جلد 1 صفحہ 468، والبيهقي جلد 1 صفحہ 25 من طريق
القاسم بن مخيمرة' عن ابن عكيم' عن مشيخة له ' أن كتاب رسول الله أتاهم..... الحديث . وأما
الضطراب في اسناده ' فقد رد بأن ابن عكيم سمعه من مشيخة له من جهينة ' وهم صحابة ' فلا تضر

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ: قُرِئَ
 عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَنَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ: أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ
 بِشَيْءٍ إِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

ہم پر رسول اللہ ﷺ کا خط پڑھا گیا، اور (اس وقت)
 ہم سرزمین جہینہ میں تھے۔ (اس خط میں یہ تھا:)
 مردار کی کھال اور پٹھوں سے تم کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ۔

حضرت جارد بن المعلى

رضی اللہ عنہ کی حدیث

203- الْجَارُودُ

بْنُ الْمُعَلَّى

حضرت جارد (بن المعلى) رضی اللہ عنہ فرماتے

1390 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

جہالتہم۔ واما رواية المصنف فهي مرسله كما قاله الخطابي والبيهقي۔ وانظر معالم السنن
 جلد 4 صفحہ 200-203، ومسائل عبد اللہ بن أحمد لأبيه رقم الحديث: 43، ولا بن هاني
 جلد 1 صفحہ 22، والخلافيات للبيهقي جلد 1 صفحہ 225-239، ومعرفة السنن له جلد 1 صفحہ 146،
 والتمهيد لابن عبد البر جلد 4 صفحہ 163، ونصب الراية جلد 1 صفحہ 121، والفتح جلد 9 صفحہ 659،
 والتلخيص الحبير جلد 1 صفحہ 46، والارواء جلد 1 صفحہ 76-79، والروض البسام جلد 1
 صفحہ 194-199۔

1390 - حديث صحيح، واسناد المصنف ضعيف، لجهالة أبي مسلم الجذمي، وللاضطراب في اسناده۔ أخرجه
 أحمد رقم الحديث: 20776، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5796 من طريق المصنف، وخالف
 المصنف أبو معشر البراء وفيه ضعف فأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 1640،
 والطبراني رقم الحديث: 2109، والخطيب في الموضح جلد 4 صفحہ 303 من طريق أبي معشر البراء،
 عن المثني بن سعيد، عن قتادة، عن ابن باباه، عن عبد الله بن عمرو، عن الجارود، وأخرجه أحمد رقم
 الحديث: 20778، وابن أبي عاصم رقم الحديث: 1641، وأبو يعلى رقم الحديث: 919-1539،
 والطحاوي جلد 4 صفحہ 133، وفي المشكل رقم الحديث: 4713، وابن حبان رقم الحديث: 4887،
 والطبراني رقم الحديث: 2216-2114، والبيهقي جلد 6 صفحہ 190 من طريق عن قتادة، عن يزيد، عن
 أبي مسلم، به۔ ورواه أبان، عن قتادة، عن يزيد، عن أخيه مطرف، عن أبي مسلم، به۔ أخرجه ابن الأثير

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَدَمِيِّ، عَنِ الْجَارُودِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مسلمان کی گمراہی (اس کا) آگ میں جلنا ہے۔

فی اسد الغابۃ جلد 1 صفحہ 310-311-312 . وأخرجه أبو نعیم جلد 9 صفحہ 33 من طریق شعبۃ ' عن قتادة ' عن مطرف ' عن أبيه ' مرفوعًا . ورواه أيوب ' واختلف عليه فيه ' فأخرجه أحمد رقم الحديث: 20777 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5797 وابن أبي عاصم رقم الحديث: 1639 والطحاوي جلد 4 صفحہ 133 وفي المشكل رقم الحديث: 4720 والطبراني رقم الحديث: 2118 والبيهقي جلد 6 صفحہ 190 من طریق حماد بن زيد ' ووهيب ' عن أيوب ' عن يزيد ' عن أبي مسلم ' به . وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 5798 من طريق جرير ' عن أيوب ' عن أبي مسلم ' باسقاط يزيد . ورواه الجريري وخالد الحذاء ' اختلف عليهما فيه ' فأخرجه الدارمي رقم الحديث: 2604 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5794-5795 والطحاوي جلد 4 صفحہ 133 وفي المشكل رقم الحديث: 4723 والبيهقي جلد 6 صفحہ 190 من طريق الحذاء ' عن يزيد ' عن أبي مسلم ' به . وأخرجه ابن أبي عاصم رقم الحديث: 1638 من طريق الحذاء ' عن الجريري ' عن يزيد ' عن أخيه مطرف ' عن أبي مسلم . وأخرجه الطبراني رقم الحديث: 2125 من طريق الحذاء ' عن الجريري ' عن يزيد ' عن مطرف ' عن الجارود . وأخرجه ابن أبي عاصم رقم الحديث: 1637 والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 4725 والطبراني رقم الحديث: 2122 من طرق عن الجريري عن يزيد عن مطرف عن أبي مسلم به . وأخرجه الدارمي رقم الحديث: 2605 عن الجريري عن يزيد عن أبي مسلم به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 2774 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5793 والطبراني رقم الحديث: 2110-2111 والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 4724 والبيهقي جلد 6 صفحہ 191 من طريق خالد الحذاء ' عن يزيد ' عن أخيه مطرف ' عن الجارود ' به . وأخرجه الطبراني رقم الحديث: 2113 من طرق الحذاء أيضًا ' عن مطرف ' عن أبي مسلم ' به . وأخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 34 وأحمد رقم الحديث: 16357 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5790 وابن ماجه رقم الحديث: 2502 والطحاوي جلد 4 صفحہ 133 وفي المشكل رقم الحديث: 4722 وابن حبان رقم الحديث: 4888 والبيهقي جلد 6

204- مِحْجَنٌ

حضرت مجن رضی اللہ عنہ کی احادیث

1391 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ مِحْجَنٍ، قَالَ: أَخَذَ مِحْجَنٌ بِيَدِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ فَإِذَا بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ قَاعِدٌ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَفِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: سَكْبَةُ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَالَ: وَكَانَ فِي بُرَيْدَةَ مُزَاخَةٌ قَالَ بُرَيْدَةُ: يَا مِحْجَنُ لَا تُصَلِّيْ كَمَا يُصَلِّي سَكْبَةُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِحْجَنٌ شَيْءًا وَقَالَ لِي مِحْجَنٌ: أَخَذَ بِيَدِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى

حضرت رجاء، حضرت مجن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ ہم بصرہ کی مسجد تک پہنچ گئے، تو (وہاں) حضرت بریدہ الاسلمی مسجد کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اور مسجد کے اندر ایک آدمی تھا، اس کو سکہ کہا جاتا تھا، وہ بڑی لمبی نماز پڑھتا تھا، اور حضرت بریدہ مزاحی تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے مجن! کیا آپ نماز ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے سکہ نماز پڑھتا ہے؟ حضرت مجن رضی اللہ عنہ نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اور مجھ سے حضرت مجن رضی اللہ عنہ نے

صفحہ 191، من طریق حمید، عن الحسن، عن مطرف، عن أبيه، مرفوعًا . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 18604، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5791 من طريق حبيب بن الشهيد وأشعث بن عبد الملك، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرسل .

1391- حديث صحيح . ورجاء وثقه العجلي وابن حبان، ولم يجرح . وهذا الحديث والذي بعده حديث واحد . وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة جلد 5 صفحہ 69 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20364، والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 341، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 2284، والطبراني جلد 20 صفحہ 296-297 ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال جلد 9 صفحہ 160-161 من طرق عن أبي عوانة، به . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 15 صفحہ 140، وفي المسند رقم الحديث: 596، وأحمد رقم الحديث: 20363، وابن أبي عاصم رقم الحديث: 2283 من طريق شعبة، عن أبي بشر، به . وروى كهيم بن الحسن هذا الحديث عن عبد الله بن شقيق، عن محجن، ولم يذكر رجاء بن أبي رجاء . أخرجه أحمد رقم الحديث: 20362، والطبراني جلد 20 صفحہ 297-298، والحاكم جلد 4 صفحہ 427، وصححه الحاكم . وعبد الله بن شقيق ممن سمع من محجن، فيحتمل صحة الوجهين .

فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ ہم احد پر چڑھ گئے۔ آپ نے مدینہ کی طرف دیکھا اور فرمایا: ہلاکت ہے اس کی ماں کے لیے بستی سے جو اس میں رہنے کو چھوڑ دے، دجال آئے گا وہ مدینہ کے ہر دروازے پر فرشتے کو کھڑا ہوا دیکھے گا، وہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا۔

حضرت مجن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ ہم مسجد کے دروازے پر پہنچ گئے وہاں ایک آدمی رکوع اور سجدے رکوع اور سجدے کر رہا تھا تو مجھے آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی: یہ فلاں آدمی ہے، میں نے تعریف و مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہوئے کہا: یہی ہے، یہی ہے۔ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو اسے نہ سنا کہ تو اسے ہلاک کر دے تو پھر آپ مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے، پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارا بہترین دین وہ ہے جو زیادہ آسان ہو۔ یہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔

حضرت عائذ بن عمرو المزنی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عائذ بن عمرو المزنی رضی اللہ عنہ صحابی

صَعِدْنَا أَحَدًا فَأَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَقَالَ: وَيْلٌ لِّأُمَّهَا مِنْ قَرْيَةٍ يَدْعُهَا أَهْلُهَا أَعْمَرَ مَا كَانَتْ، يَجِيءُ الدَّجَالُ فَيَجِدُ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْهَا مَلَكًا مُضِلًّا فَلَا يَدْخُلُهَا

1392 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ مِخْجَنٍ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى سُدَّةِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلٌ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَقَالَ لِي: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَذَا فَلَانٌ فَجَعَلْتُ أُطْرِيهِ وَأَقُولُ: هَذَا هَذَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْمِعُهُ فَتُهْلِكَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةٍ ثُمَّ أَرْسَلَ يَدَهُ مِنْ يَدِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ قَالَهَا ثَلَاثًا

205- عَائِذُ بْنُ

عَمْرٍو الْمَزْنِيُّ

1393 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1392 - حدیث صحیح وهو جزء من الحدیث السابق .

1393 - اسنادہ ضعیف، فیہ أبو شمر، وهو لین الحدیث . وعزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حنتم، نقیر اور مزفت کے برتنوں سے منع کیا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: کیا آپ نبی اکرم ﷺ سے روایت بیان کرتے ہیں؟ فرمایا: نبی اکرم ﷺ سے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شَمْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِدَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزْفَتِ قَالَ: قُلْتُ: أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ کی حدیث

206- أَبُو حَازِمٍ

حضرت قیس بن ابو حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ میرے والد کو سورج (کی دھوپ) میں کھڑے ہوئے دیکھا، سو آپ نے اُن کو حکم دیا یا اشارہ کیا کہ سایہ کے قریب ہو

1394 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَرَأَى أَبِي فِي الشَّمْسِ

الحدیث: 2247 الی المصنف . وأخرجه مسدد كما في الاتحاف رقم الحديث: 2248 وابن أبي شيبة جلد 7 صفحہ 474 وفي المسند رقم الحديث: 921 ومن طريقهما الطبرانی جلد 18 صفحہ 18 وأحمد رقم الحديث: 20657 والرويانى فى المسند رقم الحديث: 775 من طريق شعبة به .

1394- حدیث صحیح، وروایة المصنف مرسله . وأخرجه الحاكم جلد 4 صفحہ 272 من طريق المصنف . وأخرجه ابن سعد جلد 6 صفحہ 23، وأحمد رقم الحديث: 15556، والطبرانى رقم الحديث: 7281 من طرق عن شعبة 'به' مرسلًا . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 116 من طريق عيسى بن يونس وابن نمير، عن اسماعيل بن أبي خالد، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15557، والبخارى فى الأدب المفرد رقم الحديث: 1209، وأبو داؤد رقم الحديث: 4822، وابن خزيمة رقم الحديث: 693، وابن حبان رقم الحديث: 2800، والحاكم جلد 4 صفحہ 271، والمزى فى تهذيب الكمال جلد 33 صفحہ 219-220 من طريق يحيى القطان ووكيع وعلى بن مسهر وغيرهم، عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبيه .

فَأَمْرَهُ - أَوْ أَوْمَأَ إِلَيْهِ - أَنْ ادْنُ إِلَى الظِّلِّ

جاؤ۔

207- بِشْرُ

حضرت بشر بن حکیم

بْنِ سَحِيمٍ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1395 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت بشر بن حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، سَمِعَ

اکرم ﷺ نے منیٰ میں حکم دیا اعلان کا کہ جنت میں

نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سَحِيمٍ، أَنَّ

صرف مسلمان ہی داخل ہوں گے اور یہ (عمید کے) دن

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُ أَنْ يُنَادِيَ بِمِنَى

کھانے اور پینے کے ہیں۔

أَنْ لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مَسْلَمَةٌ وَأَنَّ هَذِهِ أَيَّامُ

أَكْلٍ وَشُرْبٍ

1395- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15468، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 2894

والطبراني رقم الحديث: 1207، وابن قانع في معجمه جلد 1 صفحہ 79، والبيهقي جلد 4 صفحہ 298 من

طرق عن شعبة، به . وأخرجه ابن أبي شيبة رقم الحديث: 15264، وأحمد رقم الحديث: 18976

والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 2892، وابن ماجه رقم الحديث: 1720، وابن أبي عاصم في الآحاد

والمثاني رقم الحديث: 996، والطبراني رقم الحديث: 1205، وابن قانع جلد 1 صفحہ 78-79 من طرق

عن حبيب بن أبي ثابت، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18975، والدارمي رقم الحديث: 1773

والنسائي رقم الحديث: 5009، وفي الكبرى رقم الحديث: 2895، وابن أبي عاصم رقم الحديث: 997

وابن خزيمة رقم الحديث: 2960، وابن قانع جلد 1 صفحہ 79، والطبراني رقم الحديث: 1213-1215

من طرق عن عمرو بن دينار، عن نافع، به . وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 2897 من طريق

قتيبة بن سعيد، عن عمرو، عن نافع، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.....مرسلاً . وله شاهد عن نبيشة

الهدلي، وكعب بن مالك، وكلاهما عند مسلم رقم الحديث: 1141-1142 . وانظر الارواء جلد 4

صفحہ 128-131 .

208- أَبُو حَدْرَدٍ

الْأَسْلَمِيُّ

حضرت ابو حدر دالاسلمی
رضی اللہ عنہ کی حدیث

1396 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ يَحْيَى
بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
الْقُرَشِيِّ، أَنَّ أَبَا حَدْرَدٍ اسْتَعَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِكَاحٍ فَقَالَ: كَمْ أَصْدَقْتُمْ؟
قَالَ: مَا تَنَى دِرْهَمٍ قَالَ: لَوْ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ مِنْ بَطْحَانَ
مَا زِدْتُمْ

حضرت محمد بن ابراہیم القرشی رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ حضرت ابو حدر د رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ
سے نکاح کے سلسلہ میں مدد چاہی تو آپ نے فرمایا: تو
نے کتنا مہر مقرر کیا ہے؟ عرض کی: دو سو درہم۔ آپ نے
فرمایا: اگر تم بطحان سے چلو بھر لیتے تو تم زیادہ نہ کرتے۔

1396- حدیث صحیح، واسناد المصنف مرسل۔ وزہیر بن محمد، روایۃ اہل العراق عنہ مستقیمہ و ہذہ
منہا، وقد توبع علی ہذا الحدیث، وعزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 1906
الی المصنف۔ وأخرجه سعید بن منصور رقم الحدیث: 604، وابن أبی شیبۃ جلد 4 صفحہ 189 من
طریق ہشیم، ویزید ابن ہارون عن یحیی بن سعید، بہ۔ وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 10409،
وأحمد رقم الحدیث: 15744-15745، وأحمد بن منیع کما فی الاتحاف والحارث بن أبی اسامۃ
(483-بغیۃ) والطبرانی جلد 22 صفحہ 352، والحاکم جلد 2 صفحہ 178، والبیہقی جلد 7 صفحہ 235،
وابن الأثیر فی أسد الغابۃ جلد 6 صفحہ 70 من طریق سفیان الثوری، ویزید بن ہارون، عن یحیی بن
سعید الأنصاری، عن محمد بن ابراہیم، عن أبی حدر د، أنه أتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فذكرہ۔ وقال الحاکم: صحیح الاسناد، وأقره الذہبی۔ وأخرجه الطبرانی جلد 22 صفحہ 353، وفي
الأوسط رقم الحدیث: 7563 من طریق عطاء بن یسار، عن أبی حدر د، بنحوہ۔ وقال: والمشہور من
حدیث یحیی بن سعید الأنصاری، عن محمد بن ابراہیم التیمی، عن أبی حدر د۔

209- الْحَجَّاجُ بْنُ

حضرت حجاج بن حجاج اسلمی

الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيُّ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1397- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت حجاج بن حجاج الاسلمی رضی اللہ عنہ سے

1397- اسنادہ مرسل ضعیف، فیہ لم یسم، والحجاج بن الحجاج لم یوثقه الا ابن حبان . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 13956، والدارمی رقم الحدیث: 2259، والبخاری فی التاریخ جلد 2 صفحہ 371 معلقاً وأبو داؤد رقم الحدیث: 2064، والترمذی رقم الحدیث: 1153 معلقاً والنسائی رقم الحدیث: 3329، وابن ابی عاصم فی الآحاد والمثانی رقم الحدیث: 2379، والرویانی رقم الحدیث: 1471، وابن حبان رقم الحدیث: 4230، والبیہقی جلد 7 صفحہ 464 من طریق ابن المبارک والثوری وغیرہما، عن هشام بن عروہ، عن أبیه، عن الحجاج، عن أبیه الحجاج بن مالک . وأخرجه النسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 5438 من طریق الثوری، عن هشام بن عروہ، عن أبیه، عن حجاج الاسلمی، قال: قلت: یا رسول اللہ..... وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 15771، والترمذی رقم الحدیث: 1153 من طریق یحیی القطان، وابن نمیر، وحاتم ابن اسماعیل، عن هشام بن عروہ، عن الحجاج، عن أبیه، به، ولم یذکروا عروہ . ورواه ابن ابی عیینة عن هشام، به، الا أنه قال: الحجاج بن أبی الحجاج، عن أبیه . أخرجه الترمذی فی العلیل الکبیر صفحہ 168، وقال: سألت محمداً عن هذا الحدیث، فقال: الصحیح: الحجاج بن الحجاج، عن أبیه، ولا أعرف له عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر هذا الحدیث الواحد، ومن قال: الحجاج بن أبی الحجاج فهو خطأ . وقال فی الجامع: وحدیث ابن عیینة غیر محفوظ، والصحیح ما روی ہؤلاء، عن هشام بن عروہ، عن أبیه . وقال: حسن صحیح . وأخرجه البیہقی جلد 7 صفحہ 464 عن أبی الزناد، عن عروہ، عن حجاج بن حجاج، عن أبیه . وأخرجه البخاری فی التاریخ جلد 2 صفحہ 371، عن عروہ، عن حجاج بن حجاج صاحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم . ورواه عثمان بن عثمان الفطفانی، عن هشام، عن أبیه، عن عائشة، أن رجلاً سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم..... الحدیث، فجعله من مسند عائشة . أخرجه البزار (1445-کشف) وقال: أخطأ فیہ عثمان، انما یرویه هشام، عن أبیه، عن حجاج بن حجاج، عن أبیه .

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذْمَمَةَ الرَّضَاعِ؟ قَالَ: غُرَّةٌ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ

روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سی چیز مجھ سے دودھ پلانے کی مذمت کرے گی؟ آپ نے فرمایا: ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا۔

210- أَبُو السَّائِبِ

حضرت ابوسائب

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبداللہ بن سائب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کا سامان نہ لے، کھیل اور ہنسی کی صورت میں اور جب تم میں کوئی اپنے ساتھی کا عصا لے تو اس کو اپس کر دے۔ ابوبشر فرماتے ہیں: میری کتاب میں اسی طرح ہے۔ حضرت ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں از

1398 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَا عِبًّا جَادًّا وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ قَالَ أَبُو بَشِيرٍ: هَكَذَا هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ

1398- حدیث صحیح . واسنادہ هنا منقطع بین عبد اللہ بن السائب وجدہ، بینہما أبوہ السائب بن یزید کما نبہ علیہ أبو بشر یونس بن حبیب، وکما سیتضح من التخریج؛ فقد أخرجہ أحمد رقم الحدیث: 17971، وعبد بن حمید رقم الحدیث: 436، والبخاری فی الأدب المفرد رقم الحدیث: 241، وأبو داؤد رقم الحدیث: 5003، والترمذی رقم الحدیث: 2160، والخرائطی فی مساوی الأخلاق رقم الحدیث: 684-685، والطبرانی رقم الحدیث: 6641، والحاکم جلد 3 صفحہ 637، والبیہقی جلد 6 صفحہ 92-100، وغیرہم من طرق عن ابن ابی ذئب، عن عبد اللہ بن السائب بن یزید، عن أبیہ، عن جدہ . وعند الخرائطی: عبد اللہ بن یزید بن السائب . وقال الترمذی: هذا حدیث حسن غریب، لا نعرفه الا من حدیث ابن ابی ذئب . وقال البيهقي كما في التلخيص الحبير جلد 3 صفحہ 46: اسنادہ حسن . و حدیث ابی حمید اصح ما فی الباب . وله شاهد عن ابن عمر وأبی حمید الساعدی . انظر نصب الراية جلد 4 صفحہ 168، والتلخيص الحبير جلد 3 صفحہ 46 .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

ابوزب از حضرت عبداللہ بن سائب، وہ اپنے والد سے
وہ ان کے دادا سے۔

211- مَالِكُ بْنُ نَضْلَةَ

حضرت مالک بن نصلہ ابوابی

أَبُو أَبِي الْأَحْوَصِ

الاحوص رضی اللہ عنہ کی حدیث

1399 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَنبَانَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ

ابوالاحوص رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ میرے والد نبی

أَبَا الْأَحْوَصِ، يَقُولُ: أَتَى أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اکرم ﷺ کے پاس آئے اور کبھی کہتے: میرے والد

وَسَلَّمَ - وَرُبَّمَا قَالَ: عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى

نے روایت بیان کی کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَأَاهُ قَشِيفَ الْهَيْئَةِ فَقَالَ: هَلْ

تو آپ نے انہیں بُری حالت میں دیکھا؟ آپ نے

لَكَ مِنْ مَالٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: مَنْ آتَى الْمَالَ؟

فرمایا: کیا تیرے پاس مال نہیں ہے؟ میں نے عرض کی:

1399 - حدیث صحیح . أخرجه ابن سعد جلد 6 صفحہ 28، وأحمد رقم الحدیث: 15932، وابن أبي عاصم في

الآحاد والمثاني رقم الحدیث: 1263، وابن حبان رقم الحدیث: 5416، والطبرانی جلد 19 صفحہ 277،

والحاكم جلد 4 صفحہ 181، والبيهقي في الأسماء والصفات صفحہ 341 من طرق عن شعبة 'به'

وعند بعضهم زيادة متن الحدیث الآتی . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17268، وأبو داؤد رقم

الحدیث: 4063، والترمذی رقم الحدیث: 2006، والنسائی رقم الحدیث: 5309، وابن أبي عاصم رقم

الحدیث: 1262، والطبرانی جلد 19 صفحہ 276-280، والبيهقي جلد 10 صفحہ 10 من طرق عن أبي

اسحاق 'به' . وأخرجه الحميدى رقم الحدیث: 883، وأحمد رقم الحدیث: 17267، والبخارى في خلق

أفعال العباد رقم الحدیث: 239، والنسائی رقم الحدیث: 3797، وابن ماجه رقم الحدیث: 2109، وابن

أبي عاصم رقم الحدیث: 1261، وابن حبان رقم الحدیث: 3410-5417، والطبرانی جلد 19 صفحہ 383

من طرق عن أبي الأحوص 'به' بنحوه، وعند بعضهم زيادة قصة أخرى . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 15933 عن بهز بن أسد، عن حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأحوص، أن

أباه..... قال الترمذی: حسن صحیح . وصححه الحاكم، وأقره الذهبي . وقال ابن كثير في التفسير

جلد 4 صفحہ 212: وهذا حدیث جيد قوى .

قُلْتُ: مِنْ كُلِّ الْمَالِ مِنَ الْإِبِلِ وَالرَّقِيقِ وَالْخَيْلِ وَالْغَنَمِ قَالَ: فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرَّ عَلَيْكَ أَثْرُهُ ثُمَّ قَالَ: هَلْ تَنْتَجُ إِبِلُ أَهْلِكَ صِحَاحًا آذَانَهَا فَتَعْمَدَ إِلَى مُوسَى فَتَقْطَعَ آذَانَهَا فَتَقُولَ: هَذِهِ بُحْرٌ، وَتَشُقُّهَا أَوْ تَشُقُّ جُلُودَهَا فَتَقُولَ: هَذِهِ صُرْمٌ وَتَحْرِمَهَا عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ؟ فَكُلُّ مَالِ آتَاكَ اللَّهُ لَكَ حِلٌّ قَالَ شُعْبَةُ: هَذَا يَقُولُهَا أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا لَا يَقُولُهَا: وَمُوسَى اللَّهُ أَحَدٌ مِنْ مُوسَاكَ، وَسَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ مِنْ سَاعِدَيْكَ وَرُبَّمَا قَالَ: وَمُوسَى اللَّهُ أَحَدٌ وَسَاعِدُ اللَّهِ أَشَدُّ

جی ہاں! ہے۔ فرمایا: کون سا مال ہے؟ میں نے عرض کی: ہر قسم کا مال ہے، اونٹ و غلام، گھوڑے، بکریاں وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے فرمایا: جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تجھ پر اس کا اثر بھی دکھائی دے۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا تم میں سے کسی کے ہاں صحیح و سلامت کانوں والا اونٹ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر تم استرے سے اس کے کان کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ بخر ہے، اس کا چمڑا کاٹ دیتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ صرْم ہے، اس کو اپنے اوپر اور اپنے اہل خانہ پر حرام خیال کرتے ہو؟ فرمایا: سو ہر مال جو اللہ نے تم کو دیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت شعبہ کبھی یہ فرماتے تھے اور کبھی یہ نہیں فرماتے تھے کہ اللہ کا استرا تمہارے استرے سے زیادہ تیز ہے اور اللہ کی کلائی (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) تمہاری کلائی سے زیادہ تیز ہے بسا اوقات یہ فرماتے کہ اللہ کا استرا اور اللہ کی کلائی بہت زیادہ سخت ہے۔

1400 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ نَزَلَتْ بِهِ فَلَمْ يُكْرِمْنِي وَلَمْ يَضْفِنِي وَلَمْ يَقْرِنِي ثُمَّ نَزَلَ بِي آجْزِيهِ أَمْ أَقْرِيهِ؟ قَالَ: بَلِ اقْرِهِ

حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آئے، عرض کی: یا رسول اللہ! ایک آدمی ہوں، میں کسی کے پاس جاؤں تو وہ میرا احترام اور میری مہمان نوازی نہ کرنے پھر وہی آدمی میرے پاس آئے تو کیا میں اس کو وہی جزاء دوں یا اس کی عزت کروں؟ فرمایا: تو اس کی عزت کر۔

212- غَالِبُ

حضرت غالب بن ابجر

بْنُ أَبَجَرَ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1401 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُيَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ،
 قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ بُسْرِ، عَنْ نَاسٍ مِنْ مُزَيْنَةَ الظَّاهِرَةِ أَنَّ أَبَجَرَ
 أَوْ ابْنَ أَبَجَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يَبْقَ مِنْ مَالِي إِلَّا حُمْرِي
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْعِمْ
 أَهْلَكَ مِنْ سَمِينٍ مَالِكٍ فَإِنَّمَا كَرِهْتُ لَهُمْ جَوَالَ

الْقَرِيَّةِ

قبیلہ مزینہ ظاہرہ کے لوگوں میں سے حضرت ابجر یا
 ابن ابجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی
 اکرم ﷺ سے سوال کیا، سو عرض کی: یا رسول اللہ!
 میرے مال میں سے صرف ایک سرخ پرندہ باقی ہے، تو
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے اہل خانہ کو اپنے مال
 سے موٹا تازہ کھلا کیونکہ میں ان کے لیے کمزور و بدلا پتلا
 ہونا ناپسند کرتا ہوں۔

1401- اسنادہ ضعیف، فیہ مجاہیل، واضطراب کثیر۔ وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثنائى رقم
 الحديث: 1134، والطبرانى جلد 18 صفحہ 226 من طریق المصنف۔ وأخرجه ابن أبي شيبة
 جلد 8 صفحہ 77-78، وعنه ابن أبي عاصم رقم الحديث: 1131 عن وكيع، عن شعبة، عن عبيد بن
 الحسن، عن ابن معقل، عن أناس بن مزينة، عن غالب بن أبجر۔ ولم يذكر عبد الله بن بسر۔ وأخرجه
 أبو داؤد رقم الحديث: 3810، والطبرانى جلد 18 صفحہ 266 من طريق ابن عيينة، عن مسعر، عن عبيد
 بن الحسن، عن ابن معقل وسماه في رواية الطبرانى: عبد الله عن رجلين من مزينة۔ وأخرجه عبد
 الرزاق رقم الحديث: 8728، وابن أبي عاصم رقم الحديث: 1133 عن ابن عيينة، عن مسعر، عن عبيد
 بن الحسن، عن عبد الله بن معقل، عن رجلين۔ وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 265، وابن أبي
 عاصم رقم الحديث: 1132، والطبرانى جلد 18 صفحہ 267 من طريق شريك، عن منصور، عن عبيد بن
 الحسن، عن غالب، به۔ وأخرجه الطبرانى جلد 18 صفحہ 267 من طريق ابن أبي عمر، عن ابن عيينة،
 عن مسعر، عن عبيد بن الحسن، عن رجل، عن رجلين۔ وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 265، وابن
 أبي عاصم رقم الحديث: 1132، والطبرانى جلد 18 صفحہ 267 من طريق شريك، عن منصور، به۔

213- سَلَمَةُ

حضرت سلمہ بن یزید

بْنُ يَزِيدَ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت سلمہ بن یزید الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے عرض کی: میری ماں فوت ہوگئی ہے، وہ مہمان نوازی کرتی اور پڑوسی اور یتیم کو کھانا کھلاتی تھی، حالانکہ اُس نے زمانہ جاہلیت میں بچی

1402 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1402 - حدیث صحیح، واسنادہ المصنف ضعیف، لجهالة يزيد بن مرة وضعف سليمان، وهو ابن قرم بن معاذ، وقد صح من وجه آخر. فأخرجه أحمد رقم الحديث: 15965، والبخارى فى التاريخ جلد 4 صفحه 73، والنسائى فى الكبرى رقم الحديث: 11649، والطبرانى رقم الحديث: 6319-6320 من طرق عن داؤد بن أبى هند، عن الشعبى، عن علقمة بن قيس، عن سلمة بن يزيد. ورواه اسماعيل بن ابراهيم، عن ابن أبى هند، عن الشعبى، عن علقمة، عن ابى مليكة، به. أخرجه ابن عساكر جلد 17 صفحه 117. وسلمة بن يزيد هو أحد ابى مليكة. انظر علل الدارقطنى جلد 5 صفحه 161. ورواه زكريا بن أبى زائدة، عن الشعبى مرسلًا، وقال زكريا: فحدثنى أبو اسحاق أن الشعبى حدثه عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود. أخرجه البخارى فى التاريخ جلد 4 صفحه 73، وأبو داؤد رقم الحديث: 4717، والبزار رقم الحديث: 1596، والطبرانى رقم الحديث: 10059 من طرق عن يحيى بن زكريا، عن أبىه، به. ورواه اسرائيل، عن أبى اسحاق. أخرجه البخارى فى التاريخ جلد 4 صفحه 73. وأخرجه البزار رقم الحديث: 1605 من طريق شريك، عن أبى اسحاق، عن علقمة وأبى الأحوص، عن ابن مسعود. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 3787، والبخارى فى التاريخ جلد 3 صفحه 73، والبزار (3478-كشف) والطبرانى رقم الحديث: 10017، وأبو نعيم فى الحلية جلد 4 صفحه 238-239 من طريق أبى اليقظان، عن ابراهيم، عن علقمة والأسود، وابن مسعود، قال: جاء ابنا مليكة، وأبو اليقظان ضعيف. وقد رواه محمد بن أبان، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود. أخرجه البزار رقم الحديث: 1825، والشاشى رقم الحديث: 648، والطبرانى رقم الحديث: 10236، وقال البزار: لا نعلم رواه عن عاصم، عن زر، عن عبد الله الا محمد بن أبان.

بھی زندہ درگور کی تھی، میرے پاس وسیع مال ہے کیا اس کو نفع ہوگا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام نفع نہیں دیتا مگر اس کو جس نے اسلام کو پایا، بلاشبہ تو جہنم میں ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ بات اس آدمی پر دشوار گزری، آپ نے فرمایا: اُم محمد اس کے ساتھ ہے، ان دونوں کاموں (یعنی مہمان نوازی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے) میں اس کے لیے فائدہ نہیں ہے۔

حضرت سلمہ بن یزید الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اللہ عزوجل کے اس ارشاد ”إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا“ کے متعلق فرماتے سنا، فرمایا: اس سے مراد شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہیں۔

حضرت سنان بن سلمہ اپنے والد سے روایت بیان

فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَكَانَتْ تَقْرِي الضَّيْفَ وَتُطْعِمُ الْجَارَ وَالْيَتِيمَ وَكَانَتْ وَادَتْ وَأَدَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلِي سَعَةٌ مِنْ مَالٍ أَفَيَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْفَعُ الْإِسْلَامُ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَهُ إِنَّهَا وَمَا وَادَتْ فِي النَّارِ قَالَ: فَرَأَى ذَلِكَ قَدْ شَقَّ عَلَيَّ فَقَالَ: وَأُمُّ مُحَمَّدٍ مَعَهَا مَا فِيهِمَا مِنْ خَيْرٍ

1403 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْثَةَ، عَنْ سَلْمَةَ بِنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرْبًا أَتْرَابًا) (الواقعة: 36) قَالَ: مِنَ الثَّيْبِ وَغَيْرِ الثَّيْبِ

1404 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ

1403- اسنادہ ضعیف، لضعف جابر الجعفی۔ وعزاه الحافظ فی المطالب رقم الحدیث: 4136 الی المصنف وأخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 6321، وابن الأثیر فی أسد الغابة جلد 2 صفحہ 436 من طریق المصنف۔ وعند الطبرانی: شیبان، وعند ابن الأثیر: شعبۃ بدلاً من: شیبان۔ وأخرجه الطبری فی التفسیر جلد 27 صفحہ 106، وابن أبی حاتم فی التفسیر لابن کثیر جلد 8 صفحہ 9، والطبرانی رقم الحدیث: 6322، وابن قانع فی معجمہ جلد 1 صفحہ 274، والبیہقی فی البعث والنشور رقم الحدیث: 381 من طریق شیبان، بہ۔

1404- اسنادہ ضعیف، نحاز بن جدی الجعفی لم یوثقه الا ابن حبان، وعزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 3459 الی المصنف۔ وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 15954، والبخاری فی التاريخ جلد 8 صفحہ 132 من طریق المصنف، عن سلمة، وهو ابن المحقق۔ وأخرجه أحمد رقم

کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ہم (خیبر میں) رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، آپ نے ہانڈیوں کے متعلق حکم دیا تو ان کو اُلٹا دیا گیا، حالانکہ اس دن ان میں پالتو گدھوں کا گوشت تھا۔

بُنُّ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَحَّازِ بْنِ جُدَيْيِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِقُدُورٍ فَأُكْفِفَتْ وَكَانَ فِيهَا لُحُومٌ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

حضرت عبدالرحمن بن یحییٰ

214- عَبْدُ الرَّحْمَنِ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

بُنُّ يَعْمَرُ

حضرت بکیر بن عطاء فرماتے ہیں کہ میں نے

1405 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحديث: 15948، والحارث بن أبي أسامة (515-بغية) والطبراني رقم الحديث: 6346 من طريق حرب بن شداد، به .

1405- حديث صحيح . وهو الذي بعده حديث واحد . وأخرجه البيهقي جلد 5 صفحہ 173 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18795-18997، وعبد بن حميد رقم الحديث: 310 والدارمي رقم الحديث: 1894، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 4180، والطحاوي جلد 2 صفحہ 210، وفي المشكل رقم الحديث: 4861، وابن قانع في معجمه جلد 2 صفحہ 166، والدارقطني جلد 2 صفحہ 241 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 899، وابن أبي شيبة في مسنده رقم الحديث: 731، وأحمد رقم الحديث: 18796، والبخاري في التاريخ جلد 5 صفحہ 243 تعليقا وأبو داؤد رقم الحديث: 1950، والترمذي رقم الحديث: 889، والنسائي رقم الحديث: 3044-3016، وفي الكبرى رقم الحديث: 4012، وابن ماجه رقم الحديث: 3015، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثالي رقم الحديث: 957، وابن الجارود رقم الحديث: 468، والطحاوي جلد 2 صفحہ 209-210، وفي المشكل رقم الحديث: 4860-3369، وابن خزيمة رقم الحديث: 2822، وابن قانع في معجمه جلد 2 صفحہ 165، وابن حبان رقم الحديث: 3892، والدارقطني جلد 2 صفحہ 240، والحاكم جلد 1 صفحہ 464، وأبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 119-120، والبيهقي جلد 5 صفحہ 116-173 من طرق عن الثوري، عن بكير بن عطاء، به .

حضرت عبدالرحمن بن یحییٰ رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ حاضر تھے جب آپ نے فرمایا: حج (وقوف) عرفہ کا نام ہے حج عرفات (میں وقوف) کا نام ہے جو طلوع فجر سے پہلے عرفہ کو پالے (یعنی وہاں پہنچ جائے) اس نے حج پالیا یا اس کا حج مکمل ہو گیا۔

حضرت عبدالرحمن بن یحییٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھا آپ نے فرمایا: منیٰ کے دن تین دن ہیں جس نے دو دن میں جلدی کی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جس نے تاخیر کی اس پر بھی گناہ نہیں ہے۔

حضرت بشر بن حزن

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت بشر بن حزن انصاری فرماتے ہیں کہ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَجُّ عَرَفَةٌ، الْحَجُّ عَرَفَاتٍ مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ أَوْ تَمَّ حَجُّهُ

1406 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ، يَقُولُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيَّامٌ مِنِّي ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمٍ مِّنْهَا فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

215- بشر

بْنُ حَزْنٍ

1407 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1406 - حدیث صحیح وهو جزء من الحدیث السابق .

1407 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي في الدلائل جلد 2 صفحہ 134، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه

جلد 17 صفحہ 83 من طريق المصنف . قال ابن أبي حاتم في العلل رقم الحدیث: 2546: سألت أبي

عن حدیث رواه أبو داؤد الطيالسی..... فذكره . فسمعت أبي يقول: هذا خطأ، إنما هو: عبدة بن حزن .

وأخرجه البخاری في التاريخ جلد 6 صفحہ 113 عن محمود، عن الطيالسی، به، وفيه: عبدة بن حزن .

وأخرجه البخاری في التاريخ جلد 6 صفحہ 113، والنسائي في الكبرى رقم الحدیث: 11324، وابن

قانع جلد 2 صفحہ 188، وابن عساكر جلد 17 صفحہ 83 من طريق غندر و خالد، عن شعبة، به، وفيه:

ابن حزن . وأخرجه البخاری في الأدب المفرد رقم الحدیث: 577، وابن قانع جلد 2 صفحہ 188 من

طريق غندر وشريك، عن شعبة، به، وفيه عبدة بن حزن . وأخرجه البخاری في التاريخ جلد 6 صفحہ 113،

وابن عساكر جلد 17 صفحہ 84 من طريق ابن بشار، عن الطيالسی، وابن أبي عدي عن شعبة به .

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ بَشْرِ بْنِ حَزْنِ النَّصْرِيِّ، قَالَ: افْتَخَرَ أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ وَبُعِثَ مُوسَى وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ وَبُعِثْتُ أَنَا وَأَنَا رَاعِي غَنَمًا لِأَهْلِي بِجِيَادٍ

اونٹوں کے مالک اور بکریوں کے مالک نبی اکرم ﷺ کے پاس فخر کرنے لگے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اور وہ بکریاں چراتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو وہ بھی بکریاں چراتے تھے اور میں مبعوث کیا گیا ہوں تو میں نے بھی اپنے اہل کے لیے عمدہ بکریاں چرائیں۔

حضرت یزید ابو حکیم

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت حکیم بن ابویزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگوں کو بلواؤ، ان میں بعض کو بعض سے دکھ پہنچتا ہے پس جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے مشورہ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی خیر خواہی کرے (یعنی اچھا مشورہ دے)۔

216- یزید

ابو حکیم

1408 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْهُ

1408- اسنادہ ضعیف، لجهالة حکیم بن ابی یزید۔ وعزاه الحافظ فی الاصابة جلد 6 صفحہ 654 والبوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 1598 الی المصنف۔ وأخرجه الطبرانی جلد 22 صفحہ 354 من طریق همّام، به۔ وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 154493، وعبد بن حمید رقم الحدیث: 438، والطحاوی جلد 4 صفحہ 11، والطبرانی جلد 22 صفحہ 354 من طرق عن عطاء بن السائب، به۔ وأخرجه الطبرانی جلد 22 صفحہ 354 من طریق حماد بن زید، عن عطاء، عن حکیم، مرسلًا۔ وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 14875 من طریق عطاء بن السائب، عن رجل، عن خالد أو نسیب له، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واستوعب الحافظ فی الاصابة جلد 7 صفحہ 467 ذکر الخلاف فی اسنادہ، وقال: والاضطراب فیہ من عطاء بن السائب، فانه کان اختلط۔

217- أَبُو عَقْرَبٍ

حضرت ابو عقرب

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1409 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، قَالَ: سَأَلَ أَبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي زِدْنِي قَالَ: صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زِدْنِي زِدْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِي قُوَّةَ فَزِدْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُمْ يَوْمَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ بِي قُوَّةَ فَزِدْنِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَنْ يَزِيدَنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ

حضرت ابو نوفل بن ابی عقرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے رسول اللہ ﷺ سے روزہ کے متعلق پوچھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مہینے میں ایک روزہ رکھا کرو، عرض کی: یا رسول اللہ! میرے لیے زیادہ کریں، میرے لیے زیادہ کریں! فرمایا: مہینے میں ایک روزہ رکھا کرو، عرض کی: یا رسول اللہ! میرے لیے زیادہ کریں، میرے لیے زیادہ کریں! آپ نے فرمایا: مہینے میں ایک روزہ رکھا کرو، عرض کی: یا رسول اللہ! مجھ میں قوت ہے، میرے لیے زیادہ کریں! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مہینے میں دو دن روزے رکھا کرو، عرض کی: یا رسول اللہ! مجھ میں قوت ہے، میرے لیے زیادہ کریں! یہاں تک کہ مجھے گمان ہو گیا کہ آپ میرے لیے ہرگز زیادہ نہیں کریں گے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو۔

1409- حدیث صحیح، و ظاهر اسنادہ ہنا الارسال، لکنہ جاء متصلا فی رواية غیرہ . وأخرجه ابن الأثیر فی أسد الغابة جلد 6 صفحہ 218 من طریق الطیالسی مقرونا بغیرہ . وفيه: أبو نوفل، عن أبيه . وأخرجه مسدد، وابن أبي شيبة كما في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 1599-1600، وأحمد رقم الحديث: 20682، والبخارى في الأدب المفرد رقم الحديث: 731، والنسائي رقم الحديث: 2433، والطبرانی جلد 22 صفحہ 316 من طرق عن الأسود بن شيبان، به . وقال الحافظ في الاصابة جلد 7 صفحہ 279: اسنادہ حسن .

218- وَحْشِيُّ

بْنُ حَرْبٍ

حضرت وحشی بن حرب

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1410 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنَ الرُّومِ فَلَمَّا قَرُبْنَا مِنْ حِمَصَ قُلْنَا: لَوْ مَرَرْنَا بِوَحْشِيِّ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ فَلَقِينَا رَجُلًا فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: هُوَ رَجُلٌ قَدْ غَلَبَتْ عَلَيْهِ الْخَمْرُ فَإِنْ أَدْرَكْتُمَاهُ وَهُوَ صَاحٍ لَمْ تَسْأَلَاهُ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرَ كَمَا وَإِنْ أَدْرَكْتُمَاهُ شَارِبًا فَلَا تَسْأَلَاهُ فَاَنْطَلَقْنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ قَدْ أَلْقَى لَهُ شَيْءٌ عَلَى بَابِهِ وَهُوَ جَالِسٌ صَاحٍ فَقَالَ: ابْنُ الْخِيَارِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ حَمَلْتُكَ إِلَى أُمَّكَ بِدِي طُوى إِذْ وَضَعْتَكَ فَرَأَيْتُ قَدَمَيْكَ فَعَرَفْتُهُمَا قَالَ: قُلْتُ: جِئْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ فَقَالَ: سَأَحْدِثُكُمْ كَمَا حَدَّثْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَأَلَنِي، كُنْتُ عَبْدًا لِأَلِ مُطْعِمٍ

حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم روم سے واپس آئے تو جب ہم حمص کے قریب ہوئے تو ہم نے کہا: اگر ہم حضرت وحشی کے پاس جائیں تو ہم ان سے حضرت حمزہ کے قتل کی تفصیل پوچھتے ہیں سو ہم ایک آدمی سے ملے ہم نے اس سے حضرت وحشی کا ذکر کیا اس نے کہا: وہ ایسا آدمی ہے جس پر نشہ غالب رہتا ہے اگر تم اس کو پاؤ اور وہ صحیح ہو تو تم اس سے کوئی شئی بھی پوچھو گے وہ تم کو بتائے گا اگر تم اس حالت میں پاؤ کہ اس نے شراب پی ہو تو تم دونوں اس سے کچھ نہ پوچھنا۔ سو ہم دونوں چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے انہوں نے دروازے پر کوئی شئی ڈالی ہوئی تھی اور وہ درست حالت میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا: اے ابن خیار! میں نے عرصہ کی: جی ہاں! میں نے آپ کو اس وقت دیکھا جب آپ کی والدہ آپ کو حالت حمل میں میرے پاس ذی طویٰ میں لائی تھی جب اس نے تجھے جنا تو میں نے تیرے پاؤں کو دیکھا

1410 - حدیث صحیح . وفی اسنادہ هنا شدوذ . وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثنائى رقم

الحدیث: 484، والبیہقی جلد 9 صفحہ 97 من طریق المصنف . وأما الاسناد المحفوظ، فقد أخرجه

أحمد رقم الحدیث: 16121، والبخاری رقم الحدیث: 4072 من طریق حجین بن المثنی عن عبد

العزیز بن أبی سلمة الماجشون، عن عبد الله بن الفضل، عن سليمان بن يسار، عن جعفر بن عمرو

الضمري، قال: خرجت مع عبید اللہ بن عدی بن الخیار .

تو میں نے انہیں پہچان لیا۔ کہا کہ میں نے عرض کی: ہم آپ سے حضرت حمزہ کے قتل کی تفصیل پوچھنے آئے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں تم دونوں سے ایسے ہی بیان کروں گا جس طرح میں نے رسول اللہ ﷺ سے بیان کیا تھا جس وقت آپ نے مجھ سے پوچھا تھا میں آل مطعم کا غلام تھا، مجھے مطعم کے بھائی کے بیٹے نے کہا: اگر تو حضرت حمزہ کو قتل کرے گا میرے چچا کے بدلے میں تو اس کے بعد تو آزاد ہوگا۔ سو میں اُحد کے دن اپنے نیزہ کو ساتھ لے کر چلا، میں حبشی آدمی تھا، میں کھیل میں بڑی مہارت رکھتا تھا، سو میں اُحد کے دن نکلا، میرا ارادہ حضرت حمزہ کے قتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا وہ مست خاکستری اونٹ کی طرح لگ رہے تھے اور کوئی بھی آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہ کر رہا تھا، میں موقع کی تلاش کرنے لگا، اسی دوران سباع کی اولاد میں سے ایک فرد سامنے نکال تو میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا: اے ختنہ کرنے والی کے بیٹے! میرے سامنے آ! (یہ کہہ کر) آپ نے اس پر حملہ کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، میں درختوں میں چھپتا چھپاتا آپ پر حملے کی تیاری کرنے لگا اور میرے پاس چھوٹا نیزہ تھا یہاں تک کہ جب میں قدرت یا غلبہ پانے کے قریب ہوا تو میں نے اپنے چھوٹے نیزے کو حرکت دی، جب مجھے اطمینان ہو گیا تو میں نے اسے آپ پر پھینک دیا اور وہ آپ کی دونوں ٹانگوں کے درمیان سے نکل گیا، آپ نے

فَقَالَ لِي ابْنُ أَحْيَى مُطْعِمٌ: إِنَّ أَنْتَ قَتَلْتَ حَمْزَةَ بِعَمِّي فَأَنْتَ حُرٌّ فَأَنْطَلَقْتُ يَوْمَ أُحُدٍ مَعِيَ حَرَبِيٌّ وَأَبَا رَجُلٌ مِنَ الْحَبَشَةِ أَلْعَبُ بِهَا لِعِبَهُمْ فَخَرَجْتُ يَوْمَئِذٍ مَا أُرِيدُ أَنْ أَقْتُلَ أَحَدًا وَلَا أُقَاتِلُهُ إِلَّا حَمْزَةَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا أَنَا بِحَمْزَةَ كَأَنَّهُ بَعِيرٌ أَوْرَقٌ مَا يَرْفَعُ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا قَمْعَهُ بِالسِّيفِ فَهَبْتُهُ وَبَادَرَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ سِبَاعٍ فَسَمِعْتُ حَمْزَةَ يَقُولُ: يَا ابْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُورِ فَشَدَّ عَلَيَّ فَقَتَلْتُهُ وَجَعَلْتُ الْوُدُ مِنْهُ فَلَذْتُ بِشَجَرَةٍ وَمَعِيَ حَرَبِيٌّ حَتَّى إِذَا اسْتَمَكَنْتُ مِنْهُ هَزَزْتُ الْحَرْبَةَ حَتَّى رَضِيتُ مِنْهَا ثُمَّ أَرْسَلْتُهَا فَوَقَعَتْ بَيْنَ نُدُوتَيْهِ وَذَهَبَ لِيَقُومَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَتَلْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ حَرَبِيَّ مَا قَتَلْتُ أَحَدًا وَلَا قَاتَلْتُهُ فَلَمَّا جِئْتُهُ عُثِقْتُ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَدْتُ الْهَرَبَ مِنْهُ أُرِيدُ الشَّامَ فَأَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا وَحْشِي وَاللَّهِ مَا يَأْتِي مُحَمَّدًا أَحَدٌ فَيَشْهَدُ بِشَهَادَتِهِ إِلَّا خَلَى عَنْهُ فَأَنْطَلَقْتُ فَمَا شَعَرَ بِي إِلَّا وَأَنَا قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ الْحَقِّ فَقَالَ: أَوْحْشِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَحْشِي قَالَ: وَيْحَكَ حَدَّثَنِي عَنْ قَتْلِ حَمْزَةَ فَأَنْشَأْتُ أَحَدِيئَهُ كَمَا حَدَّثْتُكُمْمَا فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا وَحْشِي عَيْبٌ عَنِّي وَجْهَكَ فَلَا أَرَاكَ فَكُنْتُ أَتَقِي أَنْ يَرَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبِضَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ مُسَيْلِمَةَ مَا كَانَ وَانْبَعَثَ إِلَيْهِ الْبُعْثُ انْبَعَثْتُ مَعَهُ وَأَخَذْتُ

حَرِيَّتِي فَالْتَقِينَا فَبَادَرْتُهُ اَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ
 فَرَبُّكَ اَعْلَمُ اَيْنَا قَتَلَهُ فَاِنْ كُنْتُ قَتَلْتُهُ فَقَدْ قَتَلْتُ
 خَيْرَ النَّاسِ وَشَرَّ النَّاسِ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ
 يَسَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنْتُ فِي الْجَيْشِ
 يَوْمَئِذٍ فَسَمِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ فِي مُسَلِمَةَ: قَتَلَهُ
 الْعَبْدُ الْاَسْوَدُ

کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن بے سود پھر میں نے اپنا
 چھوٹا نیزہ لیا اس کے ساتھ میں نے کسی اور کو قتل نہیں کیا
 تھا اور نہ کسی کو قتل کروں گا، جب میں واپس آیا تو میں
 آزاد کر دیا گیا، جب نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو
 میں بھاگ کر ملک شام کی طرف چلا گیا، تو ایک شخص
 مجھے آ کر کہنے لگا: اے وحشی! تجھ پر افسوس! جو شخص محمد
 ﷺ کے پاس کلمہ شہادت پڑھتا ہوا جائے گا تو نبی
 اکرم ﷺ ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے، تو میں وہاں سے
 چل پڑا تو میں آپ کے پس پشت کے بالکل قریب
 کھڑے ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا تو آپ نے پوچھا:
 کیا تو وحشی ہے؟ میں نے عرص کی: ہاں! یا رسول اللہ!
 فرمایا: تجھ پر افسوس! تو مجھے حضرت حمزہ کے قتل کا واقعہ
 سنا! تو میں نے وہ ماجرا سنایا جس طرح میں نے تم دونوں
 کو سنایا ہوا ہے، پھر آپ نے فرمایا: اے وحشی! تجھ پر
 افسوس! تو میری نظروں سے دور ہو جا! تیرا چہرہ میں نہ
 دیکھوں۔ تو میں اپنے آپ کو اس بات سے بچاتا تھا کہ
 کہیں نبی اکرم ﷺ مجھے دیکھ نہ لیں، یہاں تک کہ نبی
 اکرم ﷺ کا انتقال ہو گیا۔ جب مسلمہ والا معاملہ پیش
 آیا، جو لشکر اس کی طرف روانہ ہوا ان میں میں بھی شامل
 تھا، تو میں نے اپنا چھوٹا نیزہ لیا، جب ہم ایک دوسرے
 کے مد مقابل ہوئے تو میں نے اس کی طرف جلدی سے
 حملہ کر دیا، اسی طرح ایک انصاری شخص نے بھی اس پر
 حملہ کر دیا، تیرا ب ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے اسے
 کس نے قتل کیا؟ اگر میں نے قتل کیا ہے تو میں نے

لوگوں میں سے بہتر کو بھی شہید کیا ہے اور بدترین کو بھی قتل کیا ہے۔ سلیمان بن یسار بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس دن میں بھی لشکر میں تھا تو میں نے میلہ بن کذاب کے متعلق کسی کو کہتے ہوئے سنا کہ اسے کالے غلام نے قتل کیا ہے۔

حضرت صہیب

219- صُهِيبٌ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: "لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ" فرمایا: جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے ایک آواز دینے والا آواز دے گا: اے جنت والو! تمہارے لیے اللہ کے ہاں وعدہ ہے، وہ کہیں گے: وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے چہروں کو سفید اور ہمارے میزان کو بھاری اور ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا ہے! ان کو یہ تین مرتبہ کہا جائے گا، فرمایا کہ پس اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر تجلی فرمائے گا، وہ اس کی طرف دیکھیں گے تو

1411 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهِيبٍ، قَالَ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ (لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ) (يونس: 26) قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ نَادَى مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعُودًا فَيَقُولُونَ: وَمَا هُوَ؟ أَلَيْسَ قَدْ بَيَّضَ وُجُوهَنَا وَثَقَّلَ مَوَازِينَنَا وَأَدْخَلَنَا الْجَنَّةَ؟ فَيَقَالُ لَهُمْ ذَلِكَ ثَلَاثًا

1411- حدیث صحیح۔ أخرجه الآسرى فى الشريعة رقم الحديث: 604، وأبو نعیم فى الحلیة

جلد 1 صفحہ 155 من طریق المصنف۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18955-18961، ومسلم رقم

الحديث: 181، والترمذی رقم الحديث: 2552-3105، والنسائی فى الکبرى رقم الحديث: 11234،

وابن ماجه رقم الحديث: 187، والبزار رقم الحديث: 2087، والطبرى فى التفسیر جلد 11 صفحہ 106،

وابن حبان رقم الحديث: 7441، والطبرانى رقم الحديث: 7315 من طرق عن حماد، به۔ وقال

الترمذی: حدیث حماد بن سلمة، هكذا روى غير واحد عن حماد بن سلمة مرفوعًا۔

قَالَ: فَيَتَجَلَّى لَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ
فَيَكُونُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ أَعْظَمَ مِمَّا أُعْطُوا

وہ ان کے ہاں اس سے بہت بڑی نعمت ہوگی جو ان کو
عطا کیا گیا تھا۔

220- حَكِيمٌ

حضرت حکیم بن حزام

رضی اللہ عنہ کی احادیث

بْنُ حِزَامٍ

1412 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دو بیع کرنے والوں کو اختیار
ہوتا ہے جدا ہونے تک اگر دونوں بیچ بولیں اور (مال کی
حالت و کیفیت) بیان کر دیں تو ان دونوں کی بیچ میں
برکت دی جائے گی اور اگر دونوں جھوٹ بولیں اور
چھپائیں تو دونوں کی بیچ میں برکت ختم کر دی جائے گی۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ صَالِحًا
أَبَا الْخَلِيلِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ
حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ
صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا
وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُمَا .

1413 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَامٌ،

حضرت ہمام از قتادہ از صالح از عبد اللہ بن حارث
از حکیم بن حزام از نبی کریم ﷺ اسی کی مثل حدیث

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،

1412 - حدیث صحیح . أخرجه الطحاوی جلد 4 صفحہ 13 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 15363، والبخاری رقم الحدیث: 2079-2082-2110، ومسلم رقم الحدیث: 1532، وأبو

داؤد رقم الحدیث: 3459، والترمذی رقم الحدیث: 1246، والنسائی رقم الحدیث: 4476، والطبرانی

رقم الحدیث: 3115، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 2051 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه

أحمد رقم الحدیث: 15360-15614، والنسائی رقم الحدیث: 4476، وابن حبان رقم الحدیث: 4904،

والطبرانی رقم الحدیث: 3117-3118 من طریق سعید بن أبی عروبة وحماد بن سلمة، عن قتادة، به .

1413 - حدیث صحیح . أخرجه الطحاوی جلد 4 صفحہ 13 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 15359، والبخاری رقم الحدیث: 2108-2114، والطبرانی رقم الحدیث: 3116 من طرق عن

همام، عن قتادة، به . وأخرجه البخاری رقم الحدیث: 2114، مسلم رقم الحدیث: 1532 من طریق

همام، عن أبی التیاح، به .

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ هَمَّامٌ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ هَذَا

1414 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدَبٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْحَفْتُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ: مَا أَنْكَرَ مَسْأَلَتَكَ يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلُوٌّ خَصِرٌ أَوْ سَاخُ أَيْدِي النَّاسِ وَإِنَّ يَدَ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطَى فَوْقَ الْمُعْطَى وَأَسْفَلَ الْأَيْدِي يَدُ الْمُعْطَى

1415 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا اور میں نے سوال کرنے میں خوب مبالغہ کیا، آپ نے فرمایا: اے حکیم! مجھے آپ کو یہ مال دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بے شک یہ پیٹھا اور سبز ہے، لوگوں کے ہاتھ پھیلاتا ہے اور بے شک اوپر والا ہاتھ اللہ کا ہے اور دینے والے کا ہاتھ لینے والے سے اوپر ہوتا ہے اور سب سے نیچے لینے والے کے ہاتھ ہوتے ہیں۔

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1414 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15356، وابن خزيمة في التوحيد رقم الحديث: 85-86 والطبرانی جلد 3 صفحہ 193، والحاكم جلد 3 صفحہ 484، من طرق عن ابن أبي ذئب، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15612 وغير موضع، والبخاری رقم الحديث: 2750-3143-6441، ومسلم رقم الحديث: 1035، وابن حبان رقم الحديث: 3220، وغيرهم من طرق عن عروة، وسعيد بن المسيب، عن حكيم، به .

1415 - حدیث حسن . واسناده هنا ضعيف منقطع، فيه عبد الله بن عصمة، وهو مجهول . وأخرجه البيهقي جلد 5 صفحہ 313 من طريق هشام، به، ثم قال: لم يسمعه يحيى بن أبي كثير من يوسف، انما سمعه من يعلى بن حكيم، عن يوسف . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 14214، وأحمد كما في تهذيب الكمال جلد 15 صفحہ 310، وأطراف المسند جلد 2 صفحہ 283، والنسائي كما في تحفة الأشراف جلد 3 صفحہ 76، وابن الجارود رقم الحديث: 602، وابن حبان رقم الحديث: 4983، والطبرانی رقم

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے کئی چیزیں خریدیں، میرے لیے کیا حلال ہے اس میں سے جو مجھ پر حرام کی گئی، آپ نے مجھے فرمایا: جب تو خرید کر لے تو اس کو مت فروخت کر یہاں تک کہ تو اس پر قبضہ نہ کر لے۔

هَشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي اشْتَرَيْتُ بِيُوعًا مَا يَحِلُّ لِي مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ لِي: إِذَا بَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

الحديث: 3108، والدارقطنی جلد 3 صفحہ 8-9، والبیہقی جلد 5 صفحہ 313 من طرق عن یحیی بن ابی کثیر، عن یعلی بن حکیم، عن یوسف، به۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15351، والنسائی فی الکبریٰ کما فی تحفة الأشراف من طریق یحیی، عن رجل، عن یوسف، به۔ وأخرجه النسائی فی الکبریٰ کما فی التحفة والطبرانی رقم الحديث: 3107 من طریق یوسف بن مَاهَكَ، عن ابن عَصْمَةَ، عن حکیم، به۔ نحوه۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15365، والنسائی رقم الحديث: 4616 من طریق عطاء بن ابی رباح عن عَصْمَةَ عن حکیم به بنحوه۔ وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 14212 من طریق معمر و ابن سیرین عن ایوب عن یوسف عن رجل: أن حکیم بن حزام.....مرسلاً۔ وقد رواه یوسف بن مَاهَكَ عن حکیم مرسلاً۔ وسیاتی برقم 1456۔ وأخرجه النسائی فی الکبریٰ (تحفة-3434) والطبرانی رقم الحديث: 3146 من طریق ابن سیرین عن حکیم نحوه ولم یسمعه منه انما سمعه من ایوب عن یوسف عن حکیم۔ قاله الترمذی۔ وانظر تخريجہ برقم 1456۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15364 والنسائی رقم الحديث: 4615، والطبرانی رقم الحديث: 3096 من طریق عطاء بن ابی رباح، عن صفوان بن موهب، عن عبد اللہ بن محمد بن صیفی، عن حکیم۔ وأخرجه الطبرانی رقم الحديث: 3132 من طریق عطاء عن حکیم۔ وأخرجه ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ 365-366، والنسائی رقم الحديث: 4617، والطحاوی جلد 4 صفحہ 38، وابن حبان رقم الحديث: 4985، والطبرانی رقم الحديث: 3110 من طرق عن عطاء، عن حزام بن حکیم، عن ابیه۔

221- وَالِدُ أَبِي الْمَلِيحِ

وَأَسْمُهُ أُسَامَةُ

بْنُ عُمَيْرٍ

حضرت ابوالملیح کے والد

حضرت اسامہ بن عمیر

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت ابوالملیح الہذلی اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک گھر میں تھے میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر وضو کے نماز اور خیانت کے صدقہ کو قبول نہیں کرتا۔

1416 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ الْهَذَلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهُورٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

حضرت ابوالملیح الہذلی اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ہم ایک سفر میں بارش

1417 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهَذَلِيَّ، عَنْ أَبِيهِ،

1416- حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 1 صفحه 42 من طريق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحه 5، وأحمد 20727، والدارمي رقم الحديث: 692، وأبو داود رقم الحديث: 59، والنسائي رقم الحديث: 2523، وابن ماجه رقم الحديث: 271، وابن حبان رقم الحديث: 1705، والبخاري في شرح السنة رقم الحديث: 964، وصححه وغيرهم من طرق عن شعبة به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20733، والنسائي رقم الحديث: 139، والبزار رقم الحديث: 2329، وغيرهم من طرق عن قتادة به .

1417- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعيف، فيه عباد بن منصور، لين الحديث، لكنه متابع . ورواه قتادة وأبو قلابة وأبو بشر الحلبي وغيرهم، عن أبي الملیح، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 1924، وابن أبي شيبة جلد 2 صفحه 234، وأحمد رقم الحديث: 20739، والبخاري في التاريخ جلد 2 صفحه 21، وأبو داود رقم الحديث: 1058، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 927، وابن ماجه رقم الحديث: 936، والبزار رقم الحديث: 2334، وابن حبان رقم الحديث: 2079، والحاكم جلد 1

قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى: الصَّلَاةَ فِي الرَّحَالِ

والے دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے تو آپ نے منادی کو حکم فرمایا کہ نداء کرے کہ نماز اپنی سواریوں پر ہی پڑھ لو۔

222- اُبی

حضرت اُبی بن مالک

رضی اللہ عنہ کی احادیث

بْنُ مَالِكٍ

1418 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ زُرَّارَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بِنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ وَالِدِيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ فَاَبَعَهُ اللَّهُ

حضرت اُبی بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پایا، پھر وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ اس کو (اپنی رحمت سے) دور کر دے گا۔

1419 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت مالک یا ابومالک یا ابن مالک رضی اللہ عنہ

صفحة 293 والبيهقي جلد 3 صفحه 71 وصححه الحاكم وأقره الذهبي . وانظر علل ابن أبي حاتم رقم الحديث: 576 .

1418 - حديث صحيح . عزاه الذهبي في التجريد جلد 1 صفحه 4 والحافظ في الاصابة جلد 1 صفحه 28 الى المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 19051-20343 والبخاري في التاريخ جلد 2 صفحه 40 وابن قانع جلد 1 صفحه 7 والطبراني رقم الحديث: 544، وغيرهم من طرق عن شعبة به . وله شاهد في صحيح مسلم رقم الحديث: 2551 من حديث أبي هريرة .

1419 - اسنادہ ضعیف لضعف علی بن زید بن جدهان . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20345، وأبو يعلى رقم الحديث: 926 والطبراني جلد 19 صفحه 300 من طرق عن شعبة به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20346 والطبراني جلد 19 صفحه 299-300 من طرق عن علی بن زید به . وللحديث بأجزائه الثلاثة شواهد منها ما أخرجه البخاري رقم الحديث: 6005 من حديث سهل بن سعد . ومسلم رقم الحديث: 2983 من حديث أبي هريرة بلفظ: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة . ومنها ما أخرجه مسلم رقم الحديث: 2551 من حديث أبي هريرة بلفظ: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما

نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس نے یتیم کی کفالت کی مسلمانوں کے درمیان اس کو اپنے کھانے اور پینے میں شریک کیا حتیٰ کہ اسے اس (کھانے پینے کی مجبوری) سے بے پرواہ کر دیا تو اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہوگئی اور جس نے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو (بڑھاپے کی حالت میں) پایا پھر وہ جہنم میں داخل ہو گیا تو اللہ عزوجل اس کو دور کر دے گا اور جو مسلمان، مسلمان غلام کو آزاد کرے گا یہ اس کے لیے جہنم میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ زُرَّارَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ: مَالِكٌ أَوْ أَبُو مَالِكٍ أَوْ ابْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ مُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَفْنِيَ عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، وَمَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ فَاَبَعَدَهُ اللَّهُ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ لَهُ فِكَائًا مِنَ النَّارِ

حضرت یعلیٰ بن منیہ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت یعلیٰ بن منیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

223- یعلیٰ

بْنِ مَنِیَّةٍ

1420 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ .

1420- حدیث صحیح، واسناد المصنف فیہ ارسال . والصواب: عن عطاء، عن صفوان بن یعلیٰ بن أمیة، عن أبيه . قال المزني في التهذيب جلد 20 صفحہ 72 . وأخرجه البيهقي جلد 5 صفحہ 57 من طريق المصنف . ورواه منصور بن زاذان، وعبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، وأبو بشر، وغيرهم، عن عطاء، به، كما رواه قتادة هنا . أخرجه أحمد رقم الحديث: 17993-17996، وأبو داؤد رقم الحديث: 1820، والترمذي رقم الحديث: 835، وابن خزيمة رقم الحديث: 2672، والطحاوي جلد 2 صفحہ 127، وغيرهم . ورواه عمرو بن دينار، وابن جريج، وهمام، والليث، وغيرهم، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن یعلیٰ بن أمیة، عن أبيه، به . أخرجه أحمد رقم الحديث: 17977، والبخاری رقم الحديث: 4985-1847، ومسلم رقم الحديث: 1180، وأبو داؤد رقم الحديث: 1822، والترمذي رقم الحديث: 836، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 7982، وغيرهم . قال الترمذي: والصحيح ما رواه عمرو بن دينار، عن عطاء، عن صفوان بن یعلیٰ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرجه مالك

کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک آدمی پر جبہ دیکھا اس پر خلوک یا زردی کے اثرات تھے آپ نے فرمایا: اس کو اپنے آپ سے اتار دو اور اپنے عمرہ میں وہی کر جو اپنے حج کے دوران کرتا ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا: اور میں نے حضرت عطاء سے پوچھا کہ ہم نے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اسے پھاڑ دے؟ فرمایا کہ یہ فساد ہے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنِيَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا آثَرُ خَلُوقٍ أَوْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: اخْلَعْهَا عَنْكَ وَاجْعَلْ فِي عُمُرَتِكَ مَا تَجْعَلُ فِي حَجِّكَ قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ قَالَ: شُقَّهَا، قَالَ: هَذَا فَسَادٌ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

1421 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنِيَةَ أَوْ ابْنِ أُمِيَّةَ قَالَ: قَاتَلَ رَجُلَانِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعْضُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعْضُ الْبُكَرُ فَاظْلَمَهَا قَالَ الْحَكَمُ: اتَدْرِي مَا أَظْلَمَهَا؟ قُلْتُ: أَبْطَلَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ

حضرت یعلیٰ بن مدیہ یا ابن مدیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں لڑ پڑنے ایک نے دوسرے کو دانت سے کاٹا، اس نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے آگے والے دانت ٹوٹ گئے پس یہ جھگڑا نبی اکرم ﷺ کے پاس لے گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ایسے کاٹتا ہے جیسے اونٹ، تو آپ نے اسے (یعنی دانت توڑنے کی دیت کو) باطل قرار دیا۔ حضرت حکم نے فرمایا: کیا تو جانتا ہے کہ ”اظلمها“ کیا ہے؟ میں نے کہا: اسے باطل قرار دینا، فرمایا: ہاں!

جلد 1 صفحہ 328 عن حميد بن قيس ' عن عطاء بن ابي رباح ' ان اعرابيا.....

1421- حديث صحيح . أخرجه النسائي رقم الحديث: 4777-4778، وغيره من طرق عن شعبة ' به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 17547 من طريق حميد بن قيس ' عن مجاهد ' به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 17547، وابن أبي شيبة جلد 9 صفحہ 336، وأحمد رقم الحديث: 17983-17995، والبخاري رقم الحديث: 6893، ومسلم رقم الحديث: 1673، وأبو داؤد رقم الحديث: 4584، والنسائي رقم الحديث: 4786 من طرق عن صفوان بن يعلى بن أمية ' عن أبيه . وانظر تحفة الأشراف جلد 9 صفحہ 117، وأطراف المسند جلد 5 صفحہ 463 .

224- أَبُو

عَزَّةَ الْهُدَلِيِّ

حضرت ابو عزمہ الہذلی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1422 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
 الْمَلِيحِ الْهُدَلِيِّ، عَنْ أَبِي عَزَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ قَبْضَ عَبْدٍ بَارِضٍ
 جَعَلَ لَهُ بِهَا حَاجَةً

حضرت ابو عزمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی

اکرم ﷺ نے فرمایا: جب اللہ کسی بندے کو کسی جگہ میں
 مارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس جگہ کوئی حاجت پیدا فرما
 دیتا ہے۔

225- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر

الصدیق رضی اللہ عنہما کی حدیث

1423 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما سے

1422- اسنادہ صحیح . أخرجه البخاری فی الأدب المفرد رقم الحدیث: 1282، وفی التاریخ جلد 8
 صفحہ 419، والبخاری (2154- کشف) والطبرانی جلد 22 صفحہ 276، والحاکم جلد 1 صفحہ 42 من
 طرق عن حماد بن زید، به . وأخرجه ابن أبی شیبہ فی المسند رقم الحدیث: 543، وأحمد رقم
 الحدیث: 15578، والبخاری فی التاریخ جلد 8 صفحہ 420، والترمذی رقم الحدیث: 2147، وفی العلل
 الکبیر صفحہ 320، وابن أبی عاصم فی الآحاد والمثنیٰ رقم الحدیث: 1069، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث:
 927، وابن قانع جلد 3 صفحہ 236، وابن حبان رقم الحدیث: 6151، والطبرانی جلد 22 صفحہ 276
 والحاکم جلد 1 صفحہ 42 من طریق أبیوب، به، نحوه . وصححه الترمذی، والحاکم، وأقره الذہبی .
 وأخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 461 من طریق معمر، عن أبیوب، عن أبی الملیح، عن أسامة . وحماد
 بن زید أثبت فی أبیوب . وأخرجه الطبرانی فی الأوسط رقم الحدیث: 8412، وابن عدی فی الكامل
 جلد 4 صفحہ 1634، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 8 صفحہ 374 من طریق عبید اللہ بن أبی حمید وهو
 متروک عن أبی الملیح، به، نحوه . ورواه أبو اسحاق، عن مطرب بن عکامس .

1423- اسنادہ ضعیف، لضعف صدقة بن موسیٰ، وجهالة زید بن قیس . وأخرجه أبو نعیم جلد 4 صفحہ 141 من

روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قرض والے کو بلائے گا، فرمائے گا: اے ابن آدم! تو نے لوگوں کے حقوق کیوں ضائع کیے؟ تو اُن کے اموال کو کیوں لیتا رہا؟ وہ بندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں نے اس کو برباد نہ کیا لیکن میں نے اس لیے کیا کہ یہ برباد نہ ہو جائے یا جل نہ جائے۔ اللہ عزوجل فرمائے گا: میں آج تیری طرف سے قرض ادا کرنے کا زیادہ حق دار ہوں، سو اس کی نیکیوں کو اس کی بُرائیوں پر زیادہ کر دیا جائے گا اور اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔

حضرت قبیصہ بن مخارق الہلالی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت قبیصہ بن مخارق الہلالی رضی اللہ عنہ

قَالَ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ قَيْسٍ أَوْ قَيْسِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ قَاضِي الْمَضْرَيْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَدْعُو صَاحِبَ الدَّيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ فِيمَ أَضَعْتَ حُقُوقَ النَّاسِ؟ فِيمَ أَذْهَبْتَ أَمْوَالَهُمْ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَمْ أَفْسِدْهُ وَلَكِنْ أُصِيبْتُ إِمَّا غَرَقًا وَإِمَّا حَرَقًا فَيَقُولُ: عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا أَحَقُّ مَنْ قَضَى عَنْكَ الْيَوْمَ فَتَرْجَحُ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ

226- قَبِيصَةُ بْنُ

مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ

1424- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 1707-1708، والبزار رقم الحديث: 2272، وأبو نعيم في الحلية جلد 4 صفحہ 141 من طرق عن صدقة 'به' نحوه . وقال أبو نعيم: غريب من حديث شريح، تفرد به صدقة 'عن أبي عمران .

1424- حديث صحيح . أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 23 من طريق المصنف . وأخرجه معمر في جامعه رقم الحديث: 20008، والحميدي رقم الحديث: 819، وأحمد رقم الحديث: 20620، والنسائي رقم الحديث: 2590، وابن خزيمة رقم الحديث: 2359-2361، وابن الجارود رقم الحديث: 367، والطحاوي جلد 2 صفحہ 17، والطبراني جلد 18 صفحہ 370، والدارقطني جلد 2 صفحہ 119-120، والبيهقي جلد 6 صفحہ 63 من طرق عن هارون بن رثاب 'به' . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 210، والدارمي رقم الحديث: 1685، ومسلم رقم الحديث: 1044، وأبو داؤد رقم الحديث: 1640 من طرق عن حماد بن زيد 'به' .

فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لے لی سو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا (اس قرض کی ادائیگی میں مدد کے لیے) تو میں نے آپ سے (مدد کا) سوال کیا آپ نے فرمایا: اے قبیصہ! ٹھہر جا! یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ (کا مال) آئے ہم تجھے اس سے دینے کا حکم دیں گے۔ پھر فرمایا: اے قبیصہ! بے شک مانگنا جائز نہیں ہے سوائے تین آدمیوں کے (۱) ایک وہ جس نے کسی کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری لی ہو وہ اس کے لیے مانگے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دے پھر رُک جائے (۲) ایک وہ آدمی جس کے مال پر تباہی آئی تو مال ختم ہو گیا تو وہ مانگے یہاں تک کہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو جائے پھر وہ مانگنے سے رُک جائے (۳) اور ایک وہ آدمی جس کو سخت ضرورت ہو تو اس کی قوم سے تین معزز آدمی کھڑے ہوں وہ کہیں کہ اس کو سخت ضرورت یا سخت فاقہ پہنچا ہے وہ مانگ لے یہاں تک کہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے پھر مانگنے سے باز آ جائے۔ ان صورتوں کے علاوہ مانگ کے کھانا حرام کھانا ہے یہ آپ نے دو یا تین مرتبہ فرمایا۔

حضرت ابوالہی مالک الاشجعی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابومالک الاشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِثَابِ الْأَسِيدِيِّ، عَنْ كِنَانَةَ بْنِ نَعِيمِ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ، قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: اقْمِ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرُكَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِي ثَلَاثِ رَجُلٍ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَسَأَلَ فِيهَا حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَانِحَةٌ اجْتَا حَتَّى مَالَهُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَقَامَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ فَقَالُوا: قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَّةٌ أَوْ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكَ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسَائِلِ سُحْتًا يَا كُلُّهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

227- أَبُو أَبِي مَالِكٍ

الْأَشْجَعِيُّ

1425- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ،
قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَهَ الْيَسَّ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلْفَ أَبِي
بَكْرٍ وَخَلْفَ عُمَرَ؟ قَالَ: بَلَى فَقُلْتُ: أَفَكَانُوا
يَقْنُتُونَ فِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: يَا بُنَيَّ مُحَدَّثَةٌ

کہ میں نے اپنے والد سے عرض کی: اے اباجان! کیا
آپ نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے اور حضرت ابوبکر و عمر
رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ فرمایا: کیوں نہیں!
میں نے عرض کی: کیا یہ حضرات فجر میں قنوت پڑھتے
تھے؟ فرمایا: اے بیٹے! یہ بدعت ہے۔

228- أَبُو رَهِمِ الْغِفَارِيِّ

وَأَسْمُهُ كَلْثُومُ بْنُ

الْحُصَيْنِ الْغِفَارِيِّ

حضرت ابورہم الغفاری اور ان کا

نام حضرت کلثوم بن حصین الغفاری

رضی اللہ عنہ ہے کی حدیث

حضرت ابو حازم الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1426 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحدیث: 403 من طریق ابی عوانة، به . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 27253-27254، والترمذی
رقم الحدیث: 402، والنسائی رقم الحدیث: 1079، وابن ماجه رقم الحدیث: 1241، والطحاوی
جلد 1 صفحہ 249، والعقيلي جلد 2 صفحہ 119، وابن حبان رقم الحدیث: 1989، والطبرانی رقم
الحدیث: 8178-8179 من طرق عن ابی مالک الأشجعی، عن أبیه . وقال الترمذی: حسن صحیح،
وحسنه الحافظ فی التلخیص جلد 1 صفحہ 246 . وانظر ضعفاء العقيلي جلد 2 صفحہ 119، والارواء
جلد 2 صفحہ 182 .

1426- اسنادہ ضعیف، لجهالة ابی حازم . وعزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 6297
الی المصنف . وأخرجه الدارقطني جلد 4 صفحہ 101 من طریق قیس، به . وأخرجه ابن قانع جلد 2
صفحہ 393، والطبرانی جلد 19 صفحہ 186، والدارقطني جلد 4 صفحہ 101 من طریق قیس، عن محمد
بن علی، عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروة، عن ابی حازم، به، وفيه: يوم خيبر . واسحاق متروك .
وأخرجه أبو يعلى رقم الحدیث: 6876، والطبرانی جلد 19 صفحہ 186، والبيهقي جلد 6 صفحہ 326 من
طريق اسماعيل بن عياش، عن اسحاق بن ابی فروة، عن ابی حازم، به . وفي البيهقي: يوم خيبر أو يوم
حنين، أنا أشك . وانظر نصب الراية جلد 4 صفحہ 414 . وفي اسهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم

کہ مجھے حضرت ابوہریرہ کے دو غلاموں نے بتایا، کہا کہ میں اور میرا بھائی بھی حنین کی جنگ میں حاضر ہوئے اور ہمارے ساتھ دو گھوڑے تھے نبی کریم ﷺ نے ہمیں چار حصے دیئے، میرے اور میرے بھائی کے لیے دو دو حصے سوہم نے حنین کے دو حصے دو کرین کے بدلے فروخت کر دیئے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلَايَ أَبُو رُهَيْمٍ، قَالَ: حَضَرْتُ حُنَيْنًا أَنَا وَآخِي، وَمَعَنَا فَرَسَانِ فَاسْتَهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَوَلِي وَآخِي سَهْمَيْنِ فَبِعْنَا سَهْمَيْنِ مِنْ حُنَيْنٍ بِبَكْرَيْنِ

حضرت زید بن خالد الجہنی

رضی اللہ عنہ کی احادیث

حضرت زید بن خالد (الجہنی) رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس غازی کے لیے اللہ کی راہ میں سامان تیار کیا گیا اس نے بھاری ثواب پالیا اور جو اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ کے پاس رہا اس کی عدم موجودگی میں تو اس نے بھی جہاد کا ثواب پالیا۔

حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر دو رکعتیں (تحیۃ الوضو کی) پڑھیں اور وہ ان دونوں میں بھولا نہیں تو اس کو بخش دیا گیا۔

229- زَيْدُ بْنُ

خَالِدِ الْجُهَنِيِّ

1427- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَزَا

1428- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ

بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ وَلَمْ

للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا' حديث ابن عمر عند البخاري رقم الحديث: 2863، ومسلم رقم

الحديث: 1762 .

1427- حديث صحيح مكرر .

1428- حديث صحيح . واسناده هنا منقطع بين زيد بن أسلم وزيد بن خالد بينهما عطاء بن يسار وهو

مكرر .

يَسْهُو فِيهِمَا غُفْرًا لَهُ

حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے فیصلہ کے وقت موجود تھا جو آپ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ نہ ہو تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں اور ایک سال کے لیے اسے جلا وطن کیا جائے۔

1429 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ جَلْدًا مِائَةً وَتَغْرِيبًا

عَامٍ

حضرت زید بن خالد جہنی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ دو آدمی اپنا جھگڑا رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئے ان میں سے ایک کہنے لگا: میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ فرمائیں۔ اس کا مد مقابل

1430 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَيْبٍ وَزَمْعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَا: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنْشُدْكَ

1429- حدیث صحیح أخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 5198 من طریق المصنف . وأخرجه البخاری رقم

الحدیث: 6831، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 7234، والطبرانی رقم الحدیث: 5197، والبغوی

رقم الحدیث: 2581 من طریق عبد العزیز بن ابی سلمة به . وأخرجه البخاری رقم الحدیث: 2649

والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 7235-7237، والطبرانی رقم الحدیث: 5194 من طرق عن

الزہری به .

1430- حدیث صحیح . أخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 5199 من طریق المصنف . وأخرجه البخاری رقم

الحدیث: 7194 من طریق ابن ابی ذئب وحده به . وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 822، والشافعی فی

الرسالة صفحہ 248، والحمیدی 811، وابن ابی شیبہ جلد 10 صفحہ 159، وأحمد رقم الحدیث:

17083، والبخاری رقم الحدیث: 6633، ومسلم رقم الحدیث: 1697-1698، وأبو داؤد رقم

الحدیث: 4445، والترمذی رقم الحدیث: 1433، والنسائی رقم الحدیث: 5425-5426، وفی الكبرى

رقم الحدیث: 7190-7193، وابن ماجه رقم الحدیث: 2549، وابن حبان رقم الحدیث: 4437،

والطبرانی رقم الحدیث: 5190-5191 من طرق عن الزہری، به .

کھڑا ہوا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرا بیٹا اس کے ہاں ملازم تھا، اس نے اس کی عورت سے زنا کیا، سو میں نے اس کے بدلے اس کو ایک سو بکریاں اور خادم دیئے ہیں، جب میں نے علماء سے پوچھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ کے بیٹے پر سو کوڑے حد اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اس عورت پر رجم والی حد ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، رہ گئی بات سو بکریوں اور خادموں کی تو وہ تجھے واپس کیے جائیں گے اور تیرے بیٹے پر سو کوڑے حد اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اے انیس! اس عورت کے پاس صبح کو جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کر دو، صبح وہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا تو اس نے اعتراف کیا، پس اس کو رجم کیا گیا۔

اللَّهُ لَمَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا - يَعْنِي أَجِيرًا - وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِي فَأَقْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ فَلَمَّا سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ أَخْبَرُونِي أَنَّ عَلِيَّ ابْنِي جَلَدَ مِائَةً وَتَغْرِيْبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلِيَّ امْرَأَةَ هَذَا الرَّجْمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْمِائَةُ الشَّاةِ وَالْخَادِمُ فَهُمَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَيَّ امْرَأَةَ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمَهَا فَعَدَا عَلَيْهَا فَسَأَلَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَارْجَمَهَا

حضرت زید بن خالد الجہنی اور حضرت ابو ہریرہ رضی

1431 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،

1431- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لضعف زمعة. وأخرجه الطبرانی رقم الحديث: 5205 من طريق المصنف. وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 826، والشافعی فی المسند جلد 2 صفحہ 156، وفي الأم جلد 7 صفحہ 181، وعبد الرزاق رقم الحديث: 13598، والحمیدی رقم الحديث: 812، وابن أبي شيبة جلد 9 صفحہ 513، وأحمد رقم الحديث: 17100، والدارمی رقم الحديث: 2322، والبخاری رقم الحديث: 2232، ومسلم رقم الحديث: 1704، وأبو داؤد رقم الحديث: 4469، والترمذی رقم الحديث: 1433، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 7260، وابن ماجه رقم الحديث: 2565، وابن الجارود رقم الحديث: 821، وابن حبان رقم الحديث: 4444، والطبرانی رقم الحديث: 5201-5207، والدارقطنی جلد 3 صفحہ 162، والبيهقی جلد 8 صفحہ 242-244 من طرق عن الزهري، به.

اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی ایک کی لونڈی زنا کرے تو اس کو کوڑے مارو اگر دوبارہ کرے تو اس کو کوڑے مارو اگر پھر دوبارہ کرے تو اس کو کوڑے مارو اور اگر چوتھی مرتبہ کرے تو اس کو فروخت کر دو اگرچہ بالوں کی رسی کے بدلے۔

حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے پھر ہم بازار آتے تھے اگر ہم کمان کے ساتھ تیر پھینکتے تو ہم اس کے گرنے کی جگہ معلوم کر لیتے تھے۔

حضرت عبد الملک بن علقمہ الثقفی رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبد الملک بن علقمہ ابی علقمہ الثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ثقیف کا وفد رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا انہوں نے آپ کو ہدیے دیئے تو آپ

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زَنَتْ أُمَّةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ

1432 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوْءَمَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَأْتِي السُّوقَ فَلَوْ رَمِينَا بِالنَّبْلِ رَأَيْنَا مَوَاقِعَهَا

230- عَبْدُ الْمَلِكِ

بْنُ عَلْقَمَةَ الثَّقَفِيُّ

1433 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَاطُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ هَانِئِ بْنِ عُرْوَةَ بْنِ قَعَاصٍ، عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ، عَنْ

1432- حدیث صحیح . وصالح مولى التوامة ثقة على الصحيح اختلط، وسماع ابن أبي ذنب منه قديم والحديث مكرر .

1433- اسنادہ ضعیف، لجهالة أبي حذيفة . وأخرجه ابن الأثير في أسد الغابة جلد 3 صفحہ 510 من طريق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 6 صفحہ 551، وفي المسند رقم الحديث: 612، والبخارى فى التاريخ جلد 5 صفحہ 250، والنسائى رقم الحديث: 3767، وابن قانع جلد 2 صفحہ 157، والمزى فى تهذيب الكمال جلد 18 صفحہ 400 من طرق عن اسماعيل بن عياش، عن يحيى بن هانئ، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد، عن عبد الرحمن بن علقمة، به .

نے فرمایا: کیا یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ بے شک صدقے سے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے اور ہدیہ کے ساتھ رسول کو رضا مطلوب ہوتی ہے۔ پس انہوں نے آپ سے سوال پوچھنے شروع کر دیئے یہاں تک کہ آپ نے ظہر کی نماز عصر کے وقت پر پڑھائی (یعنی عصر کا وقت قریب آ گیا تھا)۔

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ عُلْقَمَةَ أَبِي عُلْقَمَةَ الثَّقَفِيِّ، أَنَّ وَفَدَ ثَقِيفٍ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَوْا إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَقَالَ: أَصَدَقَةٌ أَمْ هَدِيَّةٌ؟ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ اللَّهِ وَإِنَّ الْهَدِيَّةَ يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ الرَّسُولِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ فَسَأَلُوهُ فَمَا زَالُوا يَسْأَلُونَهُ حَتَّى مَا صَلَّوْا الظُّهْرَ إِلَّا مَعَ الْعَصْرِ

حضرت عقبہ بن حارث

رضی اللہ عنہ کی حدیث

231- عُقْبَةُ

بْنُ الْحَارِثِ

حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں نے بنت ابی اہاب کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ پاک میں شادی کی، پس ایک حبشی عورت آئی،

1434 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ بِنْتَ

1434 - حدیث صحیح . أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 3603، وابن حبان رقم الحديث: 4216، والطبرانی

جلد 17 صفحہ 353 من طریق حماد بن زید، بہ، وعند أبي داؤد والطبرانی: عن ابن أبي مليكة، قال:

حدثني عقبه بن الحارث وحدثني صاحب لي عنه هو عبيد بن أبي مریم . وأنا لحديث صاحبی أحفظ .

وأخرجه الطبرانی جلد 17 صفحہ 353، والدارقطنی جلد 4 صفحہ 177 من طریقين عن أيوب، بہ .

وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 15436، والحميدي رقم الحديث: 579، وابن أبي شيبة جلد 4

صفحہ 196، وأحمد رقم الحديث: 19443، والدارمی رقم الحديث: 2260، والبخاری رقم الحديث:

2660، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 6026-6027، وابن حبان رقم الحديث: 4217-4218،

والطبرانی جلد 17 صفحہ 351-354، والبيهقي جلد 7 صفحہ 463 من طرق عن ابن أبي مليكة، عن

عقبه . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 13968، وأحمد رقم الحديث: 16193-19442، والبخاری

رقم الحديث: 5104، وأبو داؤد رقم الحديث: 3604، والترمذی رقم الحديث: 1151، والنسائی رقم

الحديث: 3330، وفي الكبرى رقم الحديث: 6028، والبيهقي جلد 7 صفحہ 463 من طرق عن ابن أبي

مليكة، قال: حدثني عبيد بن أبي مریم وقد سمعته من عقبه عن عقبه .

اس نے بتایا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے سو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، میں نے آپ سے یہ بات ذکر کی اور میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ جھوٹی عورت ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیسے (جھوٹ بولتی ہے) بے شک وہ کہا گیا، پھر دوبارہ میں نے عرض کی تو آپ نے دوبارہ وہی پہلے والی بات فرمائی، میں نے پھر تیسری مرتبہ آپ سے عرض کی تو آپ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو۔

أَبِي إِهَابٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ أُمَّةٌ سَوْدَاءُ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتَنَا جَمِيعًا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا كَاذِبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَكَيْفَ وَقَدْ قِيلَ ثُمَّ عَاوَدْتُهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عَاوَدْتُهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: دَعَهَا عَنْكَ

232- قَدَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عَمَّارِ الْكِلَابِيِّ

1435 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ قَدَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةِ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ

حضرت قدامہ بن عبد اللہ بن عمار

الكلابي رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت قدامہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یوم نحر کے دن حجرے کو کنکری مارتے ہوئے دیکھا، آپ اپنی اونٹنی صہباء پر تھے نہ مارا اور نہ پیچھے ہٹایا جا رہا تھا نہ ہٹو ہٹو کہا جا رہا تھا۔

1435- حدیث صحیح . وأیمن بن نابل ثقة علی الراجح . وأخرجه الشافعی فی الأم جلد 2 صفحہ 213، وابن

أبی شیبہ فی المسند رقم الحدیث: 578، وأحمد رقم الحدیث: 15452، والدارمی رقم الحدیث:

1907، والبخاری فی التاريخ جلد 7 صفحہ 178، والترمذی رقم الحدیث: 903، وابن ماجہ رقم

الحدیث: 3035، وابن أبی عاصم فی الآحاد والمثانی رقم الحدیث: 1499، والنسائی رقم الحدیث:

3061، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2878، وابن قانع جلد 2 صفحہ 358، والطبرانی جلد 19 صفحہ 38،

وابن عدی جلد 1 صفحہ 424-425، والحاکم جلد 1 صفحہ 446، والبيهقي جلد 5 صفحہ 130 من طرق

عن أيمن بن نابل، به . قال الترمذی: حدیث حسن صحیح .

233- طَحْفَةُ

حضرت طحفة الغفاری

الْغِفَارِيُّ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1436 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
حضرت حارث بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے

1436- اسنادہ مضطرب . أخرجه أحمد رقم الحديث: 23665 ' والبخارى فى التاريخ جلد 4 صفحہ 366 من طريق ابن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن قال: كنت مع أبى سلمة فأتانا ابن لعبد الله بن طهفة فقال أبو سلمة: ألا تخبرنا عن خبر أبىك قال: حدثنى أبى عبد الله بن طهفة . ورواه يحيى بن أبى كثير ، واختلف عليه فقيل: عنه ، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ، عن يعيش بن طخفة بن قيس ، عن أبىه . أخرجه أحمد رقم الحديث: 15583 ، وأبو داؤد رقم الحديث: 5040 ، والنسائى فى الكبرى رقم الحديث: 6622-6695 ، وابن قانع جلد 2 صفحہ 52 ، والطبرانى رقم الحديث: 8232 ، والبيهقى فى الآداب رقم الحديث: 977 . وقيل: عنه ، عن أبى سلمة ، عن يعيش بن قيس بن طخفة ، عن أبىه . أخرجه أحمد رقم الحديث: 23667 ، والنسائى فى الكبرى رقم الحديث: 6621 ، وابن ماجه رقم الحديث: 752 . وقيل: عنه ، عن أبى سلمة ، عن ابن طخفة ، عن أبىه . أخرجه البخارى فى الأدب المفرد رقم الحديث: 1187 . وقيل: عنه ، عن محمد بن ابراهيم ، عن عطية بن قيس ، عن أبىه . وهو وهم . أخرجه النسائى فى الكبرى رقم الحديث: 6619 . وقيل: عنه ، عن محمد بن ابراهيم ، عن ابن يعيش بن طغفة أو ابن طخفة عن أبىه . أخرجه النسائى فى الكبرى رقم الحديث: 6696 ، والحاكم جلد 4 صفحہ 271 . وقيل: عنه ، عن ابن لقيس بن طغفة أو ابن طخفة عن أبىه ، من غير ذكر لأبى سلمة ولا لمحمد بن ابراهيم بينهما . أخرجه النسائى فى الكبرى رقم الحديث: 6697 ، وابن حبان رقم الحديث: 5550 . وقيل عنه: عن قيس بن طهفة ، عن أبىه ، من غير ذكر لأحد بينه وبين قيس . أخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 3723 . وقد رواه آخرون ، فأخرجه أحمد رقم الحديث: 23663 ، والطبرانى رقم الحديث: 8226 من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة ، عن نعيم بن عبد الله ، عن أبى طخفة ، عن أبىه . وقيل فيه: عن أبى هريرة . ولا يصح وقيل فيه: عن أبى ذر ولا يصح كذلك . وانظر تاريخ البخارى جلد 4 صفحہ 366 ، وعلل ابن أبى حاتم رقم الحديث: 2305-2186 ، وتهذيب التهذيب جلد 5 صفحہ 10 . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 23664 ، وابن قانع جلد 2 صفحہ 51-52 .

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَخْفَةَ الْغِفَارِيُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو سَلَمَةَ: حَدَّثَنَا حَدِيثَ أَبِيكَ فَقَالَ: نَعَمْ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ الضَّيْفَانَ كَثُرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِيَدِ ضَيْفِهِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِيَدِ ضَيْفِهِ، فَاَنْطَلَقَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَحْلِهِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَعِنْدِكَ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ حَيْسَةٌ صَنَعْتُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهَاتِيهَا قَالَ: فَأَتَيْتُ بِهَا فَأَكَلْنَا حَتَّى مَا نَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ أَعِنْدِكَ شَرَابٌ تَسْقِينَا؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَبَنٌ يَسِيرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتْتَنَا بِهِ فَشَرِبْنَا حَتَّى مَا نَنْظُرُ إِلَيْهِ ثُمَّ نِمْنَا فَلَمَّا كَانَ الصُّبْحُ أَوْ لَمَّا أَصْبَحْنَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوقِظُنَا وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ قَالَ: فَأَتَى عَلِيٌّ وَأَنَا نَائِمٌ عَلَيَّ وَجْهِي فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذِهِ ضِجَّةٌ يَكْرَهُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن طحفة الغفاری کے پاس تھے کہ آپ کو حضرت ابوسلمہ نے کہا: ہم کو اپنے والد کے حوالہ سے حدیث بیان کریں، فرمایا: ہاں! فرمایا: مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس مہمان بہت زیادہ ہو گئے تو ایک آدمی نے ایک مہمان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ایک نے ایک اور مہمان کا ہاتھ پکڑ لیا تو رسول اللہ ﷺ ہم کو اپنے گھر لے کر چلے، پس فرمایا: اے عائشہ! کیا تیرے پاس کوئی شی ہے؟ انہوں (حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا) نے عرض کی: جی ہاں! حیسہ ہے جو میں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے بنایا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو لے آؤ! کہا کہ وہ لایا گیا، سو ہم نے کھایا یہاں تک کہ ہم نے کوئی شی نہ چھوڑی۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تیرے پاس پینے کے لیے کوئی شی ہے تو ہم کو پلاؤ؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! تھوڑا سا دودھ ہے اللہ کے رسول ﷺ کے لیے۔ سو ہمارے پاس لایا گیا ہم دونوں نے اس سے پیا یہاں تک کہ ہم نے کوئی شی نہیں چھوڑی، پھر ہم سو گئے جب صبح ہوئی یا ہم نے صبح کی تو رسول اللہ ﷺ ہم کو جگانے لگے اور آپ ایسے ہی کرتے تھے۔ کہا کہ آپ میرے پاس آئے ہیں، میں اپنے چہرے کے بل لیٹا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں ہوں! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس طرح لیٹنے کو اللہ عزوجل ناپسند فرماتا ہے۔

234- أَبُو شَرِيحٍ

حضرت ابو شریح

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابو شریح الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی قسم! وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی قسم! وہ ایمان والا نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔

1437 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شَرِيحٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: شَرُّهُ

235- لَقِيطُ

حضرت لقیط بن صبرہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

بْنُ صَبْرَةَ

حضرت عاصم بن لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ اپنے

1438 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1437- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 27206، والبخاری رقم الحديث: 6016، والطبرانی جلد 22 صفحہ 187، والبيهقي في الشعب رقم الحديث: 9534، من طرق عن ابن أبي ذنب، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16419، والبخاری رقم الحديث: 6016 تعليقا والحاكم جلد 1 صفحہ 10 من طرق عن ابن أبي ذنب، عن المقبري، عن أبي هريرة . وقيل لأبي حاتم: قال أحمد بن حنبل: جميعا صحيحين . قال: يحتمل أن يكون جميعا صحيحين . العلل رقم الحديث: 2203، وانظر العلل للدارقطني جلد 8 صفحہ 160-161، والفتح جلد 10 صفحہ 444 .

1438- حدیث صحیح . وفي اسناده هنا الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف، لكنه متابع . وأخرجه الشافعي في مسنده جلد 1 صفحہ 94، وعبد الرزاق رقم الحديث: 79-80، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 11-27، وأحمد رقم الحديث: 17879، والدارمي رقم الحديث: 711، والبخاری في الأدب المفرد رقم الحديث: 166، وأبو داؤد رقم الحديث: 142-144، والترمذي رقم الحديث: 38-788، والنسائي رقم الحديث: 87-114، وفي الكبرى رقم الحديث: 3047-6698، وابن ماجه رقم الحديث: 448، وابن

والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور میری قوم کا وفد میرے ساتھ تھا، سو میں نے آپ سے وضو کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: جب تو وضو کرے تو انگلیوں کا خلال کر اور ناک میں پانی ڈالنے میں خوب مبالغہ کر، اگر تو روزے دار نہ ہو اور اپنے چہرے پر پانی زور سے نہ مار جیسے کہ تو اپنی لونڈی کو مارتا ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَافِدًا قَوْمِي فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ وَبَالَغْ فِي الْأَسْتِنْشَاقِ مَا لَمْ تَكُنْ صَائِمًا وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَمَا تَضْرِبُ أُمَّتَكَ

حضرت سہل بن ابی حشمہ

236- سَهْلُ بْنُ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

أَبِي حَشْمَةَ

حضرت سہل بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ سے روایت

1439 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الجارود رقم الحديث: 80، وابن خزيمة رقم الحديث: 168، وابن قانع في معجم الصحابة جلد 3 صفحہ 9، وابن حبان رقم الحديث: 1054، والطبرانی جلد 19 صفحہ 216، والحاكم جلد 1 صفحہ 147-148، والبيهقي جلد 1 صفحہ 50-52-76، من طرق عن اسماعيل بن كثير المكي، به . وقال الترمذی: حسن صحيح . وصححه الحاكم .

1439- حديث صحيح . أخرجه الحميدى رقم الحديث: 401، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 279، وأحمد رقم الحديث: 16134، وأبو داؤد رقم الحديث: 695، والنسائي رقم الحديث: 747، وابن خزيمة رقم الحديث: 803، والطحاوى جلد 1 صفحہ 458، وفي المشكل رقم الحديث: 2613، وابن حبان رقم الحديث: 2373، والطبرانى رقم الحديث: 5624، والحاكم جلد 1 صفحہ 251-252، والبيهقي جلد 2 صفحہ 272 من طرق عن سفيان، به . وصححه الحاكم، وأقره الذهبي . قال البيهقي: قد أقام اسناده سفيان بن عيينة، وهو حافظ ثقة . ورواه داؤد بن قيس الفراء، عن نافع، واختلف عليه، فروى عنه موصولاً مرسلًا . انظر مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: 2303، وسنن البيهقي جلد 2 صفحہ 272، وشرح السنة للبخارى رقم الحديث: 537، وانظر أيضًا التاريخ للبخارى جلد 6 صفحہ 393، وفتح الباري لابن رجب جلد 4 صفحہ 27 . وقال أحمد كما في الفتح لابن رجب: صالح، ليس باسناد بأس . وقال

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَدْنُ مِنْ قِبَلَتِهِ لَا يَقْطَعِ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قبلہ کے قریب ہو تاکہ شیطان اس کی نماز کو نہ توڑے۔

حضرت کعب بن عاصم

رضی اللہ عنہ کی حدیث

237- کَعْبُ

بْنُ عَاصِمٍ

حضرت کعب بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

1440 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

العقيلي جلد 4 صفحہ 196: حدیث سهل هذا ثابت . وقال ابن عبد البر في التمهيد جلد 4 صفحہ 195: حدیث مختلف في اسناده، ولكنه حدیث حسن .

1440- حدیث صحیح . أخرجه الحميدي رقم الحديث: 864، وابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 14، وأحمد رقم الحديث: 23731، والدارمي رقم الحديث: 1718، وابن ماجه رقم الحديث: 1664، والنسائي رقم الحديث: 2254، والرويانى رقم الحديث: 1531، وابن خزيمة رقم الحديث: 2016، والطحاوى جلد 2 صفحہ 63، وابن قانع جلد 2 صفحہ 276، والطبرانى جلد 19 صفحہ 172، والحاكم جلد 1 صفحہ 433، والبيهقى جلد 4 صفحہ 242 من طرق عن سفيان، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 4469، وأحمد رقم الحديث: 23730، والدارمي رقم الحديث: 1717، والطحاوى جلد 2 صفحہ 63، وابن قانع جلد 2 صفحہ 277، والطبرانى جلد 19 صفحہ 171-175، وفي الأوسط رقم الحديث: 9193، والبيهقى جلد 4 صفحہ 242 من طرق عن الزهري، به .

238- ابْنُ بَحِينَةَ

حضرت ابن نحسینہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابن نحسینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ فجر کی دو رکعتیں ادا کر رہا تھا اس حالت میں کہ نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا صبح کی چار رکعتیں ہیں؟ کیا صبح کی چار رکعتیں ہیں؟

1441- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ بَحِينَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي رَكَعَتِي الْفَجْرِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّبْحُ أَرْبَعًا الصُّبْحُ أَرْبَعًا

239- حَنْظَلَةُ

حضرت حنظلہ اُسیدی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

الْأُسَيْدِيُّ

حضرت حنظلہ اُسیدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1442- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1441- حدیث صحیح أخرجه أبو عوالة جلد 2 صفحہ 34، والطحاوی جلد 1 صفحہ 372 من طریق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 11 صفحہ 253، وفي المسند رقم الحديث: 839، وأحمد رقم الحديث: 22971-22978، والدارمی رقم الحديث: 1457، والبخاری رقم الحديث: 663، والنسائی فی الكبرى كما فی التحفة جلد 6 صفحہ 477، وابن أبي عاصم فی الآحاد والمثالی رقم الحديث: 885، وأبو عوالة جلد 2 صفحہ 34، والطحاوی جلد 1 صفحہ 372، والبيهقی جلد 2 صفحہ 481 من طرق عن شعبة 'به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22976، والبخاری رقم الحديث: 663، ومسلم رقم الحديث: 65، والنسائی رقم الحديث: 866، وابن ماجه رقم الحديث: 1153، وابن أبي عاصم رقم الحديث: 884، وأبو عوالة جلد 2 صفحہ 34، والطحاوی جلد 1 صفحہ 372، والبيهقی جلد 2 صفحہ 481 من طرق عن سعد بن ابراهيم 'به ' نحوه . وقد وقع فی اسم ابن بحينة اختلاف ورواهم .

1442- حدیث صحیح . وفي اسناده هنا عمران القطان وهو صدوق وعنه قتادة . وأخرجه أحمد رقم

قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسِيدِيِّ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُمْ
 تَكُونُونَ كَمَا تَكُونُونَ عِنْدِي لَأَظَلَّتْكُمْ الْمَلَائِكَةُ
 بِأَجْنِحَتِهَا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر تم اسی حالت پر رہو جیسے تم
 میرے پاس ہوتے ہو تو فرشتے تم کو اپنے پروں سے
 ڈھانپ لیں۔

حضرت ابو واقد لیثی

240- أَبُو وَاقِدٍ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

اللَّثِيُّ

حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم

1443- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحدیث: 19068، والترمذی رقم الحدیث: 2452، وابن قانع جلد 1 صفحہ 202 من طریق المصنف .
 وقال الترمذی: حسن غریب من هذا الوجه . وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم
 الحدیث: 1202، والطبرانی رقم الحدیث: 3493 من طریق عمرو بن مرزوق، عن عمران القطان، به .
 وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17646-19067، ومسلم رقم الحدیث: 2750، والترمذی رقم الحدیث:
 2514، وابن ماجه رقم الحدیث: 4239، وابن أبي عاصم رقم الحدیث: 1201، وابن قانع جلد 1
 صفحہ 201-202، والطبرانی رقم الحدیث: 3491-3492، والبيهقي في الشعب رقم الحدیث: 1095
 من طرق عن أبي عثمان النهدي، عن حنظلة، وفيه قصة . وقال الترمذی: حسن صحيح . وأخرجه
 الطبرانی رقم الحدیث: 3490 من طریق آخر عن حنظلة .

1443- حدیث صحیح . أخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 3294 من طریق ابراهيم بن سعد، به . وأخرجه عبد
 الرزاق رقم الحدیث: 20763، والحمیدی رقم الحدیث: 848، وابن أبي شيبة جلد 15 صفحہ 101،
 وأحمد رقم الحدیث: 21950-21952، والترمذی رقم الحدیث: 2180، وابن أبي عاصم في السنة رقم
 الحدیث: 76، والنسائی في الكبرى رقم الحدیث: 11185، وأبو يعلى رقم الحدیث: 1441، وابن حبان
 رقم الحدیث: 6702، والطبرانی رقم الحدیث: 3290-3293، من طرق عن الزهري، به . وقال
 الترمذی: حسن صحيح . وله شاهد عن أبي سعيد عند البخاري رقم الحدیث: 3456، ومسلم رقم
 الحدیث: 2669 .

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے حنین میں اور ہم زمانہ کفر والی باتیں کر رہے تھے سو ہم ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس پر مشرکوں نے اپنا اسلحہ رکھا ہوا تھا، اس کو ذات النواط کہا جاتا تھا۔ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارے لیے بھی ذات النواط بنائیں جیسے ان کے لیے ذات النواط ہے، تو آپ نے فرمایا: اللہ اکبر! تم ایسے کہتے ہو جیسے اہل کتاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا: ہمارے لیے بھی ایسے خدا بناؤ جیسے ان کے لیے خدا ہے۔ (الاعراف: ۱۳۸) پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم عنقریب اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سِنَانِ بْنِ اَبِي سِنَانَ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ اَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُنَيْنٍ وَنَحْنُ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ فَمَرَرْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ يَضَعُ الْمُشْرِكُوْنَ عَلَيْهَا اَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ اَنْوَاطٍ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ اَنْوَاطٍ فَقَالَ: اللّٰهُ اَكْبَرُ قُلْتُمْ كَمَا قَالَ اَهْلُ الْكِتَابِ لِمُوْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ (اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اِلٰهَةٌ) (الاعراف: 138) ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّكُمْ سَتَرْكَبُوْنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

حضرت ابوعمیاش الزرقی رضی اللہ عنہ کی حدیث

241- أَبُو عِيَّاشٍ الزُّرَقِيُّ

حضرت ابوعمیاش الزرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1444 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1444- حدیث صحیح . وقد توبع ورفاء فی روايته عن منصور وأخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 5138 والبيهقي جلد 3 صفحہ 254 من طریق المصنف . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 4237، وابن أبي شيبه جلد 2 صفحہ 465، وفي المسند رقم الحدیث: 815، وأحمد رقم الحدیث: 16630-16632، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1236، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحدیث: 2179، والنسائي رقم الحدیث: 1548-1549، وابن الجارود رقم الحدیث: 232، والطبري في تفسيره جلد 5 صفحہ 257، والطحاوي جلد 1 صفحہ 318، وابن حبان رقم الحدیث: 2875-2876، والطبرانی رقم الحدیث: 5132-5133-5135-5137-5140، والدارقطني جلد 2 صفحہ 60، والحاكم جلد 1 صفحہ 337، والبيهقي جلد 3 صفحہ 257، والبغوي في شرح السنة رقم الحدیث: 1096 من طرق عن منصور، به . ورواه ابن جريج وعمر بن ذر وخلاف بن عبد الرحمن وغيرهم، عن مجاهد، مرسلًا . أخرجه

کہ ہم مقامِ عسفان میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے ظہر کی نماز کا وقت ہوا اور مشرکوں کے گھوڑوں پر خالد بن ولید تھے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھائی، مشرکین کہنے لگے: ان کو اس نماز کے بعد والی نماز زیادہ محبوب ہے اپنے بیٹوں اور اپنے اموال اور اپنی جانوں سے ان کی مراد عصر کی نماز تھی۔ سو حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ کے پاس ظہر اور عصر کے درمیان آئے آپ کو بتایا اور یہ آیت نازل ہوئی: ”وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ“ پوری آیت آخر تک سو نماز عصر کا وقت ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کی دو صفیں بنائیں اور وہ اسلحہ زیب تن کیے ہوئے تھے سو آپ نے تکبیر کہی اور دشمن نبی اکرم ﷺ کے سامنے تھے تو تمام صحابہ کرام نے بھی تکبیر کہی اور تمام نے اکٹھے رکوع بھی کیا پھر رسول اللہ ﷺ نے سجدہ کیا اور اس صف نے بھی سجدہ کیا جو آپ کے ساتھ تھی اور دوسری صف والے کھڑے رہے ان کی

قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَّاشٍ الزُّرْقِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ الظُّهْرِ وَعَلَى خَيْلِ الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّ لَهُمْ صَلَاةَ بَعْدَ هَذِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ يَعْشُرُونَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَأَخْبَرَهُ وَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) (النساء: 102) الْآيَةُ إِلَى آخِرِهَا فَحَضَرَتِ الْعَصْرُ فَصَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ صَفَيْنِ وَعَلَيْهِمُ السِّلَاحُ فَكَبَّرَ وَالْعَدُوُّ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عبد الرزاق رقم الحديث: 4236، وابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 463، والطبري في التفسير جلد 5 صفحہ 257. وقال الترمذی فی العلل الكبير صفحہ 98: سألت محمداً، وقلت: أى الروايات فى صلاة الخوف أصح؟ فقال: كل الروايات عندى صحيح، وكل يستعمل، وانما هو على قدر الخوف، الا حديث مجاهد، عن أبي عياش الزرقى، فانى أراه مرسلاً. قال البيهقي جلد 3 صفحہ 257: وهذا اسناد صحيح أى حديث أبي عياش وقد رواه قتبية بن سعيد، عن جرير، فذكر فيه سماع مجاهد من أبي عياش. وقد صرح بسماع مجاهد من أبي عياش داؤد بن عيسى عن منصور عند الطبراني، وكذا رواه بالسماح أبو خيثمة عن جرير. وانظر علل ابن أبي حاتم رقم الحديث: 272، وسنن الدارقطني جلد 2 صفحہ 60، وفتح الباري لابن رجب، جلد 8 صفحہ 344-347، والاصابة جلد 7 صفحہ 294.

حفاظت کے لیے۔ پس جب رسول اللہ ﷺ سجدے سے فارغ ہوئے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو دوسری صف والوں نے سجدہ کیا پھر یہ پہلی صف والوں کی جگہ چلے گئے اور وہ ان کی جگہ چلے گئے آپ نے ان کو دوسری رکعت پڑھائی، سو تمام لوگوں نے اکٹھے رکوع کیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے سجدہ کیا اور اس صف والوں نے سجدہ کیا جو آپ کے قریب تھے اور دوسرے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہے، پس جب یہ سجدہ سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سجدہ کیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے سلام پھیر دیا۔ حضرت ابوعمیاش فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ نماز دو مرتبہ پڑھائی، ایک مرتبہ مقام عسفان میں اور ایک مرتبہ بنی سلیم کے علاقے میں۔

وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخِرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَسَجَدَ الْآخِرُونَ ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافٍ هَؤُلَاءِ، وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافٍ هَؤُلَاءِ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخِرُونَ قِيَامًا يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا فَرَغُوا سَجَدَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو عَمِيَّاشٍ: فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِعُسْفَانَ وَمَرَّةً فِي أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ

حضرت ابوبصرہ الغفاری

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عمر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشام

242- أَبُو بَصْرَةَ

الْغِفَارِيُّ

1445 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1445- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، عبد الملك بن عمير تغير حفظه، و كان يدلس، وقد عنعنه، لكنه متابع. وعزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 985 الى المصنف. وأخرجه الطبراني رقم الحديث: 2160 من طريق أبي عوانة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 23899 من طريق شيبان، عن عبد الملك بن عمير، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 27273، والطبراني رقم الحديث: 2161 من طريق مرثد بن عبد الله اليزني، عن أبي بصرة. وأخرجه الفسوي في المعرفة جلد 2 صفحہ 294، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 1002، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 582، وابن قانع جلد 1 صفحہ 150، والطبراني رقم الحديث: 2159 من طرق عن أبي

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ أَبَا بَصْرَةَ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُوَ جَاءٍ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ قَالَ: أَقْبَلْتُ مِنَ الطُّورِ صَلَّى فِيهِ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ أَدْرَكْتُكَ لَمْ تَذْهَبَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

مخزومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبصرہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے اور وہ (حضرت ابوبصرہ) کہیں سے آئے تھے پس (حضرت ابوہریرہ نے) فرمایا: کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ طور سے آیا ہوں، میں نے اس جگہ نماز پڑھی۔ (حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: اگر میں تجھے پاتا تو تو نہ جاتا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ اپنی سواریاں تین مسجدوں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کے علاوہ (سفر) کے لیے تیار نہ کرو۔

243- أَبُو سَلَمَةَ

حضرت ابوسلمہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1446 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ

هريرة، عن أبي بصرة. وروى هذا الحديث عن أبي هريرة، عن بصرة بن أبي بصرة، وهو وهم. انظر الاستيعاب جلد 1 صفحہ 184، والتمهيد جلد 23 صفحہ 36، وأسد الغابة جلد 1 صفحہ 237. قال الحافظ في الاصابة ترجمة بصرة جلد 1 صفحہ 320: وقال ابن حبان: يقال: له صحبة. وانما عرض القول فيه للاختلاف في الحديث المروى عنه هل هو عنه أو عن أبيه؟ وله شاهد عن أبي سعيد عند البخاري رقم الحديث: 1864، ومسلم رقم الحديث: 827، وعن أبي هريرة عند مسلم رقم الحديث: 1397.

1446- حديث صحيح، واسناد المصنف ضعيف، سماع المصنف من المسعودي حال اختلاطه، وعون بن عبد الله، قيل: لم يسمع من أحد من الصحابة. وأخرجه الطبراني جلد 23 صفحہ 262 من طريق المصنف. وأخرجه ابن سعد جلد 8 صفحہ 89، وأحمد رقم الحديث: 26711، والترمذي رقم الحديث: 3511، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10909-10911، وابن ماجه رقم الحديث: 1598، والطبراني جلد 23 صفحہ 247 من طرق عن عمر بن أبي سلمة، عن أمه، به. وقال الترمذي:

اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جس بندہ کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ پڑھے: انا لله وانا اليه راجعون! اے اللہ! میں تجھ سے اپنی اس مصیبت پر ثواب چاہتا ہوں مجھے اس میں اجر دے مجھے اس کے بعد بہتری عطا کر! تو اللہ عزوجل ضرور اسے اس سے بہتر دے گا۔ (حضرت ام سلمہ) فرماتی ہیں: جب حضرت ابو سلمہ کا وصال ہو گیا تو میں نے عرض کی: اے اللہ! مجھے اس مصیبت پر صبر کی وجہ سے اجر دے میں چاہتی ہوں اس سے بہتر مجھے عطا کر! میں نے کہا کہ حضرت ابو سلمہ سے بہتر کہاں؟ پھر میں نے عرض کی: میں نے امید کی اپنی اس مصیبت پر اجر و ثواب کی اور مجھے اس کے بدلے رسول اللہ ﷺ دیئے گئے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ فَيَقُولُ: اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ اللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَاَجْرُنِي فِيهَا وَاَعْقِبْنِي مِنْهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَعْطَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ قَالَتْ: فَلَمَّا تَوَقَّيْتُ اَبُو سَلْمَةَ قُلْتُ: اللّٰهُمَّ اَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي وَاَرَدْتُ اَنْ اَقُولَ: وَاَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا، فَقُلْتُ: مَنْ خَيْرٌ مِنْ اَبِي سَلْمَةَ؟ ثُمَّ قُلْتُهَا فَاَرَجُو اَنْ يَكُونَ قَدْ اَجْرَنِي فِي مُصِيبَتِي وَاَعْقَبْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ

244- عَبْدُ الرَّحْمَنِ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

بْنُ سَمْرَةَ

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے

1447- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

غريب من هذا الوجه؛ وروى هذا الحديث من غير وجه عن أم سلمة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16388، والفسوى جلد 1 صفحہ 246 من طرق المطلب، عن أم سلمة، به . وقد أخرجه أحمد رقم الحديث: 26739، وأبو داؤد رقم الحديث: 3119، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10910، وابن حبان رقم الحديث: 2949، والطبراني جلد 23 صفحہ 250، والحاكم جلد 2 صفحہ 179، والبيهقي جلد 7 صفحہ 131 من طرق عن عمر بن أبي سلمة، عن أمه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدون ذكر أبي سلمة فيه . وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 236، وابن سعد جلد 8 صفحہ 89 .

1447- حدیث صحیح . وفي اسنادہ هنا خطأ، انما هو حدیث سمرة بن جندب، وأبو حرة واصل بن عبد

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُرَيْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ

ہیں کہ میں صرف نبی اکرم ﷺ کے حوالہ سے ہی جانتا ہوں کہ آپ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن وضو کیا، اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔

1448 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کام کے (نہ کرنے) پر قسم اٹھائی پھر اس کے علاوہ میں

الرحمن مضعف في روايته عن الحسن . وأخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 296 من طريق المصنف . وأخرجه العقبلي جلد 2 صفحہ 167 والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 7765، والبيهقي جلد 1 صفحہ 296 من غير شك من طرق عن أبي حُريرة . قال الحافظ في التلخيص الحبير جلد 2 صفحہ 67: ورواه أبو حُريرة، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمره، وهم في اسم صحابيه . وقال أيضًا: والصواب كما قال الدارقطني: عن قتادة، عن الحسن، عن سمره، وكذلك قال العقبلي . وقال في المطالب رقم الحديث: 679 وعزاه الى المصنف: المشهور عن الحسن في هذا: عن سمره بن جندب، لا عن عبد الرحمن بن سمره . وأما حديث سمره بن جندب، فأخرجه أحمد رقم الحديث: 20189-20272، والدارمي رقم الحديث: 1548، وأبو داؤد رقم الحديث: 354، والترمذي رقم الحديث: 497، والنسائي رقم الحديث: 1379، وابن خزيمة رقم الحديث: 1757، وغيرهم من طرق عن الحسن عن سمره بن جندب .

1448 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 20647، والدارمي رقم الحديث: 2351، والبخاري رقم الحديث: 7146، ومسلم رقم الحديث: 1652، والنسائي رقم الحديث: 3792 من طرق عن جرير ابن حازم، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20644-20646، والدارمي رقم الحديث: 2352، والبخاري رقم الحديث: 7147، ومسلم رقم الحديث: 1652، وأبو داؤد رقم الحديث: 2929، والترمذي رقم الحديث: 1529، والنسائي رقم الحديث: 3800 من طرق عن الحسن، به . قال أبو داؤد: أحاديث أبي موسى، وعدى بن حاتم، وأبي هريرة في هذا الحديث، روى عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحث .

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا
خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكْفِرْ عَنْ
يَمِينِهِ

بہتری دیکھی تو وہ وہ کام کرے جو بہتر ہے پھر اپنی قسم کا
کفارہ دے دے۔

حضرت یسار الانصاری

245- يَسَارٌ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

الْأَنْصَارِيُّ

حضرت سلیط بن عبداللہ بن یسار رضی اللہ عنہ

1449 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے رسول اللہ ﷺ کی
بیعت کی تھی۔

قَالَ: حَدَّثَنَا جِسْرُ بْنُ فَرْقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيطُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: بَايَعَ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عبادہ بن قرط

246- عُبَادَةُ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

بْنُ قُرْطٍ

حضرت عبادہ بن قرص رضی اللہ عنہ سے روایت

1450 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1449 - اسنادہ ضعیف، لضعف جسر بن فرقد، و جهالة سلیط . والحديث عزاه الحافظ في الاصابة جلد 6

صفحہ 682، وفي المطالب رقم الحديث: 4488، والبوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم

الحديث: 6162 الى المصنف . وقال البوصيري عن البخاري: هذا اسناد مجهول .

1450 - اسنادہ صحیح . أخرجه البيهقي في الشعب رقم الحديث: 7260 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد

رقم الحديث: 20770-20771، والحارث في مسنده (1079-بغية) وابن قانع جلد 2 صفحہ 192 من

طريق سليمان بن المغيرة ' به . وأخرجه البيهقي في الشعب رقم الحديث: 7259 من طريق قره ' به .

وأخرجه أحمد رقم الحديث: 20769، والدارمي رقم الحديث: 2771 من طريق اسماعيل وحماد بن

زيد، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن عبادة بن قرط بدون ذكر أبي قتادة . قال الحافظ في الاصابة،

جلد 3 صفحہ 628 بعد أن أورد طريق أيوب عند أحمد: وأدخل أحمد في مسنده والحارث والطيالسي

وغيرهم بين حميد وعبادة رجلاً، وهو أبو قتادة العدوي . وقد أدخل الحاكم جلد 4 صفحہ 261-262

ہے اور سلیمان نے کہا: ابن قرط اور انہیں شرف صحابیت حاصل ہے انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! جو کام تم کرتے ہو وہ تمہاری آنکھوں کے بال سے کم حیثیت رکھتے ہیں، ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ان کاموں کو ہلاک کرنے والا شمار کرتے تھے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ قُرَيْصٍ - وَقَالَ سُلَيْمَانُ: ابْنِ قُرَيْطٍ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوبِقَاتِ

حضرت ابو محذورہ سمرہ بن معیر

247- أَبُو مَحْذُورَةَ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

سَمْرَةَ بْنِ مَعِيْرٍ

حضرت ابن ابو محذورہ اپنے والد سے روایت

1451- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

بین حمید وعبادة رجلین، هما عبد الله بن الصامت، عن أبي قتادة . ویروی بهذا اللفظ من حدیث انس

عند البخاری رقم الحدیث: 6492 .

1451- حدیث صحیح . وقد خولف المصنف فی اسناده . فأخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 203، وأحمد رقم الحدیث: 27293، والدارمی رقم الحدیث: 1199-1200، وأبو داؤد رقم الحدیث: 502، والترمذی رقم الحدیث: 192، والنسائی رقم الحدیث: 629، وابن ماجه رقم الحدیث: 709، وابن أبي عاصم فی الآحاد والمثنائی رقم الحدیث: 792، وابن الجارود رقم الحدیث: 162، وابن خزيمة رقم الحدیث: 377، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 330، والطحاوی جلد 1 صفحہ 130-135، وابن حبان رقم الحدیث: 1681، والطبرانی رقم الحدیث: 6728، والبيهقی جلد 1 صفحہ 416 من طرق عن همام، عن عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة . وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 379، والنسائی رقم الحدیث: 630، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 330، والطبرانی رقم الحدیث: 6730، وفي الأوسط رقم الحدیث: 1660-3091، والدارقطنی جلد 1 صفحہ 227، والبيهقی جلد 1 صفحہ 416 من طرق عن عامر الأحول، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة . وفي كثير من هذه الروايات ذكر الفاظ الأذان والاقامة تفصيلاً، ورواية هشام الدستوائي عن عامر الأحول عند مسلم وغيره أثبت الروايات . والله أعلم . وأخرجه أبو داؤد رقم الحدیث: 505 عن عبد الملك بن أبي محذورة، عن

کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اذان کے سترہ کلمات سکھائے تھے۔ ابو بشر نے فرمایا کہ انہوں نے مکحول سے انہوں نے ابن محیریز سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی۔

قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا قَالَ أَبُو بَشِيرٍ: وَذَكَرُوا أَنَّهُ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ

حضرت ابواسید الساعدی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

248- أَبُو أُسَيْدٍ

السَّاعِدِيُّ

حضرت ابواسید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت

1452 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

ابن محیریز، عن أبي محذورة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15417، وأبو داؤد رقم الحديث: 503، وابن ماجه رقم الحديث: 708، والنسائي رقم الحديث: 631، وابن خزيمة رقم الحديث: 379 من طريق عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن ابن محيريز، عن أبي محذورة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15416، والبخاري في خلق أفعال العباد رقم الحديث: 139، وأبو داؤد رقم الحديث: 504، من طريق عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة . وأخرجه الترمذی رقم الحديث: 191، والنسائي رقم الحديث: 628، وابن خزيمة رقم الحديث: 378، من طريق عبد العزيز بن عبد الملك وأبيه، عن أبي محذورة .

1452- حديث صحيح . أخرجه مسلم رقم الحديث: 2511 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 16092، والبخاري رقم الحديث: 3807، ومسلم رقم الحديث: 2511، والترمذی رقم الحديث: 3911، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8339، والطبرانی جلد 19 صفحہ 261 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16094-16095، والبخاري رقم الحديث: 3790-6053، ومسلم رقم الحديث: 2511، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8340، والطبرانی جلد 19 صفحہ 266 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16095، والبخاري رقم الحديث: 6053، ومسلم رقم الحديث: 2511، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8340، والطبرانی جلد 19

ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: انصار کے گھروں سے بنو نجار کا گھر بہتر ہے، پھر بنو عبد الاشہل کا، پھر بنو حارث بن خزرج کا اور بنو ساعدہ کا اور انصار کے ہر گھر میں بھلائی ہے۔ کہتے ہیں کہ عرض کی گئی: ہم پر بھی فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا: بلاشبہ تمہیں بہت زیادہ فضیلت دی گئی ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهَلِ ثُمَّ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ وَبَنُو سَاعِدَةَ وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ قَالَ: فَقِيلَ: فَضْلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ

حضرت عتاب بن اُسید

رضی اللہ عنہ کی حدیث

249- عَتَابُ

بْنُ أُسَيْدٍ

حضرت عتاب بن اُسید رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کام کی وجہ سے صرف دو گھر لگائی گئی چادروں کو حاصل کیا، جس کام کو کرنے کی

1453 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ عَتَابِ

صفحة 266 من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن و ابراهيم بن محمد بن طلحة ' عن أبي أسيد الساعدي . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 1197، وأحمد رقم الحديث: 13116-12044-392، والبخاري رقم الحديث: 5300، ومسلم رقم الحديث: 2511، والترمذي رقم الحديث: 3910، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8336 من طريق يحيى بن سعيد وحميد ' عن أنس ' عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

1453 - اسنادہ حسن . عزاء ابن كثير في جامع المسانيد جلد 8 صفحہ 536، والحافظ في الاصابة جلد 4 صفحہ 429، والبوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 3144 الى المصنف . وأخرجه البخاري في تاريخه جلد 7 صفحہ 54 تعليقا والطبراني جلد 17 صفحہ 161، وأبو نعيم في الحلية جلد 9 صفحہ 21 من طريق خالد بن أبي عثمان، به . وقال الحافظ: اسنادہ حسن . وانظر التاريخ للبخاري جلد 6 صفحہ 356، وتهذيب الكمال جلد 19 صفحہ 282، وتهذيب التهذيب جلد 7 صفحہ 89 .

بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: مَا أَصَبْتُ فِي عَمَلِي الَّذِي
اسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا بُرْدَيْنِ مُعَقَّدَيْنِ كَسَوْتُهُمَا مَوْلَايَ كَيْسَانَ

ذمہ داری نبی اکرم ﷺ نے مجھے دی تھی اور وہ دو
چادریں بھی میں نے اپنے غلام کیسان کو پہنا دیں۔

250- وَائِلَةُ

حضرت واثلہ بن الاسقع

رضی اللہ عنہ کی حدیث

بْنُ الْأَسْقَعِ

1454 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعْدِ
الشَّامِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ وَائِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ وَكَانَتْ لَهُ
صُحْبَةٌ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ
فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ عَرَكَهَا بِالْأَرْضِ
فَلَمَّا صَلَّى قُلْتُ: اتَّصَعُ هَذَا وَأَنْتَ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَكَذَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّ

حضرت ابوسعید الشامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کو جامع
مسجد دمشق میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے دو
نعل (جوتے) پہنے ہوئے تھے سو انہوں نے اپنے
بائیں قدم کے نیچے تھوکا، پھر اس کو زمین پر رگڑ دیا، پس
جب انہوں نے نماز پڑھ لی میں نے عرض کی: آپ نے
یہ کیا؟ حالانکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں، آپ
نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسے ہی کرتے
ہوئے دیکھا ہے۔

251- عُمَرُ بْنُ

حضرت عمر بن ابی سلمہ

أَبِي سَلَمَةَ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1455 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1454- اسنادہ ضعیف، لضعف الفرّج بن فضالة، وجهالة أبي سعد . وهو مکرر 1106 .

1455- حدیث صحیح . وقد اختلف فی اسنادہ، فأخرجه أحمد رقم الحدیث: 16384، وابنہ فی زوائدہ رقم

الحدیث: 16383، وأبو داؤد رقم الحدیث: 3777، وابن حبان رقم الحدیث: 5211-5215، والطبرانی

رقم الحدیث: 8300 من طرق عن سليمان بن بلال، عن أبي وجزة، به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث:

16374، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 10107-10108، والطبرانی رقم الحدیث: 8301 من

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَجْزَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِّ اللَّهَ - يَعْنِي عَلَى الطَّعَامِ - وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور دائیں جانب سے اور اپنی طرف سے کھاؤ۔

حضرت حکیم بن حزام

252- حَكِيمٌ

رضی اللہ عنہ کی احادیث

بْنُ حِزَامٍ

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1456 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ

طرق عن هشام، عن أبي وجزة، عن رجل من مزينة، عن عمر بن أبي سلمة. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 16377، والترمذي رقم الحديث: 1857، وفي العليل الكبير صفحہ 307، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10104-10106، وابن ماجه رقم الحديث: 3265، وابن قانع جلد 2 صفحہ 225، والطبراني رقم الحديث: 8299، والبيهقي في الشعب رقم الحديث: 5834، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة. وقال النسائي عن حديث هشام، عن أبي وجزة، عن رجل، عن عمر: هذا الصواب عندنا. انظر التحفة جلد 8 صفحہ 132. ومال الى هذا ابن المديني والبيهقي. انظر الشعب رقم الحديث: 5834. وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 570، وابن أبي شيبة في المسند رقم الحديث: 810، وأحمد رقم الحديث: 16375، والدارمي رقم الحديث: 2025-2051، والبخاري رقم الحديث: 5377، ومسلم رقم الحديث: 2022، والترمذي في العليل الكبير صفحہ 307، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10109، وابن ماجه رقم الحديث: 3267، والطبراني رقم الحديث: 8299، والبيهقي جلد 7 صفحہ 277، وفي الشعب رقم الحديث: 5843، وفي الآداب رقم الحديث: 629، والبغوي رقم الحديث: 2823، من طريق وهب بن كيسان، عن عمر. قال البخاري كما في العليل الكبير للترمذي: كان حديث أبي وجزة أصح. وانظر التحفة جلد 8 صفحہ 131، والفتح جلد 9 صفحہ 524.

1456- اسنادہ منقطع، يوسف بن ماهك لم يسمع من حكيم بن حزام، بينهما عبد الله بن عصمة، وهو مجهول. وانظر الحديث رقم الحديث: 1415. وأخرجه البيهقي جلد 5 صفحہ 267 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15347-15350، وابن ماجه رقم الحديث: 2187، والطبراني

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ایک آدمی مجھ سے بیع کرنا چاہتا ہے حالانکہ میرے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیا میں اس کے لیے فروخت کروں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو چیز تیرے پاس نہیں ہے اس کو نہ فروخت کر۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ إِيَّاسَ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَطْلُبُ مِنِّي الْبَيْعَ وَكَيْسَ عِنْدِي أَفَابْتَاغُهُ لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

1457 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ أَبِي بَشْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ مَاهَكَ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُخْرَأَ إِلَّا وَأَنَا قَائِمٌ

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کی بیعت کی، یہ کہ میں (جنگ سے) پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور کھڑا ہی رہوں گا۔

رقم الحدیث: 3097 من طرق عن شعبة 'به' وعند أحمد زيادة متن الحديث الآتي . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 15346-15611، وأبو داؤد رقم الحدیث: 3503، والترمذی رقم الحدیث: 1232، والنسائی رقم الحدیث: 4627، وفي الكبرى رقم الحدیث: 6206، وابن ماجه رقم الحدیث: 2187، والطبرانی رقم الحدیث: 3098-3099، والبيهقي جلد 5 صفحہ 317 من طرق عن أبي بشر جعفر بن إياس 'به' . وأخرجه الشافعي في الرسالة صفحہ 336-337، وفي مسنده جلد 2 صفحہ 295، وأحمد رقم الحدیث: 15348، والترمذی رقم الحدیث: 1233-1235، والنسائی في الكبرى كما في التحفة جلد 3 صفحہ 79، والطبرانی رقم الحدیث: 3100-3105، وفي الأوسط رقم الحدیث: 581، وفي الصغير جلد 2 صفحہ 4، والبيهقي جلد 5 صفحہ 339-267، من طريق حماد بن زيد وابن سيرين وغيرهما عن أيوب عن يوسف به . وقال الترمذی: حدیث حسن .

1457- اسنادہ منقطع، کسابقہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 15347، والنسائی رقم الحدیث: 1083، والطبرانی رقم الحدیث: 3106، وابن عساکر في تاريخه جلد 15 صفحہ 107 من طرق عن شعبة 'به' . وعند أحمد وابن عساکر هذا الحدیث والذي قبله حدیث واحد . وأخرجه الطحاوی في المشكل رقم الحدیث: 204 من طريق ابن أبي عروبة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية 'به' .

253- کُدَيْرٌ

الضَّبِّيُّ

حضرت کدیرالضبی
رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت ابواسحاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کدیرالضبی رضی اللہ عنہ سے سنا، ابواسحاق نے فرمایا کہ میں نے ان (حضرت کدیرالضبی رضی اللہ عنہ) سے اس وقت سنا جب ان کی عمر پچاس سال تھی۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق سے سنا اس وقت کہ ان کی عمر چالیس سال یا اس سے زیادہ تھی۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبہ سے سنا کہ اس وقت جب ان کی عمر پچاس سال یا ساٹھ یا چالیس تھی۔ ابوبشر فرماتے ہیں کہ میں نے ابوداؤد سے سنا اس وقت ان کی عمر پچاس سال تھی۔ ابومحمد فرماتے ہیں کہ میں نے یونس سے سنا، اس وقت ان کی عمر ستر سال تھی۔ الشیخ ابو نعیم فرماتے ہیں: میں نے ان سے سنا

1458 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ كُدَيْرًا الضَّبِّيَّ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً قَالَ شُعْبَةُ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ شُعْبَةَ مِنْ خَمْسٍ أَوْ سِتِّ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ أَبُو بَشِيرٍ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ أَبِي دَاوُدَ مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ يُونُسَ مُنْذُ سَبْعِينَ سَنَةً قَالَ الشَّيْخُ أَبُو نَعِيمٍ: سَمِعْتُهُ مُنْذُ سِتِّ وَسَبْعِينَ سَنَةً قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ

1458- اسنادہ ضعیف، لارسالہ، کدیر تابعی کیما سبق. وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني رقم الحديث: 2729، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 4 صفحہ 346، والبیہقی جلد 10 صفحہ 158، وابن الأثیر فی أسد الغابة جلد 4 صفحہ 463 من طریق المصنف. وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 19691، وابن أبي عاصم رقم الحديث: 2730، وابن خزيمة رقم الحديث: 2503، والطبرانی جلد 19 صفحہ 187، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 4 صفحہ 346، والبیہقی جلد 4 صفحہ 186، والخطیب جلد 13 صفحہ 426 من طرق عن أبي إسحاق به. ورواه زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق، به، وفيه: أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه ابن قانع في معجمه جلد 2 صفحہ 384 عن البغوي، عن جده، عن الحسن الأشيب، عن زهير، به. وقال: كذا قال ابن منيع: عن كدير أنه أتى. ولم ير كدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو: عن رجل، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

قَالَ: قُلِ الْعَدْلَ وَأَعْطِ الْفَضْلَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ أُطِقْ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَاطْعِمِ الطَّعَامَ وَأَفْسِ السَّلَامَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ أُطِقْ ذَلِكَ أَوْ لَمْ أَسْتَطِعْ؟ قَالَ: فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ قَالَ: قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَانظُرْ بَعِيرًا مِنْ إِبِلِكَ وَسِقَاءً وَانظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ لَا يَشْرَبُونَ الْمَاءَ إِلَّا غَبًّا فَاسْقِهِمْ فَإِنَّكَ لَعَلَّكَ أَنْ لَا يَنْفُقَ بَعِيرُكَ وَلَا يَنْخَرِقَ سِقَاؤُكَ حَتَّى تَجِبَ لَكَ الْجَنَّةُ

اس وقت جبکہ ان کی عمر چھتر سال تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے ایسے عمل کے متعلق بتائیں جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں! آپ نے فرمایا: میانہ روی اختیار کر اور زائد مال (اللہ کی راہ میں) دے دو۔ عرض کی: اگر میں اس کی طاقت نہ رکھوں؟ فرمایا: تو کھانا کھلا اور سلام عام کر۔ انہوں نے عرض کی: اگر میں اس کی طاقت نہ رکھوں؟ آپ نے فرمایا: کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ عرض کی: جی ہاں! فرمایا: اپنے اونٹوں میں ایک اونٹ اور ایک مشکیزہ دیکھ اور اپنے اہل خانہ کو دیکھ جو دوری کی وجہ سے پانی نہ پیتے ہوں، سوان کو پانی پلا، امید ہے کہ تیرا اونٹ ختم نہیں ہوگا اور نہ تیرا مشکیزہ پھٹے گا مگر تیرے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔

254- عَمُّ خَارِجَةَ

بْنِ الصَّلْتِ

حضرت خارجہ بن صلت رضی

اللہ عنہ کے چچا کی حدیث

حضرت خارجہ بن صلت رضی اللہ عنہ اپنے چچا سے

1459 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1459- حدیث صحیح۔ أخرجه أحمد رقم الحديث: 21884، وأبو داؤد رقم الحديث: 3897، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10871، وعنه ابن السني في عمل اليوم والليله رقم الحديث: 630 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 7 صفحہ 411، وفي المسند رقم الحديث: 631-632، وأحمد رقم الحديث: 21884، وأبو داؤد رقم الحديث: 3896، والطحاوي جلد 4 صفحہ 126، وابن حبان رقم الحديث: 6111، والطبراني جلد 17 صفحہ 190، والحاكم جلد 1 صفحہ 559-560، والبيهقي في الدلائل جلد 7 صفحہ 91-92 من طرق عن زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، به. وله شاهد عن أبي سعيد عند البخاري رقم الحديث: 2276، ومسلم رقم الحديث: 2201.

روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس سے آئے وہ عرب کے ایک قبیلہ کے پاس سے گزرے انہوں نے کہا: کیا آپ اس نبی ﷺ کے پاس سے آئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں! انہوں نے کہا: تمہارے پاس کوئی دم ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! پس وہ ایک آدمی لے کر آئے اس آدمی پر ان میں سے کسی نے سورہ فاتحہ تین دن و رات تک پڑھی سو انہوں نے ان کو کوئی شی دینے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا: ہم نہیں لیں گے یہاں تک کہ ہم نبی اکرم ﷺ سے پوچھ لیں۔ پس ایک آدمی نے آپ سے پوچھا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کھاؤ! کیونکہ کوئی ناجائز دم کر کے بھی کھاتا ہے بلاشبہ تم تو جائز دم کر کے کھا رہے ہو۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بِنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُمْ جَاءُوا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَقَالُوا: جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَفِيكُمْ رَاقٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَاتِي بِرَجُلٍ مُقَيَّدٍ فَقَرَأَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُمَّ الْقُرْآنِ ثَلَاثًا بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ فَأَمَرُوا لَهُمْ بِشَيْءٍ فَقَالُوا: لَا حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ فَلَعَمْرِي لِمَنْ أَكَلَ بِرُقِيَّةٍ بَاطِلٍ لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقِيَّةٍ حَقٍّ

حضرت عمرو بن سلمہ الجرمی

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عمرو بن سلمہ الجرمی فرماتے ہیں کہ ان کے

255- عَمْرُو بْنُ

سَلِمَةَ الْجَرْمِيِّ

1460 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1460- حدیث صحیح، واسناد المصنف مرسل۔ أخرجه الطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 3962 من طریق المصنف۔ وقد اختلف علی مسعر فی هذا الحدیث، فأخرجه ابن سعد جلد 1 صفحہ 336 وأحمد رقم الحدیث: 20705، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 3964 من طریق یزید بن ہارون وعبد الواحد بن واصل، عن مسعر، به، 'مرسلًا'، کروایة المصنف۔ وأخرجه ابن سعد جلد 7 صفحہ 89، وابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 344، وأحمد رقم الحدیث: 20347، وأبو داؤد رقم الحدیث: 587، وابن ابی عاصم فی الآحاد والمثانی رقم الحدیث: 2596 من طریق وکید ویوسف، عن مسعر، عن عمرو، عن أبیه۔ وقد رواه أبو قلابہ وغیره عن عمرو۔ أخرجه ابن سعد جلد 1 صفحہ 337، وأحمد رقم الحدیث: 20706 من طریق خالد الحذاء، عن أبی قلابہ، عن عمرو، قال: كانوا یأتونا الرکبان من قبل

قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ حَبِيبِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ، وَنَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ
اتَّوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، مَنْ يُصَلِّي لَنَا - أَوْ مَنْ يُصَلِّي بِنَا؟
فَقَالَ: يُصَلِّي لَكُمْ - أَوْ يُصَلِّي بِكُمْ - أَكْثَرُكُمْ
أَخَذًا لِلْقُرْآنِ - أَوْ أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ
قَالَ: فَقَدِمُوا فَمَا وَجَدُوا أَحَدًا مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا
مَعِيَ فَقَدَّمُونِي فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَأَنَا غُلَامٌ عَلَى شِمْلَةٍ
لِي قَالَ مِسْعَرٌ: فَأَنَا أَدْرَكْتُهُ يُصَلِّي بِهِمْ وَيُصَلِّي
عَلَى جَنَائِزِهِمْ لَا يَنَازِعُهُ أَحَدٌ حَتَّى مَضَى

والد اور ان کی قوم سے ایک گروہ نبی اکرم ﷺ کا
پاس آئے انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم کو نماز
کون پڑھائے گا؟ یا ہم کس کے ساتھ نماز پڑھیں گے؟
آپ نے فرمایا: تم کو وہ نماز پڑھائے یا تم اس کے پیچھے
پڑھو جو قرآن کا سب سے زیادہ قاری ہو یا جسے تم میں
سے زیادہ قرآن یاد ہو۔ کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے اور
انہیں میرے سوا زیادہ قرآن یاد رکھنے والا نہ ملا (اس
وقت سب سے زیادہ قرآن پاک مجھے یاد تھا) پس مجھے
آگے کیا گیا سو میں نے ان کو نماز پڑھائی حالانکہ میں
بچہ تھا مجھ پر ایک چادر تھی۔ حضرت مسعر فرماتے ہیں:
میں نے انہیں نماز پڑھاتے پایا اور انہیں لوگوں کی نماز
جنازہ پڑھاتے ہوئے دیکھا کوئی بھی ان سے اس
معاملہ میں جھگڑتا نہیں تھا حتیٰ کہ وہ چل بے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم . وأخرجه البخاری رقم الحدیث: 4302، والنسائی رقم
الحدیث: 635، والدارقطنی جلد 2 صفحہ 42، والحاکم جلد 3 صفحہ 47 من طریق حماد بن زید، عن
أيوب، عن أبي قلابة، عن عمرو، عن أبيه، ثم سمعه أيوب من عمرو . وأخرجه ابن سعد جلد 1
صفحہ 336-337، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 343، وأحمد رقم الحدیث: 20704، وأبو داؤد رقم
الحدیث: 585، وابن الجارود رقم الحدیث: 309، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1512، والطحاوی فی
المشکل رقم الحدیث: 3963 من طرق، عن أيوب، عن عمرو، به، مثله . وأخرجه ابن سعد جلد 1
صفحہ 337، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 343، وأبو داؤد رقم الحدیث: 586، والنسائی رقم
الحدیث: 766، وابن أبي عاصم فی الآحاد والمثانی رقم الحدیث: 2599، والطحاوی فی المشکل رقم
الحدیث: 3964 من طریق عاصم الأحول، عن عمرو قال: لما رجعت قومی من عند النبي صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم قالوا..... فذكر نحوه .

256- عَمْرُو بْنُ

أُمِّيَةَ الضَّمْرِيِّ

حضرت عمرو بن امیہ الضمیری

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1461 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أُمِّيَةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى عَمْرٍو بْنِ أُمِّيَةَ الضَّمْرِيِّ وَهُوَ يَسُومُ بِمِرْطٍ فِي السُّوقِ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُ يَا عَمْرُو؟ قَالَ: أَشْتَرِي هَذَا فَاتَّصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ: فَأَنْتَ إِذَا، قَالَ: ثُمَّ مَضَى ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: يَا عَمْرُو مَا صَنَعَ الْمِرْطُ؟ قَالَ: أَشْتَرَيْتُهُ فَتَّصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ: عَلَى مَنْ؟ قَالَ: عَلَى الرَّقِيقَةِ؟ قَالَ: وَمَنْ رَقِيقَةٌ؟ قَالَ: أُمْرَاتِي، قَالَ: وَتَّصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى أُمْرَاتِكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ فَقَالَ: يَا عَمْرُو لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّهِ لَا أَفَارِقُكَ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن امیہ الضمیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عمرو بن امیہ الضمیری کے پاس آئے اور یہ بازار میں چادریں فروخت کر رہے تھے۔ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: اے عمرو! تو کیا کرتا ہے؟ (حضرت عمرو نے) عرض کی: میں اس سے کوئی شی خریدتا ہوں اور اس کے بعد صدقہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: اس وقت تو؟ کہا کہ پھر حضرت عمر چلے گئے پھر واپس لوٹے، فرمایا: اے عمرو! تو نے چادر سے کیا کیا؟ عرض کی: میں نے اس کو فروخت کیا اور میں نے اس کو صدقہ کر دیا، فرمایا: کس پر؟ عرض کی: اپنی لونڈی پر، فرمایا: کون سی لونڈی؟ عرض کی: میری بیوی، فرمایا: تو نے اپنی بیوی پر صدقہ کیا ہے؟ عرض کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ

1461- اسنادہ ضعیف، لضعف محمد بن ابی حمید۔ وأخرجه البزار (1507- كشف) والبيهقي

جلد 4 صفحہ 178، وفي الشعب رقم الحديث: 17654 من طريق المصنف . وعند البزار زيادة .

وأخرجه أحمد رقم الحديث: 17654، والبيهقي جلد 4 صفحہ 178 من طريقين عن محمد بن ابی

حميد، به . ورواه حاتم بن اسماعيل، واختلف عليه، فأخرجه البخاري في التاريخ جلد 3 صفحہ 434

عن زكريا بن عدی، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 9184 عن القعنبی كلاهما عن حاتم بن

اسماعيل، عن يعقوب بن عمرو، عن الزبرقان بن عبد الله بن عمرو بن أمية، عن أبيه، عن عمرو،

مختصرًا .

حَتَّى تَأْتِيَ عَائِشَةَ فَتَسْأَلَهَا، قَالَ: فَأَنْطَلَقَا حَتَّى
دَخَلَا عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا عَمْرُو: يَا أُمَّتَاهُ هَذَا
عَمْرُ يَقُولُ لِي: لَا تَكْذِبْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ أَسْمِعْتِ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ؟ قَالَتْ: اللَّهُمَّ نَعَمْ،
اللَّهُمَّ نَعَمْ

کو فرماتے سنا ہے: اللہ کی قسم! تم جو شی اپنی بیوی کو دو وہ
تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا: اے
عمر! رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ نہ بولو! کہا کہ اللہ کی قسم!
میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤں آپ سے پوچھوں۔
پس کہا: وہ دونوں چلے یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا کے پاس آئے، حضرت عمرو نے آپ سے عرض
کی: اے امی جان! یہ حضرت عمر ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ تم
رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ نہ باندھو، ہم آپ کو اللہ کی
قسم دیتے ہیں! کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے
سنا ہے کہ جو تم ان (عورتوں) کو کوئی شی دو وہ تمہارے
لیے صدقہ ہوگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:
اللہ کی قسم! ہاں (یعنی میں نے سنا ہے)۔

257- عُثْمَانُ

بْنُ طَلْحَةَ

حضرت عثمان بن طلحہ

رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔

1462 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

1462- حدیث صحیح . وفی اسنادہ ہنا ارسال . وأخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 328 من طريق المصنف

وقال: تفرد به حماد بن سلمة، وفيه ارسال بين عروة وعثمان . وأخرجه ابن أبي شيبة في المسند رقم

الحدیث: 716، وأحمد رقم الحدیث: 15424، وابن أبي عاصم في الأحاد والمثنائی رقم الحدیث: 612،

والطبرانی رقم الحدیث: 8398 من طرق عن حماد بن سلمة، به، وفي آخره زيادة عند ابن أبي شيبة

وأحمد .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ
258- الْمُطَّلِبُ

حضرت مطلب رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت مطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز دو دور کعتیں ہیں، ہر دور کعتوں میں التحیات ہے اور فقیر اور مسکین والی حالت بنا کر دعا مانگنا اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو سمیٹا اور دعا کی: اے اللہ! اے اللہ! جو ایسا نہ کرے وہ نقصان میں ہے، وہ نقصان میں ہے۔

1463 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعِ بْنِ الْعَمِيَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَشْهَدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ،

1463- حدیث ضعیف مضطرب الاسناد . وأخرجه الترمذی فی العلل الكبير صفحه 81 والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 1586، والبیہقی جلد 2 صفحه 488 من طریق المصنف . واختلف علی عبد ربہ بن سعید فیہ ' فأخرجه أحمد رقم الحدیث: 17563-17564، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1296، والعقيلي جلد 2 صفحه 311، وابن ماجه رقم الحدیث: 1325، والنسائي فی الكبرى رقم الحدیث: 1441-616، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1212، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 1587، وابن قانع جلد 3 صفحه 103 من طرق عن شعبة ' به . وخالف الليث بن سعد شعبة فيه فقال: عن عبد ربہ بن سعید، عن عمران بن أبي أنس، عن عبد الله بن نافع بن العمياء، عن ربيعة بن الحارث، عن الفضل بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . أخرجه ابن المبارك في مسنده رقم الحدیث: 54، وأحمد رقم الحدیث: 17560، والترمذی رقم الحدیث: 385، وفي العلل الكبير صفحه 82، والنسائي فی الكبرى رقم الحدیث: 1440-615، والعقيلي جلد 2 صفحه 310، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1213، والطبرانی جلد 18 صفحه 295، وفي الأوسط رقم الحدیث: 8632، والبیہقی جلد 2 صفحه 488 . ورجح الامام أحمد والبخاری وأبو حاتم وغيرهم رواية الليث، وأن شعبة أخطأ في اسناده . انظر التاريخ للبخاری جلد 3 صفحه 284، والمسند جلد 4 صفحه 167، والجامع للترمذی جلد 2 صفحه 226-227، والعلل الكبير صفحه 80-81، والمعرفة والتاريخ للفسوى جلد 2 صفحه 202، والعلل لابن أبي حاتم رقم الحدیث: 324-365، ومعالم السنن للخطابی جلد 1 صفحه 279 .

وَتَبَاسٌ، وَتَمَسُكُنْ، وَأَقْنَعُ يَدَكَ وَقُلْ: اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ
فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ

259- عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ الزُّبَيْرِ

حضرت عبداللہ بن زبیر

رضی اللہ عنہما کی حدیث

1464 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ
بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: بَيْنَمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُنَا إِذْ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ
فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَمَا
سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ تَفْضُلُ بِمِائَةٍ قَالَ عَطَاءٌ: فَكَانَتْ مِائَةُ أَلْفٍ
قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا الْفَضْلُ الَّذِي تَذْكَرُ
فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَدَهُ أَوْ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا
بَلْ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّ الْحَرَمَ كُلَّهُ مَسْجِدٌ

حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ اس دوران کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما ہمیں
خطبہ دے رہے تھے اچانک فرمایا کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حرام
کے علاوہ دوسری مسجدوں سے ہزار درجہ فضیلت رکھتی
ہے اور مسجد حرام کی نماز اس سے سو درجہ فضیلت رکھتی
ہے۔ میں نے عرض کی: اے ابو محمد! یہ فضیلت صرف مسجد
حرام کے اندر ہے یا سارے حرم میں؟ فرمایا: نہیں! بلکہ
سارے حرم میں بے شک حرم سارے کا سارا مسجد ہے۔

1464- حدیث صحیح۔ وفی اسنادہ ہنا الربیع بن صبیح، وهو ضعیف، لکنہ متابع۔ وأخرجه أبو نعیم فی
الحلیة جلد 3 صفحہ 322، والبیہقی فی الشعب رقم الحدیث: 4143 من طریق المصنف۔ وأخرجه
الطبرانی فی الکبیر (270-قطعة من الجزء 13) من طریق الربیع بن صبیح، به۔ وأخرجه مسدد، وأحمد
بن منیع فی مسندیہما کما فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 989-990، وأحمد رقم
الحدیث: 16162، وعبد بن حمید رقم الحدیث: 520، والحارث فی مسنده (395-بغیة)، والبخاری رقم
الحدیث: 2196، والطحاوی جلد 3 صفحہ 127، وفی المشکل رقم الحدیث: 597-598، وابن حبان
رقم الحدیث: 1620، والبیہقی جلد 5 صفحہ 246، وفی الشعب رقم الحدیث: 4142 من طریق حبیب
المعلم، عن عطاء، به۔

260- أَبُو جُحَيْفَةَ

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

1465 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ کے یہ بال سفید تھے اور اشارہ آپ نے ہونٹ سے نیچے والے بالوں کی طرف کیا، آپ (یعنی ابو حنیفہ) سے عرض کی گئی: اے ابو حنیفہ! آپ اس دن کیا کرتے تھے؟ فرمایا: تیر بنا تا تھا اور اس پر پر لگاتا تھا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ مِنْهُ بَيْضَاءُ وَأَشَارَ إِلَى الْعُنْفَقَةِ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ يَا أَبَا جُحَيْفَةَ؟ قَالَ: أَبْرَى النَّبْلِ وَأَرِيشَهَا

261- أَبُو بَرْدَةَ

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

1466 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ یہ حضرت ابو موسیٰ کے

1465- حدیث صحیح، وهو مکرر .

1466- حدیث منکر . قاله النسائي . أخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 298 من طريق المصنف ' به . عن أبي بردة .

وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 7 صفحہ 516-517، والنسائي رقم الحديث: 5693، والطبراني جلد 22

صفحہ 198-199، والدارقطني جلد 4 صفحہ 259 من طرق عن أبي الأحوص ' به ' عن أبي بردة بن نيار .

وقال الحافظ في الاصابة جلد 7 صفحہ 50 في ترجمة أبي بردة ' غير منسوب: غاير من جمع مسند

الطيالسي بينه وبين أبي بردة بن نيار . وقال أبو زرعة: وهم أبو الأحوص ' فقال: عن سماك ' عن القاسم'

عن أبيه ' عن أبي بردة . قلب من الاسناد موضعاً ' وصحف في موضع . أما القلب: فقوله: عن أبي

بردة . أراد عن ابن بريدة ' ثم احتاج أن يقول: ابن بريدة ' عن أبيه . فقلب الاسناد بأسره ' وأفحش في

الخطأ . وأفحش من ذلك ' وأشنع تصحيفه في متنه: اشربوا في الظروف ' ولا تسكروا . من العلل لابن

أبي حاتم جلد 2 صفحہ 24 . وقال النسائي: هذا حديث منكر ' غلط فيه أبو الأحوص ' لا نعلم أن أحداً

تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب ' وسماك ليس بالقوى ' وكان يقبل التلقين . قال أحمد بن

حنبل: كان أبو الأحوص بخطي في هذا الحديث . خالفه شريك في اسناده ' وفي لفظه . وقال

الدارقطني: وهم فيه أبو الأحوص في اسناده ومنتنه . وقال غيره: عن سماك ' عن القاسم ' عن ابن بريدة'

عن أبيه: ولا تشربوا مسكراً .

بیٹے نہیں ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:
پیو اور نشہ نہ کرو۔

قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ
الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
وَلَيْسَ بِابْنِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا

262- اذینہ

حضرت اذینہ رضی اللہ عنہ کی حدیث

حضرت عبد الرحمن بن اذینہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کسی کام (کے نہ کرنے) پر قسم اٹھائے، پھر وہ اس کے علاوہ میں بھلائی دیکھے تو وہ اس کو اختیار کرے جو بہتر ہے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔

1467 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى
غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكْفِرْ
عَنْ يَمِينِهِ

حضرت ابو عبد الرحمن الفہری

263- ابو عبد الرحمن

رضی اللہ عنہ کی حدیث

الفہری

حضرت ابو عبد الرحمن الفہری رضی اللہ عنہ فرماتے

1468 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1467- اسنادہ ضعیف، لارسالہ، اذینہ لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علل الترمذی الكبير صفحہ 25، وانظر تاريخ البخارى جلد 2 صفحہ 61. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 2727 من طريق المصنف. وأخرجه الترمذی في العلل الكبير صفحہ 251، وابن قانع جلد 1 صفحہ 52، والطبرانی رقم الحديث: 873 من طرق عن أبي الأحوص سلام بن سليم، به.

1468- اسنادہ ضعیف، لجهالة أبي همام عبد الله بن يسار. وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 863 من طريق المصنف. وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 14 صفحہ 529، وأحمد رقم الحديث: 22520-22521، والدارمی رقم الحديث: 2456، وأبو داؤد رقم الحديث: 5233، والطبرانی جلد 22 صفحہ 288 من طرق عن حماد بن سلمة، به. وقال أبو داؤد: أبو عبد الرحمن الفہری ليس له الا هذا الحديث، وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة.

ہیں کہ ہم غزوہ حنین میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، ہم شدید گرمی کے دن چلے، پس ہم ایک سایہ دار درخت کے نیچے اترے، سو جب سورج ڈھل گیا تو میں نے اپنا اسلحہ لگایا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، پس میں رسول اللہ ﷺ بارگاہ میں آیا اور آپ ﷺ اپنے خیمے میں تھے۔ میں نے عرض کی: السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! کوچ کا وقت آ گیا ہے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: ہاں! پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے بلال! کیکر کے درخت کے نیچے سے اس طرح نکل جاؤ جیسے کسی پرندے کا سایہ ہو۔ انہوں (حضرت بلال) نے عرض کی: لبیک وسعدیک! میں آپ پر فدا ہوں! آپ نے فرمایا: میرے گھوڑے پر میرے لیے زین باندھ! سو حضرت بلال آئے ایسی زین لے کر جس کے دونوں پلوؤں میں چھال بھری ہوئی تھی، ان میں کوئی غرور و تکبر نہیں تھا۔ کہا کہ اس کے بعد آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر ہم بھی چلے، پس جب ہمارا دشمن سے آنا سامنا ہوا اور دونوں جماعتوں کے گھوڑے ایک دوسرے میں گھس گئے تو ہم ان سے لڑے، سو مسلمان پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے، جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا تو رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے: اے اللہ کے بندو! میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں! اے لوگو! میرے پاس آ جاؤ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر رسول اللہ ﷺ گھوڑے سے نیچے اترے اور مجھے اس نے بتایا جو مجھ سے زیادہ آپ کے قریب تھا، آپ نے مٹی کی ایک مٹھی

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ وَيُكْنَى أَبُو هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَهْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُنَيْنٍ فِيسِرْنَا فِي يَوْمٍ قَائِظٍ شَدِيدٍ الْحَرِّ فَنَزَلْنَا تَحْتَ ظِلِّ الشَّجَرِ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ لَبَسْتُ لَأَمْتِي وَرَكِبْتُ فَرَسِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَدْ حَانَ الرَّوَّاحُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: أَجَلٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بِلَالُ فَنَارٌ مِنْ تَحْتِ سَمْرَةٍ كَأَنَّ ظِلَّهُ ظِلُّ طَيْرٍ فَقَالَ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَأَنَا فِدَاؤُكَ قَالَ: أَسْرِجْ لِي فَرَسِي فَأَتَاهُ بِدَفْتَيْنِ مِنْ لَيْفٍ لَيْسَ فِيهِمَا أَشْرٌ وَلَا بَطْرٌ قَالَ: فَرَكَبَ فَرَسَهُ ثُمَّ سِرْنَا يَوْمَنَا فَلَقِينَا الْعَدُوَّ وَتَشَامَّتِ الْخَيْلَانِ، فَقَاتَلْنَاهُمْ فَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَافْتَحِمِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسِهِ وَحَدَّثَنِي مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي أَنَّهُ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ تُرَابٍ فَحَثَا بِهَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ وَقَالَ: شَاهَتِ الْوُجُوهُ قَالَ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ: فَأَخْبَرْنَا آبَاءَهُمْ عَنْ آبَائِهِمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: مَا بَقِيَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا امْتَلَأَتْ عَيْنَاهُ وَفَمُهُ مِنْ

التُّرَابِ وَسَمِعْنَا صَلْصَلَةً مِنَ السَّمَاءِ كَمَرِّ
 الْحَدِيدِ عَلَى الطَّسْتِ الْجَدِيدِ فَهَزَمَهُمُ اللَّهُ

لی، وہ مٹی کی مٹھی آپ نے کافروں کے چہروں پر پھینک
 دی۔ اور فرمایا: ان کے چہرے بگڑ جائیں! یعنی بن عطاء
 فرماتے ہیں: ہم کو ان کے بیٹوں نے اپنے باپوں کے
 حوالہ سے بتایا کہ وہ کہنے لگے: ہم میں کوئی بھی باقی نہیں
 رہا کہ جس کی آنکھیں اور منہ مٹی سے بھرنے گیا ہو اور ہم
 نے آواز سنی جیسے آسمان سے لوہے کو طشت پر مارنے
 سے پیدا ہوتی ہے، پس اللہ نے ان کو شکست دی۔

264- رِفَاعَةُ

الْبَدْرِيُّ

حضرت رفاعہ البدری

رضی اللہ عنہ کی حدیث

1469 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت رفاعہ البدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1469- حدیث صحیح . وهذا اسناد ضعيف، لحال يحيى بن علي بن خلاد، وهو يحيى بن علي ابن يحيى بن
 خلاد . وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 861، والترمذی رقم الحديث: 302، والنسائی رقم
 الحديث: 666، وابن خزيمة رقم الحديث: 545، والطحطاوى جلد 1 صفحہ 232، وفي المشكل رقم
 الحديث: 1593، والطبرانی رقم الحديث: 4527، والحاكم جلد 1 صفحہ 243، والبيهقي جلد 2
 صفحہ 373-380، والبغوى فى شرح السنة رقم الحديث: 553 من طرق عن يحيى بن علي، عن أبيه،
 عن جده، به . وقال الترمذی: حسن . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 3739، والنسائی رقم
 الحديث: 1313، والطبرانی رقم الحديث: 4520، والحاكم جلد 1 صفحہ 242 من طرق عن داؤد بن
 قيس، عن علي بن يحيى، عن أبيه، عن رفاعة . ورواه اسحاق بن أبي طلحة، واختلف عليه، فرواه همام،
 عن اسحاق، عن علي بن يحيى، عن أبيه، عن رفاعة، نحوه . وأخرجه الدارمی رقم الحديث: 1335، وأبو
 داؤد رقم الحديث: 858، والنسائی رقم الحديث: 1135، وابن ماجه رقم الحديث: 460، وابن الجارود
 رقم الحديث: 194، والطبرانی رقم الحديث: 4525، والحاكم جلد 1 صفحہ 241 . وخالفه حماد،
 فرواه عن اسحاق، عن علي بن يحيى، عن رفاعة . لم يذكر أباه . أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 857،
 والطبرانی رقم الحديث: 4526، والحاكم جلد 1 صفحہ 242، والبيهقي جلد 2 صفحہ 373 . والقول قول

قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ،
 قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ،
 عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ
 قَالَ رِفَاعَةُ: وَنَحْنُ عِنْدَهُ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ كَالْبَدَوِيِّ
 فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فَأَخَفَ صَلَاتَهُ ثُمَّ أَتَى
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ، أَعَدُّ
 صَلَاتِكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ إِنَّهُ

رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے حضرت رفاعہ
 نے فرمایا: اور ہم آپ کے ارد گرد تھے کہ ایک دیہاتی
 آدمی آیا پس وہ مسجد میں داخل ہوا اس نے نماز پڑھی تو
 مختصر نماز پڑھی پھر نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں آیا آپ
 کو سلام کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو نماز کو دو بارہ
 پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی صحابہ کرام پر یہ بات شاق
 گزری کہ جس نے نماز مختصر پڑھی اس نے گویا نماز ہی
 نہ پڑھی سو اس نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ ایسا کہا ہر دفعہ
 آپ اس سے ہی اسی طرح فرماتے (تو نے نماز نہیں

ہمام، وحماد اخطا فی فیہ . انظر التاريخ للبخاری جلد 3 صفحہ 320، والعلل لابن ابی حاتم رقم
 الحدیث: 221-222 . ورواه ابن عجلان واختلف علیه، فرواه الليث وغير واحد عننه، مثل رواية همام
 عن اسحاق . أخرجه ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 287، وأحمد رقم الحدیث: 19019، والنسائی رقم
 الحدیث: 1052-1312، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 6073-6074، وابن حبان رقم
 الحدیث: 1787، والطبرانی رقم الحدیث: 4521-4524، والبيهقی جلد 2 صفحہ 372-373 . وأخرجه
 الطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 1594-6075 من طریق ابن عجلان، عن أخبره، عن علی، عن
 أبيه، عن رفاعة، به، واسناده ضعيف . وأخرجه أبو داؤد رقم الحدیث: 860، والطبرانی رقم
 الحدیث: 4528، والحاكم جلد 1 صفحہ 243، والبيهقی جلد 2 صفحہ 133-372-373 من طریق
 اسحاق، عن علی، يحيى، عن رفاعة . ورواه محمد بن عمرو واختلف علیه، فأخرجه أبو داؤد رقم
 الحدیث: 859، والبيهقی جلد 2 صفحہ 374 من طریق محمد بن عمرو، عن علی بن يحيى، عن أبيه، عن
 رفاعة . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 19017، والطبرانی رقم الحدیث: 4529، والبيهقی جلد 2
 صفحہ 373، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 554 من طرق عن محمد بن عمرو، عن علی بن
 يحيى، عن رفاعة، ولم يذكر أباه . وانظر العلل لابن ابی حاتم رقم الحدیث: 221 . وأخرجه الطحاوی
 جلد 1 صفحہ 232 من طریق شريك بن ابی نمر، عن علی، عن رفاعة . وانظر العلل لابن ابی حاتم أيضًا .
 والروایات مطولة ومختصرة .

پڑھی دوبارہ پڑھ)۔ اس دیہاتی نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے دکھائیں اور سکھائیں کیونکہ میں انسان ہوں غلطی بھی اور درستگی بھی کرتا ہوں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تو نماز کا ارادہ کرے تو وضو کر جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ سوا اگر تجھے قرآن یاد ہے تو اس کو پڑھ اور اگر تجھے قرآن یاد نہیں تو اللہ کی حمد کر اور اس کی تہلیل و بڑائی بیان کر، پس جب تو رکوع کرے تو رکوع بڑے اطمینان سے کر، پھر جب اپنا سر اٹھائے تو سیدھا کھڑا ہو جا، پھر سجدہ کر تو سجدہ میں تعدیل کر، پھر جب سر اٹھائے تو قعدہ میں تعدیل کر، حتیٰ کہ تیری نماز مکمل ہو جائے، جب تونے یہ کر لیا تو تیری نماز مکمل ہو گئی، اور اگر کوئی کمی کی تو تیری نماز میں کمی ہو گئی، یہ لوگوں پر آسان ہے کیونکہ جس نے اپنی نماز میں کمی کی اس نے اپنی نماز میں کمی کی اور ساری (نماز ضائع) نہیں جائے گی۔

عورتوں کی احادیث

حضرت سیدہ فاطمہ بنت سیدنا

حضرت محمد ﷺ کی اپنے

والد سے روایت کردہ احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول

مَنْ أَخَفَّ صَلَاتَهُ لَمْ يُصَلِّ، فَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرِنِي وَعَلِمَنِي فَإِنِّي بَشْرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ كَبِّرْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَهَلِّلْهُ وَكَبِّرْهُ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَاعْتَدِلْ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ فَاعْتَدِلْ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَاعْتَدِلْ قَاعِدًا حَتَّى تَقْضِيَ صَلَاتَكَ، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ وَإِنْ انْتَقَصَتْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءًا فَإِنَّمَا انْتَقَصَتْ مِنْ صَلَاتِكَ فَكَانَتْ هَذِهِ أَهْوَنُ عَلَى النَّاسِ أَنَّهُ مَنْ انْتَقَصَ انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَمْ تَذْهَبْ كُلُّهَا

أَحَادِيثُ النِّسَاءِ

265- فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

عَنْ أَبِيهَا

1470 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1470- حَدِيثٌ صَحِيحٌ . أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكِبْرِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 7078 مِنْ طَرِيقِ الْمُصَنَّفِ . وَأَخْرَجَهُ

الْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 6285-6286، وَمُسْلِمٌ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2450، وَالطَّبْرَانِيُّ جُلْدَ 22 صَفْحَةَ 419 مِنْ

طَرِيقِ عَنِ أَبِي عَوَانَةَ 'بِهِ . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 26456، وَالْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3624، وَفِي

اللہ ﷺ کے پاس تھیں، اس بیماری میں جس میں آپ نے وصال فرمایا اور ہم میں سے کوئی بھی آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، اچانک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں، آپ کا چلنا رسول اللہ ﷺ کی طرح کا چلنا تھا، جب آپ نے انہیں (یعنی اپنی لخت جگر کو) دیکھا تو فرمایا: میری بیٹی کو خوش آمدید! پھر آپ ﷺ نے انہیں اپنے دائیں یا بائیں طرف بٹھالیا، پھر آپ کے ساتھ کوئی راز کی بات کی تو آپ رو پڑیں، میں نے ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ اپنی بیویوں کے درمیان آپ کو راز کے لیے خاص کیا تو آپ رو پڑیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی سرگوشی کی تو آپ ہنس پڑیں۔ میں نے ان سے کہا: میں آپ کو قسم دیتی ہوں اس حق کی جو میرا آپ پر (ماں ہونے کے حوالے سے حق) ہے، آپ مجھے اس کی وجہ بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے راز کو ظاہر نہیں کروں گی۔ پس جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہو گیا تو میں نے آپ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، مَا يُغَادِرُ مِنَّا وَاحِدَةً، إِذْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي مَا تُخْطِئُ مَشِيَّتَهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، فَلَمَّا رَأَاهَا قَالَ: مَرَحَبًا بِابْنَتِي فَأَقْعَدَهَا عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ، فَقُلْتُ لَهَا: إِنَّا مِنْ بَيْنِ نِسَائِهِ: خَصَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْنِنَا بِالسِّرَارِ وَأَنْتِ تَبْكِينَ؟ ثُمَّ سَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: أَقَسَمْتُ عَلَيْكَ بِحَقِّي، أَوْ بِمَا لِي عَلَيْكَ مِنَ الْحَقِّ، لَمَا أَخْبَرْتَنِي، قَالَتْ: مَا كُنْتُ لِأُفْشِيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّهُ، قَالَتْ: فَلَمَّا تُوَفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: أَمَّا الْآنَ فَنَعَمْ، أَمَّا بُكَائِي، فَإِنَّ

الأدب المفرد رقم الحديث: 1030، ومسلم رقم الحديث: 2450، وابن ماجه رقم الحديث: 1621 والطبرانی جلد 22 صفحہ 418 من طريق فراس' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26457، والبخاری رقم الحديث: 3715، وفي الأدب المفرد رقم الحديث: 947-971، ومسلم رقم الحديث: 2450، وأبو داؤد رقم الحديث: 5217، والترمذی رقم الحديث: 3872، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 8369، والطبرانی جلد 22 صفحہ 419-421 من طرق عن عائشة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26463 من طريق جعفر بن عمرو بن أمية، عن فاطمة، قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنني أول أهله لحوقا به . وأخرجه الترمذی رقم الحديث: 3873-3893 من طريق أم سلمة، عن فاطمة .

سے پوچھا، آپ نے فرمایا: اب بتاتی ہوں! رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ بے شک جبریل میرے پاس ہر سال قرآن کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے، اس سال انہوں نے میرے ساتھ دو مرتبہ دور کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، تو میں رو پڑی، پھر مجھ سے آپ نے فرمایا: تو اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تیرے لیے آگے بہترین پیش رو ہوں گا۔ پھر فرمایا: اے فاطمہ! کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ تو تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار یا اس امت کی سردار ہو قیامت کے دن، تو میں ہنس دی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے

حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے انس! تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم رسول اللہ ﷺ پر مٹی ڈالو!

حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي: إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَعْزِضُ عَلَيَّ الْقُرْآنَ كُلَّ عَامٍ مَرَّةً، فَعَرَضَهُ عَلَيَّ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ، وَلَا أَرَى أَجَلِي إِلَّا قَدْ اقْتَرَبَ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ لِي: اتَّقِيَ اللَّهَ وَاصْبِرِي؛ فَإِنِّي أَنَا لَكَ نِعَمَ السَّلْفِ، ثُمَّ قَالَ: يَا فَاطِمَةُ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَضَحِكْتُ

1471 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَتْ لِي فَاطِمَةُ: يَا أَنَسُ، طَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُوا عَلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ؟

قَالَ ثَابِتٌ: وَقَالَتْ فَاطِمَةُ، وَرَسُولُ اللَّهِ

1471- خدیث صحیح أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 212 من طريق المصنف . وأخرجه ابن سعد جلد 2

صفحہ 311، وأحمد رقم الحديث: 13139، وعبد بن حميد رقم الحديث: 1362، والبخاري رقم

الحديث: 4462، والدارمي رقم الحديث: 87، وابن ماجه رقم الحديث: 1630، وأبو يعلى رقم

الحديث: 3379، وابن حبان رقم الحديث: 6622، والحاكم جلد 1 صفحہ 381، والبيهقي في الدلائل

جلد 7 صفحہ 212، والخطيب جلد 6 صفحہ 262، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 3831 من

طرق حماد، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 6673، وأحمد رقم الحديث: 13054، والترمذي

في الشمائل رقم الحديث: 380، والنسائي رقم الحديث: 1843، وابن ماجه رقم الحديث: 1629، وأبو

يعلى رقم الحديث: 3441، وابن حبان رقم الحديث: 6621، والطبراني في الصغير جلد 2 صفحہ 112،

والبيهقي جلد 4 صفحہ 71 من طرق عن ثابت به .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَوْتِ، أَوْ قَالَتْ وَهُوَ
ثَقِيلٌ: يَا أَبَتَاهُ، أَلَى جِبْرِيلَ يَنْعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ، مِنْ رَبِّهِ مَا
أَذْنَاهُ، يَا أَبَتَاهُ، جَنَّانُ الْفِرْدَوْسِ مَاوَاهُ، يَا أَبَتَاهُ،
أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ

اللہ عنہا نے عرض کی جس وقت رسول اللہ ﷺ کی حالت
وصال میں یا بیماری میں تھے: اے میرے ابا جان! میں
ابھی جبریل علیہ السلام کو آپ کے وصال کی خبر کرتی
ہوں اے میرے ابا جان! آپ کا اپنے رب کے قریب
مقام ہو اے میرے ابا جان! جنت الفردوس آپ کا
ٹھکانہ ہو اے میرے ابا جان! آپ نے اپنے رب کی
دعوت کو قبول کیا۔

266- مُسْنَدُ عَائِشَةَ أُمِّ

الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

مَا رَوَى الْأَسْوَدُ عَنْ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

مسند ام المؤمنین حضرت عائشہ

صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ احادیث

جو حضرت اسود حضرت عائشہ رضی

اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں

حضرت اسود رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ

1472- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1472- حدیث صحیح . أخرجه أبو عوانة جلد 1 صفحہ 308، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 883 من
طریق المصنف . وأخرجه الطحاوی جلد 3 صفحہ 36 من طریق المصنف عن شعبة وحده به . وأخرجه
أحمد رقم الحدیث: 25065، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 309، وابن حبان رقم الحدیث: 1367 من طریق
أبی عوانة به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25449، وأبو داؤد رقم الحدیث: 268 من طریق شعبة
به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 1237، وابن أبی شیبہ جلد 4 صفحہ 254، وأحمد رقم
الحدیث: 24325، والدارمی رقم الحدیث: 1073، ومسلم رقم الحدیث: 293، والترمذی رقم
الحدیث: 132، والنسائی رقم الحدیث: 372، وابن ماجه رقم الحدیث: 636، وابن الجارود رقم
الحدیث: 106، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 309، والبيهقی جلد 1 صفحہ 310، والبغوی فی شرح السنة رقم
الحدیث: 317 من طرق عن منصور به . وأخرجه ابن أبی شیبہ جلد 4 صفحہ 254، وأحمد رقم
الحدیث: 26022، والبخاری رقم الحدیث: 302، ومسلم رقم الحدیث: 293، وأبو داؤد رقم الحدیث:

عنها سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو حکم دیتے تھے کہ جب کوئی ہم میں سے حیض والی ہوتی کہ وہ کپڑا رکھ لے پھر آپ اس کے ساتھ مباشرت کرتے (یعنی وطی نہیں کی جا سکتی باقی اعضاء سے فائدہ اٹھایا سکتا ہے)۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا ثُمَّ يَبَاشِرُهَا

1473 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرَقَاتِ

حضرت اسود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا دباء اور مرقت سے۔

273' وابن ماجه رقم الحديث: 635' وأبو عوانة جلد 1 صفحه 309' والحاكم جلد 1 صفحه 172' والذهبي في السير جلد 11 صفحه 494 من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24967' والنسائي رقم الحديث: 373' وابن حبان رقم الحديث: 1368 من طريق عائشة .

1473- حديث صحيح . أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 6829' والطحاوي جلد 4 صفحه 224 من طريق المصنف' عن شعبة عن منصور وحده به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25710' ومسلم رقم الحديث: 1995' والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 6830 من طريق شعبة' عن الأعمش ومنصور' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25710' ومسلم رقم الحديث: 1995' والنسائي رقم الحديث: 5642' وفي الكبرى رقم الحديث: 6831 من طريق سفيان' عن الأعمش ومنصور' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25055' ومسلم رقم الحديث: 1995 من طريق الأعمش' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26416' والبخاري رقم الحديث: 5595' ومسلم رقم الحديث: 5995' والطحاوي جلد 4 صفحه 224 من طريق منصور' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25710' ومسلم رقم الحديث: 1995' والنسائي رقم الحديث: 5642' وفي الكبرى رقم الحديث: 6830-6831 من طريق سفيان' عن حماد' عن إبراهيم' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24070' ومسلم رقم الحديث: 1995' والنسائي رقم الحديث: 5697 من طرق عن عائشة .

1474 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَقْتُلُ قَلَابِدَ
هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَمًا ثُمَّ
لَا يَحْرُمُ مِنْهُ شَيْءٌ

حضرت اسود رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ
عنها سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں
رسول اللہ ﷺ کی قربانی کے جانور کو فلادہ ڈالتی تھی،
پھر آپ اس سے کوئی چیز حرام نہیں کرتے۔

1475 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
حضرت اسود رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ

1474- حدیث صحیح . أخرجه البغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 877 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد
رقم الحدیث: 25450 والنسائی رقم الحدیث: 2784 من طریق غندر وخالده عن شعبة عن منصور
وحده به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25622 من طریق سفیان عن منصور والأعمش به . وأخرجه
أحمد رقم الحدیث: 26302 والبخاری رقم الحدیث: 1703 وابن خزيمة رقم الحدیث: 2608 من
طریق منصور به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25914 والبخاری رقم الحدیث: 1702 ومسلم رقم
الحدیث: 1321 والنسائی رقم الحدیث: 2777 وابن ماجه رقم الحدیث: 3095 والطحاوی جلد 2
صفحة 265 من طریق الأعمش به . وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 1321 والنسائی رقم الحدیث:
2789 من طریق ابراهیم به . وأخرجه أبو داؤد رقم الحدیث: 1759 من طریق ابراهیم النخعی عن
عائشة . وأخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 209 وأحمد رقم الحدیث: 24536 والبخاری رقم
الحدیث: 1704 ومسلم رقم الحدیث: 1321 وأبو داؤد رقم الحدیث: 1757-1759 والترمذی رقم
الحدیث: 908 والنسائی رقم الحدیث: 2783-2794 وابن ماجه رقم الحدیث: 3098 وأبو یعلیٰ رقم
الحدیث: 4659 وابن الجارود رقم الحدیث: 423 والطحاوی جلد 2 صفحہ 265-266 والبیہقی
جلد 5 صفحہ 223 والبغوی رقم الحدیث: 1890 من طرق عن عائشة .

1475- حدیث صحیح . أخرجه النسائی رقم الحدیث: 2695 والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 880 من
طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26439 والبخاری رقم الحدیث: 1538 ومسلم رقم
الحدیث: 1190 والنسائی رقم الحدیث: 2693-2694 وابن خزيمة رقم الحدیث: 2585 وابن حبان
رقم الحدیث: 3767 والبیہقی جلد 5 صفحہ 34 من طریق منصور به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث:
26122 وابن خزيمة رقم الحدیث: 2587 من طریق شعبة عن الحكم وحماد وسليمان ومنصور عن

عَنْ مَنْصُورٍ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ
فِي مَفْرَقِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ مُحْرِمٌ

عنها سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں: گویا میں
اب بھی دیکھ رہی ہوں رسول اللہ ﷺ کے بالوں کی
مانگ پر مشک کی چمک، حالانکہ آپ حالت احرام میں
تھے۔

1476 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
حضرت اسود رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ

ابراہیم' بہ . وأخرجه الحمیدی رقم الحديث: 215 وأحمد رقم الحديث: 24978 ومسلم رقم
الحديث: 1190 وأبو داؤد رقم الحديث: 1746 والنسائی رقم الحديث: 2701-2697-2692
والطحاوی جلد 2 صفحہ 129 وابن حبان رقم الحديث: 1376 والبيهقی جلد 5 صفحہ 34-35
والبغوی فی شرح السنة رقم الحديث: 1864 من طریق ابراهیم النخعی' بہ . وسیاتی من طریق شعبة
عن الحكم عن ابراهیم برقم رقم الحديث: 1482 . وسیاتی من طریق ابی اسحاق وعبد الرحمن بن
الأسود عن الأسود برقم رقم الحديث: 1490-1497 . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26316
والدارمی رقم الحديث: 1808 والبخاری رقم الحديث: 5928 ومسلم رقم الحديث: 1190-1189
والنسائی رقم الحديث: 2687 وابن ماجه رقم الحديث: 2927 وأبو یعلیٰ رقم الحديث: 4391
والطحاوی جلد 2 صفحہ 130 وابن حبان رقم الحديث: 372 والبيهقی جلد 5 صفحہ 34-35 من طرق
عن عائشة .

1476- حدیث صحیح . أخرجه البغوی فی الجعديات رقم الحديث: 879 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد
رقم الحديث: 25451 والنسائی رقم الحديث: 754 من طریق شعبة' بہ . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 26345 والبخاری رقم الحديث: 508 ومسلم رقم الحديث: 512 من طریق منصور' بہ .
وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25971 والبخاری رقم الحديث: 514 ومسلم رقم الحديث: 512 وابن
خزيمة رقم الحديث: 826-825 والبغوی فی شرح السنة رقم الحديث: 547 من طریق الأعمش' عن
ابراہیم' بہ . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25051 من طریق حماد عن ابراهیم' بہ . وأخرجه مالك
جلد 1 صفحہ 117 والحمیدی رقم الحديث: 177 وأحمد رقم الحديث: 25191 والبخاری رقم
الحديث: 519-511-382 ومسلم رقم الحديث: 512 وأبو داؤد رقم الحديث: 714-712 والنسائی
رقم الحديث: 168-166 وابن خزيمة رقم الحديث: 825 وابن حبان رقم الحديث: 2348-2346

عنها سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے آگے لیٹی ہوتی اس حالت میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، پس جب میں اٹھنا چاہتی تو میں آہستہ سے کھسک جاتی تھی۔

حضرت اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے کہ ایک خیمہ ایک آدمی پر گر پڑا، تو وہ ہنس پڑے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: مذاق نہ اڑاؤ! میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: کسی مسلمان کو کاٹنا چھ جائے یا اس سے زیادہ کوئی چیز تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کی ایک غلطی معاف کرتا ہے۔

حضرت اسود رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَقُومَ انْسَلَلْتُ انْسِلَالًا

1477 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، وَالْأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَقَطَ فُسْطَاطٌ عَلَى إِنْسَانٍ فَضَحِكُوا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَا سَخَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

1478 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

وغيرہم من طرق عن عائشة .

1477 - حدیث صحیح . أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 7488، والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 878 من طريق المصنف، عن شعبة، عن منصور وحده به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26420، ومسلم رقم الحديث: 2572، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 7488 من طريق منصور، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25442 من طريق شعبة، عن الأعمش، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26218-24202، ومسلم رقم الحديث: 2572، والترمذي رقم الحديث: 965، والبيهقي جلد 3 صفحہ 373-374 من طريق الأعمش، به . وقال الترمذي: حسن صحيح . وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 941، وأحمد رقم الحديث: 25303-24617، والبخاري رقم الحديث: 5640، ومسلم رقم الحديث: 2572، وابن حبان رقم الحديث: 2919-2925، والحاكم جلد 4 صفحہ 319، والبيهقي جلد 3 صفحہ 373 من طرق عن عائشة .

1478 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 223 من طريق المصنف، وأخرجه أحمد رقم

عنها سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ کو خرید کر آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے موالیوں نے ولاء کی شرط لگانے کا ارادہ کیا، سو میں نے نبی اکرم ﷺ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: اس کو خرید لو! اور ولاء اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے اور ان (حضرت بریرہ کو ان) کے خاوند کے حوالہ سے اختیار دیا گیا، اور ان کا شوہر آزاد تھا اور نبی اکرم ﷺ کے پاس گوشت لایا گیا، عرض کی گئی: یہ وہ ہے جو حضرت بریرہ پر صدقہ کیا گیا ہے، تو آپ ﷺ نے فرمایا: یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْاَسْوَدِ، عَنِ عَائِشَةَ، اَنَّهَا ارَادَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعَتَقِ فَاَرَادَ مَوَالِيهَا اَنْ يَشْتَرِطُوا وِلَاءَهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا فَاِنَّمَا الْوِلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ، وَخَيْرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا، وَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: هَذَا مِمَّا تُصَدِّقُ بِهِ عَلٰى بَرِيرَةَ فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

1479 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حضرت اسود بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت

الحديث: 25626، والبخاری رقم الحديث: 1494-6717-6751، والدارمی رقم الحديث: 2294، ومسلم رقم الحديث: 1075، والنسائی رقم الحديث: 2613-3450، والبيهقی جلد 7 صفحہ 224، من طریق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24196-25405، والبخاری رقم الحديث: 2536، وأبو داؤد رقم الحديث: 2235، والترمذی رقم الحديث: 1155-1256-2125، والنسائی رقم الحديث: 3449، وابن ماجه رقم الحديث: 2074، والطحاوی جلد 3 صفحہ 82، وابن حبان رقم الحديث: 4271، والبيهقی جلد 7 صفحہ 223، من طرق عن ابراهيم، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24099، والبخاری رقم الحديث: 2561-2563، ومسلم رقم الحديث: 1504، وأبو داؤد رقم الحديث: 3930، والترمذی رقم الحديث: 1154-2124، والنسائی رقم الحديث: 3451، وابن ماجه رقم الحديث: 2521، وابن حبان رقم الحديث: 4272، والبيهقی جلد 7 صفحہ 132، من طریق عروة عن عائشة .

1479 - حديث صحيح . أخرجه الترمذی رقم الحديث: 875، من طریق المصنف . وقال: حسن صحيح .

وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25477، والنسائی رقم الحديث: 2902، وفي الكبرى رقم الحديث: 3884-5903، وابن حبان رقم الحديث: 3817، من طریق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث:

ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے ان کو کہا کہ مجھے بتائیں کہ ام المؤمنین آپ سے کیا فیصلہ چاہتی ہیں؟ حضرت اسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ان (حضرت عائشہ) کو فرمایا: اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا تو میں ضرور کعبہ کو گرا دیتا اور اس کے دو دروازے بنا دیتا پس جب حضرت عبداللہ بن زبیر بادشاہ بنے تو انہوں نے کعبہ کو گرایا اور اس کے دو دروازے بنائے۔

حضرت اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کرواتے تھے پھر جب نماز کا وقت ہو جاتا تو نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔

حضرت اسود رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ

عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ لَهُ: أَخْبِرْنِي بِمَا، كَانَتْ تَقْضِي إِلَيْكَ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ الْأَسْوَدُ: أَخْبَرْتَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ هَدَمَهَا وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ

1480 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ فَصَلَّى

1481 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

24753، والبخاری رقم الحديث: 126، والبعث في الجعديات رقم الحديث: 2537 من طريق أبي اسحاق، به. وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 363، وأحمد رقم الحديث: 25502، والدارمی رقم الحديث: 1875، والبخاری رقم الحديث: 1586، ومسلم رقم الحديث: 1333، والنسائی رقم الحديث: 2900-2901-2910، وأبو يعلى رقم الحديث: 4363، والطحاوی جلد 2 صفحہ 185، وابن خزيمة رقم الحديث: 3019-3023، وابن حبان رقم الحديث: 3815-3816 من طرق عن عائشة.

1480 - حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم الحديث: 24272-24992-25751، والبخاری رقم الحديث:

5363، وفي الأدب المفرد رقم الحديث: 538، والترمذی رقم الحديث: 2489، والبيهقی جلد 2

صفحہ 215 من طريق شعبة، به. وقال الترمذی: حسن صحيح.

1481 - حديث صحيح. أخرجه البيهقی جلد 1 صفحہ 202 من طريق المصنف. وأخرجه ابن أبي شيبة

عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ

عنها سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب جنبی ہوتے تو آپ سونے کا ارادہ فرماتے یا کھانے کا، تو آپ وضو کر لیتے۔

1482 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت اسود رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں: گویا میں اب بھی رسول اللہ ﷺ کی مانگ میں مشک کی چمک دیکھ رہی ہوں، اور آپ حالت احرام میں تھے۔

عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ الطِّيبِ فِي مَفْرَقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

1483 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے

جلد 1 صفحہ 61، وأحمد رقم الحديث: 25638، ومسلم رقم الحديث: 305، وأبو داؤد رقم الحديث: 224، والنسائي رقم الحديث: 255، والدارمي رقم الحديث: 2084، وابن ماجه رقم الحديث: 591، وابن خزيمة رقم الحديث: 215، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 278، والطحاوي جلد 1 صفحہ 125، والبيهقي جلد 1 صفحہ 203 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26385، والدارمي رقم الحديث: 763 من طريق عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24926، والبخاري رقم الحديث: 288 من طريق آخر عن عائشة.

1482 - حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم الحديث: 25627، والبخاري رقم الحديث: 271-5918، ومسلم رقم الحديث: 1190، والنسائي رقم الحديث: 2692، والبخاري رقم الحديث: 84، والطحاوي جلد 2 صفحہ 129، والبيهقي جلد 5 صفحہ 34 من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26122، وابن خزيمة رقم الحديث: 2587 من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25627، وابن خزيمة رقم الحديث: 2587 من طريق شعبة، عن حماد والأعمش ومنصور، عن إبراهيم، به. وسبق برقم رقم الحديث: 1475 من حديث منصور عن إبراهيم.

1483 - حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم الحديث: 25474، والبخاري رقم الحديث: 1146، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 1389، والترمذي في الشمائل رقم الحديث: 264، وابن حبان رقم الحديث: 2638-2593 من طريق شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24387-24750-24823-26199

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَإِذَا كَانَ السَّحَرُ أَوْ تَرْتُمُ يَأْتِي فِرَاشَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَلَمْ بِهِمْ ثُمَّ يَنَامُ فَإِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ وَرُبَّمَا قَالَتْ: الْأَذَانَ وَثَبَّ، وَمَا قَالَتْ: قَامَ فَإِنْ كَانَ جُنْبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَمَا قَالَتْ: اغْتَسَلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنْبًا تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا، تو آپ فرماتے لگیں کہ آپ ﷺ رات کے اول حصہ میں آرام کرتے تھے جب سحری کا وقت ہوتا تو آپ وتر پڑھتے پھر اپنے بستر پر آتے، پس اگر آپ کو اپنے اہل خانہ سے کوئی حاجت ہوتی تو آپ ضرور پوری کرتے پھر سو جاتے، جب اذان سنتے تو بسا اوقات وہ عرض کرتیں: اذان اور تھویب اور آپ یہ کہتیں: آپ کھڑے ہوتے، پس اگر آپ جنبی ہوتے تو اپنے اوپر پانی بہاتے اور اگر جنبی نہ ہوتے تو وضو کرتے پھر نماز کے لیے نکل جاتے۔

1484 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ابو اسحاق سے روایت ہے کہ میں نے

ومسلم رقم الحديث: 739، والنسائي رقم الحديث: 1639، وابن ماجه رقم الحديث: 1365، وابن ماجه رقم الحديث: 2589 من طرق عن أبي اسحاق، به . وانظر الفتح جلد 3 صفحہ 32 .

1484 - حديث صحيح أخرجه أبو عوانة جلد 2 صفحہ 263 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25476، والدارمي رقم الحديث: 1441، والبخاري رقم الحديث: 593، ومسلم رقم الحديث: 835، وأبو داؤد رقم الحديث: 1279، والنسائي رقم الحديث: 575، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 263، والطحاوي جلد 1 صفحہ 300، وابن حبان رقم الحديث: 1570-1571، والبيهقي جلد 2 صفحہ 458 من طريق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24867 من طريق اسراييل، عن أبي اسحاق، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25302، والبخاري رقم الحديث: 592، ومسلم رقم الحديث: 835، والنسائي رقم الحديث: 576، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 263، والطحاوي جلد 1 صفحہ 300، وابن حبان رقم الحديث: 1572 من طريق الأسود وحده، به . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 352، وأحمد رقم الحديث: 26086، والطحاوي جلد 1 صفحہ 301، والبيهقي جلد 2 صفحہ 458 من طريق مسروق وحده، به . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 194، وابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 351، وأحمد رقم الحديث: 26210، وعبد بن حميد رقم الحديث: 1503، والدارمي رقم الحديث: 1442

عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ،
وَمَسْرُوقًا، يَشْهَدَانِ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا دَخَلَ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ
إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

حضرت اسود و حضرت مسروق سے سنا وہ دونوں حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا پر گواہی دیتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں
کہ رسول اللہ ﷺ جب بھی میرے پاس عصر کے بعد
آتے تو آپ دو رکعتیں ادا کرتے تھے۔

1485 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بُنْ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ

حضرت اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ
نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا:
تین آدمیوں سے قلم اٹھالیا گیا ہے، سونے والے سے
یہاں تک کہ جاگ جائے اور مجنون سے یہاں تک کہ وہ
ٹھیک ہو جائے اور بچے سے یہاں تک کہ وہ سمجھدار ہو
جائے۔

1486 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

حضرت اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

والبخاری رقم الحديث: 590-591-1631، ومسلم رقم الحديث: 835، والنسائي رقم الحديث:
573-577، وابن خزيمة رقم الحديث: 1278، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 264، والطحاوی جلد 1
صفحہ 301، وابن حبان رقم الحديث: 1573-1577، والبيهقي جلد 2 صفحہ 457-458، والبغوي في
شرح السنة رقم الحديث: 782-783 من طرق عن عائشة .

1485- اسنادہ لیس بالقوی، حماد بن سلمة روايته عن حماد بن أبي سليمان فيها تخليط . وأخرجه أحمد

رقم الحديث: 24738-24747-25157، والدارمي رقم الحديث: 2301، وأبو داؤد رقم الحديث:

4398، والنسائي رقم الحديث: 3432، وابن ماجه رقم الحديث: 2041، وابن الجارود رقم الحديث:

148-808، وابن حبان رقم الحديث: 142، والحاكم جلد 2 صفحہ 59، والبيهقي جلد 6 صفحہ 84 من

طرق عن حماد بن سلمة، به، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم .

1486- حديث صحيح، واسناد المصنف ليس بالقوي، كسابقه . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26291 من

طريق حماد بن سلمة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24325-25604، والدارمي رقم الحديث:

1073، والبخاری رقم الحديث: 301-2030، ومسلم رقم الحديث: 297 من طرق عن منصور، عن

ابراهيم، به، بدون ذكر (الخطمي) . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25413 من طريق المغيرة، عن

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مسجد سے باہر نکالتے تھے تو میں اس کو خطمی سے دھوتی تھی حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔

حضرت اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو گوہ ہدیہ دی گئی آپ نے اس کو نہیں کھایا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہم مساکین کو نہ کھلائیں! آپ نے فرمایا: جو تم خود نہیں کھاتے کسی اور کو نہ کھلاؤ۔

بُنْ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَكِفُ، فَيُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُ بِالْخَطْمِيِّ وَأَنَا حَائِضٌ

1487 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بُنْ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَبٌّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُطْعِمُهُ الْمَسَاكِينَ؟ فَقَالَ: لَا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّا لَا تَأْكُلُونَ

حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

1488 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

ابراہیم، عن عائشة، به، ليس فيه الأسود. وأخرجه ابن حبان رقم الحديث: 3668 من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة.

1487 - اسنادہ لیس بالقوی، کسابقہ. وأخرجه البيهقي جلد 9 صفحہ 325 من طريق المصنف. وعزاه البوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 3265 الى المصنف. وقال البيهقي: تفرد به حماد بن أبي سليمان، موصولا. وقيل عنه عن ابراهيم عن عائشة، مرسلا. وأخرجه مسدد كما في الاتحاف رقم الحديث: 3266، وأحمد رقم الحديث: 24780-24961-25153، والطحاوي جلد 4 صفحہ 201، والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 5116 من طريق حماد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 79 ومن طريقه أبو يعلى رقم الحديث: 4461 عن عبيد بن سعيد، عن الثوري، عن منصور، عن ابراهيم، به، نحوه. وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم رقم الحديث: 1504: هذا خطأ أخطأ فيه عبيد، قال: عن منصور، وإنما هو: حماد. والصحيح ما حدثنا به قبضة، عن الثوري، عن حماد، عن ابراهيم، قال: أهدى لعائشة ضباب. وأخرجه ابن منيع كما في الاتحاف رقم الحديث: 3268 من طريق شعبة.

1488 - حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم الحديث: 25710، ومسلم رقم الحديث: 1995، والنسائي في

عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی: رسول اللہ ﷺ نے کن برتنوں سے منع کیا ہے؟ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے) فرمایا: مجھے آپ ﷺ نے دباء اور مزفت سے منع کیا ہے۔

قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيَةِ؟ قَالَتْ: نَهَانِي عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزْفَتِ

1489 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَعْزِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

1490 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ أَذْهَنَ بِأَطْيَبِ طَيِّبٍ يَجِدُهُ حَتَّى أَرَى وَبَيْضَهُ فِي لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ

1491 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَقْلِدُ هَدْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

حضرت اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب حالت جنابت میں نہیں ہوتے تھے تو آپ وضو کرتے پھر فجر کی دو سنتیں ادا کرتے پھر نماز کے لیے نکل کر جاتے تھے۔

حضرت اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب احرام باندھنے کا ارادہ کرتے تو تیل اور خوشبو لگاتے جو میسر ہوتی یہاں تک کہ اس کی سفیدی آپ کے سر انور اور داڑھی میں دکھائی دیتی۔

حضرت اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی قربانی کے جانور کو ہار پہناتی اور ہدی کا

الكبرى رقم الحديث: 6828-6830، والطحاوى جلد 4 صفحہ 224 من طريق شعبة، به . وأخرجه

الطحاوى جلد 4 صفحہ 224 من طريق حماد، به .

1489 - حديث صحيح . أخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 1146 من طريق سلام، به، من غير ذكر الجنابة .

1490 - حديث صحيح . أخرجه النسائي رقم الحديث: 2699 من طريق أبي الأحوص سلام، به . وأخرجه

أحمد رقم الحديث: 24826-26033، وابن ماجه رقم الحديث: 928 من طريق أبي اسحاق، به .

1491 - حديث صحيح . أخرجه النسائي رقم الحديث: 2795 من طريق سلام، به . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 26033 من طريق أبي اسحاق، به .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ الْهَدْيُ مُقَلَّدًا وَيُقِيمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالًا مَا يَمْتَنِعُ مِنْ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ

جانور اس حال میں نکلتا کہ اس کے گلے میں ہار ہوتا اور نبی اکرم ﷺ جب حالت احرام میں نہ ہوتے تو آپ کو اپنی ازواج میں سے کسی بھی زوجہ سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہوتی۔

1492 - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَئِذٍ مُتَّابِعِينَ حَتَّى قُبِضَ

حضرت اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وصال تک لگاتار تین دن پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔

1493 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1492- حدیث صحیح . أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 2357، وفي الشمائل رقم الحدیث: 149، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 4072 من طریق المصنف . وأخرجه ابن سعد جلد 1 صفحہ 401، وأحمد رقم الحدیث: 24709، وفي الزهد (صفحہ: 30) ، ومسلم رقم الحدیث: 2970، والترمذی فی الشمائل رقم الحدیث: 143، وابن ماجه رقم الحدیث: 3346، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 4541، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 4073 من طریق شعبة، به . وأخرجه أبو یعلیٰ رقم الحدیث: 4540 من طریق اسرائیل، عن أبي اسحاق، به، نحوه . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26410، والبخاری رقم الحدیث: 6454-5416، ومسلم رقم الحدیث: 2970، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 6637، وابن ماجه رقم الحدیث: 3344، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 4539 من طریق ابراهیم، عن الأسود، به، نحوه . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26219، والبخاری رقم الحدیث: 6455، ومسلم رقم الحدیث: 2970، من طرق عن عائشة .

1493- اسنادہ ضعیف، شریک سی الحفظ، وسماع زهیر من أبي اسحاق بأخرة، وأبو اسحاق مدلس، وقد عنعن . وأخرجه ابن أبي شيبه جلد 1 صفحہ 68، وأحمد رقم الحدیث: 26256، والترمذی رقم الحدیث: 107، والنسائی رقم الحدیث: 252-428، وابن ماجه رقم الحدیث: 579، وتسام فی فوائده (214-الروض البسام)، والحاكم جلد 1 صفحہ 153، والبيهقي جلد 1 صفحہ 179، والبغوی رقم

شَرِيكٌ، وَزُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ غسل کے بعد وضو
نہیں کرتے تھے۔

1494 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ
بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَمْتَنِعُ مِنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ. يَعْنِي: يَقْبَلُهَا

حضرت اسود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ
میرے چہرہ کا بوسہ لیتے تھے اس حالت میں جبکہ آپ
روزہ سے ہوتے تھے۔

1495 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
حضرت اسود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

الحدیث: 249 من طریق شریک و حدہ بہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24922-25246، وأبو داؤد
رقم الحدیث: 250، والحاكم جلد 1 صفحہ 153، والبيهقي جلد 1 صفحہ 179 من طریق زهير و حدہ بہ .
وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26200، والنسائي رقم الحدیث: 252-428 من طریق الحسن بن صالح
عن أبي اسحاق به .

1494- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 26174، والنسائي رقم الحدیث: 1651، وفي الكبرى
رقم الحدیث: 3089 من طریق عمر بن أبي زائدة، به بلفظ: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم يتمتع من وجهي وهو صائم، وما مات حتى كان أكثر ضلته قاعدًا . وذكر النسائي خلافا فيه
على أبي اسحاق، فانظره جلد 3 صفحہ 222 . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24200، والبخاري رقم
الحدیث: 1927، ومسلم رقم الحدیث: 1106، وغيرهم من طرق عن ابراهيم، عن الأسود، وعلقمة، عن
عائشة بلفظ: (كان يقبل وهو صائم) .

1495- حدیث صحیح . أخرجه النسائي رقم الحدیث: 3625، وفي الكبرى رقم الحدیث: 6450، وأبو الشيخ
في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم (صفحہ: 305) من طریق حسن بن عياش، عن الأعمش، به
بلفظ: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درهما ولا دينارا، ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى .
وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24222، ومسلم رقم الحدیث: 1635، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2863،
والنسائي رقم الحدیث: 3623، وفي الكبرى رقم الحدیث: 6449، وابن ماجه رقم الحدیث: 2695،
وأبو يعلى رقم الحدیث: 4542، وأبو الشيخ (صفحہ: 305) من طریق أبي معاوية وغيره، عن الأعمش،

مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ

1496 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،
عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ
يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ، تَعْنِي: الْحَجَرَ، أَمِنَ
الْبَيْتِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ فَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ
يَدْخُلُوهَا الْبَيْتِ؟ قَالَ: عَجَزَ قَوْمُكَ عَنِ النَّفَقَةِ
قَالَتْ: قُلْتُ: فَلِمَ جَعَلُوا بَابَهُ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: فَعَلَ
ذَلِكَ قَوْمُكَ لِيَدْخُلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ
شَاءُوا، وَلَوْلَا أَنْ قَوْمِكَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمَا
أَخَافُ أَنْ تُنْكِرَهُ قُلُوبُهُمْ لَأَدْخَلْتُ مَا تَرَكَوْا
وَالزَّرَقْتُ بَابَهُ بِالْأَرْضِ

حضرت اسود بن یزید، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ سے حطیم کعبہ کے متعلق سوال کیا، یعنی حجر
اسود کا کہ کیا خانہ کعبہ میں شامل ہے؟ آپ ﷺ نے
فرمایا: ہاں! فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: ان لوگوں کو
کیا رکاوٹ تھی کہ انہوں نے اس کو کعبہ میں داخل نہ
کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تیری قوم کے اخراجات کم
ہو گئے تھے، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: آپ اونچا
دروازہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ
اس لیے کیا تاکہ تمہاری قوم جسے چاہے داخل ہونے
دے اور جسے چاہے روک نہ دے، اگر تیری قوم زمانہ

عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24085، والبخاري رقم
الحديث: 2741-4459، ومسلم رقم الحديث: 1636، والترمذي في الشمائل رقم الحديث: 386،
والنسائي رقم الحديث: 33-3626، وفي الكبرى رقم الحديث: 6451، وابن ماجه رقم الحديث: 1626،
والبيهقي في الدلائل جلد 7 صفحہ 226 من طريق ابن عون، عن ابراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت:
يقولون: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الى علي..... فلقد انخنت في حجري فما
شعرت انه قد مات، فمتى أوصى اليه؟

1496 - حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم الحديث: 1584-7243، والدارمي رقم الحديث: 1876، ومسلم
جلد 2 صفحہ 973، وأبو يعلى رقم الحديث: 4627، والطحاوي جلد 2 صفحہ 184، والبيهقي جلد 5
صفحہ 89 من طريق سلام، به . وأخرجه مسلم جلد 2 صفحہ 973، وابن ماجه رقم الحديث: 2955،
والطحاوي جلد 2 صفحہ 184 من طريق أشعث، به .

جاہلیت کے قریب نہ ہوتی (تو میں ایسا ضرور کرتا) اور میں نے خوف کیا کہ ان کے دل انکار نہ کریں تو جو جگہ چھوٹ گئی اس کو میں (کعبہ کے اندر) داخل کرتا اور دروازے کو زمین سے ملا دیتا۔

حضرت عبدالرحمن بن اسود اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں: گویا کہ میں اب بھی رسول اللہ ﷺ کی مانگ میں مشک کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ حالت احرام میں تھے۔

1497 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ

بْنُ مَالِكِ الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتِي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطَّيِّبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

1498 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ

حضرت اسود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سانپ اور

1497- حدیث صحیح - وفی اسنادہ ہنا انس بن مالک الکوفی، مجہول - وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (148/1 ب) من طريق المصنف - وأخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (148/5 أ) من طريق الدارقطني، باسناده عن عبد الجبار بن محمد العطاردي، عن أنس بن مالك، به - وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26172-26206، والبخاري رقم الحديث: 5923، ومسلم رقم الحديث: 1190، والنسائي رقم الحديث: 2699 من طريق عبد الرحمن بن الأسود، به .

1498- حدیث صحیح - أخرجه الطحاوي جلد 4 صفحہ 326 من طريق أبي داؤد الطيالسي، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، به - وأخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 3517 من طريق أبي الأحوص عن مغيرة، به - وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24064، ومسلم رقم الحديث: 2193 من طريق هشيم، عن مغيرة، به، بلفظ: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمة - وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 7 صفحہ 392، وأحمد رقم الحديث: 25780، والبخاري رقم الحديث: 5741، ومسلم رقم الحديث: 2193، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 7539، والطحاوي جلد 4 صفحہ 328 من طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، مثله - وانظر مصنف ابن أبي شيبة جلد 7 صفحہ 395، والفتح جلد 10 صفحہ 205-206 .

عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَخَّصَ فِي رُقِيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعُقْرَبِ

حضرت اسود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1499 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اگر کوئی عورت
مسلمانوں میں سے کسی کو پناہ دے تو دے سکتی ہے۔

عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنِ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ
لِتَجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ

حضرت اسود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1500 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ حالت جنابت میں
سو جاتے تھے اور پانی کو چھوتے تک نہیں تھے۔

سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنَامُ
وَهُوَ جُنْبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً

1499- اسنادہ صحیح . أخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 194 من طريق المصنف . وعزاه البوصيري في الاتحاف

بذيل المطالب رقم الحديث: 2620 الى المصنف . وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 8683

من طريق شعبة ' به . وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 2764 من طريق منصور ' عن ابراهيم ' به .

1500- اسنادہ صحیح . وقد أنكر الحفاظ على أبي اسحاق قوله في هذا الحديث: ولا يمس ماء . كما

سيأتي . والحديث أخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 201 من طريق المصنف . وأخرجه عبد الرزاق رقم

الحديث: 1082 ' وأحمد رقم الحديث: 24799 ' وأبو داؤد رقم الحديث: 228 ' والترمذي رقم

الحديث: 119 ' وابن ماجه رقم الحديث: 583 ' والطحاوي جلد 1 صفحہ 124 ' والبخاري في شرح السنة

رقم الحديث: 268 من طرق عن سفيان ' به . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 62 ' وأحمد رقم

الحديث: 25178-25416 ' ومسلم في التمييز (صفحہ: 181) ' والترمذي رقم الحديث: 118 '

والنسائي في الكبرى كما في التحفة جلد 11 صفحہ 379-381 ' وابن ماجه رقم الحديث: 582 '

والطحاوي جلد 1 صفحہ 125 ' والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 7589 ' من طريق عن أبي اسحاق '

به .

267- عَلْقَمَةُ بْنُ

قَيْسٍ عَنِ

عَائِشَةَ

حضرت علقمہ بن قیس کی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

سے روایت کردہ احادیث

1501 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: هَلْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ لَيْلَةَ
الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ عَمَلُهُ دِيمَةً،
وَأَيْكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: کیا رسول اللہ
ﷺ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کوئی فالتو عمل بھی
کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ
ﷺ کا عمل مبارک دائمی ہوتا تھا اور تم میں سے کون
استطاعت رکھتا ہے اس عمل کی جو رسول اللہ ﷺ
کرتے تھے۔

1502 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت علقمہ

1501- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لضعف سليمان بن معاذ. وأخرجه أحمد رقم
الحدیث: 26417، والبخاری رقم الحدیث: 6466-1987، ومسلم رقم الحدیث: 783، وأبو داؤد رقم
الحدیث: 1370، والترمذی فی الشمائل رقم الحدیث: 310، والنسائی فی الکبریٰ کما فی التحفة جلد
12 صفحہ 245، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1281، وابن حبان رقم الحدیث: 322 من طرق عن منصور،
به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25478، والبخاری رقم الحدیث: 6462-43، ومسلم رقم
الحدیث: 785-783، والترمذی رقم الحدیث: 2856، والنسائی رقم الحدیث: 5050-1641، وابن
ماجه رقم الحدیث: 4238، وابن حبان رقم الحدیث: 323، والبيهقي جلد 3 صفحہ 17، والبقوی فی
شرح السنة رقم الحدیث: 934-933 من طرق عن عائشة.

1502- حدیث صحیح. أخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 229-230 من طريق المصنف. وأخرجه النسائي رقم
الحدیث: 3091-3087 من طريق ابن أبي عدي، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24994،
والنسائي فی الکبریٰ رقم الحدیث: 3092-3088 من طريق ابن مهدي، وغندر، عن شعبة، عن الحكم،

عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَشَرِيحَ بْنَ
 آرطاة، كَانَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سَأَلَهَا عَنِ
 الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا كُنْتُ لِأَرْفُتَ
 عِنْدَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ
 لِأَرْبِهِ

اور شریح بن ارطاة دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 کے پاس تھے ان میں سے ایک کہنے لگے: تم آپ
 (حضرت عائشہ) رضی اللہ عنہا سے روزہ کی حالت میں
 بوسہ لینے کے متعلق پوچھو تو ان میں سے ایک نے کہا:
 میں ایسی گندی بات ام المؤمنین سے نہیں پوچھوں گا
 آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ بوسہ لیتے
 تھے روزہ کی حالت میں لیکن آپ کا اپنے نفس پر تم سب
 سے زیادہ کنٹرول تھا۔

1503 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ
 بْنُ رُسْتَمٍ أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ أَبُو
 الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ
 عَائِشَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَتْ: يَا أَبَا
 هُرَيْرَةَ أَنْتَ الَّذِي تُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً عُدِّبَتْ فِي
 هِرَّةٍ لَهَا رَبَطُهَا لَمْ تَطْعَمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا فَقَالَ أَبُو

حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے کہ ہمارے پاس
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے آپ رضی اللہ عنہا
 نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! آپ اس عورت والی حدیث
 بیان کرتے ہیں کہ جس کو عذاب دیا گیا تھا جس نے بلی
 کو باندھا تھا اور اس کو کھانے اور پینے کے لیے نہیں دیتی

عن ابراهيم قال: دخل علقمة 'وشريح' مرسلًا. وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 3093 من
 طريق ابراهيم عن علقمة عن رجل من النخع ولم يسمه عن عائشة .

1503- اسنادہ ضعیف، لضعف ابی عامر الخزاز . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 10738 من طريق المصنف .
 وعزاه البوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 4637 الى المصنف . وأخرجه البزار
 (3506- كشف) من طريق ابی عامر الخزاز به . وقال: لا نعلم روى علقمة عن ابی هريرة الا هذا .
 وروى من طرق عن ابی هريرة عند أحمد رقم الحديث: 8186-9892-10592، والبخاري رقم
 الحديث: 3318، ومسلم رقم الحديث: 2243، وأبى يعلى رقم الحديث: 5935-5942، وصحيح مسلم
 رقم الحديث: 904، والفتح جلد 6 صفحہ 357 . وله شاهد عن ابن عمر وجابر وغيرهما عند أحمد رقم
 الحديث: 27009-14457، والبخاري رقم الحديث: 2365-3318، ومسلم رقم الحديث: 2242، وابن
 حبان رقم الحديث: 546 .

هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَتَدْرِي مَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ مَعَ مَا فَعَلْتَ كَانَتْ كَافِرَةً، إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعَذَّبَهُ فِي هِرَّةٍ، فَإِذَا حَدَّثْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانظُرْ كَيْفَ تَحَدِّثُ

تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے وہ نبی اکرم ﷺ سے سنی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آپ کو معلوم ہے کہ وہ عورت کون تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: نہیں! آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: وہ عورت جس نے یہ کیا تھا وہ کافرہ تھی، کیونکہ مومن اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہوتا ہے، اس کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب نہیں دے سکتا، جب آپ رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے حدیث بیان کریں تو دیکھا کریں کہ کیسے بیان کر رہے ہو۔

268- هَمَّامُ بْنُ

حضرت ہمام بن حارث کی أم

المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ

عنہا سے روایت کردہ احادیث

الْحَارِثِ عَنْ

عَائِشَةَ

1504 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ حضرت ہمام

1504- حدیث صحیح، واسناد المصنف مرسل۔ وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24984 عن غندر، عن شعبة، به، مثل رواية المصنف. وخالفهما عفان ويحيى بن سعيد وبهز وغيرهم، فرووه عن شعبة، عن الحكم، عن ابراهيم، عن همام، عن عائشة. أخرجه أحمد رقم الحديث: 26309، وأبو داؤد رقم الحديث: 371 والنسائي رقم الحديث: 296، وابن خزيمة رقم الحديث: 288، والطحاوي جلد 1 صفحہ 48. وأخرجه ابن خزيمة رقم الحديث: 288، والطحاوي جلد 1 صفحہ 48، والبيهقي جلد 2 صفحہ 417 من طريقين عن الحكم، به، مثله. ورواه كذلك الأعمش ومنصور وحماد بن أبي سليمان، عن ابراهيم، به. أخرجه الشافعي في الأم جلد 1 صفحہ 56، وعبد الرزاق رقم الحديث: 1439، والحميدي رقم الحديث: 186، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 84، وأحمد رقم الحديث: 25653، ومسلم رقم الحديث: 288، والترمذي رقم الحديث: 116، والنسائي رقم الحديث: 297، وابن ماجه رقم الحديث: 538، وابن الجارود رقم

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ هَمَّامَ بْنَ الْحَارِثِ كَانَ نَازِلًا عَلَى عَائِشَةَ فَأَحْتَلَمَ، فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ، فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَائِشَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَمَا أَزِيدُ أَنْ أَفْرَكَهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بن حارث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں مہمان ٹھہرے تو اُن کو رات کو احتلام ہو گیا، آپ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) کی لونڈی نے دیکھا، تو وہ کپڑے سے احتلام کے نشانات دھورہے تھے اس نے حضرت عائشہ کو خبر دی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (نے ہمام کی طرف) کسی کو بھیجا کہ اُن کو بلوالاؤ (آپ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ) میں رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں پر کچھ دیکھتی تو ان کو صرف رگڑتی تھی۔

حضرت مسروق کی حضرت عائشہ

269- مَسْرُوقٌ

رضی اللہ عنہ سے روایت

عَنْ

کردہ احادیث

عَائِشَةَ

حضرت مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1505 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحدیث: 135، وابن خزيمة رقم الحدیث: 288، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 205-206، والطحاوی جلد 1 صفحہ 48-50، والبيهقي جلد 2 صفحہ 417، والبغوي في شرح السنة رقم الحدیث: 298. وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 84، وأحمد رقم الحدیث: 24703، ومسلم رقم الحدیث: 288، وأبو داؤد رقم الحدیث: 372، والنسائي رقم الحدیث: 299-300، وابن ماجه رقم الحدیث: 539، وابن الجارود رقم الحدیث: 136-137، وابن خزيمة رقم الحدیث: 288، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 205، والطحاوی جلد 1 صفحہ 51، وابن حبان رقم الحدیث: 1379-1380، والدارقطني جلد 1 صفحہ 125، والبيهقي جلد 2 صفحہ 416-417، والبغوي في شرح السنة رقم الحدیث: 298 من طرق عن عائشة.

1505 - حدیث صحیح أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحدیث: 11055 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد

رقم الحدیث: 24240-24736، والبخاري رقم الحدیث: 2226-4542، وأبو داؤد رقم الحدیث:

3490، والنسائي في الكبرى رقم الحدیث: 11055 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم

روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب سورۃ البقرہ کی آخری آیات اُتری تو رسول اللہ ﷺ مسجد کی طرف نکلے آپ نے اس کی تلاوت صحابہ پر کی اور شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ الْآخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهَا عَلَى النَّاسِ وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1506 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہم کو رسول

عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى، يُحَدِّثُ

الحديث: 24239' والبخاری رقم الحديث: 4540' والدارمی رقم الحديث: 2572' ومسلم رقم الحديث: 1580' وأبو داؤد رقم الحديث: 3491' وابن ماجه رقم الحديث: 3382 من طرق عن الأعمش' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25004' والدارمی رقم الحديث: 2573' والبخاری رقم الحديث: 4542-2084' ومسلم رقم الحديث: 1580' والنسائی رقم الحديث: 4679 من طريق منصور' عن أبي الضحى' به . وأخرجه البخاری رقم الحديث: 4543 من طرق منصور والأعمش' عن أبي الضحى به .

1506- حديث صحيح . أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 4267 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25440' والنسائی رقم الحديث: 3444-3202 من طريق شعبة' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26065' والبخاری رقم الحديث: 5262' ومسلم رقم الحديث: 1477' وأبو داؤد رقم الحديث: 2203' والترمذی رقم الحديث: 1179' والنسائی رقم الحديث: 3444' وابن ماجه رقم الحديث: 2052' وأبو يعلى رقم الحديث: 4372 من طرق عن الأعمش به . وأخرجه الحمیدی رقم الحديث: 234' وأحمد رقم الحديث: 25707' والدارمی رقم الحديث: 2274' والبخاری رقم الحديث: 5263' ومسلم رقم الحديث: 1477' والترمذی رقم الحديث: 1179' والنسائی رقم الحديث: 3203' وابن الجارود رقم الحديث: 740' والبيهقی جلد 7 صفحہ 345 من طريق الشعبي' عن مسروق' به . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 1477' وأبو يعلى رقم الحديث: 4371 من طريق الأسود عن عائشة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25415 من طريق ابراهيم النخعی عن عائشة .

عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَرْنَا، أَفْكَانَ طَلَاقًا؟

اللہ ﷺ نے اختیار دیا، تو ہم نے آپ کو اختیار کیا اور طلاق کو نہیں اختیار کیا۔

1507 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الضُّحَى، يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَادَ مَرِيضًا مَسَحَ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ أَوْ قَالَ: مَسَحَ عَلَى صَدْرِهِ وَقَالَ: أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَاؤِكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا "پس جب آپ اس مرض میں تھے جس میں آپ نے وصال فرمایا تو میں آپ کا ہاتھ پکڑتی، تاکہ آپ کے سینے پر رکھوں اور یہ وظیفہ پڑھوں، تو آپ

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو اس کے چہرے اور سینے کو چھوتے یا فرمایا: سینے کو چھوتے اور پڑھتے تھے: "أَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا بِشِفَاؤِكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا"

1507 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 24990، ومسلم رقم الحديث: 2191، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10934، والبيهقي جلد 3 صفحہ 381 من طريق شعبة، به . وأخرجه معمر في جامعه رقم الحديث: 19783، وأحمد رقم الحديث: 25003، والبخاري رقم الحديث: 5743، ومسلم رقم الحديث: 2191، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10848، وابن ماجه رقم الحديث: 1619، وابن حبان رقم الحديث: 2970 من طريق الأعمش، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24882، ومسلم رقم الحديث: 2191، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10849، وابن ماجه رقم الحديث: 3520 من طريق أبي الضحى، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25045، والبخاري رقم الحديث: 5675، ومسلم رقم الحديث: 2191، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10850، وابن حبان رقم الحديث: 2972 من طريق مسروق، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26443، وعبد بن حميد رقم الحديث: 1495، والبخاري رقم الحديث: 5744، ومسلم رقم الحديث: 2191، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10858-10859، وابن حبان رقم الحديث: 6099 من طريق عروة والأسود وأبي الجوزاء، عن عائشة نحوه مختصراً .

يَدِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ ادْخِلْنِي الرَّفِيقَ الْأَعْلَى

ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا:
”اللَّهُمَّ ادْخِلْنِي الرَّفِيقَ الْأَعْلَى“۔

1508 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: رسول
اللہ ﷺ ایک رات میرے پاس تھے سو میں نے آپ
کو (رات کے وقت بستر پر) گم پایا، تو میں نے گمان کیا
کہ ہو سکتا ہے آپ کسی اور بیوی کے گھر چلے گئے ہوں،
سو میں نے رات کے اندھیرے میں آپ کو تلاش کیا۔
حضرت جریر نے فرمایا: یہ الفاظ امام شعبہ نے نہیں کہے۔
آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کے پاس پہنچی اور آپ سجدہ

وَجَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِي ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَفَقَدْتُهُ،
وَوَظَنْنْتُ أَنَّهُ آتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ، فَالْتَمَسْتُهُ فِي
ظُلْمَةِ اللَّيْلِ - قَالَ جَرِيرٌ: وَلَمْ يَقُلْهُ شُعْبَةُ -
قَالَتْ: فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَوَضَعْتُ يَدِي
عَلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ

1508 - اسنادہ صحیح - وهكذا رواه المصنف عن شعبة وجرير . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25183

والنسائي رقم الحديث: 1123-1124 من طريق غندر عن شعبة، ومحمد بن قدامة بن أعين عن جرير
كلاهما عن منصور، عن هلال بن يساف، عن عائشة . والحديث عن مسروق عند النسائي رقم
الحديث: 5549 بلفظ: أعود بعفوك من عقابك، وأعود برضاك من سخطك، وأعود بك منك . وأخرجه
ابن أبي شيبة جلد 10 صفحہ 223 من طريق ابراهيم، عن عائشة، بنحو رواية المصنف . وأخرجه مالك
جلد 1 صفحہ 214، وأحمد رقم الحديث: 15696، ومسلم رقم الحديث: 486، وأبو داؤد رقم
الحديث: 879، والترمذی رقم الحديث: 3493، والنسائي رقم الحديث: 1129، وابن ماجه رقم
الحديث: 3841، وابن خزيمة رقم الحديث: 654-655-671 من طريق أبي هريرة والأعرج وعروة
ومحمد بن الحارث، عن عائشة، بلفظ: أعود برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك،
لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، ونحوه . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25219،
ومسلم رقم الحديث: 485، والنسائي رقم الحديث: 1130-3971-3972 من طريق ابن أبي مليكة، عن
عائشة، بلفظ: سبحانك وبحمدك، لا اله الا أنت . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25798 من طريق
صالح بن سعيد عن عائشة، بلفظ: رب اعط نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها
ومولاها .

وَمَا أَعْلَنْتُ

کی حالت میں تھے میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو میں نے سنا آپ دعا کر رہے تھے: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ"۔

حضرت مسروق یا حضرت عروہ بن مغیرہ حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ایک آدمی نے نبی اکرم ﷺ سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا: اللہ کا برا بندہ اور خاندان کا برا بھائی ہے پھر وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس سے خندہ پیشانی سے ملے گویا کہ اس کا آپ کے ہاں مقام تھا۔

1509 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَوْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَخُو الْعَشِيرَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، كَانَ لَهُ عِنْدَهُ مَنْزِلَةٌ

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم ﷺ کے عمل مبارک کے متعلق پوچھا تو آپ رضی

1510 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ عَمَلِ النَّبِيِّ

1509 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 24549، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10066 من طريق شعبة 'به' عن مسروق' وحده . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25445 من طريق شعبة 'به' عن عروة وحده . وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 903، وأحمد رقم الحديث: 25293، والبخاري رقم الحديث: 6032، وفي الأدب المفرد رقم الحديث: 388-755، ومسلم رقم الحديث: 2591، وأبو داؤد رقم الحديث: 4793، والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1124، والخطيب في المبهمات صفحہ 373 من طرق عن عائشة .

1510 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 3 صفحہ 3 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 25186، والبخاري رقم الحديث: 1132-6461، والنسائي رقم الحديث: 1615، والبيهقي جلد 3 صفحہ 4 من طرق عن شعبة 'به' . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26433، والبخاري رقم الحديث: 1133، ومسلم رقم الحديث: 741، وأبو داؤد رقم الحديث: 1317، والبيهقي جلد 3 صفحہ 17 من طرق عن أشعث 'به' .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ
إِلَيْهِ الدَّائِمَ قُلْتُ: فَأَيُّ حِينٍ كَانَ يَقُومُ؟ قَالَتْ: كَانَ
إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الدِّيكَ

اللہ عنہا نے فرمایا: آپ ﷺ کے ہاں سب سے
پسندیدہ عمل وہ تھا جس پر ہمیشگی ہو، میں نے عرض کی: کس
وقت آپ رات کو اٹھتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے
فرمایا: جس وقت چیخ کی آواز سنتے اٹھ جاتے۔ امام
ابوداؤد فرماتے ہیں: یعنی مرغ (کی آواز) کو۔

1511 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ
أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (وَلَقَدْ رَأَاهُ
بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ) (التكوير: 23) (وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَلَةً
أُخْرَى) (النجم: 13) فَقَالَتْ: أَنَا أَوَّلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ
قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هُوَ
جِبْرِيلُ رَأَيْتُهُ مَرَّتَيْنِ رَأَيْتُهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى وَرَأَيْتُهُ
بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد
کے متعلق پوچھا: ”وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ“
(التكوير: 23)، ”وَلَقَدْ رَأَاهُ نَزَلَةً أُخْرَى“ (النجم: 13)
آپ فرماتی ہیں: میں اس آیت کی تاویل کرتی ہوں کہ
رسول اللہ ﷺ کے لئے کہا: تو آپ نے فرمایا: وہ
جبریل امین تھے میں نے ان کو دو مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ
افق الاعلیٰ میں دیکھا اور ایک مرتبہ افق المبین میں دیکھا۔

1512 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم قربانی کا

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،

1511 - حدیث صحیح . أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 11532 من طريق يزيد بن زريع، به .
وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26082-26035، ومسلم رقم الحديث: 177، والترمذي رقم الحديث:
3068، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 11408، والطبري في التفسير جلد 27 صفحہ 50-51 من
طرق عن داؤد، به . وأخرجه البخاري رقم الحديث: 3235-4612-4855، ومسلم رقم الحديث: 177،
والترمذي رقم الحديث: 3278 من طرق عن الشعبي، به . وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث:
11147 من طريق ابراهيم النخعي، عن مسروق، به .

1512 - حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعيف، لضعف جابر الجعفی . وأخرجه الطحاوی جلد 4 صفحہ 185
من طريق شعبة، به، بلفظ عشرين . وانظر ما سیاتی برقم 1632، وانظر كذلك 1846 .

قَالَتْ: كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ عَاشِرَةِ

گوشت دسویں دن (یعنی عاشورہ محرم کی دسویں تاریخ) کے بعد بھی کھاتے تھے۔

1513 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُحِبُّ التَّيْمُنَ مَا اسْتَطَاعَ وَقَالَتْ مَرَّةً: فِي شَانِهِ
كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَوَضَّأَ وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ
وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حتی الوسع دائیں طرف سے کام کرنے کو پسند کرتے
تھے اور آپ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ فرمایا: ہر نیک
کام میں اپنی پاکی حاصل کرنے میں جب کہ آپ وضو
کرتے اور نعلین پہننے میں جب کہ آپ نعلین پہنتے اور
کنگھی کرنے میں جب کہ آپ کنگھی کرتے۔

1514 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت

1513 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 25586-25705، والبخاری رقم الحديث: 5380،

ومسلم رقم الحديث: 268، وأبو داؤد رقم الحديث: 4140، والترمذی فی الشمال رقم الحديث: 85،

والنسائی رقم الحديث: 112-419-5355، وابن خزيمة رقم الحديث: 179-244، وأبو الشيخ فی

أخلاق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ 282 من طریق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 25804، ومسلم رقم الحديث: 268، والترمذی رقم الحديث: 608، وابن ماجه رقم الحديث:

401، وابن حبان رقم الحديث: 5456، وأبو الشيخ صفحہ 282، عن طریق أشعث، به، وأخرجه النسائی

رقم الحديث: 5074، من طریق آخر عن أشعث عن الأسود عن عائشة، وقال المزی فی التحفة

جلد 11 صفحہ 375، المحفوظ حدیث أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق عن عائشة .

1514 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي فی عذاب القبر رقم الحديث: 192 من طریق المصنف . وأخرجه

أحمد رقم الحديث: 25458، والبخاری رقم الحديث: 1372، والنسائی رقم الحديث: 1307، والبيهقي

فی عذاب القبر رقم الحديث: 193 من طریق شعبة، به . وأخرجه الآجری فی الشريعة رقم الحديث:

842 من طریق أشعث، به . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 373، وأحمد رقم الحديث: 24224،

والبخاری رقم الحديث: 6366، ومسلم رقم الحديث: 586، وعبد اللہ بن أحمد فی السنة صفحہ 219،

والنسائی رقم الحديث: 2066، والآجری فی الشريعة رقم الحديث: 843، والبيهقي فی عذاب القبر

عَنْ أَشْعَثَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جَاءَتْ يَهُودِيَّةٌ إِلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَا سَمِعْتُهُ بَعْدُ يُصَلِّي صَلَاةً إِلَّا تَعَوَّذَ فِيهَا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، اس نے آپ سے سوال کیا، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: آپ کو اللہ عذابِ قبر سے محفوظ رکھے! سو نبی اکرم ﷺ تشریف لائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عذابِ قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے آپ سے ہر نماز کے بعد یہ سنا کہ آپ اس میں عذابِ قبر سے پناہ مانگتے تھے۔

1515 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ، وَعِنْدَهَا رَجُلٌ كَانَهُ كَرِهَهُ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْظُرْنَ مَا

حضرت مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے اس حالت میں کہ ایک آدمی میرے پاس تھا، گویا آپ نے اس کو ناپسند کیا، آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ میرا رضاعی بھائی ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دیکھو! کون ان کے بھائی ہیں

رقم الحدیث: 190-191 من طریق مسروق، بہ۔ وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 187، وأحمد رقم

الحدیث: 26376 والدارمی رقم الحدیث: 1535، والبخاری رقم الحدیث: 1049، ومسلم رقم

الحدیث: 586 والنسائی رقم الحدیث: 2063، وابن حبان رقم الحدیث: 2840، والآجری فی الشریعة

رقم الحدیث: 844، والبیہقی فی عذاب القبر رقم الحدیث: 114-195-195 من طرق عن عائشة .

1515- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 24676-25457 والدارمی رقم الحدیث: 2261،

والبخاری رقم الحدیث: 5102، ومسلم رقم الحدیث: 1455، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2058، والبغوی

فی شرح السنة رقم الحدیث: 2285 من طرق عن شعبة، بہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25832،

والبخاری رقم الحدیث: 2647، ومسلم رقم الحدیث: 1455، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2058،

والنسائی رقم الحدیث: 3312، وابن ماجه رقم الحدیث: 1945، وابن الجارود رقم الحدیث: 691 من

طرق عن أشعث، بہ .

إِخْوَانُكُمْ، فَإِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ

کیونکہ رضاعی بھائی (بچپن میں) دودھ پینے سے ہوتا ہے۔

270- الْقَاسِمُ

حضرت قاسم کی حضرت عائشہ

عَنْ

رضی اللہ عنہ سے روایت

عَائِشَةَ

کردہ احادیث

1516 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد سے 'وہ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ

الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ

آپ نے فرمایا: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کے

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا هُوَ إِلَّا

لیے نکلے جب میں مقام سرف پہنچی تو مجھے حیض آ گیا سو

الْحَجُّ، فَلَمَّا كُنْتُ بِسَرِفٍ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ

رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَبْكِي

تھی مجھ سے آپ نے فرمایا: تم کیوں رو رہی ہو؟ میں

فَقَالَ لِي: مَا يُبْكِيكَ قُلْتُ: حِضْتُ، وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ

نے عرض کی: مجھے حیض آ گیا ہے اب میں حج نہیں کر

أَكُنْ حَاجِبَةً، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ

سکوں گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ! یہ وہ شی

كَتَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، انْصَبِي

ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی

1516 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 25880، ومسلم رقم الحديث: 1211، وأبو داؤد رقم

الحديث: 1782 من طرق عن حماد، به . وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 410-411، والشافعی فی مسنده

جلد 1 صفحہ 605، والحمیدی رقم الحديث: 206، وأحمد رقم الحديث: 26388، والدارمی رقم

الحديث: 1853، والبخاری رقم الحديث: 294-305-1650، ومسلم رقم الحديث: 1211، والنسائی

رقم الحديث: 289، وابن ماجه رقم الحديث: 2963، وابن خزيمة رقم الحديث: 2905، وابن حبان رقم

الحديث: 3835-3834، والبيهقی جلد 1 صفحہ 308 من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به .

وأخرجه البخاری رقم الحديث: 1560-1787، ومسلم رقم الحديث: 1211، وأبو داؤد رقم الحديث:

2005-2006، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 4232 من طرق عن القاسم، به مطولاً ومختصراً .

الْمَنَاسِكُ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ
قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ جَعَلَهَا
عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقْرَ، فَلَمَّا كَانَ
لَيْلَةَ النَّفْرِ طَهَّرْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ
صَوَاحِبِي بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَارْجِعْ بِحَجٍّ، فَبَعَثَ مَعِيَ
ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْتَمَرْتُ مِنَ التَّعِيمِ

بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، تو تمام مناسک حج ادا کر سوائے
طواف کعبہ کے۔ فرمایا کہ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو
رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: تم میں سے جو
چاہے اسے عمرہ بنا لے جس کے پاس قربانی کا جانور ہو۔
اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے
ذبح کی، پھر جب واپس جانے کی رات ہوئی میں حیض
سے پاک ہو گئی، تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ!
میرے ساتھ والے حج اور عمرہ دونوں کر کے جا رہے ہیں،
اور میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں، پس میرے ساتھ
آپ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو
بھیجا، تو میں نے تنعیم کے مقام سے عمرہ کا احرام باندھا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نہ عشاء سے پہلے سوتے تھے اور نہ عشاء کے
بعد گفتگو کرتے تھے۔

1517 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّائِفِيُّ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْعَتَمَةِ وَلَا سَمَرَ بَعْدَهَا

1517- حدیث صحیح، واسناد المصنف لیس بالقوی، لحال عبد اللہ بن عبد الرحمن الطائفی . وأخرجه
أحمد رقم الحديث: 26323، وابن ماجه رقم الحديث: 702، وأبو يعلى رقم الحديث: 4784، والبيهقي
جلد 1 صفحہ 451-452 من طريق الطائفی، به . ووقع في سنن البيهقي: (عبد اللہ بن عامر الطائفی)
ومثله في مختصره للذهبي جلد 1 صفحہ 442 . وأخرجه ابن حبان رقم الحديث: 5547 من طريق هشام
بن عروة، عن أبيه، عن عائشة . وأخرجه البزار (378- كشف) من طريق ابن أبي مليكة، عن عروة،
عن عائشة . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2137 عن ابن جريج قال: حدثني من أصدق عن
عائشة . وأخرجه أبو يعلى رقم الحديث: 4878، والبيهقي جلد 1 صفحہ 452 من طريق أبي حمزة
عيسى بن سليم، عن عائشة، ولم يدر كها .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے

رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا، اس حالت میں جبکہ وہ وصال فرما چکے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور

رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کرتے تھے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضرت امام شعبہ نے فرمایا کہ یہ (حدیث) مجھے پسند ہے کیونکہ انہوں نے ”مِنَ الْجَنَابَةِ“ کہا ہے۔

1518 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ،

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ

1519 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ شُعْبَةُ: يُعْجِبُنِي، لِأَنَّهُ قَالَ: مِنَ الْجَنَابَةِ

حضرت عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد سے وہ

1520 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1518 - اسنادہ ضعیف، قید بن الربیع و عاصم بن عبید اللہ ضعیفان . و اخرجہ أبو نعیم فی الحلیة جلد 1 صفحہ 105 من طریق المصنف . و اخرجہ أحمد رقم الحدیث: 25753 و عبد بن حمید رقم الحدیث: 1524 و أبو داؤد رقم الحدیث: 3163 و الترمذی رقم الحدیث: 9189 و فی الشمائل رقم الحدیث: 326 و ابن ماجہ رقم الحدیث: 1456 و البیہقی جلد 3 صفحہ 407 و البغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 1470 من طریق الثوری، عن عاصم بن عبید، به . و قال الترمذی: حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح .

1519 - حدیث صحیح . اخرجہ أحمد رقم الحدیث: 25433 و البخاری رقم الحدیث: 263 و النسائی رقم الحدیث: 410-233 و ابن خزيمة رقم الحدیث: 250 و ابن حبان رقم الحدیث: 1262-1264 من طرق عن شعبة، به . و اخرجہ أحمد رقم الحدیث: 25634 و البخاری رقم الحدیث: 261 و مسلم رقم الحدیث: 321 و النسائی رقم الحدیث: 409 و ابن حبان رقم الحدیث: 1111 و البیہقی جلد 1 صفحہ 194 من طرق عن القاسم بن محمد، به .

1520 - حدیث صحیح . اخرجہ مسلم رقم الحدیث: 1504 و ابن ابی حاتم فی مقدمة الجرح جلد 1 صفحہ 164 و البیہقی جلد 7 صفحہ 220 من طریق المصنف . و اخرجہ أحمد رقم الحدیث: 25432

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا، وَأَرَادَ مَوْلَاهَا أَنْ يَشْتَرِيَهَا مَوْلَاهُ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَتْ: وَأَتَى بِلَحْمٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَهْدَيْتُهُ لِنَا بَرِيرَةَ، تُصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ قَالَ: وَخَيْرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا قَالَ شُعْبَةُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَهْوَ حُرٌّ أَمْ عَبْدٌ؟ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ: إِنِّي أَتَقَى أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْإِسْنَادِ فَسَلُهُ أَنْتَ، قَالَ: وَكَانَ فِي خُلُقِهِ، فَقَالَ لَهُ سِمَاكُ بَعْدَ مَا حَدَّثْتَ: أَحَدَثَكَ هَذَا أَبُوكَ عَنْ عَائِشَةَ؟ فَقَالَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بریرہ (رضی اللہ عنہا) کو آزاد کرنے کے لیے خریدا اور اس کے موالیوں نے ولاء کی شرط لگائی تو حضرت عائشہ نے اس کا ذکر نبی اکرم ﷺ سے کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو خریدو اور آزاد کر دو کیونکہ ولاء اس کے لیے ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں: اور گوشت لایا گیا آپ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی: یہ ہدیہ ہے جو حضرت بریرہ نے ہم کو دیا ہے جو ان پر صدقہ کیا گیا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ کہا: اور انہیں (حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو) اختیار دیا گیا اور ان کا شوہر آزاد تھا۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں: پھر میں نے اس کے بعد آپ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: میں

والبخاری رقم الحديث: 2578، ومسلم رقم الحديث: 1075-1504، والنسائي رقم الحديث: 3454-4675، وغيرهم من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24883، ومسلم رقم الحديث: 1190، وأبو داؤد رقم الحديث: 2234، والنسائي رقم الحديث: 3453، وغيرهم من طريق سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24233-24883، ومسلم رقم الحديث: 1504-1075، والدارمي رقم الحديث: 2295-2296، وأبو داؤد رقم الحديث: 2234، والنسائي رقم الحديث: 3448-3453، وابن خزيمة رقم الحديث: 2449، وابن حبان رقم الحديث: 4269 من طريق هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 562، وأحمد رقم الحديث: 25507، والبخاری رقم الحديث: 5279، ومسلم رقم الحديث: 1504-1075، والنسائي رقم الحديث: 3447، وابن ماجه رقم الحديث: 2076، وابن حبان رقم الحديث: 5116، والبيهقي جلد 6 صفحہ 161 من طرق عن القاسم، به.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ: نَعَمْ، فَلَمَّا خَرَجَ، قَالَ لِي سِمَاكَ: يَا
 شُعْبَةُ اسْتَوْتَقْتُ لَكَ مِنْهُ

نہیں جانتا کہ وہ آزاد تھے یا غلام؟ حضرت شعبہ فرماتے
 ہیں: میں نے حضرت سماک بن حرب سے عرض کی: میں
 ڈرتا ہوں کہ میں ان سے اس کی سند کے متعلق پوچھوں،
 آپ ان سے پوچھیں اور یہ ان کے اخلاق میں سے ہے
 تو ان کو حضرت سماک نے بتایا اسے کرنے کے بعد کہا:
 یہ آپ کے ابو حضرت عائشہ سے بیان کرتے ہیں۔ تو
 حضرت عبدالرحمن نے فرمایا: ہاں! پس جب وہ چلے گئے
 تو مجھے حضرت سماک نے کہا: اے شعبہ! میں نے ان
 سے آپ کے لیے پختگی لے لی ہے۔

حضرت قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول
 اللہ ﷺ کو خوشبو لگاتی تھی، حلال ہونے کے وقت بھی
 (یعنی بغیر حالت احرام کے وقت) اور احرام کے وقت
 بھی۔

1521 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ

بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
 عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِحْلَالِهِ وَعِنْدَ إِحْرَامِهِ

1521- حدیث صحیح، واسنادہ المصنف ضعیف، لحال عباد بن منصور، ولکنہ قد توبع. وأخرجه الطبرانی

فی مسند الشامیین جلد 2 صفحہ 269 من طریق المصنف. وخالف المصنف محمد بن بکر، فرواه عن

عباد بن منصور، عن عطاء عن عائشة. ذكره الدارقطني في العلل (5 ب/رق: 34-أ). وأخرجه أحمد

رقم الحدیث: 25566 من طریق عباد بن منصور، عن القاسم ويوسف بن مارك وعطاء بن أبي رباح، عن

عائشة. قال الدارقطني: فصح القولان جميعا عن عباد. وأخرجه الحميدي رقم الحدیث: 210-212

وأحمد رقم الحدیث: 25563-25563، والدارمی رقم الحدیث: 1810، والبخاری رقم الحدیث:

1539-1754، ومسلم رقم الحدیث: 1190، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1745، والترمذی رقم الحدیث:

917، والنسائی رقم الحدیث: 2684، وابن ماجه رقم الحدیث: 2926، وأبو يعلى رقم الحدیث: 4712

وابن خزيمة رقم الحدیث: 2581، وابن حبان رقم الحدیث: 3766، والبيهقي جلد 5 صفحہ 34 من طرق

عن القاسم، به.

1522 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَحِيضَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ قُلْتُ: مَنْ أَمَرَهَا،
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَسْتُ أُحَدِّثُكَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا
قَالَتْ: فَأَمَرْتُ أَنْ تُؤَخَّرَ الظُّهْرَ، وَتُعَجَّلَ العَصْرَ،

حضرت عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد سے وہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ مبارک میں
ایک عورت مستحاضہ ہو گئی، اسے حکم دیا گیا، میں نے عرض
کی: اس کو کس نے حکم دیا؟ نبی اکرم ﷺ نے؟ فرمایا
کہ میں آپ کو نبی اکرم ﷺ کے حوالہ سے کوئی نہیں
بیان کروں گا، فرماتی ہیں کہ اسے حکم دیا گیا کہ تو ظہر کو

1522- اسنادہ صحیح . أخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 352 والخطيب في المبهمات صفحہ 126 من طريق

المصنف . وقال البيهقي: ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة ، وفيه: قال: فقلت لعبد الرحمن: عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: لا أحدثك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء . وكذلك قاله
النضر بن شميل عن شعبة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25430 والدارمي رقم الحديث: 783 وأبو
داؤد رقم الحديث: 294 والنسائي رقم الحديث: 358 والبيهقي جلد 1 صفحہ 352 من طرق عن شعبة
به . ورواه محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن عن أبيه بلفظ: (فأمرها النبي صلى الله عليه وآله
وسلم.....) وسمى المستحاضة سهلة بنت سهيل . أخرجه أحمد رقم الحديث: 24923-25130 والدارمي
رقم الحديث: 782-790 وأبو داؤد رقم الحديث: 295 والبيهقي جلد 1 صفحہ 352 . وقال
البيهقي: خالف محمد بن اسحاق شعبة في رفعه ' وسمى المستحاضة . ونقل البيهقي عن أبي بكر بن
اسحاق عن بعض مشايخه أنه قال: لم يسند هذا الخبر غير محمد بن اسحاق ولم يذكر شعبة النبي
صلى الله عليه وآله وسلم وانكر أن يكون الخبر مرفوعا وأخطأ أيضا في تسمية المستحاضة . قال
الحافظ في التخليص جلد 1 صفحہ 171 وقيل: ان ابن اسحاق وهم فيه . وأخرجه النسائي رقم
الحديث: 359 والبيهقي جلد 1 صفحہ 353 من طريق الثوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه
عن زينب بنت جحش فجعله من مسند زينب بنت جحش ورفعه . وأخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 353
والخطيب في المبهمات صفحہ 126 من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه ' مرسلًا
أن امرأة من المسلمين استحاضت فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم..... فذكر الحديث
مرفوعًا .

وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتُوَخَّرَ الْمَغْرِبَ،
وَتُعَجَّلَ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا،
وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ غُسْلًا

مؤخر کر اور عصر کی نماز میں جلدی کر اور ان دونوں کے
لیے غسل ایک ہی ہے اور مغرب کو مؤخر کر اور عشاء کی
نماز میں جلدی کر اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کر اور
فجر کی نماز کے لیے ایک غسل کر۔

حضرت قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ
ﷺ کے کپڑوں سے منی دیکھتی تو کھرچ دیتی تھی اور
اس جگہ کو دھوتی نہیں تھی۔

حضرت قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول
اللہ ﷺ ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے۔

حضرت قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1523 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ

بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ
رَأَيْتُنِي أَفْرُكُ الْجَنَابَةَ عَنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَغْسِلُ مَكَانَهُ

1524 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ

بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ
أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ
الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ

1525 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1523- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لضعف عباد بن منصور . وأخرجه ابن خزيمة رقم
الحدیث: 288، والبيهقي جلد 2 صفحہ 417 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26308
من طريق أبي قطن، عن عباد، به . وأخرجه ابن خزيمة رقم الحدیث: 288، وأبو عوانة جلد 1
صفحہ 204، والطحاوی جلد 1 صفحہ 51، والبيهقي جلد 2 صفحہ 417 من طريقين عن القاسم، به .

1524- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، کسابقہ .

1525- حدیث صحیح . أخرجه أبو عوانة جلد 4 صفحہ 17 من طريق المصنف بلفظه . وأخرجه أحمد رقم
الحدیث: 26075-26372، والبخاری رقم الحدیث: 2697، ومسلم رقم الحدیث: 1718، وأبو داؤد
رقم الحدیث: 4606، وابن ماجه رقم الحدیث: 14، وأبو عوانة جلد 4 صفحہ 18، وابن حبان رقم
الحدیث: 26-27، والدارقطنی جلد 4 صفحہ 225، والبيهقي جلد 10 صفحہ 119، والبعوی فی شرح
السنة رقم الحدیث: 103 من طرق عن ابراهيم بن سعد، به، بلفظ: من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه
فهو رد . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25511-26234، والبخاری فی خلق أفعال العباد رقم

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ہمارے دین میں ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے معاملہ (شریعت) میں جائز نہیں، تو وہ مردود ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ایک ایسے کپڑے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے جو سامنے لٹک رہا تھا، جس میں تصویریں تھیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو مجھ سے دور کر لو! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: سو ہم نے اس کے تکیے بنا لیے۔

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ فَعَلَ فِي أَمْرِنَا مَا لَا يَجُوزُ فَهُوَ رَدٌّ

1526 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى ثَوْبٍ مَمْدُودٍ إِلَى سَهْوَةٍ لَنَا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَقَالَ: أَخْرِي هَذَا عَنِّي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَعَلْنَاهُ وَسَائِدًا

الحديث: 29، ومسلم رقم الحديث: 1718، وأبو داؤد رقم الحديث: 4606، وابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 52-53، وأبو عوانة جلد 4 صفحہ 18-19، والدارقطني جلد 4 صفحہ 227 من طرق عن سعد بن ابراهيم، به . وأخرجه الدارقطني جلد 4 صفحہ 227 من طريق آخر عن القاسم، به .

1526 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 25431، والدارمي رقم الحديث: 2665، ومسلم رقم الحديث: 2106، والنسائي رقم الحديث: 760، وابن خزيمة رقم الحديث: 844، وغيرهم من طرق عن شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25881، والبخاري رقم الحديث: 2479-5954، ومسلم رقم الحديث: 2107، والنسائي رقم الحديث: 5371، وابن ماجه رقم الحديث: 3653، وابن حبان رقم الحديث: 5860، والبيهقي جلد 7 صفحہ 269، والبعغوي في شرح السنة رقم الحديث: 3215 من طرق عن عبد الرحمن، به، بنحوه . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26146، والطحاوي جلد 4 صفحہ 283، وابن حبان رقم الحديث: 5843 من طريق أسامة بن زيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أمه أسماء بنت عبد الرحمن، عن عائشة، نحوه . وأخرجه معمر في جامعه رقم الحديث: 19484، وابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 483، وأحمد رقم الحديث: 25672، والبخاري رقم الحديث: 6109، ومسلم رقم الحديث: 2107، وابن حبان رقم الحديث: 5847، والطحاوي جلد 4 صفحہ 283، والبيهقي جلد 7 صفحہ 267 من طرق الزهري وغيره، عن القاسم بن محمد، به .

1527 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ

بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَهُوَ مَيِّتٌ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي هَذَا الْإِسْنَادِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ بَكَى حَتَّى رَأَيْتُ الدَّمُوعَ تَجْرِي عَلَى خَدَّيْهِ

حضرت قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا، جبکہ ان کا وصال ہو چکا تھا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ حضرت اشعث بن سعید نے اس حدیث کی اسناد میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے جب بوسہ لیا، تو آپ روئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے دونوں رخساروں پر آنسو بہتے دیکھے۔

1528 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

جُوَيْرِيَةُ بِنُ أَسْمَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ وَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ الْكِرَاهِيَةَ فِي وَجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اتُّوبُ

حضرت قاسم بن محمد نے فرمایا کہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک پردہ خریدا، جس میں تصویریں تھیں، پس نبی اکرم ﷺ تشریف لائے، تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور اندر داخل نہیں ہوئے، سو میں نے ناپسندیدگی کے آثار آپ کے چہرے سے پہچان لیے، میں نے عرض

1527- اسنادہ ضعیف لضعف قیس وعاصم وأشعث، سبق تخريجه .

1528- حديث صحيح . أخرجه البخاری رقم الحديث: 5957 من طريق جویریة ابن أسماء، به . وأخرجه

مالك جلد 2 صفحہ 966، وأحمد رقم الحديث: 24462-24554-25911-26132، والبخاری رقم

الحديث: 5961-7557، ومسلم رقم الحديث: 2107، والنسائی رقم الحديث: 5377، وابن ماجه رقم

الحديث: 2151، والطحاوی جلد 4 صفحہ 282-283، وابن حبان رقم الحديث: 5845، والبيهقی

جلد 7 صفحہ 270 من طرق عن نافع، به، وبعض الطرق مختصر . وأخرجه الحمیدی رقم الحديث:

251، وأحمد رقم الحديث: 24607، والدارمی رقم الحديث: 2665، والبخاری رقم الحديث: 6109،

ومسلم رقم الحديث: 2107، والنسائی رقم الحديث: 5378، وابن ماجه رقم الحديث: 3653، وابن

خزيمة رقم الحديث: 844 من طرق عن القاسم، به، نحوه مطولاً ومختصراً .

إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَرَّتَيْنِ مَاذَا آتَيْتُ؟ قَالَ: مَا هَذِهِ
النُّمْرُقَةُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرَيْتُهَا لِتَجْلِسَ
عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ يُعَذَّبُونَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَإِنَّ الْبَيْتَ
الَّذِي فِيهِ مِثْلُ هَذِهِ الصُّورِ - أَوِ الصُّورَةِ - لَا
تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

کی: یا رسول اللہ! میں اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دو مرتبہ
توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ
پردہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے
اس لیے خریدا ہے تاکہ اس پر آپ بیٹھیں اور ٹیک
لگائیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک وہ لوگ
جو تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا
جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ ان کو زندہ کرو جن کو تم
نے بنایا، اور وہ گھر جس میں اس طرح کی تصاویر ہوں یا
تصویر ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

1529 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

حضرت عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد سے وہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ
آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا: اے
میری بیٹی! یہ دن کون سا ہے؟ میں نے عرض کی: یہ پیر کا
دن ہے، آپ نے فرمایا: کون سے دن رسول اللہ ﷺ کا
وصال ہوا تھا؟ میں نے عرض کی: پیر کے دن۔

بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ
أَبُو دَاوُدَ: وَحَدَّثَنَا أَيضًا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: قَالَ لِي أَبِي: أَيُّ بُنْيَةِ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟
قُلْتُ: هَذَا يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ قَالَ: فَأَيُّ يَوْمٍ مَاتَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ

1530 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت قاسم بن محمد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ

1529- حدیث صحیح . وفی اسنادی المصنف سمية، وهی مجهولة، والرجل الميهم من أهل مكة، ولم أقف
عليه من هذين الوجهين عن عائشة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25049، وعبد بن حميد رقم
الحديث: 1493، والبخاري رقم الحديث: 1387، وابن حبان رقم الحديث: 6615، والنطبراني رقم
الحديث: 40، والبيهقي في الدلائل جلد 7 صفحہ 233 من طريق عروة، عن عائشة، قالت: قال لي أبو
بكر: أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت: يوم الاثنين . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 24834 من طريق القاسم، عن عائشة .
1530- اسنادہ ضعیف، موسی بن تلیدان لم أعرفه، وقد يكون ابن سخبرة كما سياتي . وأخرجه أبو نعیم فی

عنها سے بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ بابرکت وہ نکاح ہے جو تھوڑے سے پیسوں سے ہو میرے والد نے ان سے پوچھا: اے عائشہ! کیا تو رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے خبر دے رہی ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھ سے ایسے ہی حدیث بیان کی گئی ہے اور اسی طرح میں نے یاد کی ہے۔

حضرت قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجنون، نفاس والی عورتیں اور پیٹ کی بیماری میں مرنے والے شہید ہیں، میرے والد نے ان سے کہا: حضرت عائشہ نے تجھ سے یہ رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے یہ حدیث بیان کی ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھ سے انہوں نے اسی طرح بیان

مُوسَى بْنِ تَلِيدَانَ مِنْ آلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَعْظَمُ النِّكَاحِ بَرَكَهَ إِيسَرُهَا مَثُونَةً فَقَالَ لَهُ أَبِي: أَعَائِشَةُ أَخْبَرْتِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثْتُ وَهَكَذَا حَفِظْتُ

1531 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

مُوسَى بْنُ تَلِيدَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: الطَّعِينُ وَالْمَجْنُونُ وَالنَّفْسَاءُ وَالْبَطْنُ شَهَادَةٌ فَقَالَ لَهُ أَبِي: عَائِشَةُ حَدَّثَتْكَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثْتَنِي وَهَكَذَا حَفِظْتُ

الحلية جلد 2 صفحہ 186، والخطيب في الموضح جلد 1 صفحہ 297 من طريق المصنف . ورواه حماد بن سلمة، عن ابن سخبيرة، عن القاسم، عن عائشة، مرفوعًا . أخرجه أحمد رقم الحديث: 25162، وابن أبي عمير العدني وأحمد بن منيع في مسنديهما كما في الاتحاف بذيل المطالب للبوصيري (3/2/1906) والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 9274، والحاكم جلد 2 صفحہ 178، وأبو نعيم في الحلية جلد 2 صفحہ 186، والبيهقي جلد 7 صفحہ 235، والخطيب في الموضح جلد 1 صفحہ 297 من طرق عن حماد، به . وعند الحاكم: عمر بن طفيل بن سخبيرة . وعند البيهقي عن الحاكم: عمرو بن طفيل بن سخبيرة . وفي الحلية: يزيد بن سخبيرة . وانظر أطراف المسند جلد 9 صفحہ 203 . وأخرجه ابن منيع وابن أبي شيبة وأبو يعلى في مسانيدهم كما في الاتحاف (6-4/1906) والخطيب جلد 1 صفحہ 297 من طريق يزيد بن هارون، عن عيسى بن ميمون، عن القاسم، به، مرفوعًا كذلك .

1531- اسنادہ ضعیف، کسابقہ . وعزاه الحافظ في المطالب (3/2098) الى المصنف، ولم أقف عليه عند

غيره . وللحديث شواهد كثيرة في الصحيحين وغيرهما . انظر ما سبق برقم 563-579-583 .

وانظر الفتح جلد 6 صفحہ 42-44، والتلخيص الحبير جلد 2 صفحہ 141 .

کیا اور اسی طرح میں نے یاد کی ہے۔

حضرت قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو رات کے اوّل حصہ میں (بستر پر) نہ پایا تو میں نے گمان کیا کہ آپ اپنی کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں گے سو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے جنت بقیع کی طرف گئی، آپ نے کہا: ”السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُمْ ثُمَّ التَّفَّتْ فَرَأَتْ، فَقَالَ: وَيْحَهَا لَوْ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا تَفْعَلَ مَا فَعَلَتْ“ پھر آپ نے توجہ فرمائی تو آپ نے مجھے دیکھا، آپ نے فرمایا: تیری

1532 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ أَتَى بَعْضَ نِسَائِهِ فَتَبِعْتُهُ فَأَنْتَهَى إِلَى الْبَقِيعِ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا بِكُمْ لَاحِقُونَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُمْ ثُمَّ التَّفَّتْ فَرَأَتْ، فَقَالَ: وَيْحَهَا لَوْ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا تَفْعَلَ مَا فَعَلَتْ

1532- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لضعف عاصم، وقد اختلف على شريك في هذا الحديث

فأخرجه أحمد رقم الحديث: 24519 عن الأسود بن عامر، عن شريك، عن عاصم، عن القاسم، به .
وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24845 عن الأسود كذلك، عن شريك، عن يحيى ابن سعيد، عن القاسم، به .
وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24469، وأبو داؤد كما في التحفة جلد 1 صفحہ 449، والنسائي رقم الحديث: 3975، وابن ماجه رقم الحديث: 1546 من طريق ابراهيم بن أبي العباس ومحمد بن الصباح واسماعيل بن موسى وعلي بن حجر، عن شريك، عن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن عائشة .
وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25510، ومسلم رقم الحديث: 974، وأبو داؤد كما في التحفة جلد 12 صفحہ 241، والنسائي رقم الحديث: 2038، وفي الكبرى رقم الحديث: 10931 من طريق زهير واسماعيل ابن جعفر وعبد العزيز، عن شريك، عن عطاء بن يسار، عن عائشة، نحوه .
وروى عن عائشة من وجهين آخرين، فأخرجه أحمد رقم الحديث: 25897، ومسلم رقم الحديث: 974، والنسائي رقم الحديث: 3974-3973-2036، من طريق محمد بن قيس بن مخزومة، عن عائشة، نحوه مطولاً .
وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 242، وأحمد رقم الحديث: 24656، والنسائي رقم الحديث: 2037 من طريق علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة نحوه، وفيه أن عائشة رضی اللہ عنہا أمرت جاريتها بريرة بتتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم .

بربادی ہو! اگر تو طاقت رکھتی تو ایسے نہ کرتی جو تو نے کیا ہے۔

حضرت قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے چٹائی پکڑاؤ! تو انہوں نے عرض کی: میں حالت حیض میں ہوں، آپ نے فرمایا: حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو میں نے آپ کو وہ پکڑا دی۔

1533 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: نَاوِلِيْنِي الْخُمْرَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَتِكَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ فَنَاوَلْتَهَا إِيَّاهُ

حضرت قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کو خوشبو لگاتی حالت احرام کے علاوہ بھی اور حالت احرام میں بھی۔

1534 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِلِّهِ وَلِحُرْمِهِ

1533- حدیث صحیح . أخرجه أبو عوانة جلد 1 صفحہ 313، والبيهقي جلد 1 صفحہ 186 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24739-25443، والدارمی رقم الحديث: 777-1076، وابن حبان رقم الحديث: 1358 من طريق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24230-25961، ومسلم رقم الحديث: 298، وأبو داؤد رقم الحديث: 261، والترمذی رقم الحديث: 134، والنسائی رقم الحديث: 271، وفي الكبرى رقم الحديث: 258 من طرق عن الأعمش، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24876، ومسلم رقم الحديث: 298، والنسائی في الكبرى رقم الحديث: 258 من طرق عن ثابت بن عبيد، به .

1534- حدیث صحیح أخرجه أحمد رقم الحديث: 25859، والنسائی في الكبرى رقم الحديث: 4161 من طريق ابن علية عن أيوب، به . وقد اختلف على أيوب فيه، فأخرجه النسائی في الكبرى رقم الحديث: 4162 عن عبد الله ابن محمد الضعيف، عن عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، به . وأخرجه النسائی في الكبرى رقم الحديث: 4163 من الطريق السابق نفسه، عن أيوب، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة . وانظر العلل للدارقطني (5/ب/ق: 33-ب) .

1535 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ: (آيَاتُ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أَمْ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ) (آل عمران: 7) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ سَمَّاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ قَالَهَا ثَلَاثًا

حضرت قاسم بن محمد، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: ”آيَاتُ مُحْكَمَاتٍ هُنَّ أَمْ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٍ“ (آل عمران: 7) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے تمہارے لیے ان کے نام رکھے ہیں، سو جب تم ان کو دیکھو تو ان سے ڈرو یہ جملہ آپ نے تین مرتبہ فرمایا۔

1536 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ

حضرت قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1535- حدیث صحیح . أخرجه الآجری فی الشریعة رقم الحدیث: 770، وابن أبی حاتم فی التفسیر جلد 2 صفحہ 64، ولاطبری فی تفسیرہ جلد 3 صفحہ 179، والآجری فی الشریعة رقم الحدیث: 771 من طرق عن حماد، به . وقال أبو نعیم: رواه حماد بن سلمة أيضًا، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة . تفرد به الوليد بن مسلم . وقد تابع يزيد بن ابراهيم حمادًا عليه عن ابن أبي مليكة، وهو الحدیث الآتی . وخالفهما أبو یوب وروح بن القاسم ونافع بن عمر وحماد بن یحیی الأبیح وأبو عامر الخزاز، فرووه عن ابن أبی ملیكة، عن عائشة، بدون ذکر القاسم . أخرجه عبد الرزاق فی التفسیر جلد 1 صفحہ 116، وسعيد بن منصور فی التفسیر رقم الحدیث: 492، وأحمد رقم الحدیث: 24256، والترمذی رقم الحدیث: 2993، وابن ماجه رقم الحدیث: 47، والطبری جلد 3 صفحہ 178-180، وابن حبان رقم الحدیث: 76، والآجری فی الشریعة رقم الحدیث: 42-149-151، والبيهقی جلد 6 صفحہ 546 .

1536- حدیث صحیح . أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 2993 من طریق المصنف . وقال: حسن صحیح . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26240، والبخاری رقم الحدیث: 4547، ومسلم رقم الحدیث: 2665، وأبو داؤد رقم الحدیث: 4598، والترمذی رقم الحدیث: 2994، والطبری جلد 3 صفحہ 179، وابن أبی حاتم فی التفسیر جلد 2 صفحہ 64، وابن حبان رقم الحدیث: 73، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 2 صفحہ 185 من طرق عن يزيد بن ابراهيم، به . وانظر بقية تخريجه في الحديث السابق .

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس آیت کے متعلق پوچھا: ”فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ“ تو آپ نے فرمایا: اللہ نے تمہارے لیے ان کے نام رکھے ہیں پس جب تم ان کو دیکھو تو ان سے بچو۔

حضرت قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو قعیس نے مجھ سے (گھر میں داخل ہونے کی) اجازت مانگی فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو اجازت دینا ناپسند کیا، سو میرے پاس نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو میں نے اس کے متعلق آپ سے سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو اجازت دے دو! کیونکہ وہ تمہارا چچا ہے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے دودھ عورت نے پلایا ہے، مرد نے نہیں پلایا۔ آپ نے فرمایا: اس کو اجازت دے دو! کیونکہ وہ تمہارا چچا ہے۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں: ابو قعیس ایلح کے بھائی اس عورت کے شوہر تھے جس کا دودھ حضرت عائشہ نے پیا تھا۔

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ) (آل عمران: 7) الْآيَةَ فَقَالَ قَدْ سَمَاهُمُ اللَّهُ لَكُمْ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاحْذَرُوهُمْ

1537 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَادُ

بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا قُعَيْسٍ، اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ائْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمَّكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ وَإِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: فَأْذِنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمَّكَ قَالَ: وَكَانَ أَبُو قُعَيْسٍ أَخَا أَفْلَحَ زَوْجِ ظَنْرِ عَائِشَةَ

1537- حدیث صحیح و اسناد المصنف ضعیف، لضعف عباد بن منصور . وأخرجه أحمد رقم الحديث:

25865، وابن الأثير في أسد الغابة جلد 6 صفحہ 254 من طريق عباد، به . وأخرجه مالك جلد 2

صفحہ 602، والحمیدی رقم الحديث: 229-230، وأحمد رقم الحديث: 24100، والدارمی رقم

الحديث: 2254، والبخاری رقم الحديث: 5103-5238-6156، ومسلم رقم الحديث: 1445، وأبو

داؤد رقم الحديث: 2057، والترمذی رقم الحديث: 1148، والنسائی رقم الحديث: 3315-3318،

وابن ماجه رقم الحديث: 1948-1949 من طريق عروة، عن عائشة .

271- عُرْوَةُ بْنُ

الزُّبَيْرِ عَنِ

عَائِشَةَ

حضرت عروہ بن زبیر کی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

سے روایت کردہ احادیث

1538 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِيَّارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِطَبِيبَةٍ خَرَزِيٍّ
فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِحضرت عروہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ
عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس
علاقہ خرز کی ہرنی لائی گئی تو آپ نے اسے آزاد اور
لونڈی عورت کے درمیان تقسیم کر دیا۔

1539 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَحضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
نے چاشت کے نفل نہیں پڑھے اور میں انہیں پڑھتی1538 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 6 صفحہ 347 من طريق المصنف . وأخرجه أبو عبيد في كتاب
الأموال رقم الحديث: 607، وأحمد رقم الحديث: 25300، وابن زنجويه في الأموال رقم الحديث:
884، وأبو داؤد رقم الحديث: 2952، وأبو يعلى رقم الحديث: 4923، والحاكم جلد 2 صفحہ 137،
والبيهقي جلد 6 صفحہ 349 من طرق عن ابن أبي ذئب، به . وقال الحاكم: صحيح الاسناد .1539 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 3 صفحہ 49 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 26053، والبخاري رقم الحديث: 1177 من طريق ابن أبي ذئب، به . وأخرجه مالك
جلد 1 صفحہ 152، وعبد الرزاق رقم الحديث: 4867، وابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 406، وأحمد رقم
الحديث: 25912، وعبد ابن حميد رقم الحديث: 1478، والدارمي رقم الحديث: 1463، والبخاري
رقم الحديث: 1129، ومسلم رقم الحديث: 718، وأبو داؤد رقم الحديث: 1293، والنسائي في الكبرى
رقم الحديث: 480، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 267، وابن حبان رقم الحديث: 312-2532، والبيهقي
جلد 6 صفحہ 349 من طرق عن الزهري، به .

الضُّحَىٰ وَآنَا أَسْبَحُهَا

ہوں۔

1540 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے اپنے خاوند کو کپڑے کے پلو کی مثل پایا ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تیرا کیا ارادہ ہے! کیا تو رفاعہ کی طرف دوبارہ واپس جانا چاہتی ہے؟ نہیں جاسکتی یہاں تک کہ تو اس کا ذائقہ چکھ لے اور وہ تیرا ذائقہ چکھ لے۔

أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِي مَا عِنْدَهُ مِثْلُ مِثْلِ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا تُرِيدِينَ؟ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِينَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1541 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

1540 - حدیث صحیح أخرجه الشافعی فی مسنده جلد 2 صفحہ 69، وعبد الرزاق رقم الحدیث: 11131، والحمیدی رقم الحدیث: 226، وأحمد رقم الحدیث: 24144، والدارمی رقم الحدیث: 2272، والبخاری رقم الحدیث: 5792-6084، ومسلم رقم الحدیث: 1433، والترمذی رقم الحدیث: 1118، والنسائی رقم الحدیث: 3411، وابن ماجه رقم الحدیث: 1932، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 4423، وابن الجارود رقم الحدیث: 683، والطبری فی التفسیر جلد 2 صفحہ 476، وتمام فی الفوائد (805-الروض البسام) والبیہقی جلد 7 صفحہ 373-374، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 2361 من طرق عن الزهری، به۔ وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25962، والدارمی رقم الحدیث: 2273، والبخاری رقم الحدیث: 5265-5317، ومسلم رقم الحدیث: 1433، والطبری جلد 2 صفحہ 476، والبیہقی جلد 7 صفحہ 374 من طریق هشام، عن أبيه۔ وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 531، وأحمد رقم الحدیث: 24195، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2309، والنسائی رقم الحدیث: 3407، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 4965، والطبری جلد 2 صفحہ 476-477، وابن حبان رقم الحدیث: 4119-4120-4122، والبیہقی جلد 7 صفحہ 375 من طریق القاسم والأسود، عن عائشة، مختصراً۔

1541 - حدیث صحیح . أخرجه البخاری رقم الحدیث: 250، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 255 من طریق ابن ابی ذئب، به۔ وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 44، والشافعی فی مسنده جلد 1 صفحہ 114، وعبد

آن زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، اسْتَحْيَضَتْ سَبْعَ سِنِينَ،
فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ
تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
عنها استحاضہ والی ہو گئیں، تو نبی اکرم ﷺ سے اس کے
متعلق پوچھا گیا، تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ غسل
کریں اور نماز پڑھے پس وہ ہر نماز کے وقت غسل کرتی
تھیں۔

1543 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ
وَالْبِلَادُ بِلَادُ اللَّهِ فَمَنْ أَحْيَا مِنْ مَوَاتِ الْأَرْضِ
شَيْءًا فَهُوَ لَهُ وَكَأَنَّ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ
حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا: بندے اللہ کے بندے ہیں، شہر اللہ کے شہر
ہیں، سو جس نے غیر آباد زمین کو آباد کیا وہ اس کے لیے
ہے اور ظالم کے پسینہ کا کوئی حق نہیں۔

1544 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،
حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1543 - اسنادہ ضعیف، لضعف زمعة، وقد توبع على بعضه . وأخرجه ابن عدی جلد 3 صفحہ 1086
والدارقطنی جلد 3 صفحہ 217، والبيهقی جلد 6 صفحہ 142 من طریق المصنف . وأخرجه أبو يوسف
فی الخراج صفحہ 181، وأبو يعلى كما فى نصب الراية جلد 4 صفحہ 288 من طریق هشام، عن أبيه،
عن عائشة، بدون قوله: العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله . وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 743
والشافعی جلد 2 صفحہ 267-269، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 5762، ويحيى بن آدم فى
الخراج رقم الحديث: 266-268-272، وأبو عبيد فى الأموال رقم الحديث: 704 من طریق هشام، عن
أبيه، مرسلاً . وقال ابن عدی: ومن أحياء مواتاً . قد رواه عن الزهرى غير زمعة، وأما قوله: العباد عباد
الله، ولا بلاد بلاد الله . يقوله زمعة . وقال أبو حاتم كما فى العلل لابنه رقم الحديث: 1422 عن هذا
الحديث: هذا حديث منكر، انما يروى من غير حديث الزهرى، عن عروة، مرسلاً . وأخرجه أحمد
رقم الحديث: 24927، والبخارى رقم الحديث: 2335، والنسائی فى الكبرى رقم الحديث: 5759 من
طريق عروة، عن عائشة بلفظ: من أعمار أرضاً ليست لأحد فهو أحق . وانظر كتاب الخراج ليحيى بن
آدم رقم الحديث: 266، ونصب الراية جلد 4 صفحہ 288-290، وفتح البارى جلد 5 صفحہ 18 .

1544 - حديث صحيح، واسناد المصنف ضعيف، لضعف زمعة . وأخرجه الحميدى رقم الحديث: 208،
وأحمد رقم الحديث: 25684-25929، والنسائی رقم الحديث: 2793، وابن الجارود رقم الحديث:

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ
أَفْتَلُ قَلَائِدَ هَدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا
روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ
ﷺ کے ہدی (قربانی کے جانور) کو ہار پہناتی تھی اور
آپ کسی چیز سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔

1545 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،
حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

423 والطحاوی جلد 2 صفحہ 266، وابن حبان رقم الحدیث: 4012 من طریق الزہری، بہ . وأخرجه
أحمد رقم الحدیث: 24568، والدارمی رقم الحدیث: 1942، والبخاری رقم الحدیث: 1698، وأبو
داؤد رقم الحدیث: 1758، والنسائی رقم الحدیث: 2774، وابن ماجہ رقم الحدیث: 3094، والطحاوی
جلد 2 صفحہ 266، وابن حبان رقم الحدیث: 4013، والبیہقی جلد 5 صفحہ 234 من طریق الزہری، عن
عروہ وعمرة، عن عائشة . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25916، وأبو یعلیٰ رقم
الحدیث: 4394-4505، والطحاوی جلد 2 صفحہ 466، وفي المشکل رقم الحدیث: 5529، وابن حبان
رقم الحدیث: 4010، والبیہقی جلد 5 صفحہ 233 من طریق هشام، عن عروہ، بہ .

1545- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، کسابقہ . وسیاق المصنف فیہ أن الحبشة كانوا نساء،
والصواب: أنهم رجال، كما دل علیه، أو الحدیث: (یلعبون) . وكذا هو عند كل من أخرج الحدیث
من هذا الطريق . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26371، والبخاری رقم الحدیث: 3530-5190،
والنسائی رقم الحدیث: 1594، وفي الكبرى رقم الحدیث: 8952-8953، وابن حبان رقم الحدیث:
5871-5876 من طرق عن الزہری، بہ، دون قصة عمر . وقد روى الزہری، عن سعید بن المسیب،
عن أبي هريرة، قصة انكار عمر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعهم يا عمر . أخرجه معمر
في جامعه رقم الحدیث: 19724، وأحمد رقم الحدیث: 866، والبخاری رقم الحدیث: 2901، ومسلم
رقم الحدیث: 893 . وأخرجه البخاری رقم الحدیث: 2907، ومسلم (19/892) من طریق محمد بن
عبد الرحمن، عن عروہ، بہ، وفيه قصة الجاريتين، وانكار أبي بكر عليهما، وليس لعمر فيه ذكر .
وأخرجه الحميدي رقم الحدیث: 254، وأحمد رقم الحدیث: 26002، ومسلم (20/892)، والنسائی
رقم الحدیث: 1593، وفي الكبرى رقم الحدیث: 8952-8953 من طریق هشام بن عروہ، عن أبيه، بہ
مختصراً . وأخرجه الترمذی رقم الحدیث: 3691، والنسائی في الكبرى رقم الحدیث: 8957 من طریق
يزيد بن رومان، عن عروہ، عن عائشة وفيه أن حبشية تزفن أي: ترقص والصبيان حولها، وفيه قصة عمر

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
 قَالَتْ: كَانَتْ الْحَبَشَةُ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ، فَجَعَلُوا
 يَلْعَبُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَسْتُرْنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ جَارِيَةً حَدِيثَةَ السِّنِّ،
 فَجَاءَ عُمَرُ فَتَهَاوَنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُنَّ يَا عُمَرُ ثُمَّ قَالَ: هُنَّ بَنَاتُ
 أَرْفَدَةَ

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ حبشی مسجد میں
 داخل ہوتے تو کھینے لگ جاتے اور رسول اللہ ﷺ
 میرے لیے پردہ بن جاتے اور میں ان حبشیوں کی
 طرف دیکھتی، میں کسبن لڑکی تھی، پس حضرت عمر رضی اللہ
 عنہ آئے تو آپ نے ان کو منع کیا، تو رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا: اے عمر! انہیں چھوڑ دو! پھر فرمایا: یہ ارفدہ کی
 بیٹیاں ہیں۔

1546 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،
 حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

أَيْضًا، فَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْكَبْرِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 8958 مِنْ طَرِيقِ عَكْرَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
 بِلَفْظٍ: خَذَنَ بَنَاتُ أَرْفَدَةَ . وَأَخْرَجَهُ مَعْمَرُ فِي جَامِعِهِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 19736، وَأَحْمَدُ رَقْمَ
 الْحَدِيثِ: 26093، وَمُسْلِمٌ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 893، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكَبْرِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 8958 مِنْ طَرِيقِ
 أُخْرَى عَنْ عَائِشَةَ .

1546 - حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَاسْنَادُ الْمُصَنَّفِ ضَعِيفٌ، كَسَابِقِهِ . وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1247، وَأَحْمَدُ
 رَقْمَ الْحَدِيثِ: 26379، وَالِدَارِمِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1063، وَالْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2046، وَالنَّسَائِيُّ رَقْمَ
 الْحَدِيثِ: 384، وَفِي الْكَبْرِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3372-3373-3375-3377-3381-3382 مِنْ طَرِيقِ
 الزُّهْرِيِّ، بِهِ . وَأَخْرَجَهُ مَالِكُ جُلْدَ 1 صَفْحَةَ 60، وَالْحَمِيدِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 184، وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ:
 25969، وَالِدَارِمِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1064، وَالْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2028، وَمُسْلِمٌ (9/297)، وَأَبُو دَاوُدَ
 رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2469، وَالنَّسَائِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 275-386، وَابْنُ مَاجَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 633-1778، وَابْنُ
 الْجَارُودِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 104، وَأَبُو عَوَانَةَ جُلْدَ 1 صَفْحَةَ 312، وَابْنُ حِبَّانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1359 مِنْ طَرِيقِ
 عَنْ عُرْوَةَ، بِهِ . وَأَخْرَجَهُ مَالِكُ جُلْدَ 1 صَفْحَةَ 312، وَمِنْ طَرِيقِهِ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 26452، وَمُسْلِمٌ
 (6/297)، وَأَبُو دَاوُدَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2467، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكَبْرِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3374، وَالْبَيْهَقِيُّ
 جُلْدَ 4 صَفْحَةَ 315، وَالْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السَّنَةِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1836، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ
 عَائِشَةَ، بِنَحْوِهِ . وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: هُوَ صَحِيحٌ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ: (عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
 عَمْرَةَ) غَيْرَ مَالِكٍ وَعَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو . انظر تحفة الأشراف جلد 12 صفحہ 79، وكتاب الأحاديث التي

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ
أُرَجِّلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
مُعْتَكِفٌ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى عَتَبَةِ بَابِ الْحُجْرَةِ
فَارَجِّلُهُ

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ
ﷺ کے سرانور پر کنگھی کرتی اس حالت میں جبکہ آپ
حالت اعتکاف میں ہوتے آپ اپنا سرانور باب عتبہ
سے حجرہ کی طرف نکالتے تو میں آپ کے سرانور پر کنگھی
کرتی۔

1547 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عُبَيْدَةَ بْنَ
أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ لِأَخِيهِ سَعْدٍ: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ
فَأَقْبِضْ ابْنَ أُمِّةٍ زَمْعَةَ فَإِنَّهُ مِنِّي، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ
الْفَتْحِ جَاءَ سَعْدٌ إِلَيْهِ، فَجَاءَ عَبْدُ بَنٍ زَمْعَةَ فَأَخَذَ

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت کرتے ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص نے اپنے بھائی
حضرت سعد سے کہا: جب تو مکہ جائے تو زمعہ کی لونڈی کا
بچہ لے آنا کیونکہ وہ مجھ سے ہے۔ پس جب فتح (مکہ)
کا دن آیا تو حضرت سعد اس کو لے آئے اس کے بعد

خولف فيها مالك للدارقطني رقم الحديث: 2، والعلل له (5ب/1: 45-أ). وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 24565، والبخاري رقم الحديث: 2029، ومسلم (7/297) وأبو داود رقم الحديث: 2468،
والترمذي رقم الحديث: 804-805، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 3375، وابن ماجه رقم
الحديث: 1776، وابن الجارود رقم الحديث: 409، وابن حبان رقم الحديث: 3672، والبيهقي
جلد 4 صفحہ 315 من طرق عن الليث ومالك ويونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة .
وانظر التحفة جلد 12 صفحہ 72-79-418 .

1547- حديث صحيح واسناده ضعيف، كسابقه . وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 739، وابن المبارك في مسنده
رقم الحديث: 333، والشافعي في مسند جلد 2 صفحہ 60-59، وعبد الرزاق رقم الحديث: 13818،
والحميدي رقم الحديث: 239، وأحمد رقم الحديث: 7182-6817، والدارمي رقم الحديث: 2242،
ومسلم رقم الحديث: 1457، وأبو داود رقم الحديث: 2273، والنسائي رقم الحديث: 3487-3484،
وابن ماجه رقم الحديث: 2004، وابن الجارود رقم الحديث: 730، والطحاوي جلد 3 صفحہ 113-114،
وفي المشكل رقم الحديث: 4244، وابن حبان رقم الحديث: 4105، والدارقطني جلد 3 صفحہ 314،
وتمام في الفوائد (809-الروض البسام)، والبيهقي جلد 7 صفحہ 412-402، والبقوي في شرح السنة
رقم الحديث: 2378 من طرق عن الزهري، به .

بِيَدِهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: ابْنُ أَخِي، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي مِنْ جَارِيَةِ أَبِي وَوَلَدَ عَلِيٍّ فِرَاشِهِ قَالَ: فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخِي عَهْدَ إِلَيَّ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَقْبِضَ ابْنَ أُمِّةِ زَمْعَةَ فَإِنَّهُ ابْنُهُ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: ابْنُ أُمِّةِ أَبِي مِنْ جَارِيَةِ أَبِي وَوَلَدَ عَلِيٍّ فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ لِمَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَبْهِهِ بَعْتَبَةَ، فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ

ابن زمعه آیا اس نے حضرت سعد کے ہاتھ سے اس کو پکڑ لیا، حضرت سعد نے کہا: یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اس نے مجھ سے عہد کیا کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ عبد بن زمعه نے کہا: میرا بھائی ہے میرے باپ کی لونڈی سے ہے میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ کہا کہ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ ﷺ کے پاس لے کر آئے۔ حضرت سعد نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں مکہ مکرمہ جاؤں تو ابن زمعه کی لونڈی کا بچہ لے آؤں۔ حضرت عبد بن زمعه نے عرض کی کہ یہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عبد! یہ تیرا ہے بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر ہیں اے سودہ! اس سے پردہ کر۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو عتبہ کے مشابہ دیکھا تھا، سو حضرت سودہ نے اس کو نہیں دیکھا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملیں۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کھانا آ جائے اور نماز کا وقت بھی ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔

1548 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ

الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ

1548 - حدیث صحیح . أخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 182، وأحمد رقم الحدیث: 24166-24291

والدارمی رقم الحدیث: 1284، والبخاری رقم الحدیث: 5465-671، ومسلم رقم الحدیث: 558، وابن

ماجه رقم الحدیث: 935، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 2803-2807، ومسلم رقم

الحدیث: 557 .

فَابْدُئُوا بِالْعِشَاءِ

1549 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت

اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَدَعُوهُ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب بندہ مر جائے تو اس کے لیے دعا کرو۔

1550 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت حسن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

الْحَسَنُ بْنُ وَقَّاصٍ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أُمِّي،

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میرے پاس

1549- حدیث صحیح أخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصبهاني جلد 2 صفحہ 6، وأبو نعيم في أخبار أصفهان

جلد 2 صفحہ 346 من طريق المصنف. وأخرجه الدارمي رقم الحديث: 2265، وأبو داؤد رقم

الحديث: 4899، والترمذي رقم الحديث: 3895، وابن حبان رقم الحديث: 3018-3019، وابن عدی

جلد 5 صفحہ 1829، والبيهقي في الآداب رقم الحديث: 60، وفي الشعب رقم الحديث: 8718،

والخطيب جلد 12 صفحہ 360 من طريق الثوري وغيره عن هشام به .

1550- حدیث صحیح، وأسانيدہ هنا ضعيفة، الحسن بن وقاص الأنصاري وأمه مجهولان، والمبارك بن

فضالة وبحر السقاء ضعيفان. وأخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 1528، وابن ماجه رقم

الحديث: 3668 من طريق الحسن، عن صعصعة عم الأحنف، عن عائشة، بنحو سابقه. ووقع في

المطبوع من المنتخب: صعصعة عن الأحنف. وهو خطأ. وأخرج رواية عروة أحمد رقم الحديث:

24101-25371، وعبد بن حميد رقم الحديث: 1471، والترمذي رقم الحديث: 1913، من طريق

الزهري، به نحوه، دون قوله: ما يبكيك يا عائشة. وقال الترمذي حسن. وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 24616-26102، والبخاري رقم الحديث: 1418-5995، ومسلم رقم الحديث: 2629،

والترمذي رقم الحديث: 1915، من طريق الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عروة، عن

عائشة، به. وانظر الفتح جلد 10 صفحہ 427-428. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24655، ومسلم

رقم الحديث: 2630، والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 4093، من طريق عراك، عن عائشة، به،

بنحو رواية الحسن. وفي كل روايات الحديث أن المرأة كان معها (ابنتان) الا عند المصنف

والطبراني ففيهما (ابنان) .

ایک مانگنے والی آئی اور اس کے ساتھ اس کے دو بیٹے بھی تھے میں نے اس کو تین کھجوریں دینے کے لیے حکم دیا، اس نے ایک ایک کھجور اپنے دونوں بیٹوں کو دی اور ایک کھجور اپنے منہ میں ڈالی تو بچوں نے اپنی کھجوریں کھالی تھیں پھر وہ اپنی ماں کو دیکھنے لگے سو اس نے اپنے منہ سے وہ کھجور بھی نکال کر ان کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی، پس رسول اللہ ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آج میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کیا؟ تو میں نے آپ کو بتایا، تو آپ نے فرمایا: تو اس عورت پر تعجب کر رہی ہے، اللہ نے اس عورت کو اپنے دونوں بچوں پر شفقت کرنے کی وجہ سے بخش دیا ہے۔

امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ بحر السقاء نے از حضرت زہری از حضرت عروہ از حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے اس حالت میں کہ میں رو رہی تھی، آپ نے فرمایا: اے عائشہ! تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ماں کی اپنے بچوں پر شفقت کی وجہ سے اور میں نے آپ کو واقعہ کی خبر دی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو آدمی ان میں سے کسی چیز کے ساتھ (یعنی بچیوں) آزمایا گیا پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تو وہ قیامت کے دن اس کے لیے پردہ ہو جائیں گی۔

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى سَائِلَةٍ وَمَعَهَا ابْنَانِ لَهَا، فَأَمَرْتُ لَهَا بِثَلَاثِ تَمَرَاتٍ، فَأَطَعَتْ صَبِيَّهَا تَمْرَةً تَمْرَةً وَأَدْخَلْتُ تَمْرَةً فِي فِيهَا، فَأَكَلَ الصَّبِيَّانِ تَمْرَتَيْهِمَا، ثُمَّ لَحَظَا إِلَى أُمِّهِمَا، فَأَخْرَجَتِ التَّمْرَةَ مِنْ فِيهَا، فَشَقَّتْهَا بَيْنَهُمَا، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ عَجَبًا، قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: وَمَا تَعْجِبِينَ مِنْ امْرَأَةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا بِرَحْمَتِهَا وَلَدَهَا

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: بَحْرُ السَّقَاءِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَذَكَرَ نَحْوًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَا عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَالِدَةُ وَرَحْمَتُهَا وَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

1551 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک عورت لائی گئی جس نے چوری کی ہوئی تھی، اُن لوگوں نے کہا: اس بات کو کرنے کی جرأت آپ ﷺ کے محبوب اسامہ ہی کر سکتے ہیں، پس وہ (حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ) آئے، تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے اسامہ! کیا تجھے معلوم ہے کہ بنو اسرائیل کیسے ہلاک ہوئے کیونکہ جب اُن کا کوئی امیر چوری کرتا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا، اور جب کوئی غریب آدمی کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے، کہتے ہیں: اور وہ عورت قبیلہ مخزومیہ کی تھی۔

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ قَدْ سَرَقَتْ، فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِءُ عَلَيْهِ إِلَّا حِبَّةُ أُسَامَةَ، فَاتَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أُسَامَةُ اتَدْرِي كَيْفَ هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ، إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ مِنْهُمْ لَمْ يُقَطَّعْ فَقَطْعَهَا، قَالَ: وَكَانَتْ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1552 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

النسائی رقم الحدیث: 4912 من طریق سفیان، بہ . وقال: قيل لسفيان: من ذكره؟ قال: أيوب بن موسى، عن الزهري . وأخرجه البخاري وأخرجه رقم الحدیث: 3733، ووالنسائی رقم الحدیث: 4910 من طریق سفیان، عن أيوب بن موسى، عن الزهري . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 18830، وأحمد رقم الحدیث: 25336، والدارمی رقم الحدیث: 2307، والبخاری رقم الحدیث: 6788-6700، ومسلم رقم الحدیث: 168، وأبو داؤد رقم الحدیث: 4397، وابن ماجه رقم الحدیث: 2547، والترمذی رقم الحدیث: 1430، والنسائی رقم الحدیث: 4918-4913، وابن الجارود رقم الحدیث: 805-804، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 1681، وابن حبان رقم الحدیث: 4402، والبيهقي جلد 8 صفحہ 253، والبعوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 2603 من طرق عن الزهري، بہ .

1552- حدیث صحیح وجزوہ الآخر لم أقف علیہ عند غیر المصنف . وأخرجه الحمیدی رقم الحدیث:

195، وأحمد رقم الحدیث: 25978، والدارمی رقم الحدیث: 1589، ومسلم رقم الحدیث: 737، وأبو

داؤد رقم الحدیث: 1338، والترمذی رقم الحدیث: 459، والنسائی رقم الحدیث: 1716، وأبو عوانة

جلد 2 صفحہ 325، وتمام فی الفوائد (394-الروض البسام) من طرق عن هشام، بہ بنحوہ، ضمن

حدیث طویل، وليس فیہ جزوہ الآخر .

عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ،
 وَقَالَ: نَحْنُ أَهْلُ بَيْتِ نُوَيْرٍ بِخَمْسٍ
 روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ
 پانچ (رکعت) وتر پڑھتے تھے اور ہم اہل بیت بھی پانچ
 رکعت وتر پڑھتے تھے۔

1553 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
 عَنْ أَبِي الْمُؤَمَّلِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
 عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
 يَضْطَجِعُ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ
 حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
 روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ
 فجر کی دو رکعتیں (سنت) پڑھ کر لیٹ جاتے تھے۔

1554 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ
 حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1553 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 24948، وعبد بن حميد رقم الحديث: 1484 من طريق
 عفان وسليمان بن حرب، عن شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24904-26212، وعبد بن
 حميد رقم الحديث: 1418، والدارمي رقم الحديث: 1454-1481، والبخاري رقم الحديث:
 626-631، وأبو داود رقم الحديث: 1335-1336، والترمذي رقم الحديث: 440-441، والنسائي رقم
 الحديث: 1695-1761، وابن ماجه رقم الحديث: 1198، وابن حبان رقم الحديث: 2431، والبيهقي
 جلد 3 صفحہ 7 من طرق عن الزهري، به . وقال الترمذي: حسن صحيح . وأخرجه أحمد رقم
 الحديث: 25773-26212، والبخاري رقم الحديث: 1160، ومسلم رقم الحديث: 736 من طرق عن
 عروة، به . ورواه أبو سلمة عن عائشة بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى، فإن كنت
 مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع . أخرجه البخاري رقم الحديث: 1161، وغيره .

1554 - حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعيف، لضعف صالح بن أبي الأخضر . وأخرجه ابن سعد
 جلد 2 صفحہ 295، وابن عبد البر في التمهيد جلد 22 صفحہ 297، من طريق حماد بن سلمة، وابن حبان
 رقم الحديث: 6632، من طريق الدراوردي كلاهما عن هشام، عن أبيه، به نحوه . ورواه مالك
 جلد 1 صفحہ 231 عن هشام، عن أبيه، مرسلًا . وأخرجه ابن سعد جلد 2 صفحہ 295، وأحمد رقم
 الحديث: 4762-25085، وابن ماجه رقم الحديث: 1558 من طريق ابن أبي مليكة، والقاسم، عن
 عائشة . واسنادهما ضعيف . وفي الباب عن أنس وابن عمر وغيرهما عند ابن سعد جلد 2 صفحہ 298،
 وأحمد رقم الحديث: 4762-12415، ومسلم رقم الحديث: 966 . وانظر نصب الراية جلد 2

بُنْ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِدَّ لَهُ

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے لیے لحد بنائی گئی تھی۔

1555 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَّاسُ بْنُ دَعْفَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ

حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان لیٹی ہوتی تھی۔

1556 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت

صفحہ 596، والبداية والنهاية جلد 8 صفحہ 136-138، والتلخيص الحبير جلد 2 صفحہ 127، وأحكام الجنائز للألبانی صفحہ 144 .

1555 - حديث صحيح . أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2373، وأحمد رقم الحديث: 24606-25688 من طريق عطاء، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24686-25173 من طريق قتادة، عن عاتشة، بدون ذكر عروة، قال الدارقطني في العلل (5/رق: 48-ب): الأول يعني بذكر عروة أصح . وسيأتي من رواية سعد بن ابراهيم وأبي بكر بن حفص، عن عروة برقم 1560-1561 . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2374-2375، والحميدي رقم الحديث: 171، وأحمد رقم الحديث: 24708-24991، والدارمي رقم الحديث: 1420، والبخاري رقم الحديث: 383-512-515، ومسلم رقم الحديث: 512، وأبو داؤد رقم الحديث: 711، والنسائي رقم الحديث: 758، وابن ماجه رقم الحديث: 956، وابن خزيمة رقم الحديث: 822-824، والبيهقي جلد 2 صفحہ 275، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 546 من طرق أخرى عن عروة، به .

1556 - حديث صحيح . أخرجه مالك جلد 1 صفحہ 223، والشافعي جلد 1 صفحہ 386، وعبد الرزاق رقم الحديث: 6176، وابن سعد جلد 2 صفحہ 281، وأحمد رقم الحديث: 25642، وعبد بن حميد رقم الحديث: 1493-1505، والبخاري رقم الحديث: 1264-1271-1272، ومسلم رقم الحديث: 941، وأبو داؤد رقم الحديث: 3151-3152، والترمذي رقم الحديث: 996، والنسائي رقم الحديث: 1898، وابن ماجه رقم الحديث: 1469، وأبو يعلى رقم الحديث: 4402-4451-4495، وابن حبان رقم

وَزَائِدَةُ بِنُ قُدَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُفِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ
وَلَا عِمَامَةٌ

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت

1557 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا،
جس میں عمامہ اور قمیص نہیں تھی۔

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سَيْتٍ أَوْ سَبْعٍ بِمَكَّةَ، وَبَنَى
بِي بِالْمَدِينَةِ وَأَنَا بِنْتُ تِسْعٍ، فَاتَّتْنِي نِسْوَةٌ، وَأَنَا
جَارِيَةٌ مُجْتَمَمَةٌ، أَلْعَبُ عَلَى أَرْجُوْحَةٍ فَهَيَّأَنِي
وَأَهْدَيْتَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الحديث: 3037، والبيهقي جلد 3 صفحہ 399-400، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 1476 من

طرق عن هشام بن عروة، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 6171، وأحمد رقم الحديث:

26319-25991، والنسائي رقم الحديث: 1896 من طرق عن عروة، به، مطولاً ومختصراً . وأخرجه

أحمد رقم الحديث: 24669، ومسلم رقم الحديث: 941 من طريق أبي سلمة، عن عائشة .

1557- حديث صحيح . أخرجه ابن سعد جلد 8 صفحہ 59، وأحمد رقم الحديث: 26440، وأبو داؤد رقم

الحديث: 4935، وأبو يعلى رقم الحديث: 4600، والطبراني (19/23) من طريق حماد بن سلمة، به .

وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 1422، وأبو داؤد رقم الحديث: 4936-4933-2121، والنسائي رقم

الحديث: 3256، وابن ماجه رقم الحديث: 1876، وأبو يعلى رقم الحديث: 4498، وابن الجارود رقم

الحديث: 711، والطبراني (2,21/23)، والبيهقي جلد 7 صفحہ 114-148-253، وغيرهم من طرق عن

هشام، به . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 1422، والطبراني (20/23) من طريق الزهري، عن عروة،

به . ورواه الأسود وابن أبي مليكة وأبو عبيدة وأبو سلمة عن عائشة . أخرجه أحمد رقم

الحديث: 24198، ومسلم رقم الحديث: 1422، والنسائي رقم الحديث: 3279، وفي الكبرى رقم

الحديث: 5370-5368-5365 .

بناؤ سنگھار کیا اور مجھے رسول اللہ ﷺ کے حوالے کر دیا۔

حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا: قبیلہ کا بدترین آدمی ہے، پس جب وہ داخل ہوا تو آپ نے اس کے لیے نرمی کی، (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے ایسے ایسے فرمایا تھا، پھر آپ نے اس کے لیے نرمی کی ہے۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اللہ کے ہاں قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے لوگ ڈرتے ہوں گے، یا لوگ اس کو چھوڑ دیں اس کی بے حیائی کے ڈر سے یا اس کے شر کی وجہ سے۔

1558 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ قَالَ: فَلَمَّا دَخَلَ الْآنَ لَهُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِي يَتَّقِيهِ النَّاسُ - أَوْ يَتْرُكُهُ النَّاسُ - خَشِيَةً فُحْشِيهِ أَوْ شَرِّهِ

حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

1559 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1558 - حديث صحيح - أخرجه الحميدي رقم الحديث: 249، وأحمد رقم الحديث: 24152، والبخاري رقم الحديث: 6054-6131، وفي الأدب المفرد رقم الحديث: 1311، ومسلم رقم الحديث: 2591، وأبو داؤد رقم الحديث: 1491، والترمذي رقم الحديث: 1996، وفي الشمائل رقم الحديث: 350، وابن أبي الدنيا في مداراة الناس رقم الحديث: 14، والبيهقي جلد 10 صفحہ 245، وفي الشعب رقم الحديث: 8101 من طرق عن سفيان، به - وأخرجه معمر في جامعه رقم الحديث: 20144، وعبد بن حميد رقم الحديث: 1509، والبخاري رقم الحديث: 6032، ومسلم رقم الحديث: 2591، وأبو نعيم في الحلية جلد 6 صفحہ 335 من طرق عن ابن المنكدر، به - وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 1067، وابن أبي الدنيا رقم الحديث: 17 من طريق عبد الله ابن دينار، عن عروة، به -

1559 - حديث صحيح - أخرجه البغوي في الجعديات رقم الحديث: 1564 من طريق المصنف - وأخرجه

أحمد رقم الحديث: 25472-25742، والبخاري رقم الحديث: 4435، ومسلم رقم الحديث: 2444،

سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم گفتگو کرتی تھیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اس وقت تک وصال نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ کو دنیا و آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ اس بیماری میں مبتلا تھے جس میں آپ نے وصال فرمایا، آپ کیلئے خالص مشروب پیش کیا گیا، تو میں نے سنا تو آپ ﷺ پڑھ رہے تھے: ”مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ“ (النساء: 69) آیۃ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَيَّرُ

سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم گفتگو کرتی تھیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اس وقت تک وصال نہیں فرمایا یہاں تک کہ آپ کو دنیا و آخرت کے درمیان اختیار دیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ اس بیماری میں مبتلا تھے جس میں آپ نے وصال فرمایا، آپ کیلئے خالص مشروب پیش کیا گیا، تو میں نے سنا تو آپ ﷺ پڑھ رہے تھے: ”مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ“ (النساء: 69) آیۃ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَيَّرُ

حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ، قَالَتْ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ حَتَّىٰ يَخَيَّرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ مَرَضَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَرَضَتْ لَهُ بُحَّةٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ) (النساء: 69) آيَة، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَيَّرُ

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم جان گئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کو دنیا میں رہنے کا اختیار دیا گیا۔

1560 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ

حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول

والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 1094، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 4534، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 1564 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26362، والبخاری رقم الحدیث: 4586، ومسلم رقم الحدیث: 2444، وابن ماجه رقم الحدیث: 1620 من طریق ابراهیم بن سعد، عن أبیه، به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24627، والبخاری رقم الحدیث: 4437 من طریق الزهري، عن عروة، به. وأخرجه البخاری رقم الحدیث: 6348-6509، ومسلم رقم الحدیث: 2444 من طریق الزهري، عن عروة وسعيد بن المسيب، به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26389، والبخاری رقم الحدیث: 4463، ومسلم رقم الحدیث: 2444، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 4584-4585 من طرق عن عائشة.

1560 - حدیث صحیح أخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 275 من طریق المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24708، وأبو داؤد رقم الحدیث: 701، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 1562-1563 من طرق عن شعبة، به.

الزُبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُعْتَرِضَةً قَالَ شُعْبَةُ: قَالَ سَعْدٌ: وَأَحْسَبُهُ قَالَتْ: وَأَنَا حَائِضٌ

اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد نے کہا: میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا: اور میں حالت حیض میں ہوتی تھیں۔

1561 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عروہ بن زبیر نے فرمایا کہ حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تم کیا کہتے ہو کہ نماز کو کون سی چیز توڑتی ہے؟ انہوں نے عرض کی: کتا، گدھا اور عورت (توڑتے ہیں) تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا تَقُولُونَ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: فَقَالُوا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا دَابَّتْ سُوءٍ لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ وَهُوَ يُصَلِّي

تب تو عورت بُرا جانور ہوا بلاشبہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی جس طرح جنازہ آگے رکھا ہوتا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔

1562 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1561 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 24991-25068، ومسلم رقم الحديث: 512، وابن حبان رقم الحديث: 2390، والبيهقي جلد 2 صفحہ 275 من طرق عن شعبة به .

1562 - حدیث صحیح . أخرجه أبو يعلى رقم الحديث: 4415، وابن حبان رقم الحديث: 1499 من طريق

ابراهيم بن سعد، به . وأخرجه الشافعي في مسنده جلد 1 صفحہ 146، والحميدي رقم الحديث: 174،

وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 320، وأحمد رقم الحديث: 24142-26153، والدارمي رقم الحديث:

1219، والبخاري رقم الحديث: 372-578، ومسلم رقم الحديث: 645، والنسائي رقم الحديث:

545-1361، وفي الكبرى رقم الحديث: 1443، وابن ماجه رقم الحديث: 669، وابن خزيمة رقم

الحديث: 350، والطحاوي جلد 1 صفحہ 176، وابن حبان رقم الحديث: 1500، والبيهقي جلد 1

صفحہ 454 من طرق عن الزهري به . وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 5، والشافعي جلد 1 صفحہ 146،

وأحمد رقم الحديث: 25493-26265، والبخاري رقم الحديث: 867-872، ومسلم رقم الحديث:

645، وأبو داؤد رقم الحديث: 423، والترمذي رقم الحديث: 153، والنسائي رقم الحديث: 544،

سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءً مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَلَفِعَاتٍ
بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفَنَّ مِنَ الْغَلَسِ

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم مہاجر عورتیں

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتی تھیں چادروں
میں لپٹ کر اور ہم اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی
تھیں۔

1563 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَمَتَّعْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي بِالْعُمْرَةِ - وَلَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول
اللہ ﷺ کے ساتھ تمتع کیا یعنی عمرہ اور میں نے قربانی
نہیں کی۔

1564 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

وَالطَّحَاوِيُّ جلد 1 صفحہ 176، وابن حبان رقم الحديث: 1498، والبيهقي جلد 1 صفحہ 454، والبغوي

في شرح السنة رقم الحديث: 353 من طريق القاسم وعمره عن عائشة .

1563 - حديث صحيح . أخرجه البخاري رقم الحديث: 316 من طريق ابراهيم بن سعد به . وأخرجه الشافعي

في مسنده جلد 1 صفحہ 585، والحميدي رقم الحديث: 203، وأحمد رقم الحديث: 6248، والبخاري

رقم الحديث: 1638-1692، ومسلم رقم الحديث: 1211، وأبو داؤد رقم الحديث: 1781، والنسائي

رقم الحديث: 242-2763، وابن الجارود رقم الحديث: 421-422، وابن خزيمة رقم الحديث:

2789-2948، وابن حبان رقم الحديث: 3926-3927، وابن حبان رقم الحديث: 3926-3927

والبيهقي جلد 5 صفحہ 3 من طرق عن الزهري به مطولاً ومختصراً . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 25628-25629، والبخاري رقم الحديث: 1786-4408، ومسلم رقم الحديث: 1211، وأبو

داؤد رقم الحديث: 1778-1779، والنسائي رقم الحديث: 2716، وابن ماجه رقم الحديث: 3000

وابن حبان رقم الحديث: 3942 من طرق عن عروہ به .

1564 - حديث صحيح . أخرجه الخطيب في المبهمات صفحہ 291 من طريق المصنف . وأخرجه البخاري

رقم الحديث: 3731، ومسلم رقم الحديث: 1459، والدارقطني جلد 4 صفحہ 240 من طريق ابراهيم

بن سعد به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 13836، والحميدي رقم الحديث: 239-240، وابن

سعد جلد 4 صفحہ 63، وأحمد رقم الحديث: 24570-25937، والبخاري رقم الحديث: 6770-6771

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ قیافہ شناس رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو دیکھا حضرت اسامہ بن زید اور حضرت زید دونوں نے اپنے آپ پر چادر اوڑھی ہوئی تھی اور ان دونوں کے سر ڈھانپے ہوئے تھے اور ان دونوں کے پاؤں ننگے تھے قیافہ شناس نے کہا کہ یہ قدم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ سو اس بات سے رسول اللہ ﷺ بہت زیادہ خوش ہوئے اور یہ بات آپ نے حضرت عائشہ کو بتائی۔

سَعِيدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ قَائِفٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدٌ عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُئُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ الْقَائِفُ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ فَسَرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَ بِذَلِكَ عَائِشَةَ

1565 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت

ومسلم رقم الحديث: 1459، وأبو داؤد رقم الحديث: 2267-2268، والترمذی رقم الحديث: 2129 والنسائی رقم الحديث: 3494، وابن ماجه رقم الحديث: 2349، وأبو يعلى رقم الحديث: 4422 والطحاوی فی المشکل رقم الحديث: 4781، وابن حبان رقم الحديث: 7057، والدارقطنی جلد 4 صفحہ 240، والبيهقی جلد 10 صفحہ 262-263، والخطیب صفحہ 292، والبغوی فی شرح السنة رقم الحديث: 2381 من طرق عن الزهري، به .

1565- اسنادہ ضعیف، لحال ابن ابی الزناد فی روایة العراقیین عنه، وقد تابعه علیه السفیانان ویحیی بن سعید الأموی وجریر بن عبد الحمید وأبو اسحاق الفزاری وعمر بن حفص المغیطی وغيرهم، عن هشام، به . وخالفهم أبو أسامة حماد بن أسامة وأبو معاوية ویحیی بن ابی زائدة، فقالوا: عن هشام، عن رجل، عن ابی سلمة، عن عائشة . أخرج حديث الأولین: الحمیدی رقم الحديث: 261، وأحمد رقم الحديث: 24164-26320، والترمذی فی العلل الكبير صفحہ 379، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 8942-8944، وابن ماجه رقم الحديث: 1979، والطحاوی فی المشکل رقم الحديث: 1880، وابن حبان رقم الحديث: 4691، والطبرانی (47/23)، والدارقطنی فی العلل (5ب/ق: 11-ب)، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 7 صفحہ 140، والبيهقی جلد 10 صفحہ 18، تعليقا وانظر العلل لابن ابی حاتم رقم الحديث: 2284 . وأخرج رواية الآخريين: ابن ابی شيبه جلد 12 صفحہ 508، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 8943، والبيهقی جلد 10 صفحہ 18، تعليقا وانظر العلل لابن ابی حاتم . وروى عن ابی

أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عائشة رضي الله عنها من روايت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی
قَالَ: قَالَتْ بَعَائِشَةُ: دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السِّبَاقِ فَسَابَقَنِي فَسَبَقْتُهُ
پس میں نے آپ کے ساتھ دوڑ لگائی، تو میں آپ سے
آگے نکل گئی۔

1566 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ،
حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضي الله عنها سے

اسحاق الفزاري، وعن أبيه، عن هشام، وعن أبي سلمة، عن عائشة. أخرجه أحمد رقم الحديث:
24165، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8945، والطبراني (47/23) والبيهقي جلد 10
صفحة 17-18. وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 2578 ومن طريقه البيهقي جلد 10 صفحه 18 من
طريق أبي اسحاق الفزاري، عن هشام، عن أبيه، وعن أبي سلمة، عن عائشة. وهكذا في عون المعبود
جلد 2 صفحه 334. وجاء في التحفة جلد 12 صفحه 355 في ترجمة عروة، عن أبي سلمة، عن عائشة،
وغيرها محقق التحفة ليوافق ما في المطبوع! وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26295 من طريق حماد بن
سلمة، عن هشام، عن أبي سلمة، عن عائشة. هكذا في المطبوع، والذي في أطراف المسند جلد 9
صفحة 155، عن حماد، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. وانظر العلل الكبير للترمذي صفحه 379.
وروى عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن أبي سلمة، عن عائشة. أخرجه ابن أبي
شيبه جلد 12 صفحه 509، وأحمد رقم الحديث: 25025-26441، والبغوي في السجديات رقم
الحديث: 3367، والطبراني (46/23). وروى عن حماد، عن القاسم، عن عائشة. أخرجه أحمد رقم
الحديث: 25527.

1566 - اسنادہ حسن، لحال سليمان بن موسى، فانه صدوق. وأخرجه الشافعي جلد 2 صفحه 13، وعبد الرزاق

رقم الحديث: 10472، والحميدي رقم الحديث: 228، وابن أبي شيبه جلد 4 صفحه 128، وأحمد رقم
الحديث: 25365، والدارمي رقم الحديث: 2184، وأبو داؤد رقم الحديث: 2083، والترمذي رقم
الحديث: 1102، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5394، وابن ماجه رقم الحديث: 1879، وابن
الجارود رقم الحديث: 700، والطحاوي جلد 3 صفحه 7، وابن حبان رقم الحديث: 4074، والحاكم
جلد 2 صفحه 168، والبيهقي جلد 7 صفحه 105-125، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 2262 من
طرق عن ابن جريج به. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين.

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نِكَحْتُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا اور جو عورت اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کسی سے کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے اور جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کا ولی بادشاہ ہوتا ہے۔

فائدہ: یہ حدیث پاک امام شافعی کی دلیل ہے جبکہ فقہ حنفی کے مطابق لڑکی اور لڑکا بالغ ہو جائیں تو وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن بہتری اسی میں ہے کہ ماں باپ کی رضامندی کے ساتھ ہو۔

1567 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَّافِ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدِ دُلَيْسَ لَنَا، فَأَصَبْنَا مِنْ غَلَّتِهِ، وَعِنْدَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَحَدَّثَهُ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے خراج کا ضمان کے ساتھ فیصلہ فرمایا ہے۔

1567- اسنادہ ضعیف، مخلد بن خفاف مجہول، ولہ متابعات یتقوی بہا۔ وأخرجه البيهقي جلد 5 صفحہ 321 من طريق المصنف . وأخرجه الشافعي جلد 2 صفحہ 295، وأحمد رقم الحديث: 26041، وأبو داؤد رقم الحديث: 3509، والترمذی رقم الحديث: 1285، والنسائی رقم الحديث: 4502، وابن ماجه رقم الحديث: 2242، وأبو يعلى رقم الحديث: 4537، وابن الجارود رقم الحديث: 627، والبغوی فی الجعديات رقم الحديث: 2830، والطحاوی جلد 4 صفحہ 21، والعقيلي جلد 4 صفحہ 231، وابن حبان رقم الحديث: 4928، وابن عدی جلد 6 صفحہ 2436، والدارقطنی جلد 3 صفحہ 53، والحاكم جلد 2 صفحہ 15، وتمام فی الفوائد (691-692-الروض البسام)، والبغوی فی شرح السنة رقم الحديث: 2119 من طرق عن ابن أبي ذئب، به . قال الترمذی: حسن صحيح . ورواه هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة . أخرجه أحمد رقم الحديث: 24558، وأبو داؤد رقم الحديث: 3510، وابن ماجه رقم الحديث: 2243، وأبو يعلى رقم الحديث: 4614، وابن الجارود رقم الحديث: 626 .

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ایک غلام فوت ہو گیا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کا اس بستی میں کوئی رشتہ دار ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی: جی ہاں ہے! پس نبی اکرم ﷺ نے اس کی وراثت اسے عطا کر دی۔

1568 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوْفِيَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرَبَتِي؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيرَاثَهُ

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے صلوة کسوف

1569 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ

1568 - اسنادہ صحیح، مجاہد بن وردان، اثنی علیہ شعبة، ووثقه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطئ. وقال ابن معين: لا أعرفه. وأخرجه البيهقي جلد 6 صفحہ 243 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25459، وأبو داؤد رقم الحديث: 2902، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 6391، وأبو يعلى رقم الحديث: 4647، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 976-979، والبيهقي جلد 6 صفحہ 243، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 2230 من طرق عن شعبة، به. وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 11 صفحہ 412، وأحمد رقم الحديث: 25098، وأبو داؤد رقم الحديث: 2903، والترمذي رقم الحديث: 2105، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 6393، وابن ماجه رقم الحديث: 2733، والطحاوي جلد 4 صفحہ 404، وفي المشكل رقم الحديث: 977-978، والبيهقي جلد 6 صفحہ 243، والمزني في تهذيب الكمال جلد 27 صفحہ 239-240 من طريق الثوري وقيس بن الربيع، عن عبد الرحمن، به. وقال الترمذي: حسن.

1569 - حديث صحيح. أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 1880 من طريق المصنف. وأخرجه

أحمد رقم الحديث: 24517 من طريق سليمان بن كثير، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24410

والبخاري رقم الحديث: 1065، ومسلم رقم الحديث: 901، وأبو داؤد رقم الحديث: 1180-1188،

والترمذي رقم الحديث: 561-563، والنسائي رقم الحديث: 1493-1496، وابن ماجه رقم الحديث:

1263، وابن خزيمة رقم الحديث: 1379، وابن حبان رقم الحديث: 2549-2850، والبغوي في شرح

عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ فِي جَهْرِي قِرَاءَاتٍ فَرَمَائِي۔
بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

1570 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ

بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَارِ حِرَاءٍ، انْتَهَى
إِلَى خَدِيجَةَ، فَقَالَ: زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَزَمَلْتُمْ، ثُمَّ
قَالَ: يَا خَدِيجَةُ وَاللَّهِ لَقَدْ أَشْفَقْتُ عَلَى نَفْسِي
فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ: أَبَشِرْ فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ
أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ، وَتَصِلَ الرَّحِمَ،
وَتَقْرَى الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ،
فَانْطَلِقْ فَاَنْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ، وَكَانَ شَيْخًا
أَعْمَى، يَقْرَأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، فَقَالَتْ: أَيُّ ابْنِ
عَمِّ اسْمَعْ مَا يَقُولُ ابْنُ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: مَاذَا

حضرت عروہ بن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غار حرا
سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
کے پاس آئے، آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے چادر اوڑھا
دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ پس آپ کو چادر اوڑھا دی گئی، پھر
آپ ﷺ نے فرمایا: اے خدیجہ! اللہ کی قسم! میں اپنے
اوپر خوف کرتا ہوں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے
آپ سے کہا: خوشخبری ہو! اللہ کی قسم! اللہ آپ کو کبھی رسوا
نہیں کرے گا کیونکہ آپ سچی بات کہتے ہیں، اور رشتہ
داری جوڑتے ہیں، اور مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، اور
حق بات کی رہنمائی کرتے ہیں، سو وہ آپ ﷺ کو
حضرت ورقہ کی طرف لے گئیں، وہ نابینا بزرگ تھے وہ

السنة رقم الحديث: 1146 من طرق عن الزهري، به . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 180، وأحمد

رقم الحديث: 24091، والبخاري رقم الحديث: 1044-1058، ومسلم رقم الحديث: 901، وأبو داؤد

رقم الحديث: 1187، وابن خزيمة رقم الحديث: 1378 من طرق عن عروة، به .

1570- حديث صحيح، وإسناد المصنف ضعيف، لتضعف صالح بن أبي الأخضر . وأخرجه عبد الرزاق رقم

الحديث: 9719، وأحمد رقم الحديث: 25907-26001، والبخاري رقم الحديث: 4953-6982،

ومسلم رقم الحديث: 160، والترمذي رقم الحديث: 3632، والطبري في التفسير جلد 30 صفحہ 162،

وفى التاريخ جلد 2 صفحہ 298، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 110-112، وابن حبان رقم الحديث: 33،

والآجری فی الشریعة رقم الحديث: 969، والحاكم جلد 3 صفحہ 183-184، وأبو نعيم فى الدلائل

جلد 1 صفحہ 213-215، والبيهقي جلد 9 صفحہ 5-6، وفى الدلائل جلد 2 صفحہ 135-136، والبغوى فى

شرح السنة رقم الحديث: 3735 من طرق عن الزهري، به .

انجیل کو عبرانی زبان میں پڑھتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا: اے میرے چچا کے بیٹے! سنئے آپ کے بھائی کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ حضرت ورقہ نے آپ سے کہا: اے میرے بھتیجے! آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں بتایا، تو انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا، کاش میری اس وقت تک زندگی ہو جس وقت آپ کی قوم آپ کو (آپ کے شہر) مکے سے نکالے گی، میں آپ کی اس وقت مدد کرتا۔ آپ نے فرمایا: میری قوم مجھے نکالے گی؟ اس نے کہا: ہاں! جو کوئی بھی آپ کی مثل احکام لے کر آیا اسے ازیت دی گئی، کاش میں اس وقت آپ کی مدد کرتا۔

تَقُولُ يَا ابْنَ أَخِي؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هُوَ وَاللَّهِ النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى مُوسَى فَلَيْتَنِي حَيًّا يَوْمَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَأَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا قَالَ: وَمُخْرِجِي قَوْمِي؟ قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِي وَأُودِي، فَلَيْتَنِي فِيهَا جَدًّا

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے، آپ آئے اور آپ کا رخ قبلہ کی طرف تھا، سو آپ نے میرے لیے دروازہ کھولا اور پھر اپنی نماز پڑھنے کے لیے واپس ہو گئے۔

1571 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ بُرْدِ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ اسْتَفْتِحُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَيَجِيءُ يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، فَيَفْتَحُ لِي، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيَّ صَلَاتِهِ

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1572 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ

1571- اسنادہ معلول، کما سیاتی، وَاخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 26014، وَأَبُو دَاوُدَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 922، وَالتِّرْمِذِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 601، وَالنَّسَائِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1205، وَأَبُو يَعْلَى رَقْمَ الْحَدِيثِ: 4406، وَابْنُ حَبَانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2355، وَالدَّارِقُطْنِيُّ جِلْدَ 2 صَفْحَةَ 80، وَالبَيْهَقِيُّ جِلْدَ 2 صَفْحَةَ 265، وَالبَغْوِيُّ فِي شَرْحِ السَّنَةِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 747 مِنْ طَرِيقِ عَنْ بُرْدٍ، بِهِ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.

بُنْ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ أَوَّلُ مَا بُدِيَ بِهِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّؤْيَا الصَّادِقَةَ،
لَا يَرَى فِي مَنَامِهِ رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ
الصُّبْحِ، وَحُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَمُكُّ الْأَيَّامَ
فِي غَارِ حِرَاءَ يَتَعَبَّدُ حَتَّى فَجَاهُ الْحَقُّ يَوْمًا وَهُوَ فِي
غَارِ حِرَاءَ

1573 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ وَهَبَتْ، يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ بِمَكَانِهَا
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1574 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
(کو عطاءے نبوت) کی ابتداء سچے خوابوں سے کی گئی
جو آپ خواب میں دیکھتے، وہ خواب صبح روشن کی طرح
ظاہر ہو جاتے اور آپ ﷺ کو تنہائی محبوب کر دی گئی، سو
آپ غار حرا میں چند دن ٹھہرتے، وہاں عبادت کرتے
یہاں تک کہ ایک دن آپ کے پاس پیغام حق (وحی)
بھی آپ پر غار حرا میں ہی آیا۔

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کرتے ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ نے اپنی
باری رسول اللہ ﷺ کی عائشہ کو ہبہ کر دی (یعنی جس
دن حضور ﷺ کو حضرت سودہ کے پاس ٹھہرنا ہوتا تھا وہ
دن مجھے دے دیا)۔

1572- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لضعف صالح . وأخرجه الآجری فی الشریعة رقم
الحدیث: 968 من طریق المصنف .

1573- حدیث صحیح . وابن ابی الزناد ضعیف فی روایة العراقیین عنه وقد توبع . وأخرجه أبو داؤد رقم
الحدیث: 2135 ومن طریقہ البیہقی جلد 7 صفحہ 74 ومنہ طریق ابن ابی الزناد بہ ، مطولاً . وأخرجه
أحمد رقم الحدیث: 24440 والبخاری رقم الحدیث: 5212، ومسلم رقم الحدیث: 1463، والنسائی
فی الکبریٰ رقم الحدیث: 8934، وابن ماجہ رقم الحدیث: 1972، وابن حبان رقم الحدیث: 4211،
والبیہقی جلد 7 صفحہ 74، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 2324 من طرق عن ہشام بن عروہ،
عن ابیہ بہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24903، والدارمی رقم الحدیث: 2214، والبخاری رقم
الحدیث: 2593، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2138، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 8923، وابن
ماجہ رقم الحدیث: 1970-2347، وابن الجارود رقم الحدیث: 725 من طرق عن الزہری، عن عروہ،
بہ .

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقُولُ نَحْنُ قُطَّانُ الْبَيْتِ لَا نَفِيضُ إِلَّا مِنْ مَنِيٍّ، وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) (البقرة: 199)

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ قریش کہتے تھے: ہم تو نہیں لوٹیں گے مگر منیٰ سے اور لوگ عرفات سے ہی واپس لوٹتے، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: "ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ" "پھر وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں"۔

(199)

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1575 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ ہم پر رسول

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ،

اللہ ﷺ کے زمانے میں ایسا وقت بھی آیا کہ چالیس

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ يَأْتِي عَلَيْنَا

1574 - حَدِيثٌ صَحِيحٌ . أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيَّةِ جُلْد 7 صَفْحَةَ 138 مِنْ طَرِيقِ الْمَصْنَفِ . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه

رقم الحديث: 3018 من طريق الثوري، به . وأخرجه البخاري رقم الحديث: 1665-4520 ومسلم رقم

الحديث: 1219، وأبو داؤد رقم الحديث: 1910، والترمذي رقم الحديث: 884، والنسائي رقم

الحديث: 3012، والطبري في التفسير جلد 2 صفحہ 291، وابن خزيمة رقم الحديث: 3058، وابن أبي

حاتم في التفسير رقم الحديث: 1860 من طرق عن هشام، به .

1575 - حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَاسْنَادُ الْمَصْنَفِ ضَعِيفٌ لضعف شيخه . وَأَخْرَجَهُ مَعْمَرُ فِي جَامِعِهِ رَقْم

الحديث: 20625، وعبد بن حميد رقم الحديث: 1489، وأحمد رقم الحديث: 26119، والبخاري رقم

الحديث: 6458، ومسلم رقم الحديث: 2972، والترمذي رقم الحديث: 2471، وابن ماجه رقم

الحديث: 4144، وابن حبان رقم الحديث: 6361 من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة

بلفظ: (كان يأتي علينا الشهر) . وأخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 1508، والبخاري رقم

الحديث: 2567-6459، ومسلم رقم الحديث: 2972، وغيرهم من طريق أبي حازم، عن يزيد بن رومان،

عن عروة، به . وفيه ثلاثة أهلة في شهرين، ولم أر في طرق الحديث ذكر الأربعين ليلة كما عند

المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24465-24605 من طريق أبي حازم، عن عروة، بدون ذكر

يزيد بن رومان . ورواه أبو سلمة عن عائشة عند أحمد رقم الحديث: 25530-26046، وابن ماجه رقم

الحديث: 4145 .

راتوں تک رسول اللہ ﷺ کے گھر میں نہ چراغ کی آگ جلی اور نہ کچھ جلتا تھا۔ تو (حضرت عروہ کہتے ہیں کہ) میں نے عرض کی: پھر آپ گزارہ کیسے کرتے تھے؟ تو آپ فرماتے لگیں: دو کالی چیزوں، کھجور اور پانی سے۔

حضرت عروہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو طلاق بائنہ دی، انہوں نے ان کے بعد حضرت عبدالرحمن بن زبیر سے شادی کر لی، پس وہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آئی، سوذ کر کیا کہ وہ وطی کرنے کے قابل نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے کپڑے کے پلو سے اشارہ کیا۔ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مسکرا کر ہنس پڑے، پھر آپ نے فرمایا: تو اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ (دوسرا شوہر) تیرے شہد کا ذائقہ نہ چکھ لے۔

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن کی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کردہ احادیث

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مَا يُوقَدُ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ مُصْبِحٍ وَلَا غَيْرِهِ قَالَ: قُلْتُ: فَبِمَ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ؟ قَالَتْ: الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرَ وَالْمَاءِ

1576 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَيْبٍ، وَزَمْعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَأَبَتْ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَاتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْتِيَهَا، وَأَهْوَتْ إِلَى هُدْبَةَ مِنْ جِلْبَابِهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَاحِكًا، ثُمَّ قَالَ: فَإِنَّكَ لَا تَحْلِينَ لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكَ

272- أَبُو سَلَمَةَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ عَائِشَةَ

1577 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

1576 - حَدِيثٌ صَحِيحٌ سَبَقَ تَخْرِيجَهُ .

1577 - حَدِيثٌ صَحِيحٌ . أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ جُلْدَ 1 صَفْحَةَ 174 مِنْ طَرِيقِ الْمَصْنُفِ . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ

السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ يَمِينِهِ، فَصَبَّ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ ثُمَّ مَضَمَّ ثَلَاثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذَرَأَعِيَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ الْمَاءَ، فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ

رسول اللہ ﷺ جب غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے پھر بائیں ہاتھ میں پانی لے کر دائیں کو دھوتے پھر اپنی شرم گاہ کو دھوتے یہاں تک کہ اسے پاک کرتے پھر آپ تین دفعہ کلی کرتے اور تین دفعہ ناک میں پانی ڈالتے اور اپنے چہرے کو تین دفعہ دھوتے اور اپنی کلائیوں کو تین دفعہ دھوتے اور پھر اپنے سر اور جسم پر پانی ڈالتے پس جب غسل سے فارغ ہو جاتے تو اپنے دونوں پاؤں دھوتے۔

1578 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

حضرت ابو سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سال میں کسی

الحديث: 24692 من طريق حماد بن سلمة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25322-25448 والنسائي رقم الحديث: 246، وفي الكبرى رقم الحديث: 237، وابن حبان رقم الحديث: 1191، من طرق عن عطاء، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25150، والبخاري رقم الحديث: 251، ومسلم رقم الحديث: 316، والنسائي رقم الحديث: 420، وفي الكبرى رقم الحديث: 225 من طرق عن أبي سلمة، به . ورواه عروة بن الزبير والأسود بن يزيد، عن عائشة . أخرجه مالك جلد 1 صفحہ 44، وعبد الرزاق رقم الحديث: 999، والحميدي رقم الحديث: 163، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 63، والدارمي رقم الحديث: 754، والبخاري رقم الحديث: 248، ومسلم رقم الحديث: 316، وأبو داؤد رقم الحديث: 242-243، والترمذي رقم الحديث: 104، والنسائي رقم الحديث: 421، وابن خزيمة رقم الحديث: 242، والبيهقي جلد 1 صفحہ 175، والبخاري رقم الحديث: 246-247 .

1578- حديث صحيح . أخرجه الطحاوي جلد 2 صفحہ 83، والبيهقي جلد 2 صفحہ 210 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26166-25599، والبخاري رقم الحديث: 1970، ومسلم جلد 2 صفحہ 811، والنسائي رقم الحديث: 2179، وابن خزيمة رقم الحديث: 2079، وغيرهم من طرق عن هشام، به بزيادة فيه . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26006، وابن خزيمة رقم الحديث: 2078-1283، من طرق عن يحيى، به . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 173، وأحمد رقم الحديث: 26353، وعبد

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا إِلَّا شَعْبَانَ فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ

مہینہ کے بھی روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے۔

1579 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنُبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

حضرت ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ

بن حمید رقم الحدیث: 1514، والبخاری رقم الحدیث: 1969، ومسلم رقم الحدیث: 1156، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2434، والترمذی رقم الحدیث: 737، والنسائی رقم الحدیث: 2176-2178، وابن ماجه رقم الحدیث: 1710، وابن الجارود رقم الحدیث: 400، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2133 من طرق عن أبي سلمة، به نحوه. وروى عبد الله بن أبي قيس وربيعه الجرشي وجبير بن نفير وعروة وخالد بن سعد، عن عائشة، نحو هذا الحديث. أخرجه أحمد رقم الحدیث: 25589، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2431، والترمذی رقم الحدیث: 745، والنسائی رقم الحدیث: 2180-2185، وابن ماجه رقم الحدیث: 1649-1739، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2135، وغيرهم، وانظر ما سبق برقم 1494.

1579- حدیث صحیح أخرجه أحمد رقم الحدیث: 26239-25910، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 3059 من طریق ابن أبي ذئب، به. ورواه عقيل ومعمّر، عن الزهري، به. أخرجه أحمد رقم الحدیث: 25995، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 3057-3058. وروى عن الزهري عن عروة عن عائشة أخرجه النسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 3055-3056، والزهري واسع الرواية فيحتمل أنها عنده ورواه يحيى بن أبي كثير واختلف عليه فروى عنه عن أبي سلمة عن عائشة، أخرجه النسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 3061-3062 من طریق الأوزاعي وهشام الدستوائي عن يحيى. وتابعه صالح بن أبي حسان والحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، به. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26239، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 3059-3060. وروى عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عروة، عن عائشة، زاد فيه (عروة). أخرجه أحمد رقم الحدیث: 26188، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 3063-3064 من طریق هشام الدستوائي وعلي بن المبارك، عن يحيى. ورواه شيبان بن عبد الرحمن ومعاوية بن سلام، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عمر بن عبد العزيز، عن عروة، عن عائشة. أخرجه أحمد رقم الحدیث: 26435، ومسلم رقم الحدیث: 1106، والنسائی فی الكبرى رقم

عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ

روزے کی حالت میں میرا بوسہ لیتے تھے۔

حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ

1580 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ رسول اللہ

بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي

ﷺ مکہ میں دس سال تک رہے آپ پر وحی اترتی رہی

سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرْتَنِي عَائِشَةُ، وَابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ

اور مدینہ شریف میں دس سال۔

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ

سِنِينَ، يَنْزِلُ عَلَيْهِ وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ

حضرت ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1581 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

بُسْفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

الحدیث: 3066-3067. وروی عن قتادة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زينب بنت أم

سلمة، عن أم سلمة. أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 3068 وقال: هذا خطأ من حديث

قتادة .

1580 - حدیث صحیح . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 14 صفحہ 290، وأحمد رقم الحديث: 2696، وعبد بن

حميد رقم الحديث: 1519، والبخاري رقم الحديث: 4464-4978، والنسائي في الكبرى رقم

الحدیث: 7977، والطبراني رقم الحديث: 10726 من طريق شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، به .

1581 - حدیث صحیح . أخرجه الشافعي جلد 2 صفحہ 183، والحميدي رقم الحديث: 281، وابن أبي شيبة

جلد 7 صفحہ 458-459، وأحمد رقم الحديث: 24128، والبخاري رقم الحديث: 242، ومسلم رقم

الحدیث: 2001، والنسائي رقم الحديث: 4650، وابن ماجه رقم الحديث: 3386، وأبو يعلى رقم

الحدیث: 4523، وابن الجارود رقم الحديث: 855، والطحاوي جلد 4 صفحہ 216، وابن حبان رقم

الحدیث: 5393، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 3009 من طرق عن سفيان، به . وأخرجه مالك

جلد 2 صفحہ 845، وعبد الرزاق رقم الحديث: 17002، وأحمد رقم الحديث: 25613، والدارمي رقم

الحدیث: 2103، والبخاري رقم الحديث: 5586، ومسلم رقم الحديث: 2001، وأبو داؤد رقم

الحدیث: 3682، والترمذي رقم الحديث: 1863، والنسائي رقم الحديث: 5610، وابن حبان رقم

الحدیث: 5372-5397، والدارقطني جلد 4 صفحہ 251، والبيهقي جلد 8 صفحہ 291، والبغوي في شرح

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

نے فرمایا: ہر نشہ دینے والی شراب حرام ہے۔

1582 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل رسول اللہ ﷺ کو زیادہ پسند تھا؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جس پر ہمیشگی ہو۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ قَالَ: سُئِلْتُ عَائِشَةَ: أَيُّ الْعَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: أَدْوَمُهُ

1583 — حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ابوداؤد کی طرف سے شک نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنے آپ کو اتنے ہی کام کا مکلف بناؤ جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ أَبِي هُرَيْرَةَ - لَيْسَ الشُّكُّ مِنْ أَبِي دَاوُدَ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ

1584 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنِي

حضرت ابوسلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کھجور اور کشمش

حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي

السنة رقم الحديث: 3008 من طرق عن الزهري، به .

1582 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 25471-25512 وعبد بن حميد رقم الحديث: 1513 والبخاري رقم الحديث: 6465، ومسلم رقم الحديث: 783 وغيرهم من طرق عن شعبة، به، عن عائشة، قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال: أدومه . هكذا مرفوعاً، وعند المصنف موقوفاً من كالم عائشة، وانظر الحديث الذي بعده .

1583 - حديث صحيح وهو جزء من الحديث السابق . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25512م، من طريق شعبة به والشك فيه من سعد بن ابراهيم .

1584 - رجال اسناده ثقات، وقد يكون فيه خطأ، فقد جاء في المسند هكذا . بينما أخرجه البخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 178، تعليقا والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 6801 من طريق الطيالسي عن حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن كلاب بن علي، عن أبي سلمة . ورواه عبد الله بن رجاء، عن حرب

سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ

حضرت ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1585 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ آپ سحری سوکر

سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

ہی کرنا پسند تھی، آپ کی مراد نبی اکرم ﷺ ہیں۔

قَالَتْ: مَا أَلْفَاهُ السَّحْرُ إِلَّا نَائِمًا تُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

1586 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی رات کی نماز

هَشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

بن شداد، فقال: ثمامة بن كلاب . أخرجه البخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 178 . وتابعه علي بن

مبارك، عن يحيى بن أبي كثير، مثله . أخرجه أحمد رقم الحديث: 26099، والنسائي في الكبرى رقم

الحديث: 6802 عن محمد بن المثنى، عن أبي عامر، عن علي . وأخرجه النسائي رقم الحديث: 6803

عن ابن المثنى، عن عثمان بن عمر، عن علي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي قتادة . وكلاب بن علي

غلط، والصواب: ثمامة بن كلاب . قاله البخاري في التاريخ جلد 2 صفحہ 178 . وتمامه مجهول .

1585- حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 26368، والبخاري رقم الحديث: 1133، وأبو داؤد رقم

الحديث: 1318، وأبو يعلى رقم الحديث: 4835، وابن حبان رقم الحديث: 2637، والبيهقي

جلد 3 صفحہ 3 من طريق ابراهيم بن سعد، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25739، والحميدي رقم

الحديث: 189، ومسلم رقم الحديث: 742، وابن ماجه رقم الحديث: 1197، وأبو عوانة

جلد 2 صفحہ 306، وابن حبان رقم الحديث: 4662، من طرق عن سعد بن ابراهيم، به .

1586- حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 25600-26165، والدارمي رقم الحديث: 1482،

ومسلم رقم الحديث: 738، والنسائي رقم الحديث: 1780، وابن خزيمة رقم الحديث: 1102، من طرق

عن هشام، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24561، والبخاري رقم الحديث: 619 مختصراً ومسلم

رقم الحديث: 738، وأبو داؤد رقم الحديث: 1340، والنسائي رقم الحديث: 1755-1778، وابن ماجه

رقم الحديث: 1196، وغيرهم من طرق أخرى عن يحيى بن أبي كثير، به . وليس عند البخاري ذكر

الصلاة بعد الوتر .

قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانٍ، ثُمَّ يُوتِرُ كَأَنَّهُ يُوتِرُ بِتِسْعٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، يَعْنِي مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ

کے متعلق پوچھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آپ ﷺ تیرہ رکعت ادا کرتے تھے، آٹھ رکعت پڑھتے تھے پھر ایک وتر پڑھتے تھے گویا کہ آپ نوں کو وتر بناتے، پھر دو رکعت بیٹھ کر پڑھتے تھے، پس جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے تو آپ کھڑے ہو جاتے، پھر آپ رکوع کرتے پھر دو رکعت اذان اور اقامت کے درمیان پڑھتے یعنی فجر کی (سنتیں)۔

1587 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي

حضرت ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کرتے ہیں، وہ نبی اکرم ﷺ سے کہ آپ نے

1587- رجال اسنادہ ثقات، لکنہ منقطع، الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 3290، والنسائي رقم الحديث: 3844، والفسوي في المعرفة جلد 3 صفحہ 3، والبيهقي جلد 10 صفحہ 69 من طريق ابن المبارك، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26140، والبخاري في التاريخ الكبير جلد 4 صفحہ 2 تعليقا وفي الصغير جلد 2 صفحہ 181، وأبو داؤد رقم الحديث: 3291، والترمذي رقم الحديث: 1524، والنسائي رقم الحديث: 3846، وابن ماجه رقم الحديث: 2125، والفسوي في المعرفة جلد 3 صفحہ 3، والطحطاوي في المشكل رقم الحديث: 2158، والبيهقي جلد 10 صفحہ 69، والخطيب جلد 5 صفحہ 127، والبيهقي في شرح السنة رقم الحديث: 2447 من طريق الليث وعثمان بن عمر بن فارس وابن وهب وغيرهم، عن يونس، به. وأخرجه البخاري في الصغير جلد 2 صفحہ 181، والفسوي جلد 3 صفحہ 3 من طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري: وبلغني عن أبي سلمة. وقال الترمذي: هذا الحديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. قال: سمعت محمداً يقول: روى غير واحد منهم موسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال محمد: والحديث هو هذا. انظر العلل الكبير للترمذي صفحہ 250. وقال أبو داؤد: سمعت أحمد بن شويه يقول: قال ابن المبارك يعني في هذا الحديث: حدث أبو سلمة. فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. وقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول:

سَلَمَةَ، عَنِ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فرمایا: نافرمانی میں کوئی نذر نہیں، اور اس کا کفارہ قسم کا

افسدوا علينا هذا الحديث . وقال الحافظ في الفتح جلد 11 صفحہ 587، رواه ثقات، لكنه معلول، فان الزهري رواه عن ابي سلمة، ثم بين انه حملة عن سليمان بن ارقم، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، فدلسه باسقاط اثنين، وحسن الظن بسليمان، وهو عند غيره ضعيف باتفاقهم . واخرجه الفسوي جلد 3 صفحہ 4 من طريق عنبة بن خالد، عن يونس، عن الزهري . قال: اخبرني ابو سلمة . هكذا جاء في المطبوع . واخرجه البيهقي من طريق الفسوي، وفيه: (عن الزهري قال: حدث ابو سلمة) . واخرجه النسائي رقم الحديث: 3847 من طريق ابي ضمرة انس بن عياض، عن يونس، عن الزهري، قال: (حدثنا ابو سلمة) . هكذا في المطبوع، والذي في التحفة جلد 12 صفحہ 367 (حدث ابو سلمة) . وكذا ذكره الدارقطني في العلل (5 ارق: 70-ب) عن ابي ضمرة . ورواية الزهري عن سليمان بن ارقم، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة اخرجها البخاري في الصغير جلد 2 صفحہ 180، و ابو داؤد رقم الحديث: 3293، والترمذي رقم الحديث: 1525، والنسائي رقم الحديث: 3848، والطحاوي رقم الحديث: 2159، وابن عدي جلد 3 صفحہ 1102-1103، وتمام في الفوائد (942-الروض البسام) والبيهقي جلد 10 صفحہ 69 من طريق موسى ابن عقبة ومحمد بن ابي عتيق، عن الزهري . قال الدارقطني: الصحيح حديث ابن ابي عتيق وموسى بن عقبة، عن الزهري . وسليمان بن ارقم ضعيف، وخالفه علي بن المبارك وغيره، فرووه عن يحيى بن ابي كثير، عن محمد بن الزبير، عن ابيه، عن عمران بن حصين . قال ابو داؤد: قال احمد بن محمد المروزي: انما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن ابي كثير، عن محمد بن الزبير، عن ابيه، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . قال ابو داؤد: اراد ان سليمان بن ارقم وهم فيه، وحملة عنه الزهري، وارسله عن ابي سلمة، عن عائشة . وكذلك قال البيهقي جلد 10 صفحہ 69 . فرجع الحديث الى حديث عمران الذي سبق برقم 878، ولفظه: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين . وفيه محمد بن الزبير، وهو متروك . وفي مسند احمد رقم الحديث: 26141 عن عثمان بن عمر بن قارس، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة..... الحديث . والظاهر ان في الحديث خطأ نسخيا او طباعيا، بحيث ادخل متن حديث في اسناد آخر، لان الحافظ لم يذكره في الفتح ولا في التلخيص، ولا في اطراف المسند جلد 9 صفحہ 151، واستدركه محقق اطراف المسند من المطبوع، ومما يزيد الريبة

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نَذَرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةٌ . كَفَّارَةٌ هِيَ -

يَمِينٍ

1588 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ
عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی: کیا رسول اللہ ﷺ

فيہ عدم وجود ذکر لہ فی ای من الکتب السابقة التي تناولت هذا الحديث مع أهمية هذا الاسناد الصحيح . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24121، والبخاري رقم الحديث: 6700، وأبو داؤد رقم الحديث: 3289، والترمذي رقم الحديث: 1526، وابن ماجه رقم الحديث: 2126، وابن خزيمة رقم الحديث: 2241، حديث القاسم، عن عائشة، مرفوعاً: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه . وزاد بعضهم: وقال: يكفر عن يمينه كما عند الطحاوي في المشكل رقم الحديث: 2144-1514 . وقال الحافظ في التلخيص: قال ابن القطان: عندي شك في رفع هذه الزيادة . وانظر التاريخ الكبير جلد 4 صفحہ 2، والصغير جلد 2 صفحہ 181، والمعرفة للفسوي جلد 3 صفحہ 3-5، ومعالم السنن للخطابي جلد 4 صفحہ 54-55، والکامل جلد 3 صفحہ 1103، والسنن للبيهقي جلد 10 صفحہ 69، وشرح السنة للبخاري جلد 10 صفحہ 33-35، والفتح جلد 11 صفحہ 587، والتلخيص جلد 4 صفحہ 175، والارواء جلد 8 صفحہ 216 .

1588- حديث صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 61، وأحمد رقم الحديث: 25013، والبخاري رقم الحديث: 286 من طريق هشام و همام وشيبان، عن يحيى، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 1073، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 60-61، وأحمد رقم الحديث: 24129، ومسلم رقم الحديث: 305، وأبو داؤد رقم الحديث: 223-222، والنسائي رقم الحديث: 258-256، وابن ماجه رقم الحديث: 593-584، وأبو يعلى رقم الحديث: 4782، وابن خزيمة رقم الحديث: 213، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 277-278، والطحاوي جلد 1 صفحہ 126، وابن حبان رقم الحديث: 1217، والدارقطني جلد 1 صفحہ 125-126، والبيهقي جلد 1 صفحہ 200، والبخاري في شرح السنة رقم الحديث: 265-266، من طريق الزهري ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25639، والبخاري رقم الحديث: 288، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 9041 من طريق الزهري وأبي الأسود محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة . وانظر العلل للدارقطني (5/68-ب، 69-أ) .

سَلَمَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ، وَهُوَ جُنُبٌ؟
قَالَتْ: نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

حالت جنابت میں سوتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہاں! اور آپ ﷺ نماز جیسا وضو کرتے تھے (پھر سوتے تھے)۔

1589 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، تو آپ نے دعا کی: "اَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ فَإِنَّهُ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ" "میں نے اللہ سے اس کے شر سے پناہ مانگتی ہوں، اس کے اندھیرے سے جب وہ سمٹ جائے۔"

أَبِي ذُنُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْقَمَرِ فَقَالَ: اَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ فَإِنَّهُ الْغَاسِقُ إِذَا وَقَبَ

1590 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو آدمی

أَبِي ذُنُبٍ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ

1589- اسنادہ حسن، لحال الحارث بن عبد الرحمن، صدوق حسن الحديث. وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 26043، وعبد بن حميد رقم الحديث: 515، والترمذي رقم الحديث: 3366، والنسائي في

الكبرى رقم الحديث: 10138، والطبري في التفسير جلد 30 صفحہ 352، والطحاوي في المشكل رقم

الحديث: 1771، والحاكم جلد 2 صفحہ 541، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 1367 من طريق

أبي داؤد الحفري وابن وهب ووكيع ويزيد بن هارون والثوري وأبي عامر العقدي وغيرهم، عن ابن

أبي ذئب، به. وقال الحاكم: صحيح الاسناد. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26189-25849،

والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10137، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 1773 من طريق

أبي عامر العقدي، عن ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، والمنذر بن أبي المنذر، عن أبي

سلمة، به. زاد فيه المنذر. قال الطحاوي: لا نعلم لهذا الحديث مخرجا غير مخرجه هذا. ولا نعلم

أحدًا ممن رواه عن ابن أبي ذئب ذكر في اسناده (المنذر) مع (الحارث) غير أبي عامر العقدي،

والمنذر هذا لا نعلم أن أحدًا حدث عنه غير ابن أبي ذئب. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح الاسناد. وقال الحافظ في الفتح جلد 8 صفحہ 741: اسناده حسن.

1590- حديث صحيح، وفي اسناد المصنف خطأ، فقد قال ابن أبي حاتم في العلل رقم الحديث: 162: سنل

اپنی نیند سے بیدار ہو، وہ اپنے ہاتھ پانی میں نہ ڈالے یہاں تک کہ اپنے ہاتھ پر تین چلو پانی ڈالے اور رسول اللہ ﷺ جب جاگتے تھے تو ایسا نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ تین مرتبہ اپنے ہاتھ پر پانی ڈالتے۔

عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي طُهُورِهِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَيْقَظَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثًا

1591 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ، فَأَرْسَلُوا إِلَيَّ عَائِشَةَ: مَتَى تَقْضِي الْحَامِلُ عِدَّتَهَا؟ فَقَالَتْ: تُوفِّي زَوْجٌ سُبَيْعَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِثَلَاثِ فِائِتٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَزَوِّجَ

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم کی مجلس میں تھا، انہوں نے (مجھے) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا (کہ مسئلہ پوچھیں) حاملہ کی عدت کب ختم ہوتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: سبیعہ بنت حارث کا شوہر فوت ہو گیا تھا اور وہ حاملہ تھی، ان کے ہاں تین دن کے بعد بچہ کی ولادت ہو گئی، پس وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی، تو آپ نے اس کو شادی کا حکم دیا۔

أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة .
ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي ذئب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . فقال أبو زرعة:
هذا عندي وهم . يعني حديث ابن أبي ذئب .

1591- حديث صحيح . وفي اسناد المصنف خطأ . وعزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم
الحديث: 2124 الى المصنف . وأخرجه اسحاق بن راهويه في مسنده جلد 2 صفحہ 493 من طريق ابن
أبي ذئب به . وأخرجه عبد بن حميد في مسنده كما في الفتح جلد 9 صفحہ 471 من طريق صالح بن
أبي حسان به . وقال الحافظ: شاذ وصالح بن أبي حسان مختلف فيه .

273- عُقْبَةُ بْنُ صُهَبَانَ

الْهِنَائِيُّ عَنْ

عَائِشَةَ

حضرت عقبہ بن صہبان ہنائی کی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے

روایت کردہ حدیث

1592 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو شُعَيْبٍ،

قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ صُهَبَانَ الْهِنَائِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ

عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا

الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا) (فاطر:

32) الْآيَةَ، فَقَالَتْ لِي: يَا بَنِي كُلِّ هَوْلَاءٍ فِي

الْجَنَّةِ فَأَمَّا السَّابِقُ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَمَنْ مَضَى عَلَى

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَ لَهُ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَيَاةِ

وَالرِّزْقِ، وَأَمَّا الْمُقْتَصِدُ فَمَنْ تَبَعَ آثَرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ

حَتَّى لَحِقَ بِهِ، وَأَمَّا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ فَمَثَلِي

وَمَثَلِكُمْ. قَالَ: فَجَعَلْتُ نَفْسَهَا مَعَنَا

حضرت عقبہ بن صہبان ہنائی رضی اللہ عنہ فرماتے

ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا

اللہ عزوجل کے اس ارشاد کے متعلق: ”ثُمَّ أَوْرَثْنَا

الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا“ (فاطر: ۳۲) تو

آپ رضی اللہ عنہا نے مجھے فرمایا: اے بیٹے! یہ سارے

کے سارے جنتی ہیں، بہر حال بھلائی میں سبقت کرنے

والے تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک

میں گزر گئے، رسول اللہ ﷺ نے ان کی حیات و رزق

کی گواہی دی، اور مقتصد وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے پیچھے

چلے یہاں تک کہ ان کے ساتھ ملے بہر حال وہ شخص

جس نے اپنی جان پر ظلم کیا وہ میری مثل اور تمہاری مثل

ہے۔ راوی فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کو ان

کے ساتھ بلا لیا (عاجزی کے طور پر)۔

1592- اسنادہ ضعیف، لضعف الصلت بن دینار . وعزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 4070 الى

المصنف . واخرجه الطبرانی في الأوسط رقم الحديث: 6094، والحاكم جلد 2 صفحہ 426 من طریق

المعتمر بن سليمان، عن أبي شعيب الصلت بن دینار، به 'وصححه الحاكم' وتعقبه الذهبي بضعف

الصلت . وقال الطبرانی: لم يرو هذا الحديث عن عقبه بن صهبان الا أبو شعيب الصلت بن دینار .

تفرد به معتمر . ووقع في المستدرک وتلخيصه: (الصلت بن عبد الرحمن) . وانظر تفسير الطبري

جلد 22 صفحہ 134-137، والدر المنثور جلد 5 صفحہ 251 .

274- أَبُو نُوفَلِ بْنِ

أَبِي عَقْرَبٍ

عَنْ عَائِشَةَ

حضرت ابونوفل بن ابی عقرب کی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کردہ احادیث

1593 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوفَلِ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ يُتَسَامَعُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّعْرُ؟ قَالَتْ: كَانَ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَيْهِ

حضرت ابونوفل بن ابی عقرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی گئی: کیا رسول اللہ ﷺ کے سامنے (فضول قسم کے) شعر پڑھے جاتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا: یہ ناپسندیدہ ترین بات تھی آپ کے ہاں۔

1594 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نُوفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدْعُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ

حضرت ابونوفل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جامع دعاء کو پسند کرتے تھے اور اس کے علاوہ کو چھوڑ دیتے تھے۔

275- عَطَاءُ بْنُ

أَبِي رَبَاحٍ

عَنْ عَائِشَةَ

حضرت عطاء بن ابی رباح کی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کردہ احادیث

1595 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1593 - اسنادہ صحیح . أخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 245 من طريق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة

جلد 8 صفحہ 534، وأحمد رقم الحديث: 25064-25193-25595 من طريق الأسود بن شيبان، به .

1594 - اسنادہ صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 25193-25595، وأبو داود رقم الحديث: 1482،

والطبرانی في الأوسط رقم الحديث: 4946 من طريق الأسود، به .

1595 - اسنادہ ضعیف جدا طلحة بن عمرو بن عثمان متروک . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 17 من

قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يُحَدِّثُ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ صَامًا وَأَفْطَرَ

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
ہر سفر میں روزہ رکھتے بھی تھے اور نہیں بھی رکھتے تھے۔

1596 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت عطاء، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ
کو میں نے عید الاضحیٰ کے دن خوشبو لگائی، جیرہ کو کنکریاں
مارنے کے بعد اور بیت اللہ کے طواف سے پہلے۔

طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَضْحَى
بَعْدَمَا رَمَى الْجُمُرَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

حضرت عطاء سے روایت ہے کہ ایک آدمی کا

1597 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَّاسُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ذکر کیا گیا، آپ

بُنُ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ عِنْدَ

طريق ابن أبي مليكة 'عن عائشة وأنس بلفظ: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يسافرون' فلا يعيب الصائم في المفطر' ولا المفطر على الصائم. وفي الصحيحين من رواية عروة 'عن عائشة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، انى رجل أسرد الصوم، أفصوم في السفر؟ قال: صم ان شئت، وأفطر ان شئت. وقد سبغ في مسند حمزة بن عمرو برقم 1271.

1596- حديث صحيح، واسناد المصنف ضعيف جدا، كسابقه. وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: 5036 من طريق أيوب بن موسى وابن أبي ليلى، عن عطاء، به. وسبق من حديث القاسم عن عائشة برقم 1521.

1597- حديث صحيح. أخرجه الخطيب في المبهمات صفحہ 338 من طريق المصنف. وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم الحديث: 709 من طريق إياس، به. ورواه عروة بن الزبير ومجاهد وشفية بنت شيبة، عن عائشة. أخرجه أحمد رقم الحديث: 25509، والدارمي رقم الحديث: 2514، والبخاري رقم الحديث: 1393-6516، وأبو داؤد رقم الحديث: 4899، والترمذی رقم الحديث: 3895، والنسائي رقم الحديث: 1934-935، وابن حبان رقم الحديث: 3021، والبيهقي جلد 4 صفحہ 75، والبقوى في شرح السنة رقم الحديث: 1509. وأخرجه الخطيب في المبهمات صفحہ 338 من طريق مسروق، عن عائشة، وفيه قصة، وسمى الرجل يزيد بن قيس الأرحبي. وانظر ما سبق برقم 1549.

عَائِشَةَ فَلَعَنَتْهُ أَوْ سَبَّتَهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ،
فَقَالَتْ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لَهُ، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ
لَعْنَتِيهِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَ لَهُ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَذْكُرُوا مَوْتَكُمْ إِلَّا
بِخَيْرٍ

نے اس پر لعنت بھیجی یا اس کو برا بھلا کہا۔ آپ سے عرض
کی گئی: وہ مر گیا ہے، آپ نے فرمایا: میں اس کے لیے
اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہوں، آپ سے عرض کی گئی:
اے ام المؤمنین! آپ نے اس پر لعنت فرمائی پھر آپ
اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہیں؟ تو آپ رضی اللہ
عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اپنے
مردوں کا ذکر بھلائی کے ساتھ ہی کیا کرو۔

حضرت عطاء، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ان سے
فرمایا: اے عائشہ! اگر کسی آدمی میں بے حیائی ہو تو وہ
آدمی برا ہوتا ہے۔

1598 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ إِنَّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ
رَجُلًا لَكَانَ رَجُلًا سَوْءٍ

حضرت عطاء، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1599 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1598- اسنادہ ضعیف جداً، طلحة بن عمرو بن عثمان متروك . وعزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث:
2897 الى المصنف . وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم الحديث: 328 من طريق طلحة بن
عمرو، به . وروى عن أبي سلمة وابن أبي مليكة، عن عائشة . أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت رقم
الحديث: 331، والطبرانی في الأوسط رقم الحديث: 4718 . وانظر الترغيب جلد 3 صفحہ 399
وتخريج احياء علوم الدين (2589- استخراج محمود حداد) .

1599- حديث صحيح . وطلحة بن عمرو بن عثمان متروك، يروى عن عطاء ما لا يتابع عليه، والظاهر أنه
دخل عليه حديث في حديث، فأول الحديث انما يروى في قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وآله
وسلم الى البقيع كما سبق برقم 1532 . وآخر ثابت عن عائشة من غير وجه أن النبي صلى الله عليه
وآله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبح قدوس بدون القصة . وأخرج العقيلي جلد 4
صفحہ 116 من طريق محمد بن عثيم وهو متروك عن عطاء، عن عائشة، قالت: افتقدت رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم في الليل، فخرجت التمسه فاذا هو ساجد قول: سجد لك خيالي
وسوادی..... وقال: يروى من غير هذا الوجه بخلاف هذا اللفظ . والحديث بدون القصة أخرجه

روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک رات بستر پر نہ پایا اور میں نے مان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہوں سو میں آپ کے پاس پہنچی اور آپ سجدہ کی حالت میں تھے میں نے آپ سے سنا آپ پڑھ رہے تھے: ”سُبُوْحًا قُدُوْسًا رَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ، سَبَقَتْ رَحْمَةُ رَبِّنَا غَضَبَهُ“ ”پاک ہے وہ اس کی پاکی فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام کرتے ہیں کہ ہمارے رب کی سبقت اس کے غصہ پر غالب ہے۔“

طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَضْجِعِهِ لَيْلَةً، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَتَى بَعْضَ نِسَائِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: سُبُوْحًا قُدُوْسًا رَبِّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ، سَبَقَتْ رَحْمَةُ رَبِّنَا غَضَبَهُ

وہ احادیث جو سعد بن ہشام حضرت

276- أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ

عائشہ سے روایت کرتے ہیں

هَشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

1600 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عبد الرزاق رقم الحديث: 2884، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 250، وأحمد رقم الحديث: 24110، ومسلم رقم الحديث: 487، وأبو داؤد رقم الحديث: 872، والنسائي رقم الحديث: 1047، وابن خزيمة رقم الحديث: 606، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 167، والطحاوي جلد 1 صفحہ 234، وابن حبان رقم الحديث: 1899، والبيهقي جلد 2 صفحہ 87-109، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 625 من طرق عن قتادة، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن عائشة .

1600- حديث صحيح . أخرجه الدارمي رقم الحديث: 1483، ومسلم رقم الحديث: 746، والنسائي رقم الحديث: 1718، وابن خزيمة رقم الحديث: 1078-1127-1170 من طريق هشام، به في حديث طويل في صفة قيامه صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24314، والبخاري في خلق أفعال العباد رقم الحديث: 48، ومسلم رقم الحديث: 746، وأبو داؤد رقم الحديث: 1342-1345، والترمذي رقم الحديث: 445، والنسائي رقم الحديث: 1314-1600-1640، وابن ماجه رقم الحديث: 1191-1348، وابن خزيمة رقم الحديث: 1178، وابن حبان رقم الحديث: 2644-2646 من طرق عن

دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ
 أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا
 صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا
 كَامِلًا إِلَّا رَمَضَانَ وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ وَلَا قَرَأَ
 الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ

اللہ ﷺ نے ماہ رمضان کے علاوہ کسی ماہ میں مکمل
 روزے نہیں رکھے اور نہ ہی آپ نے ساری رات قیام
 فرمایا اور نہ ہی ایک ہی رات میں قرآن پڑھا۔

1601 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے فجر کی دو رکعتیں سرخ
 اونٹوں سے زیادہ محبوب ہیں۔

عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ
 بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

قتادة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26029، وأبو داؤد رقم الحديث: 1349 من طريق بهز بن
 حكيم، عن زرارة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25942، وأبو داؤد رقم الحديث: 1352،
 والنسائي رقم الحديث: 1650، وابن خزيمة رقم الحديث: 1104 من طريق الحسن وغيره، عن سعد
 بن هشام، به . ورواه أبو سلمة وغيره، عن عائشة . أخرجه أحمد رقم الحديث: 24379، والبخاري
 رقم الحديث: 1969، ومسلم رقم الحديث: 1156، وأبو داؤد رقم الحديث: 2434، والترمذي رقم
 الحديث: 768، والنسائي رقم الحديث: 2182، وابن ماجه رقم الحديث: 1710، وابن خزيمة رقم
 الحديث: 2132 . وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري رقم الحديث: 1971، ومسلم رقم الحديث:
 1157 .

1601- حديث صحيح . أخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 470 من طريق المصنف . وأخرجه مسلم رقم الحديث:
 725، والترمذي رقم الحديث: 416، والبيهقي جلد 2 صفحہ 470، والبخاري في شرح السنة رقم
 الحديث: 881 من طريق أبي عوانة، به . وقال الترمذي: حسن صحيح . وأخرجه ابن أبي شيبة
 جلد 2 صفحہ 241، وأحمد رقم الحديث: 24287، ومسلم رقم الحديث: 725، والنسائي رقم
 الحديث: 1758، وابن خزيمة رقم الحديث: 1107، وابن حبان رقم الحديث: 2458، والحاكم
 جلد 1 صفحہ 306-307، والبيهقي جلد 2 صفحہ 470 من طريق قتادة، به . وعندهم جميعا: أحب الي من
 الدنيا وما فيها . وفي مسند أحمد رقم الحديث: 25206: وكان قتادة يستمع هذا الحديث، فيقول:
 اللهم أحب الي من حمر النعم .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ: لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ
مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

1602 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

وَهِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ
بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ
السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ - قَالَ
هِشَامٌ: وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ وَقَالَ شُعْبَةُ: وَهُوَ عَلَيْهِ
شَاقٌّ - فَلَهُ أَجْرَانِ

1603 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ
بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ خُلُقًا أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهِ،

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، رسول اللہ ﷺ سے
روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: وہ آدمی جو قرآن
پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر بھی ہے، وہ معزز فرشتوں کے
ساتھ ہوگا (قیامت کے دن) اور وہ آدمی جو قرآن
پڑھتا ہے، حضرت ہشام نے کہا: اور وہ اس پر پڑھنا
دشوار بھی ہے، اور شعبہ کی روایت میں ”وہو علیہ
شاق“ کے الفاظ ہیں، تو اس کے لیے دو اجر ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی
اکرم ﷺ جب کوئی عمل کرتے تھے تو اس پر ہمیشگی کرنا
پسند کرتے تھے، پس جب آپ پر مرض یا نیند کا غلبہ ہو
جاتا تو آپ دن کو بارہ رکعت نفل ادا کرتے تھے۔

1602 - حدیث صحیح . أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 2904، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 2 صفحہ 260، من

طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24832، والبخاری رقم الحدیث: 4937، وفي خلق

أفعال العباد رقم الحدیث: 37، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 11646، وتسام فی الفوائد

(1299-الروض البسام) والبیہقی جلد 2 صفحہ 395 من طریق شعبہ، عن قتادة، به . وأخرجه ابن أبی

شیة جلد 10 صفحہ 490، وأحمد رقم الحدیث: 26070، والدارمی رقم الحدیث: 3371، ومسلم رقم

الحدیث: 789، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1454، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 8047، وابن حبان

رقم الحدیث: 767، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 1174 من طریق ہشام، عن قتادة، به .

وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26339، والدارمی رقم الحدیث: 3371، ومسلم رقم الحدیث: 789،

وأبو داؤد رقم الحدیث: 1454، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 8045-8046، وابن ماجہ رقم

الحدیث: 3779، وتسام فی الفوائد (1300، 1301-الروض البسام) من طرق أخرى عن قتادة، به .

1603 - حدیث صحیح وهو جزء من حدیث طویل سبق تخریجه .

فَإِذَا غَلَبَهُ عَلَيْهِ مَرَضٌ أَوْ نَوْمٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ
عَشْرَةَ رَكْعَةً

1604 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی
اکرم ﷺ کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا، اس کا نام
شہاب تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو ہشام ہے۔

عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ
بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ اسْمُهُ شِهَابٌ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ هِشَامٌ

جو حدیثیں عبدالرحمن بن حارث،

277- عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ

روایت کرتے ہیں

عَنْ عَائِشَةَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

1605 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1604- اسنادہ ضعیف، لضعف عمران القطان . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24509، وابن حبان رقم
الحديث: 5823 من طريق المصنف . وأخرجه البخاری فی الأدب المفرد رقم الحديث: 825
والطبرانی فی الأوسط رقم الحديث: 2387، والحاكم جلد 4 صفحہ 276، وتمام فی الفوائد (1214 -
الروض البسام) والخطيب فی المبهمات صفحہ 329 من طريق عمرو بن مرزوق، عن عمران القطان
به، وقال الحاكم: صحيح الاسناد . وأخرجه الطبرانی جلد 22 صفحہ 171، والحاكم جلد 4
صفحہ 277، والخطيب فی المبهمات صفحہ 330 من مسند هشام بن عامر، قال: أتيت النبي صلى الله
عليه وآله وسلم فقال: ما اسمك؟ فذكر الحديث . وقال أبو داؤد فی سننه جلد 4 صفحہ 291: وغير
النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب
فسماه: هشامًا، وسمى حربًا: سلمًا .

1605- حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 24473، والنسائي فی الكبرى رقم الحديث: 2988 من
طريق شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24860، والنسائي رقم الحديث: 2978-2983 من

اللہ ﷺ (رات کو) جنبی ہوتے تھے پھر صبح کرتے تو غسل کرتے اور روزہ رکھتے پھر نماز کے لیے نکلتے تو میں آپ کی قراءت سنتی تھی۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْنِبُ، ثُمَّ يُصْبِحُ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَاسْمَعُ قِرَاءَتَهُ

1606 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنْبًا، ثُمَّ يَغْتَسِلُ، ثُمَّ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرَأْسُهُ يَقَطُرُ، ثُمَّ يَصُومُ ذَلِكَ الْيَوْمَ

حضرت ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث اپنے والد

سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ صبح جنبی حالت میں ہوتے پھر غسل کرتے پھر آپ مسجد کی طرف جاتے تو آپ کے سر انور سے پانی کے قطرے گر رہے ہوتے پھر آپ اس دن روزہ رکھتے تھے۔

میمون بن مہران کی حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

278- مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ

عَنْ عَائِشَةَ

1607 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

طريق الشعبي، به . وأخرجه النسائي رقم الحديث: 2981-2985 من طريق الشعبي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث . وسيأتي في الحديث بعده رواية شعبة، عن الحكم، عن أبي بكر بن الحارث . حديث صحيح . أخرجه الطحاوي جلد 2 صفحہ 103 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24725، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 3000-3001 من طريق غندر، عن شعبة، به . وأخرجه البخاري رقم الحديث: 1930-1931، ومسلم رقم الحديث: 1109، وأبو داؤد رقم الحديث: 2388، والترمذي رقم الحديث: 779 من طرق عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، به .

1607 - حديث صحيح . وهكذا رواه المصنف عن ابن المبارك . ورواه عبدان وأبو كريب وحبان بن موسى وسويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة .

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ عَنْ ثَوْبِهِ فَيَخْرُجُ وَهُوَ بَقَعٌ بَقَعٌ

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے منی کو دھوتے، اس کے بعد (گھر سے) نکلتے اس حالت میں کہ اس کپڑے میں دھبے لگے ہوتے تھے (یعنی پانی کے) /

279- ابن ابی ملیکہ کی حضرت عائشہ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

رضی اللہ عنہا سے روایت

1608 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ

حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 229، وَمُسْلِمٌ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 289، وَالنَّسَائِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 294، وَابْنُ خَزِيمَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 287، وَأَبُو عَوَانَةَ جِلْدَ 1 صَفْحَةَ 205، وَالطَّحَاوِيُّ جِلْدَ 1 صَفْحَةَ 49، وَابْنُ حِبَانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1391. وَرَوَاهُ أَبُو مَعَاوِيَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَيَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ، كَرَوَايَةِ الْجَمَاعَةِ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ جِلْدَ 1 صَفْحَةَ 84، وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 25332، وَالْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 230-232، وَمُسْلِمٌ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 289، وَأَبُو دَاوُدَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 373، وَالتِّرْمِذِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 117، وَابْنُ مَاجَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 536، وَابْنُ الْجَارُودِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 138، وَابْنُ خَزِيمَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 287، وَأَبُو عَوَانَةَ جِلْدَ 1 صَفْحَةَ 203-205، وَالطَّحَاوِيُّ جِلْدَ 1 صَفْحَةَ 49-50، وَابْنُ حِبَانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1382، وَالدَّارِقُطْنِيُّ جِلْدَ 1 صَفْحَةَ 125، وَالبَيْهَقِيُّ جِلْدَ 2 صَفْحَةَ 418، وَالغَوِيُّ فِي شَرْحِ السَّنَةِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 297.

1608- حَدِيثٌ صَحِيحٌ. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ جِلْدَ 1 صَفْحَةَ 374، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 6675، وَالحَمِيدِيُّ

رَقْمَ الْحَدِيثِ: 220، وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 25123، وَالْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1286-1288، وَمُسْلِمٌ

رَقْمَ الْحَدِيثِ: 928-929، وَالنَّسَائِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1537، مِنْ طَرَقَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ، وَبِهِ بَنَحُوهُ، وَفِيهِ

قِصَّةُ عَمْرٍ، وَفِيهِ أَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ هُوَ الَّذِي سَأَلَ عَائِشَةَ. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1595، مِنْ طَرِيقِ

سَفِيَّانٍ، عَنْ عَمْرٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي مَلِيكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وَقَدْ رَوَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعُمَرَةُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ

عَائِشَةَ. أَخْرَجَهُ مَالِكٌ جِلْدَ 1 صَفْحَةَ 234، وَالحَمِيدِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 221، وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

24539، وَالْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1289-3989، وَمُسْلِمٌ جِلْدَ 2 صَفْحَةَ 642، وَأَبُو دَاوُدَ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا جو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک میت پر اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ کی قسم! آپ مجھے ایسی حدیث بیان کر رہے ہیں جو جھوٹی نہیں ہے اور نہ ہی جھوٹ سے متہم ہے۔ لیکن سننے والا غلطی کر سکتا ہے جس کسی نے بھی رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مؤمن کو عذاب دیتا ہے اس کے اہل خانہ میں سے کسی کے رونے کی وجہ سے، لیکن آپ نے فرمایا: کافر کے عذاب میں اس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے؟ قرآن میں جو ہے وہ تیرے لیے کافی نہیں ہے اور بلاشبہ ”قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا“ (الانعام: ۱۶۳)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو خوشبو لگائی جس وقت آپ نے احرام باندھنے کا ارادہ فرمایا۔ جس خوشبو کو لگانے پر میں قادر تھی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

بُنْ عُمَرَ الْجُمَحِيِّ، وَرَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، سَمِعَا مِنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتُخْبِرُنِي عَنْ غَيْرِ كَاذِبٍ وَلَا مُتَّهَمٍ، وَلَكِنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ، مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَزِدُّهُ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ فِي الْقُرْآنِ مَا يَكْفِيكُمْ (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الانعام: 164)

1609 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عَامِرٍ الْخَزَّازُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيِّبَتْهُ - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَلَّ بِطَيِّبٍ مَا قَدَرْتُ عَلَيْهِ مِنْ طَيِّبٍ

1610 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

3129، والترمذی رقم الحدیث: 1004-1006، والنسائی رقم الحدیث: 1854-1855، وابن ماجہ رقم

الحدیث: 1595، وابن حبان رقم الحدیث: 3123-3133، والبیہقی جلد 4 صفحہ 72.

1609 - حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لحال ابی عامر الخزاز .

1610 - حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، کسابقہ . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26127، والبخاری

انہیں (حج کے موقع پر) حیض آ گیا، تو نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: سارے حج کے ارکان ادا کر سوائے طوافِ کعبہ کے۔

عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَاضَتْ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوْفَ بِالْبَيْتِ

1611 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: اذْءَعَى لِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، اَكْتُبْ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يُخْتَلَفُ عَلَيْهِ بَعْدِي ثُمَّ قَالَ: دَعِيهِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَخْتَلِفَ الْمُؤْمِنُونَ فِي أَبِي بَكْرٍ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس مرض میں فرمایا جس میں آپ نے وصال فرمایا: عبدالرحمن بن ابی بکر کو میرے پاس بلاؤ! میں حضرت ابوبکر (کی خلافت) کے متعلق لکھ دوں (تاکہ) میرے بعد کوئی اختلاف نہ کرے پھر فرمایا: مجھے چھوڑو! اللہ کی پناہ! مؤمن ابوبکر (کی خلافت) میں اختلاف کریں گے۔

رقم الحدیث: 2984 من طریق ابی عامر الخزاز وعثمان بن الأسود، عن ابن ابی ملیکہ، بہ مطوّلًا .

1611- حدیث صحیح واسنادہ هنا ضعیف، لحال محمد بن أبان، لکنہ متابع . وأخرجه ابن سعد جلد 3

صفحة 180، وابن ابی عاصم فی السنة رقم الحدیث: 1163، وعبد اللہ بن أحمد فی زوائد الفضائل رقم

الحدیث: 227 من طریق المصنف . وأخرجه عفان الصفار فی أحادیثہ رقم الحدیث: 22، وعنه ابن

سعد جلد 3 صفحه 180 عن محمد بن أبان، بہ . وأخرجه ابن سعد جلد 3 صفحه 180، وأحمد رقم

الحدیث: 24795، وفی الفضائل رقم الحدیث: 600 من طریق عبد الرحمن بن ابی بکر ونافع بن عمر،

عن ابن ابی ملیکہ، بہ . وانظر علل ابن ابی حاتم رقم الحدیث: 2660 . وأخرجه البخاری رقم

الحدیث: 5666-7217 من طریق القاسم بن محمد عن عائشة بمعناه وفی أوله قصة . وأخرجه ابن

سعد جلد 3 صفحه 180، وأحمد رقم الحدیث: 25156، ومسلم رقم الحدیث: 2387 من طریق عروة،

عن عائشة بنحوہ . وأخرجه ابن ابی عاصم فی السنة رقم الحدیث: 1156 من طریق الزهري، عن عروة

والقاسم وأبى بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله، عن عائشة .

280- عَبْدُ اللَّهِ الْبُهِيُّ

حضرت عبداللہ البہی کی حضرت

عَنْ عَائِشَةَ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں
رمضان شریف کے رہے ہوئے روزوں کی قضاء نہیں
کرتی تھی سوائے شعبان کے یہاں تک کہ رسول
اللہ ﷺ کا وصال ہو گیا۔

1612 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
الْبُهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا عَلَيَّ
مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ حَتَّى تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

1613 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: مجھے چٹائی پکڑا دو

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبُهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ،

1612 - حديث صحيح، واسناد المصنف حسن، السدي والبهی صدوقان، واختلف في سماع البهی من
عائشة. وانظر الحديث الآتي. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25043، والترمذی رقم الحديث: 783
من طريق أبي عوانة، به. وقال الترمذی: حسن صحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 98
وأحمد رقم الحديث: 25501، وابن خزيمة رقم الحديث: 2049-2051 من طريق السدي، به.
وأخرجه مالك جلد 1 صفحہ 308، والبخاری رقم الحديث: 1950، ومسلم رقم الحديث: 1146، وأبو
داؤد رقم الحديث: 2399، والنسائی رقم الحديث: 2177-2318، وابن ماجه رقم الحديث: 1669،
وابن خزيمة رقم الحديث: 2046-2048 من طريق أبي سلمة، عن عائشة.

1613 - حديث صحيح، واسناد المصنف حسن، كسابقه. وأخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 632 من طريق أبي
الأحوص سلام، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25500، والدارمی رقم الحديث: 1070، وابن حبان
رقم الحديث: 1356، وأبو نعيم في الحلية جلد 9 صفحہ 23 من طرق عن زائدة، عن السدي، عن البهی،
قال: حدثتني عائشة، عند أحمد في الموضوع الثاني وأبي نعيم من طريق ابن مهدي، وليس فيه
(حدثني). وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24838 من طريق العباس بن ذريح، عن البهی، به. ورواه
اسرائيل وشريك، عن أبي اسحاق، عن البهی، عن ابن عمر، عن عائشة، فزاد في اسناده ذكر ابن عمر.
أخرجه أحمد رقم الحديث: 24851-26126.

میں نے عرض کی: میں حالت حیض میں ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: تیرے ہاتھ میں تو حیض نہیں ہے۔

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: أَعْطَيْتَنِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: إِنَّ حَيْضَكَ لَيْسَتْ بِيَدِكَ

حضرت محمد بن منتشر کی حضرت

281- مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَشِرِ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

عَنْ عَائِشَةَ

1614 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ظہر سے پہلے والی چار رکعتیں اور فجر سے پہلے والی دو رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے۔

حضرت ابو عطیہ کی حضرت عائشہ

282- أَبُو عَطِيَّةَ

رضی اللہ عنہا سے روایت

عَنْ عَائِشَةَ

1615 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابو عطیہ الوادعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1614 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 472 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25190 والدارمی رقم الحديث: 1446 والبخاری رقم الحديث: 1182، وأبو داؤد رقم الحديث: 1253 والنسائی رقم الحديث: 1757، وفي الكبرى رقم الحديث: 1451 من طرق عن شعبة به . ورواه عثمان بن عمر عن شعبة ، فخالف أصحابه ، وزاد مسروقاً بين محمد بن المنتشر وعائشة . أخرجه النسائی رقم الحديث: 1756، وفي الكبرى رقم الحديث: 1450، وقال: عامة أصحاب شعبة لم يذكروا مسروقاً .

1615 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 237 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث:

25438 والنسائی رقم الحديث: 2157 من طريق شعبة به . وأخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 237 تعليقا من طريق ابن ابي عروبة وجرير بن عبد الحميد، عن الأعمش به . وخالفهما أبو معاوية وزائدة من

کہ میں اور مسروق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، یا ہم دونوں حضرت عائشہ کے پاس آئے، ہم نے عرض کی: اے ام المؤمنین! ہم میں دو آدمی اصحاب نبی اکرم ﷺ ہیں، ان میں سے ایک روزہ جلدی افطار کرتے ہیں اور سحری تاخیر سے کرتے ہیں، اور دوسرے افطار دیر سے کرتے ہیں اور سحری جلدی کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: افطار جلدی اور سحری دیر سے کون کرتا ہے؟ ہم نے عرض کی: وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم! میں نہیں جانتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ کیسے تلبیہ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ - أَوْ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ - فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِيْنَا رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ السُّحُورَ، فَقَالَتْ: مَنْ الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ السُّحُورَ قُلْنَا: ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَتْ: كَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1616 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ

قدامة ويحيى بن أبي زائدة كلهم عن الأعمش، عن عمارة بن عمير عن أبي عطية، به. أخرجه أحمد رقم الحديث: 24258، ومسلم رقم الحديث: 1099، وأبو داؤد رقم الحديث: 2354، والترمذی رقم الحديث: 702، والنسائی رقم الحديث: 2160، والبيهقی جلد 4 صفحہ 237. وقال الترمذی: حسن صحيح. وروى عن الثوري، عن الأعمش، واختلف عليه بالوجهين. أخرجه النسائی رقم الحديث: 2158 من طريق ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، عن خيثمة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24260 من طريق مؤمل، عن سفيان، عن الأعمش، عن عمارة ابن عمير، به.

1616- حديث صحيح. أخرجه أحمد رقم الحديث: 26104 عن غندر وروح، عن شعبة، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25977، والبخاری رقم الحديث: 1550 من طريق سفيان وأبي معاوية، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي عطية، به. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24086 من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، به بزيادة: والملك لا شريك لك. قال الامام أحمد: وهم ابن فضيل في هذه الزيادة، ولا تعرف هذه عن عائشة، انما تعرف عن ابن عمر. انظر شرح العلل جلد 1 صفحہ 421، وكتاب الارشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد المتابعات لطارق بن عوض الله صفحہ 364-365.

پڑھتے تھے پھر میں نے آپ سے یہ تہلیہ سنا کہ ”لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ“۔

أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ،
تَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَعْلَمُ كَيْفَ كَانَتْ تَلْبِيَةَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ سَمِعْتُهَا تُلَبِّي: لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ

حضرت شریح کی حضرت عائشہ

283- شَرِيحٌ

رضی اللہ عنہا سے روایت

عَنْ عَائِشَةَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک
برتن سے پانی پیتی اور نبی اکرم ﷺ اس کو لے لیتے، سو
آپ اپنا منہ مبارک اسی جگہ پر رکھتے جس جگہ میں نے
منہ رکھا ہوتا تھا، اور میں گوشت کی ہڈی کھاتی تو نبی
اکرم ﷺ اس کو لے لیتے اور اپنا منہ مبارک اسی جگہ پر
رکھتے جس جگہ میں نے رکھا ہوتا تھا۔

1617 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ
فِيأْخُذُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ
حَيْثُ كَانَ فَمِي وَأَتَعَرَّقُ الْعُظْمَ فَيَأْخُذُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ حَيْثُ كَانَ فَمِي

حضرت مقدم بن شریح اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت عائشہ

1618 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

شَرِيحٌ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ،

1617- حدیث صحیح۔ أخرجه أحمد رقم الحديث: 4998، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 9120، وابن
ماجه رقم الحديث: 643 من طريق شعبة، به. وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 1253-388،
والحميدي رقم الحديث: 166، وأحمد رقم الحديث: 24373-24395، والدارمي رقم الحديث:
1066، ومسلم رقم الحديث: 300، وأبو داؤد رقم الحديث: 259، والنسائي رقم الحديث: 281، وابن
خزيمة رقم الحديث: 110، وأبو عوانة جلد 1 صفحة 311، وابن حبان رقم الحديث: 1293-1360،
والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 321 من طرق عن المقدم، به. وعندهم: (وهي حائض).

1618- حدیث صحیح۔ وفي اسناد المصنف شريك النخعي، وقد توبع. وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 1

صفحة 123، والترمذي رقم الحديث: 12، والنسائي رقم الحديث: 29

قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُبْلِ إِلَّا وَهُوَ قَاعِدٌ

رضی اللہ عنہا نے فرمایا: جو آپ کو یہ بیان کرے کہ رسول اللہ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اس کی بات نہ مانو کیونکہ رسول اللہ ﷺ بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

میں ایک اونٹ پر سوار تھی، سو میں اس کو مارنے لگی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم پر نرمی لازم ہے کیونکہ جس میں نرمی ہوتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔

1619 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ عَلَى جَمَلٍ فَجَعَلَتْ تُصْرِفُهُ بِضَرْبِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَمْ يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

حضرت یزید بن بابنوس کی حضرت

284- يَزِيدُ بْنُ بَابَنُوسَ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

عَنْ عَائِشَةَ

حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1620 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1619 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 193 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25425، والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 469-475، ومسلم رقم الحديث: 2594 من طريق شعبة، به . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 322، وأحمد رقم الحديث: 25750، وأبو داؤد رقم الحديث: 4808، والبزار (1966- كشف) وابن حبان رقم الحديث: 550 من طرق عن المقدم بن شريح، به . وأخرجه مسلم رقم الحديث: 2593، وابن حبان رقم الحديث: 552، والبيهقي جلد 10 صفحہ 193، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 3492 من طريق عمرة، عن عائشة بلفظ آخر .

1620 - اسنادہ حسن . یزید بن بابنوس لم یرو عنه غیر ابی عمران، و ذکرہ ابن حبان فی الثقات، وقال

الدارقطنی: لا بأس به، وقال ابن عدی: أحادیثہ مشاہیر . والحديث أخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 312 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25883، والدارمي رقم الحديث: 1057 من طريق

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ
الْجَوْنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابْنُوسَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى
عَائِشَةَ، وَمَعَنَا رَجُلٌ، فَسَأَلَهَا، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ
مَا تَقُولِينَ فِي الْعِرَاقِ، فَقَالَتْ: الْحَيْضُ، ثُمَّ
قَالَتْ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، أَلَا تَقُولُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ، ثُمَّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَتَوَشَّحُنِي وَيَنَالُ مِنْ رَأْسِي وَأَنَا حَائِضٌ
وَعَلَى الْإِزَارِ

کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے
ہمارے ساتھ ایک اور آدمی تھا اس نے آپ سے سوال
کیا: اے ام المؤمنین! آپ عراق کے متعلق کیا فرماتی
ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ حیض ہے پھر آپ رضی اللہ عنہا
نے فرمایا: اے اہل عراق! تم وہ کیوں نہیں کہتے جس
طرح اللہ عزوجل نے فرمایا پھر آپ رضی اللہ عنہا نے
فرمایا: رسول اللہ ﷺ میرے ساتھ لیتے تھے اور میرے
سر کا بوسہ لیتے تھے اس حال میں کہ میں حیض میں ہوتی
تھی اور مجھ پر تہہ بند ہوتی تھی۔

285- أَبُو مَلِيحِ الْهَدَلِيِّ

حضرت ابو یوسف الہذلی کی حضرت

عَنْ عَائِشَةَ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

1621 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ابو یوسف الہذلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل

حماد بن سلمة 'به مطولاً ومختصراً . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24480 من طريق آخر عن أبي
عمران 'به' بلفظ: في الرجل يباشر امراته وهي حائض' قال له: ما فوق الازار .

1621- حديث صحيح . أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2803، والبيهقي جلد 7 صفحہ 308 من طريق

المصنف . وقال الترمذي: حسن . ورواه غندر وآدم بن أبي ايّاس 'عن شعبة كرواية المصنف .

أخرجه أحمد رقم الحديث: 25446، وأبو داؤد رقم الحديث: 4010، والحاكم جلد 4 صفحہ 289 .

وخالفهم حجاج عن شعبة 'فقال فيه: عن أبي المليح' عن رجل قال: دخل نسوة أخرجه أحمد رقم

الحديث: 25446 . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25668، والدارمي رقم الحديث: 2655، وابن ماجه

رقم الحديث: 3750، والحاكم جلد 4 صفحہ 288 من طريق الثوري واسرائيل 'عن منصور' به' كرواية

الجماعة عن شعبة . وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 4010 من طريق جرير 'عن منصور' عن سالم' عن

عائشة . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24186 من طريق الأعمش 'عن سالم' عن عائشة . وأخرجه

الدارمي رقم الحديث: 2654 من طريق الأعمش 'عن عمرو بن مرة' عن سالم' عن عائشة' به . وقال

حمص یا اہل شام کی کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں تو آپ نے فرمایا: تم وہ عورتیں ہو جو حمام میں داخل ہوتی ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جو عورت اپنا ستر اپنے شوہر کے علاوہ کھولتی ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان جو ستر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمصٍ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: أَنْتَنَّ اللَّائِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكِنَّ الْحَمَامَاتِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتِ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ

جو احادیث صرف حضرت عائشہ

286- الْأَفْرَادُ

رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں

عَنْ عَائِشَةَ

حضرت عبداللہ بن ابوموسیٰ نصری رضی اللہ عنہ

1622 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ

المزى فى تهذيب الكمال جلد 10 صفحہ 131: والصحيح عن ابي المليح عنها . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25050 والبخارى فى التاريخ جلد 5 صفحہ 292 وأبو داؤد رقم الحديث: 4009 والترمذى رقم الحديث: 2802 وابن ماجه رقم الحديث: 3749 والطبرانى فى الأوسط رقم الحديث: 6973 والحاكم جلد 4 صفحہ 289-290 من طرق عن عائشة نحوه . وفى الباب أحاديث . انظر المستدرک جلد 4 صفحہ 288-289 وسنن البيهقى جلد 7 صفحہ 308-309 والترغيب للمندرى جلد 1 صفحہ 144-145 .

1622 - حديث صحيح . ويزيد ثقة على الصحيح وعبد الله بن ابي موسى يقال فيه: ابن ابي قيس وهو أصح . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24989-26157 والبخارى فى الأدب المفرد رقم الحديث: 800 وأبو داؤد رقم الحديث: 1307 وابن ابي الدنيا فى التهجد وقيام الليل رقم الحديث: 6 وابن خزيمة رقم الحديث: 1137 والحاكم جلد 1 صفحہ 308 والبيهقى جلد 3 صفحہ 15 من طريق المصنف وعند ابي داؤد: عبد الله بن ابي قيس . وأخرجه الحاكم جلد 1 صفحہ 308 من طريق آخر عن شعبة به .

اللَّهِ بْنِ أَبِي مُوسَى النَّصْرِيِّ، قَالَ: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: لَا تَدْعُ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدْعُهُ، وَكَانَ إِذَا مَرِضَ - أَوْ قَالَتْ: كَسِلَ - صَلَّى قَاعِدًا

1623 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيَّ، يَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا، وَلَا مُتَفَحِّشًا، وَلَا سَخَابًا فِي الْأَسْوَاقِ، لَا يَجْزِي بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَغْفُو وَيَصْفَحُ أَوْ قَالَتْ: يَغْفُو وَيَغْفِرُ، شَكَ أَبُو دَاوُدَ

1624 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ أَحَدَانَا وَهِيَ حَائِضٌ أَنْ تَتَزَرَّ، ثُمَّ تَدْخُلُ مَعَهُ

فرمایا: تو رات کا قیام نہ چھوڑنا، کیونکہ رسول اللہ ﷺ نہیں چھوڑتے تھے اور آپ جب بیمار ہوتے یا فرمایا: آپ کو تھکاوٹ ہوتی تو آپ بیٹھ کر نماز ادا کرتے۔

حضرت ابو عبد اللہ بجلي رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نہ گندی گفتگو فرماتے اور نہ بے حیائی والی اور نہ بازار میں شور کرتے تھے اور نہ بُرائی کا بدلہ بُرائی سے دیتے تھے لیکن آپ معاف کرتے اور درگزر فرماتے یا فرمایا: معاف کرتے اور بخش دیتے۔ امام ابوداؤد کو شک ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم میں سے کسی ایک کو حکم دیتے تھے حالت حیض میں کہ وہ ازار باندھ لے پھر آپ اس کے ساتھ بستر میں داخل ہو جاتے تھے۔

1623 - اسنادہ صحیح . أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 2016 من طریق المصنف . وقال: حسن صحیح . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26133 والترمذی فی الشمائل رقم الحدیث: 347 والبيهقی جلد 7 صفحہ 45 وفی الدلائل جلد 1 صفحہ 315 من طریق شعبة ' به . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 514 وأحمد رقم الحدیث: 26032 وابن حبان رقم الحدیث: 6443 من طریق ابن أبي زائدة عن أبي اسحاق ' به .

1624 - حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 25455-25532 والدارمی رقم الحدیث: 1053 من طریق شعبة ' به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25314-25725-25755 والدارمی رقم الحدیث: 1052 والنسائی رقم الحدیث: 284-371 والبيهقی جلد 1 صفحہ 314 من طرق عن أبي اسحاق ' به .

فِي لِحَافِهِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی

1625 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

اکرم ﷺ نے فرمایا: پانچ چیزیں فواسق ہیں، ان کو حرم کے باہر اور حرم کے اندر قتل کر دو: (۱) چوہا (۲) بچھو (۳) چیل (۴) پاگل کتا (۵) گندگی کھانے والا۔

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْفَارَةُ وَالْعُقْرُبُ وَالْحِدَاةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ

حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ

1626 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ حالت روزہ میں بوسہ لیتے تھے۔

أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

1627 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1625 - حديث صحيح . أخرجه البيهقي جلد 5 صفحہ 209 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 25719، ومسلم رقم الحديث: 1198، والنسائي رقم الحديث: 2882، وابن ماجه رقم

الحديث: 3087، وابن خزيمة رقم الحديث: 2669، والطحاوي جلد 2 صفحہ 166، والبيهقي جلد 5

صفحہ 208-209، والبخاري في شرح السنة رقم الحديث: 1991 من طرق عن شعبة، به . وفي بعض

الروايات: (الحية) مكان (العقرب) . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24098-26175، والبخاري رقم

الحديث: 1829، ومسلم رقم الحديث: 1198، والنسائي رقم الحديث: 211-2881، والطحاوي جلد 2

صفحہ 166، والدارقطني جلد 2 صفحہ 231، والبيهقي جلد 5 صفحہ 209 من طرق عن عائشة .

1626 - حديث صحيح . وابن أبي الزناد في رواية العراقيين عنه ضعف . وأخرجه أحمد رقم الحديث:

26455، ومسلم رقم الحديث: 1106، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 3051، من طريق أبي الزناد، به .

1627 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 26364، وابن خزيمة رقم الحديث: 2004 من طريق

شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25066، وأبو داؤد رقم الحديث: 2384، والنسائي في

الكبرى رقم الحديث: 3050، وابن خزيمة رقم الحديث: 2004 من طرق عن سعد بن ابراهيم، به .

وانظر الحديث السابق .

عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اَهْوَى
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقَبِّلَنِي،
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي صَائِمَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا صَائِمٌ فَقَبَّلَهَا

اللہ صلی علیہ وسلم میری طرف جھکے تاکہ میرا بوسہ لیں، تو میں نے
عرض کی: یا رسول اللہ! میں روزہ کی حالت میں ہوں، تو
رسول اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا: میں بھی روزہ کی حالت میں
ہوں، پھر آپ نے ان کا بوسہ لیا۔

1628 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَدَّانُ، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ
مَا لِكَ وَالذَّيْنِ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ نَوَى قِضَاءَ الدَّيْنِ
كَانَ مَعَهُ عَوْنٌ مِنَ اللَّهِ وَأَنَا التَّمِسُّ ذَلِكَ الْعَوْنَ

حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی
اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قرض لیتی تھیں،
آپ سے عرض کی گئی: اے ام المؤمنین! آپ اور قرض؟
آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے سنا، آپ
نے فرمایا: جو آدمی قرض کی نیت کر لیتا ہے، اس کے ساتھ
اللہ کی مدد ہوتی ہے، اور میں بھی اللہ کی مدد تلاش کر رہی

1628- اسنادہ منقطع، محمد بن علی ابو جعفر الباقر لم يسمع عن عائشة . وأخرجه البيهقي جلد 5 صفحہ 354
من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26170، والبخاري في التاريخ جلد 3 صفحہ 476
تعليقاً والحاكم جلد 2 صفحہ 22، والبيهقي جلد 5 صفحہ 354 من طرق عن القاسم بن الفضل، به .
واختلف فيه على أبي جعفر الباقر، فرواه ابن أبي فديك، عن سعيد بن سفيان، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه، عن عبد الله بن جعفر . أخرجه الدارمي رقم الحديث: 2598، والبخاري في التاريخ جلد 3
صفحہ 475 تعليقاً وابن ماجه رقم الحديث: 2409، والبزار رقم الحديث: 243، والطبراني في الكبير
رقم الحديث: 184 قطعة من الجزء 13، وفي الأوسط رقم الحديث: 457، والحاكم جلد 2 صفحہ 23
وأبو نعيم في الحلية جلد 3 صفحہ 204، وابن عساكر في تاريخه جلد 27 صفحہ 274، والمزى في
تهذيب الكمال جلد 10 صفحہ 475-476، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 26230 من طريق ورقاء، عن عائشة، نحوه . وورقاء لا يعرف حالها . انظر تعجيل المنفعة
جلد 2 صفحہ 662 . وأخرجه الحاكم جلد 2 صفحہ 22 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن
عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، نحوه . وأخرج أحمد رقم الحديث: 25252-24499
وعبد بن حميد رقم الحديث: 1520 من طريق أبي سلمة عن عائشة .

ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک تاجر آیا اپنا سامان فروخت کرنے کے لئے، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اگر آپ یہ دو موٹے کپڑے اتار دیں اور فلاں تاجر کی طرف بھیج دیں تو وہ دونوں کپڑے آپ کے میسرہ کو فروخت کر دے گا۔ تو نبی اکرم ﷺ نے بھیجا کہ میری طرف سے میسرہ کی طرف دو کپڑے بھیجے تو اس نے کہا کہ محمد چاہتا ہے کہ میرا مال لے جائے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! بے شک جان لو کہ میں امانت ادا کرنے والا ہوں اور اللہ عزوجل سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، یا اس طرح کا کلام فرمایا۔

1629 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدِمَ تاجرٌ بِمَتَاعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَلْقَيْتَ هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ الْغَلِيظَيْنِ عَنْكَ وَأَرْسَلْتَ إِلَى فُلَانِ التَّاجِرِ فَبَاعَكَ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ: أَرْسِلْ إِلَى ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ فَقَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمُوا أَنِّي آدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ وَأَخْشَاهُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ نَحْوَ هَذَا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی

اکرم ﷺ نے فرمایا: جو آدمی مر جائے تو اس پر لوگوں کی

1630 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، سَمِعَ أَبَا قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

1629- حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 6 صفحہ 25 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث:

25184 من طريق شعبة ' به . وأخرجه الترمذی رقم الحديث: 1213، والنسائی رقم الحديث: 4642

من طريق يزيد بن زريع، عن عمارة ' به . وقال الترمذی: حسن غريب صحيح . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 26355، وعبد بن حميد رقم الحديث: 1499 من طريق عروة ' عن عائشة ' نحوه .

1630- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 24701 عن غندر ' عن شعبة ' به . وأخرجه عبد الرزاق

رقم الحديث: 6581، والحميدى رقم الحديث: 222، وأحمد رقم الحديث: 24084-24173، ومسلم

رقم الحديث: 947، والترمذی رقم الحديث: 1029، والنسائی رقم الحديث: 1990-1991، من طرق

عن أبي قلابة ' به . وقال الترمذی: حدیث عائشة حدیث حسن صحيح، وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه .

وتم خلافت فی هذا الحدیث . انظر العلل لابن أبي حاتم رقم الحديث: 1068، والدارقطنی

(5/رق: 88-ب، 89-ا) .

ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے سارے کے سارے اس کے لیے سفارش کریں، تو اس کے حق میں ان کی شفاعت قبول کر لی جاتی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے نماز ادا کرنی ہو تو اس پر نیند غالب آ جائے یا وہ سو جائے تو اللہ عزوجل اس کے لیے نماز کا اجر لکھ دے گا، اور اس کی نیند اللہ کی طرف سے صدقہ ہے جو اس پر کی گئی ہے۔

بْنِ يَزِيدَ رَضِيْعِ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ تَصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ يَشْفَعُ لَهُ، إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ

1631 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

وَرَقَاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلَاةٌ فَغَلَبَتْهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ أَوْ نَامَ عَنْهَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً مِنَ اللَّهِ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِ

1632 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ،

حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، میں نے

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ

1631 - اسنادہ منقطع، سعید بن جبیر لم یسمع من عائشة . أخرجه أحمد رقم الحديث: 24386، والنسائي رقم الحديث: 1785 من طريق أبي جعفر الرازي، عن ابن المنكدر، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24485 والطبرانی في الأوسط رقم الحديث: 1338 من طريق أبي أويس وزیاد بن سعد، عن ابن المنكدر، به مثله . ورواه مالك عن ابن المنكدر، عن ابن جبیر، عن رجل عنده رضى، عن عائشة . أخرجه مالك جلد 1 صفحہ 117، وأحمد رقم الحديث: 25503، وأبو داؤد رقم الحديث: 1314، والنسائي رقم الحديث: 1783، والمروزی في قيام الليل صفحہ 78، والبيهقى جلد 3 صفحہ 15 . وانظر التمهيد جلد 12 صفحہ 261 .

1632 - حديث صحيح . وسماع زهير من أبي اسحاق بعد الاختلاط، لكنه متابع . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 24751 من طريق زهير، به . وأخرجه الترمذی رقم الحديث: 1511 من طريق أبي الأحوص،

عن أبي اسحاق، به . وقال الترمذی: حسن صحيح، وقد روى عن عائشة هذا الحديث من غير وجه .

وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25006، والبخاری رقم الحديث: 2438-5423، ومسلم رقم

الحديث: 2970، والنسائي رقم الحديث: 4444-4445، وابن ماجه رقم الحديث: 3159-3313، من

طريق عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، به مطولاً ومختصراً .

عائشہ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: لَا، كَانَ مَنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ قَلِيلٌ، فَأَمَرَ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَى مِنْ لَمْ يُضَحِّي، وَلَقَدْ رَأَيْتَنَا نَحْبَأُ الْكُرَاعَ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَاشِرَةِ

عرض کی: اے ام المؤمنین! کیا رسول اللہ ﷺ نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ (رکھنا) حرام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! (حرام کرنے کی وجہ تھی کہ) اس وقت ان کی طرف سے قربانی تھوڑی ہوتی تھی، آپ ان کو حکم دیتے کہ وہ لوگ قربانی کا گوشت کھائیں، جنہوں نے قربانی نہیں کی، اور بلاشبہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی بہت زیادہ ہوتی ہیں، پس ہم دسویں ذی الحجہ کے بعد بھی کھاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری دو پڑوسنیں ہیں، ان میں سے کس کو ہدیہ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو تیرے دروازہ کے زیادہ قریب ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب

1633 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ قَالِي آيَهُمَا أُهْدِي، قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا

1634 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ

1633 - حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 6 صفحہ 275 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث:

25656 والبخاری رقم الحديث: 2259-2595-6020 وفي الأدب المفرد رقم الحديث: 107-108

والبيهقي جلد 7 صفحہ 28 من طرق عن شعبة به . وأخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 5155 والبيهقي

جلد 7 صفحہ 28 من طريق الحارث بن عبيد وغيره ' عن أبي عمران' به .

1634 - حدیث صحیح، واسناد المصنف منقطع، يحيى بن عباس بن عبد الله بن الزبير لم يسمع من عائشة،

بينهما عباد بن عبد الله والد يحيى . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26349، وأبو داؤد رقم الحديث:

3141 وابن ماجه رقم الحديث: 1464، وابن الجارود رقم الحديث: 517، وابن حبان رقم الحديث:

6627-6628 والحاكم جلد 3 صفحہ 59، والبيهقي جلد 3 صفحہ 387، وفي الدلائل جلد 7 صفحہ 242

من طرق عن ابن اسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عن عائشة . وقال الحاكم: صحيح الاسناد على

شرط مسلم . وصرح عنده ابن اسحاق بالسماع . وأخرجه ابن سعد جلد 2 صفحہ 276-277 من طريق

آخر عن عباد بن عبد الله بن الزبير به .

رسول اللہ ﷺ کا وصال ہوا تو صحابہ کرام نے آپ کو غسل دینے کا ارادہ کیا اور ان پر نیند طاری کر دی گئی، یہاں تک کہ ان میں سے ہر ایک کی ٹھوڑی سینے پر تھی، پھر گھر کے ایک کونے سے آواز سنائی دی کہ آپ کو کپڑوں کے اوپر سے ہی غسل دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اگر مجھے اس معاملہ کا پتا پہلے ہوتا جو بعد میں مجھے معلوم ہوا تو رسول اللہ ﷺ کو غسل صرف آپ کی ازواج پاک ہی دیتیں۔

بُنْ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ ابْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ وَفَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَارَادُوا غُسْلَهُ، وَقَعَ عَلَيْهِمُ النَّوْمُ حَتَّىٰ أَنْ يَدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِنْدَ ذُقَيْهِ، فَنُودُوا مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ أَنْ اغْسِلُوهُ فَوْقَ ثِيَابِهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا نِسَاؤُهُ

1635 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ: لَقِيتُ عَائِشَةَ، فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَابِ وَالْمُزَفِّ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَأَوْكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَهُ

حضرت ثمامہ بن حزن فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاؤں میں نے ان سے نبیذ کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے دبائے مزفت و نقیر و حنتم سے منع کیا اور آپ نے ایک حبشیہ لونڈی کو بلوایا، فرمایا: اس سے پوچھو! یہ رسول اللہ ﷺ کے لیے نبیذ بناتی تھی، وہ کہنے لگیں: میں رسول اللہ ﷺ کے لیے ایک مشکیزہ میں نبیذ بناتی تھی، میں اس کو بند کر دیتی تھی، جب صبح ہوتی تو آپ اس کو نوش فرماتے تھے۔

1636 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن امیہ ضمیری اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

1635- حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 299 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 25044، ومسلم (37/1995) والنسائی رقم الحدیث: 5654 من طرق عن القاسم بن الفضل

به .

1636- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لحال ابن ابی حمید . وسبق تخريجہ برقم 1461 فی مسند

عمرو بن أمية الضمري، مطرلاً .

عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا: نَشَدْتُكَ اللَّهُ أَسْمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا أُعْطِيتُمُوهُنَّ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَكُمْ صَدَقَةٌ قَالَتْ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، اللَّهُمَّ نَعَمْ

کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے عرض کی: ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جو تم کو کوئی شے دے وہ تمہارے لیے صدقہ ہے آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! ہاں! (میں نے سنا ہے) ہاں!

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ یہ دعا مانگتے تھے: اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں شامل کر! جب وہ نیکی کریں تو خوش ہوں اور جب گناہ کریں تو معافی مانگیں۔

1637 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بُنْ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ رمضان کے ماہ میں اپنی ازواج پاک کا بوسہ لیتے تھے۔ حضرت قیس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

1638 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ،

وَسَلَامٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

1637 - اسنادہ ضعیف، لضعف علی بن زید بن جدهان . وأخرجه البيهقي في الشعب رقم الحديث: 6989 من

طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25163-25591 وابن ماجه رقم الحديث: 3820، وأبو

يعلى رقم الحديث: 4472، والطبراني في الدعاء رقم الحديث: 1401، والخطيب جلد 9 صفحہ 233 من

طرق عن حماد، عن علی، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25024 عن عفان، عن حماد، به . وخالفه

الحسن بن المثنى، عن عفان، فقال: (عن ثابت) بدلاً من: (علی بن زید) . أخرجه البيهقي في الشعب

رقم الحديث: 6996 .

1638 - حديث صحيح . أخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 233 من طريق المصنف، عن سلام وحده به . وأخرجه

مسلم رقم الحديث: 1106، وأبو داؤد رقم الحديث: 2383، والترمذی رقم الحديث: 727، والنسائی

في الكبرى رقم الحديث: 3090، وابن ماجه رقم الحديث: 1683 من طريق أبي الأحوص سلام بن

سليم، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25033، ومسلم رقم الحديث: 1106 من طرق عن زياد بن

علاقه، به بنحو رواية قيس . وذكره ابن أبي حاتم في العلل رقم الحديث: 773 من طريق قيس .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ وَقَالَ
قَيْسٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ
وَهُوَ صَائِمٌ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ مکہ میں فرض نماز دو رکعت ادا کرتے تھے پھر
جب مدینہ منورہ آئے تو آپ پر چار اور تین رکعت
نماز فرض کی گئی تو آپ نے ان دو رکعتوں کو چھوڑ دیا جو
آپ مکہ مکرمہ میں پڑھتے مسافر کے لیے یہ مکمل نماز
ہے۔

1639 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
هَرِيمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ
رَكْعَتَيْنِ يَعْنِي الْفَرَايِضَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ
وَفَرَضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَرْبَعًا وَثَلَاثًا صَلَّى وَتَرَكَ
الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بِمَكَّةَ تَمَامًا
لِلْمُسَافِرِ

1640 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے

1639- حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، حبیب بن یزید متکلم فیہ، وجابر لم أر من ذکر له رواية عن
عائشة. وأخرجه ابن عدی جلد 2 صفحہ 808 من طریق المصنف عن عائشة وابن عباس وأبی ہریرة،
وحدیث أبی ہریرة سیاتی برقم 2699، وحدیث ابن عباس سیاتی كذلك برقم 2734، ومیزان الاعتدال
جلد 1 صفحہ 453، والمغنی جلد 1 صفحہ 220. وأخرجه ابن عدی فی الكامل جلد 2 صفحہ 807 من
طریق حبیب بن یزید بہ، نحوه وقد تفرد حبیب، عن عمرو، عن جابر بهذا الحدیث، كما قال ابن عدی.
انظر الكامل جلد 2 صفحہ 809. وروی هذا الحدیث عن عائشة بلفظ: فرضت الصلاة ركعتين في
الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر. أخرجه مالك جلد 1 صفحہ 146، وأحمد
رقم الحدیث: 26381، وعبد بن حمید رقم الحدیث: 1477، والدارمی رقم الحدیث: 1517، والبخاری
رقم الحدیث: 350-1090-3935، ومسلم رقم الحدیث: 685، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1198،
والنسائی رقم الحدیث: 452-455، وابن خزيمة رقم الحدیث: 303 من طرق عن عروة، عن عائشة.

1640- حدیث صحیح، واسناد المصنف مرسل أبو وائل لم یسمع هذا الحدیث من عائشة وأخرجه الترمذی
رقم الحدیث: 2397 من طریق المصنف. وقال: حدیث حسن صحیح وأخرجه ابن حبان رقم

کسی کی اتنی تکلیف نہیں دیکھی کہ جس پر میں بین کروں
جتنی رسول اللہ ﷺ پر تکلیف تھی۔

عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يَقُولُ: قَالَتْ
عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ الْوَجَعُ أَيْبَنَ عَلَيْهِ مِنْهُ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1641 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قِيلَ لِعَائِشَةَ إِنَّ أَبَا
هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ
وَالْفَرَسِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَمْ يَحْفَظْ أَبُو هُرَيْرَةَ لِأَنَّهُ
دَخَلَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ:
قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، يَقُولُونَ إِنَّ الشُّؤْمَ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي
الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ فَسَمِعَ آخِرَ الْحَدِيثِ وَلَمْ
يَسْمَعْ أَوَّلَهُ

حضرت مکحول سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے عرض کی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ
عنه فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نحوست
تین چیزوں میں ہے: (۱) گھر (۲) بیوی (۳) گھوڑے
میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو ہریرہ
نے یاد نہیں کیا کیونکہ وہ اس وقت آئے اور رسول
اللہ ﷺ فرما رہے تھے: اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برباد
کرے! وہ کہتے ہیں: نحوست تین چیزوں میں ہے:
(۱) گھر (۲) بیوی (۳) اور گھوڑے میں تو انہوں نے
حدیث کا آخری حصہ سنا ہے اور اس کا اول حصہ نہیں
سنا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

1642 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

الحدیث: 2918 من طریق شعبة به 'أخرجه أحمد رقم الحدیث: 25520' والبخاری رقم الحدیث:
5646' ومسلم رقم الحدیث: 2570' وابن ماجه رقم الحدیث: 1622 من طریق شعبة وغيره عن
الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة .

1641 - اسنادہ منقطع 'مکحول لم یسمع من عائشة . وعزاه الحافظ فی المطالب رقم الحدیث: 1685 الی

المصنف . وقد روی معناه من وجه آخر . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 25209 من طریق أبي حسان

ان رجلاً دخل علی عائشة فذکره . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26076-26130' والطحطاوی فی

المشکل رقم الحدیث: 786' والحاکم جلد 2 صفحہ 479 من طریق أبي حسان قال: دخل رجلان علی

عائشة فقالا: فذکروا نحوه بزيادة فی آخره . وفيه أن هذا من قول أهل الجاهلية لا اليهود .

1642 - حدیث صحیح . ومالك بن عرفطة هو خالد بن علقمة 'أخطأ فيه شعبة' كما تقدم . وأخرجه أحمد

عَنْ مَالِكِ بْنِ عُرْفُطَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الدَّبَائِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ

اللہ ﷺ نے دباء، حنتم اور مزفت (کے برتنوں) سے منع فرمایا۔

1644, 1643 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حُسَيْنٍ، عَنْ ذُكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعِ مَضِينٍ
مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ
غَضْبَانٌ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَدْخَلَهُ
اللَّهُ النَّارَ، قَالَ: أَمَا شَعَرْتُ إِنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ،
فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ قَالَ الْحَكَمُ: كَانَتْهُمْ خُشْبٌ وَلَوْ
إِنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقْتُ
الْهُدَى حَتَّى اشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحَلَّ كَمَا حَلُّوا

1645 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ تشریف لائے اور ذی الحجہ کے چار یا پانچ دن
گزر چکے تھے، پس آپ میرے پاس تشریف لائے غصہ
کی حالت میں، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کس نے
آپ کو غصہ دلایا ہے؟ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے!
آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو نہیں جانتی کہ میں لوگوں کو
حکم دیتا ہوں کسی کام کا تو وہ اس میں شک کرتے ہیں،
اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا جو میں نے پہلے کیا، میں ہدی کو
نہ لاتا یہاں تک کہ وہ اس کو خرید لیتے، پھر میں احرام
باندھتا، جیسے انہوں نے احرام باندھا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی

رقم الحدیث: 25436-26114 من طرق عن شعبة 'به . وروى أبو عوانة هذا الحديث فتابع شعبة فيه .
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه رقم الحدیث: 1563: كان شعبة يخطئ في اسم (خالد بن علقمة)
وكان أبو عوانة يقول: (خالد بن علقمة) فقال شعبة: لم يكن (خالد بن علقمة) وإنما كان (مالك ابن
عرفطة) فلقيه الخطأ وترك الصواب وتلقن (ما) قال شعبة 'لم يجسر أن يخالفه .

1643, 1644- اسنادہ ضعیف، فیہ من لم یسم . وعزاه الحافظ فی المطالب رقم الحدیث: 4692، والسیوطی فی
الخصائص جلد 1 صفحہ 96 الی المصنف . وأخرجه الحارث بن أبی أسامة (932- بغیة) ومن طریقہ
أبو نعیم فی المنتخب من الدلائل رقم الحدیث: 163 من طریق داؤد بن المحبر، عن حماد، عن أبی
عمران الجونی، عن یزید بن بابنوس، عن عائشة بنحوه . وداؤد بن المحبر متروک . وأصل الحدیث
فی الصحیح عند البخاری رقم الحدیث: 3، ومسلم رقم الحدیث: 160 بغير هذه الألفاظ .

1645- اسنادہ ضعیف، خالد بن أبی الصلت ضعیف، وعراك لم یسمع من عائشة كما قال أحمد . وأخرجه

بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنْ عِرَاكِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَلَغَهُ أَمْرٌ بِمَقْعَدَةٍ فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ

اکرم ﷺ کو جب کوئی معاملہ پہنچتا تو آپ بیٹھنے کا حکم فرماتے قبلہ کی طرف منہ کر کے۔

1646 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

البيهقي في الخلافيات جلد 2 صفحہ 69 من طريق المصنف، وعنده: (خالد بن الصلت). وقال: كذا قال وقال غيره: خالد بن أبي الصلت. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25107 وابن ماجه رقم الحديث: 324 من طريق حماد بن سلمة 'به'. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25551 وأبو الحسن بن القطان في زوائد: حنى سنن ابن ماجه رقم الحديث: 324 والبيهقي في السنن جلد 1 صفحہ 92-93 وفي الخلافيات جلد 2 صفحہ 69-71 من طرق عن خالد الحداء به. وقد أنكر الامام أحمد مجيء بعض طرقه بتصريح عراق فيها بالسماع من عائشة. انظر مراسيل ابن أبي حاتم صفحہ 162-163.

1646- حديث صحيح. واسناده هنا منكر فيه عبد الله بن نافع 'ضعيف' وقد خالف الثقات 'كما سيأتي'. والحديث عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 3316-4059 الى المصنف. وفيه: (عبيد الله بن نافع' عن أمه). وهو خطأ. وأخرجه مسدد كما في الاتحاف رقم الحديث: 1317 من طريق عبد الله بن نافع' عن أبيه' به. أخرجه أحمد رقم الحديث: 24265-25185 وابن عبد البر في التمهيد جلد 16 صفحہ 132 من طريق عبید اللہ وعبد ربہ بن سعید وأيوب وعبد الرحمن' عن نافع مولى ابن عمر' عن عاتبة مولاة للفاكه بن المغيرة المخزومي' عن عائشة' بنحوه. وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 976 عن نافع' عن عاتبة' مرسلًا. قال ابن عبد البر في التمهيد جلد 16 صفحہ 131: نكذا روى هذا الحديث يحيى' عن مالك' عن نافع' عن سائبة' مرسلًا' لم يذكر عائشة' وليس هذا الحديث عند القعنبی' ولا عند ابن بكير' ولا عند ابن وهب' ولا عند ابن القاسم' لا مرسلًا' ولا غير مرسل وهو معروف من حديث مالك مرسلًا' ومن حديث نافع أيضًا' وأكثر أصحاب نافع وحفاظهم يروونه عن نافع' عن عاتبة' عن عائشة مسندًا متصلًا. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24579 من طريق جرير بن حازم' عن نافع عن مولاة للفاكه ابن المغيرة المخزومي' عن عائشة. والسائبة مولاة الفاكه مجهولة. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24056 والبخاري رقم الحديث: 3308-3309 ومسلم رقم الحديث:

رسول اللہ ﷺ نے گھر میں رہنے والے سانپ کو مارنے سے منع کیا، مگر وہ جس کی دم کٹی ہو اور دو دھاری ہو، کیونکہ ایسے سانپ آنکھ کی بینائی کو ختم کر دیتے ہیں اور عورتوں کے حمل کو ضائع کرتے ہیں پس جو ان کو نہ مارے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِيَّةُ يَعْنِي أَبَاهُ، عَنِ السَّائِبِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ جَنَّانِ الْبُيُوتِ يَعْنِي مِنَ الْحَيَاتِ إِلَّا الْأَبْتَرُ وَذُو الطَّفَيْتَيْنِ، فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْأَبْصَارَ وَيَقْتُلَانِ الْحَبْلَ فِي بُطُونِ النِّسَاءِ، فَمَنْ لَمْ يَقْتُلْهَا فَلَيْسَ مِنَّا

1647 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِعِمَّارٍ: أَمَا أَنْتَ يَا عِمَّارُ فَقَدْ عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ، رَجُلٍ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ قَتَلَ فَيُقْتَلُ

حضرت عمرو بن غالب سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عمار رضی اللہ عنہما سے فرمایا: اے عمار! کیا تجھے معلوم ہے کہ جو رسول اللہ ﷺ نے کیا فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں مگر تین وجہوں سے: (۱) آدمی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے (۲) اور جو شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کرے (۳) یا کسی کو قتل کرے، تو ان کو قتل کیا جائے۔

2232 ' وابن ماجه رقم الحديث: 3534 من طريق عروة ' عن عائشة بنحوه مطولاً ' ومختصراً .

1647 - حديث صحيح . وعمر بن غالب ثقة ' وثقه النسائي وابن حبان ' وصح له الترمذي . والحديث

أخرجه ابن أبي شيبة جلد 9 صفحہ 414 ' والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 1809 ' والمزى في

تهذيب الكمال جلد 22 صفحہ 185 من طريق أبي الأحوص سلام ' به نحوه مطولاً . وأخرجه ابن أبي

شيبه جلد 9 صفحہ 414 ' وأحمد رقم الحديث: 25836 ' والنسائي رقم الحديث: 4029 ' والطحاوي في

المشكل رقم الحديث: 1808 من طرق عن أبي اسحاق ' به . وأخرجه النسائي رقم الحديث: 4030 من

طريق زهير ' عن أبي اسحاق ' به ' موقوفاً . ورواية زهير عن أبي اسحاق متأخرة . وأخرجه أبو داؤد رقم

الحديث: 4353 ' والنسائي رقم الحديث: 4059-4757 ' والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 1801 '

والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 4360 ' والدارقطني جلد 3 صفحہ 81 ' والحاكم جلد 4

صفحہ 367 ' وأبو نعيم في الحلية جلد 9 صفحہ 15 ' والبيهقي جلد 8 صفحہ 283 من طرق عن عبيد بن

عمير ' عن عائشة نحوه . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 9 صفحہ 414 من طريق مسروق عن عائشة .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

رسول اللہ ﷺ چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔

1648 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حَمَادٌ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

حضرت یزید بن بابتوس فرماتے ہیں کہ ہم حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو ہم نے نبی

اکرم ﷺ کی وفات کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: حضرت

ابوبکر آئے (جب آپ کا وصال ہو گیا) تو انہوں نے

آپ کے دونوں رخساروں کے درمیان بوسہ لیا اور عرض

1649 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، وَالْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابْنُوسَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرْنَا وَفَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَجَعَلَ يُرَاحُ بَيْنَ خَدَّيْهِ

1648- حدیث صحیح . عزاء البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 639 الی المصنف .

وأخرجه ابن أبي عمر العدنی فی مسنده کما فی الاتحاف رقم الحدیث: 640 وأحمد رقم الحدیث:

25204 من طریق حماد، به . وأخرجه الطبرانی فی الأوسط رقم الحدیث: 2075 من طریق هشام

الدستوائی 'عن الأزرق' به، بلفظ: كان یصلی علی حصر' وقال: لم یروہ عن هشام الا حماد بن

مسعدة' والمشهور من حدیث حماد بن سلمة 'عن الأزرق بن قیس . وأخرجه أحمد رقم الحدیث:

26154 وابن خزيمة رقم الحدیث: 1011 من طریق عثمان بن عمر' عن یونس' عن الزهري' عن عروة

'عن عائشة بنحوه' بزيادة فی آخره .

1649- اسنادہ حسن' لحال یزید بن بابتوس . وهذا الحدیث قطعة من حدیث طویل روی بعضه المبارک بن

فضالة' ورواه بطوله ومختصراً حماد بن سلمة' ومرحوم بن عبد العزیز' وسبق تخريج بعضه من رواية

حماد بن سلمة برقم 1620 . وقد أخرجه ابن سعد جلد 2 صفحہ 265' وأحمد رقم الحدیث: 25883 من

طریق حماد بن سلمة' به مطولاً . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 24075' والترمذی فی الشمائل رقم

الحدیث: 374 من طریق مرحوم بن عبد العزیز' عن أبي عمر ان' به' نحوه . وروی أبو داؤد رقم

الحدیث: 2137 قطعة أخرى منه من طریق مرحوم أيضاً . وفي صحیح البخاری رقم

الحدیث: 4454-4457 من رواية أبي سلمة' وعروة' وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة' عن عائشة' أن

أبا بكر دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو میت' فقبله وبکی .

قَبْلًا، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَبِيَّاهُ يَا صَفِيَّاهُ

کی: اے ان کے نبی! اے ان کے محبوب!

1650 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ

حضرت عمران بن حطان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ نے فرمایا: اور ان کے پاس قاضیوں کا ذکر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: عادل قاضی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، پس اس کو شدتِ حساب کا احساس دلایا جائے گا، تو وہ تمنا کرے گا کہ وہ دو بندوں کے درمیان ایک کھجور کا بھی فیصلہ نہ کرتا۔

بُنُ الْعَلَاءِ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ سَرْجٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: وَذَكَرَ عِنْدَهَا الْقُضَاةُ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُؤْتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُلْقَى مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي تَمْرَةٍ قَطُّ

1651 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے تھے اور قراءت

الرَّحْمَنِ بْنِ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، بَصْرِيٌّ ثِقَّةٌ صَدُوقٌ

1650- اسنادہ ضعیف جدا، عمرو بن العلاء و صالح بن سرج مجهولان، و عمران متکلم فیہ . و أخرجه أحمد رقم الحدیث: 24508، و ابن أبی الدنیا فی الاشراف فی منازل الأشراف رقم الحدیث: 92، و البیهقی جلد 10 صفحہ 96، و الخطیب فی الموضح جلد 2 صفحہ 331 من طریق المصنف . و أخرجه البخاری فی التاریخ جلد 4 صفحہ 282، و وکیع فی أخبار القضاة جلد 1 صفحہ 20-21، و العقیلی جلد 3 صفحہ 298، و ابن حبان رقم الحدیث: 5055، و الطبرانی فی الأوسط رقم الحدیث: 2619، و الدارقطنی فی المؤلف و المختلف جلد 2 صفحہ 722-723، و البیهقی جلد 6 صفحہ 96، و الخطیب فی الموضح جلد 2 صفحہ 331 من طرق عن عمرو بن العلاء، به، نحوه . و انظر الضعیفة رقم الحدیث: 1142 .

1651- حدیث صحیح . و قد تکلم بعض أهل العلم فی سماع أبی الجوزاء من عائشة . و أخرجه أبو نعیم فی الحلیة جلد 3 صفحہ 63-82 من طریق المصنف . و أخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 2540، و ابن أبی شیبہ جلد 1 صفحہ 410، و أحمد رقم الحدیث: 24076، و الدارمی رقم الحدیث: 1239، و مسلم رقم الحدیث: 498، و أبو داؤد رقم الحدیث: 783، و ابن ماجہ رقم الحدیث: 812-869-893، و ابن خزیمہ رقم الحدیث: 699، و ابن حبان رقم الحدیث: 1768، و البیهقی جلد 2 صفحہ 15-72 من طرق عن بدیل بن میسرہ، به مطولاً و مختصراً .

الحمد لله رب العالمین سے شروع کرتے تھے، پس آپ جب رکوع کرتے تو سر نہ بلند کرتے اور نہ جھکاتے تھے بلکہ ان کے درمیانہ ہوتا، پس جب آپ سر اٹھاتے تو سجدہ نہ کرتے جب تک سیدھے کھڑے نہ ہو جاتے اور جب سجدہ کرتے تو اپنا سر اٹھاتے (تو دوسرا) سجدہ نہ کرتے یہاں تک کہ سیدھے بیٹھ جاتے اور بائیں پاؤں کو بچھا لیتے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لیتے اور آپ ہر دو رکعت میں التحیات پڑھتے اور دونوں سرینوں پر بیٹھنے سے منع فرماتے اور شیطان کے پیچھے اور درندوں کی طرح اور کتے کی طرح بیٹھنے سے منع کرتے اور نماز کا اختتام سلام پھیر کر کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فجر سے پہلے دو رکعت ادا کرتے تھے ان میں آپ سورہ فاتحہ کی مقدار قراءت کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو گوشت یا ہڈی والا گوشت پیش کیا، میں نے عرض کی: یہ ہمارے پاس بریرہ کی طرف سے آیا ہے تو آپ ﷺ

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَإِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يَخْفِضْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَفْرِشُ قَدَمَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّاتِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقَبِ الشَّيْطَانِ وَعَنِ افْتِرَاشِ كَافِتِرَاشِ السَّبْعِ وَالْكَلْبِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ

1652 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ، يَقُولُ فِيهِمَا قَدْرَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

1653 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ لَحْمًا أَوْ عَظْمًا، فَقُلْتُ: هَذَا مِمَّا اتَّانَا بِهِ بَرِيرَةُ،

1652- حدیث صحیح، واسناد المصنف منقطع، محمد بن سیرین لم یسمع من عائشة. وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 25866 من طریق آخر عن ابن سیرین به، وقال ابن معین وفي رواية ابن محرز عنه جلد 1

صفحة 127 ابن سیرین لم یسمع من عائشة شيئاً قط، ولا رآها. وكذلك قال أبو حاتم في المراسيل

رقم الحدیث: 687، وانظر جامع التحصيل رقم الحدیث: 683.

1653- حدیث صحیح سبق تخريجه.

فَقَالَ: هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ

نے فرمایا: یہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔

1654 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت اسحاق بن سعید القرشی جو سعید بن عاص کی اولاد سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ماہ رمضان کے انتیس روزوں کا ذکر ہوا، تو انہوں نے اس پر تعجب کیا، پس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اس پر تم تعجب کیوں کر رہے ہو، میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جو روزے رکھے ہیں وہ انتیس دن کے زیادہ ہوتے تھے اور تمہیں کے کم ہی ہوتے تھے۔

إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ الْقُرَشِيِّ، مِنْ وَلَدِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، فَتُعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَمَا يُعْجِبُكُمْ مِنْ ذَلِكَ، فَمَا صُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُمْتُ ثَلَاثِينَ

1655 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن ان کے پاس آئے، آپ نے فرمایا:

سُلَيْمَانَ بْنَ مُعَاذٍ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ

1654 - اسنادہ صحیح أخرجه أحمد رقم الحديث: 24562-24641 من طريق آخر عن اسحاق ابن سعيد به .

1655 - حديث صحيح . واسناد المصنف ضعيف، لضعف سليمان بن معاذ، ورواية سماك عن عكرمة

مضطربة . وأخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 203 من طريق المصنف، وقال: اسنادہ صحیح . وأخرجه

النسائي رقم الحديث: 2329 من طريق اسرائيل، عن سماك، عن رجل، عن عائشة بنت طلحة، عن

عائشة أم المؤمنين . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 7792 عن اسرائيل عن سماك عن عائشة بنت

طلحة عن عائشة . وأخرجه الشافعي جلد 1 صفحہ 462، وعبد الرزاق رقم الحديث: 7793، والحميدي

رقم الحديث: 190-191، وأحمد رقم الحديث: 25772، ومسلم رقم الحديث: 1154، وأبو داؤد رقم

الحديث: 2455، والترمذي رقم الحديث: 733-734، والنسائي رقم الحديث: 2321-2328، وابن

ماجه رقم الحديث: 1701، وأبو يعلى رقم الحديث: 4743، وابن خزيمة رقم الحديث: 2141-2143،

والطحاوي جلد 2 صفحہ 109، وابن حبان رقم الحديث: 3630، والبيهقي جلد 4 صفحہ 275، والبعثي

في شرح السنة رقم الحديث: 1745-1812، من طرق عن عائشة بنت طلحة ومجاهد وأم كلثوم، عن

عائشة .

کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا: نہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: اب میں روزے سے ہوں دوسرے دن آئے آپ نے فرمایا: کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا: عرض کی کہ جی ہاں! آپ نے فرمایا: میں اب افطار کی حالت میں ہوں اگرچہ میں نے روزہ اپنے اوپر لازم کیا تھا۔

عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: أَعِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: إِذَا أَصُومُ وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ، فَقَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِذَا أَفْطَرُ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ

حضرت سالم سبلان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ نے اپنے بھائی سے فرمایا: اے عبدالرحمن! وضو خوب اچھی طرح کیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا: ہلاکت ہے اُن ایڑیوں کے لیے آگ سے قیامت کے دن (جو خشک رہ جاتی ہیں)۔

1656 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذُئْبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ سَالِمِ سَبْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ لِأَخِيهَا: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم

1657 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

1656- حدیث صحیح . وفی اسنادہ ہنا عمران بن بشیر، لم یوثقہ الا ابن حبان، وقد توبع . وأخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 69 من طریق المصنف . وأخرجه الشافعي جلد 1 صفحہ 95، وأحمد رقم الحدیث: 24857-26257، والبيهقي فی المعرفة جلد 1 صفحہ 166 من طریق حسین المعلم وهاشم بن القاسم ومحمد بن اسماعیل بن ابی فدیك، عن ابن ابی ذئب، به . وأخرجه الشافعي جلد 1 صفحہ 96، وابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 26، وأحمد رقم الحدیث: 24560، والبخاری فی التاريخ جلد 4 صفحہ 110، ومسلم رقم الحدیث: 240، والطحاوی جلد 1 صفحہ 38، والبيهقي فی المعرفة جلد 1 صفحہ 167، والطبرانی فی الأوسط رقم الحدیث: 5308 من طرق عن سالم سبلان، به . وأخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 161، وأحمد رقم الحدیث: 25630، وابن ماجه رقم الحدیث: 452 من طریق ابی سلمة، عن عائشة به . وانظر علل الرازی رقم الحدیث: 148-178-194، وعلل مسلم لابن عمار الشہید صفحہ 50 .

1657- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 24805، والنسائي رقم الحدیث: 2683، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2934، وابن حبان رقم الحدیث: 3881 من طرق عن حماد بن زيد، به . وأخرجه

بُنْ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنِيَّ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو منیٰ میں خوشبو لگائی، آپ کے خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے۔

عبداللہ بن شقیق کی حضرت

287- عَبْدُ اللَّهِ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے

بُنْ شَقِيقٍ

روایت کردہ حدیثیں

عَنْ عَائِشَةَ

حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

1658 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا: کیا

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ،

رسول اللہ ﷺ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ

الحمیدی رقم الحدیث: 212، وأحمد رقم الحدیث: 24794، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2938 من

طریق عمرو بن دینار . به . وأخرجه الشافعی جلد 1 صفحہ 505-506 من طریق عمرو بن دینار، به .

وأخرجه النسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 4166، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2939 من طریق

الزهري، عن سالم، به، وفي بعض هذه الروايات سياق أطول من هذا .

1658- حدیث صحیح، وفي اسناد المصنف الصلت بن دینار، وهو متروك، وقد صح الحدیث من غیر طریقہ .

وأخرجه ابن عساکر فی تاریخہ جلد 24 صفحہ 196 من طریق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 2

صفحہ 407، وأحمد رقم الحدیث: 24071-25732، ومسلم رقم الحدیث: 717، وأبو داؤد رقم

الحدیث: 1292، والترمذی فی الشمائل رقم الحدیث: 277، والنسائی رقم الحدیث: 2183-2184،

وفی الكبرى رقم الحدیث: 481، وابن خزيمة رقم الحدیث: 539-1230-2133، وابن حبان رقم

الحدیث: 2526-2527، والبيهقي جلد 3 صفحہ 49، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 1003 من

طرق عن عبد الله بن شقيق، به . وأخرجه ابن خزيمة رقم الحدیث: 1229، وابن حبان رقم الحدیث:

2528 بهذا اللفظ من حدیث ابن عمر كذلك، وانظر نصب الراية جلد 2 صفحہ 146 .

فرمایا: نہیں! مگر جب کہ آپ باہر سے آتے۔

حضرت عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی: کیا رسول اللہ ﷺ دوسورتوں کو ملاتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: نہیں! مگر ان سورتوں میں جو مفصل ہیں (ان کو ملا کر پڑھتے تھے)۔

حضرت عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا: کیا رسول اللہ ﷺ مہینہ کے معین دنوں کے روزے رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں!

حضرت شقیق بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، حضرت

لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ
1659 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرُنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ؟ قَالَتْ: لَا، إِلَّا مِنَ الْمُفْصَلِ

1660 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ الْأَيَّامَ الْمَعْلُومَةَ مِنَ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ

1661 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1659- حدیث صحیح، واسنادہ کسابقہ . وأخرجه اسحاق بن راهويه رقم الحديث: 1301، وأحمد رقم الحديث: 25424، وأبو داؤد رقم الحديث: 956-1292، وابن خزيمة رقم الحديث: 539، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 268، والطحاوی جلد 1 صفحہ 345، وابن حبان رقم الحديث: 2527، وغيرهم من طرق عن كهمس والجريري، عن عبد الله بن شقيق، به . وراجع تخريج الحديث السابق .

1660- اسنادہ صحیح . أخرجه اسحاق بن راهويه رقم الحديث: 1309، وأحمد رقم الحديث: 25461 عن غندر وروح، عن شعبة، به . وهذا الحديث واللذان قبله، جعلها بعض الرواة حديثاً واحداً، فانظر تخريجهما .

1661- اسنادہ صحیح . أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 3 صفحہ 63 من طريق المصنف . وأخرجه اسحاق بن راهويه رقم الحديث: 1308، وأحمد رقم الحديث: 24397-25826، والبخاری في التاريخ جلد 8 صفحہ 222، وأبو داؤد رقم الحديث: 3991، والترمذی رقم الحديث: 2938، والنسائی في الكبرى رقم الحديث: 11566، وأبو يعلى رقم الحديث: 4515-4644، والطبرانی في الصغير رقم

هَارُونَ الْأَعْوَرُ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی
بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
اکرم ﷺ نے پڑھا: "فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ"۔
وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ: فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ

جن روایات میں آپ اکیلی ہیں

288- الْأَفْرَادُ

1662 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول
قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ،
اللہ ﷺ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد اتنا انتظار

الحديث: 617؛ والقطيعي في جزء الألف دينار رقم الحديث: 290؛ والحاكم جلد 2 صفحہ 236؛ وتمام
في الفوائد (1389-1391-الروض البسام)؛ والخطيب في الموضح جلد 1 صفحہ 189؛ وأبو نعيم في
الحلية جلد 8 صفحہ 302؛ والذهبي في المعجم المختص صفحہ 160 من طرق عن هارون الأعور؛ به .
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه الا من حديث هارون الأعور . وصححه الحاكم؛ ووافقه
الذهبي . وأخرجه الحاكم جلد 2 صفحہ 250 من طريق حماد؛ عن بديل؛ به . وله شاهد عن ابن عمر
عند الطبراني في الصغير رقم الحديث: 608؛ وعن أنس عند الخطيب جلد 12 صفحہ 440 .

1662 - حديث صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 302-304؛ وأحمد رقم الحديث: 24383؛
والدارمي رقم الحديث: 1354؛ ومسلم رقم الحديث: 592؛ وأبو داؤد رقم الحديث: 1512؛ والترمذي
رقم الحديث: 298-299؛ والنسائي رقم الحديث: 1338؛ وفي الكبرى رقم الحديث: 9926-10199؛
وابن ماجه رقم الحديث: 924؛ وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 241-242؛ وابن حبان رقم الحديث: 2000؛
والبيهقي جلد 2 صفحہ 183؛ والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 713 من طرق عن عاصم؛ به .
وأخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 9923 من طريق سفيان؛ عن عاصم؛ عن رجل يقال له: عبد
الرحمن بن الرماح؛ عن عبد الرحمن بن عوسجة أحدهما عن الآخر عن عائشة؛ به . وخطأ هذه الطريق
النسائي . ورواه شعبة عن عاصم؛ عن عوسجة الرماح؛ عن ابن أبي الهذيل؛ عن ابن مسعود؛ موقوفاً؛
وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25546؛ ومسلم رقم الحديث: 592؛ وأبو داؤد رقم الحديث: 1512؛
والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 9925؛ وابن حبان رقم الحديث: 2001؛ وابن السني رقم الحديث:
107 من طرق عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث؛ به .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ -

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے صوف کی کالی چادر بنائی، تو آپ نے پہنی، آپ کو بڑی اچھی لگی، پس جب اس میں پسینہ آیا، تو اس میں آپ نے چیتے کی بدبو پائی، تو آپ نے اس کو پھینک دیا۔

1663 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: صُنِعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُكَّةٌ سَوْدَاءٌ مِنْ صُوفٍ فَلَبِسَهَا، فَأَعْجَبَتْهُ، فَلَمَّا عَرِقَ فِيهَا فَوَجَدَ رِيحَ النَّمِرَةِ قَذَفَهَا

وہ حدیثیں جو آپ سے

289- وَمَا رَوَى

عورتوں نے روایت کی ہیں

عَنْهَا النِّسَاءُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

1664 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ

بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نِي فِي فرمایا: تو اس کے لیے حلال نہیں

1663 - رجاله ثقات، وفيه عننة قتادة . وأخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 419 من طريق المنصف . وأخرجه ابن

سعد جلد 1 صفحہ 453، وأحمد رقم الحديث: 25160-26160، وأبو داؤد رقم الحديث: 4074،

والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 9561، والحاكم جلد 4 صفحہ 188 من طريق همام، به . وصححه

الحاكم، ووافقه الذهبي . ورواه هشام، عن قتادة، عن مطرف، مرسلاً . أخرجه النسائي في الكبرى رقم

الحديث: 9662 .

1664 - حديث صحيح واسناد المصنف ضعيف، لضعف علي بن زيد، وجهالة عمته، وهي امرأة أبيه، يقال لها:

أمية أو أمينة، وتكنى أم محمد . وانظر العلل لابن أبي حاتم رقم الحديث: 2635 . والحديث عزاه

البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 2093 الى المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحديث: 24695 من طريق حماد، به . وأخرجه الطبري في التفسير جلد 2 صفحہ 477، والدارقطني

جلد 4 صفحہ 32 من طريق علي بن زيد، عن أم محمد، به .

عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهِ

290- صَفِيَّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ

عَنْ عَائِشَةَ

حضرت صفیہ بنت شیبہ کی حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات

1665 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ
شَيْبَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَنَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ،
قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ
وَأَرْجِعُ بِنُسُكٍ وَاحِدٍ، فَأَمَرَ أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ،
فَاعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ وَأَرَدَفَنِي خَلْفَهُ عَلَى الْبَعِيرِ
فِي لَيْلَةٍ حَارَّةٍ، فَجَعَلْتُ أَحْسِرُ عَنْ خِمَارِي،
فَتَنَاوَلَنِي بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: هَلْ تَرَى مِنْ
أَحَدٍ؟ فَأَعْتَمَرْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ لَمْ يَبْرَحْ

1666 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ

حضرت صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں کہ ہم کو حضرت
اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا
آپ نے فرمایا کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! لوگ
دو ارکان (حج و عمرہ) ادا کر کے جا رہے ہیں اور میں
صرف حج کر کے جا رہی ہوں، تو آپ نے میرے بھائی
عبدالرحمن کو حکم دیا، میں نے تنعیم سے عمرہ کیا، مجھے لیلہ
حارہ میں آپ نے اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھالیا، سو میں
اپنی چادر کھینچنے لگی اور اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لی، میں نے
کہا: کیا کوئی دیکھ رہا ہے؟ میں نے عمرہ کیا، پھر میں رسول
اللہ ﷺ کے پاس واپس آئی، اور آپ اسی جگہ پر تھے
واپس نہیں گئے تھے۔

حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

1665- حدیث صحیح . أخرجه اسحاق بن راهويه رقم الحديث: 1211، والنسائي في الكبرى رقم

الحديث: 9234 من طريق قرّة بن خالد، به، ضمن الحديث السابق . وأخرجه ابن راهويه رقم

الحديث: 1136، وأحمد رقم الحديث: 24660، وأبو داؤد رقم الحديث: 2028، والترمذی رقم

الحديث: 876، والنسائي رقم الحديث: 2912، وابن خزيمة رقم الحديث: 3018، والطحاوی

جلد 1 صفحہ 392 من طريق علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة، بنحوه . وقال الترمذی: حسن

صحیح . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24429 من طريق سعيد بن جبیر، عن عائشة، نحوه .

1666- أخرجه اسحاق بن راهويه رقم الحديث: 1276، ومسلم رقم الحديث: 1211، والنسائي في الكبرى

ہم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے کعبہ میں نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا: حطیم کعبہ میں نماز پڑھی ہے، کیونکہ وہ بھی کعبہ سے یا بیت سے ہے۔

بُنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ الْمَكِّيِّ مِنْ آلِ شَيْبَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: حَدَّثَنَا عَائِشَةُ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَلِّي فِي الْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: صَلَّى فِي الْحِجْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْكَعْبَةِ أَوْ قَالَ: مِنَ الْبَيْتِ

1667 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ

حضرت صفیہ بنت شیبہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: فلانہ بنت فلاں انصاریہ آئی، تو اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! غسل جنابت کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا: تم پہلے وضو کرو پھر اپنے سر کے دائیں حصہ پر پانی ڈالو پھر بائیں حصہ پر پانی ڈالو یہاں تک کہ سر کی جلد تر ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا: تم جانتی ہو! شئون راسھا کیا ہے؟ اس عورت نے کہا: جلد

بُنْ الرَّبِيعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: آتَتْ فَلَانَةَ بِنْتُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيَّةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: تَبْدَأُ إِحْدَاكُنَّ فَتَتَوَضَّأُ فَتَبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهَا الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ حَتَّى تَنْقِيَ شُؤْنَ الرَّأْسِ ثُمَّ قَالَ: تَدْرُونَ مَا شُؤْنُ رَأْسِهَا؟

رقم الحديث: 9234 من طريق قره بن خالد به .

1667- حديث صحيح . وقيس بن الربيع متابع فيه . وأخرجه الخطيب في المبهمات صفحة 28 من طريق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحة 79، وابن راهويه رقم الحديث: 1278، وأحمد رقم الحديث: 25188، والدارمي رقم الحديث: 779، ومسلم رقم الحديث: 332، وأبو داؤد رقم الحديث: 314-316، وابن ماجه رقم الحديث: 642، وابن الجارود رقم الحديث: 117، وابن خزيمة رقم الحديث: 248، والبيهقي جلد 1 صفحة 180، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 253 من طريق شعبة وأبي الأحوص وأبي عوانة وغيرهم، عن إبراهيم بن المهاجر، به . وأخرجه الشافعي جلد 1 صفحة 142، والحميدي رقم الحديث: 167، وأحمد رقم الحديث: 24951، والبخاري رقم الحديث: 314-315-7357، ومسلم رقم الحديث: 332، والنسائي رقم الحديث: 251، وابن حبان رقم الحديث: 1199، والبيهقي جلد 1 صفحة 183، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 252 من طرق عن منصور بن صفية، عن أمه، به بنحوه . وأخرجه البخاري رقم الحديث: 273، وأبو داؤد رقم الحديث: 253، وغيرهما من طريق الحسن بن مسلم، عن صفية، به مختصراً .

قَالَتْ: الْبَشْرَةُ، قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ تَفِيضُ عَلَى بَقِيَّةِ
جَسَدِهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ
الْمَحِيضِ؟ قَالَ تَأْخُذُ أَحَدًا كُنَّ سِدْرَتِهَا وَمَاءَهَا
فَتَطَهَّرُ بِهَا فَتُحَسِّنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّ رَأْسِهَا
الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْآيْسَرِ حَتَّى تَنْقِيَ شُونَ الرَّأْسِ، ثُمَّ
تُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً
مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ
أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقُلْتُ لَهَا أَنَا: يَا سُبْحَانَ اللَّهِ تَتَّبِعِينَ
آثَارَ الدَّمِ

آپ نے فرمایا: تو نے سچ کہا، پھر تو اپنے باقی جسم پر پانی
ڈال اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! حیض کا غسل کیسے کیا
جائے؟ آپ نے فرمایا: تم میں ہر ایک پانی کا برتن
پکڑے وضو کرے پھر سر کے دائیں حصہ پر ڈالے پھر
بائیں حصہ پر یہاں تک کہ جلد تر ہو جائے پھر اپنے
سارے جسم پر ڈالے پھر کپڑے کی پوتھی لے اس کے
ساتھ پاکی حاصل کرے اس عورت نے عرض کی:
یا رسول اللہ! اس کے ساتھ پاکی کیسے کروں؟ میں نے
اس کو کہا: میں (سمجھاتی ہوں تجھے) یا سبحان اللہ اس
کے پیچھے خون آتا ہے۔

1668 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ ایک صاع کے ساتھ غسل اور ایک مد کے
ساتھ وضو کرتے تھے۔

...عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

1668- حدیث صحیح . واسناد المصنف غیر معلوم بسبب الطمس . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24941
وأبو داؤد رقم الحديث: 92، والنسائی رقم الحديث: 345، وابن ماجه رقم الحديث: 92 من طريق همام
وأبان وسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن صفية، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25878، وأبو
عبيد في الطهور رقم الحديث: 101، والأموال رقم الحديث: 1571 من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة
' عن معاذة، عن صفية، عن عائشة وأخرجه أبو عبيد في الطهور رقم الحديث: 102، وفي الأموال رقم
الحديث: 1572 من طريق حماد بن سلمة، به، ولم يذكر (صفية) . وأخرجه أحمد رقم الحديث:
26016 من طريق ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن صفية أو معاذة، عن عائشة . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 26436، والنسائی رقم الحديث: 346 من طريق شيبان، عن قتادة، عن الحسن عن أمه، عن
عائشة . وأخرجه البخاری رقم الحديث: 251، ومسلم رقم الحديث: 320، وغيرهما من طريق أبي بكر
بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة نحوه . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25859، والنسائی رقم
الحديث: 226، وغيرهم من وجوه أخر عن عائشة .

وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ

1669 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ
مُسْلِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً
مِنَ الْأَنْصَارِ تَمَرَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصْلُوا فِيهِ،
فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَنَ
الْوَاصِلَةَ وَالْمَوَاصِلَةَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انصار کی
ایک عورت کے بال گر گئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس
کے سر میں اور بال ملا لیں، اس بات کا ذکر نبی اکرم ﷺ
کے سامنے ہوا تو آپ نے بال ملانے اور ملوانے والی پر
لعنت کی۔

1670 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
حضرت زربن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

1669- حدیث صحیح . أخرجه مسلم رقم الحديث: 2123، وابن حبان رقم الحديث: 5514، والبيهقي
جلد 2 صفحہ 426 من طريق المصنف . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 301، وابن راهويه رقم
الحديث: 1282، وأحمد رقم الحديث: 24849، والبخاري رقم الحديث: 5934، ومسلم رقم
الحديث: 2123، والنسائي رقم الحديث: 5112، وغيرهم من طرق عن شعبة، به . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 24896، والبخاري رقم الحديث: 5934، ومسلم رقم الحديث: 2123، والطحاوي في
المشکل رقم الحديث: 1129، وغيرهم من طرق عن الحسن بن مسلم، به . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 24847، والنسائي رقم الحديث: 5116، من وجوه أخر، عن عائشة .

1670- حدیث صحیح . وعاصم حسن الحديث، لكنه متابع، وأخرجه ابن حبان رقم الحديث: 6368، من طريق
شيبان، به . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 271، وابن راهويه رقم الحديث: 1623، وأحمد رقم
الحديث: 25097، والترمذي في الشمائل رقم الحديث: 405، وابن حبان رقم الحديث: 6606،
والبيهقي في الدلائل جلد 7 صفحہ 274، من طريق الثوري ومسعر، عن عاصم، به . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 24222، وابن راهويه رقم الحديث: 1419، ومسلم رقم الحديث: 1635، وأبو داؤد رقم
الحديث: 2863، والنسائي رقم الحديث: 3624، وابن ماجه رقم الحديث: 2695، وأبو يعلى رقم
الحديث: 4542، وغيرهم من طريق مسروق، عن عائشة بنحوه . وأخرجه النسائي رقم الحديث: 3625،
من طريق الأسود، عن عائشة بنحوه . وللحديث شاهد من حديث عمرو بن الحارث عند البخاري
رقم الحديث: 2739 .

ایک آدمی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی میراث کے متعلق پوچھا، تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: نہیں! اللہ کی قسم! رسول اللہ ﷺ نے وراثت میں نہ دینا نہ درہم نہ بکری نہ اونٹ نہ نوٹڑی چھوڑی۔

شَيْبَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ مِيرَاثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: لَا، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً

حضرت ام کلثوم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات

حضرت ام کلثوم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنے چھ صحابہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے ایک دیہاتی آیا، تو اس نے سارا کھانا دو لقموں میں کھالیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر

291- ام کلثوم

عَنْ عَائِشَةَ

1671 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ بُدَيْلِ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِيدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا امُّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

1671- اسنادہ ضعیف، لجهالة حال ام کلثوم . وأخرجه الترمذی فی الشمائل رقم الحدیث: 189، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 1084، والبیہقی جلد 7 صفحہ 276 من طریق المصنف . وأخرجه ابن راہویہ رقم الحدیث: 1289، وأحمد رقم الحدیث: 26335، والدارمی رقم الحدیث: 2027، وأبو داؤد رقم الحدیث: 3767، والترمذی رقم الحدیث: 1858، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 10112، وابن حبان رقم الحدیث: 5214، والحاکم جلد 4 صفحہ 121، والبیہقی جلد 7 صفحہ 276 من طریق هشام الدستوائی، بہ . وقال الترمذی: حسن صحیح . وصححه الحاکم ووافقه الذہبی . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25149، والدارمی رقم الحدیث: 2026، وابن ماجہ رقم الحدیث: 3264 من طرق عن یزید بن ہارون، عن ہشام، بہ . باسقاط ام کلثوم من السند . وللحدیث شاهد من حدیث أمیة بن منخشی . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 18983، وأبو داؤد رقم الحدیث: 3768، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 6758، وغيرهم . وله شاهد أيضًا من حدیث ابن مسعود عند ابن حبان رقم الحدیث: 5213، والطبرانی رقم الحدیث: 10354، وفی الأوسط رقم الحدیث: 4576، وانظر الصحیحة رقم الحدیث: 198، والارواء جلد 7 صفحہ 27 .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ
مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلِقْمَتَيْنِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ ذَكَرَ
اسْمَ اللَّهِ كَفَاكُمْ، إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ أَنْ
يَذُكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَآخِرُهُ

اول و آخر اللہ کا ذکر کرتا تو تم سب کے لیے کافی ہوتا۔
جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے اور بسم اللہ پڑھنا بھول
جائے تو یہ پڑھے: ”بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَآخِرُهُ“۔

حضرت کریمہ بنت ہمام الطائیہ فرماتی ہیں کہ ہم
مسجد حرام میں تھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی
وہاں تھیں ہم آپ کے پاس بیٹھ گئیں ایک عورت نے
عرض کی: اے ام المؤمنین! آپ خضاب میں مہندی
کے متعلق کیا فرماتی ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:
میرے محبوب اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔

1672 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ، قَالَ: أَخْبَرْتَنِي كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَامِ
الطَّائِيَّةِ، قَالَتْ: كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَعَائِشَةُ
فِيهِ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهَا امْرَأَةٌ: يَا أُمَّ
الْمُؤْمِنِينَ مَا تَقُولِينَ فِي الْجَنَاءِ فِي الْخِضَابِ؟
فَقَالَتْ: كَانَ خَلِيلِي لَا يُحِبُّ رِيحَهُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

1673 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ

1672 - اسنادہ ضعیف، کریمہ بنت ہمام مجهولة . وأخرجه البيهقي جلد 5 صفحہ 61 من طريق المصنف .
وأخرجه أحمد رقم الحديث: 24905، والبيهقي جلد 7 صفحہ 311 من طريق محمد بن مهزم، به .
وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25801، وأبو داؤد رقم الحديث: 4164، والنسائي رقم الحديث: 5105
من طريق علي بن المبارك، عن كريمه، به، نحوه .

1673 - حديث صحيح، واسناد المصنف ضعيف، أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مجهولة . وأخرجه أبو
نعيم في الحلية جلد 6 صفحہ 355 من طريق المصنف . وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 498، ومن طريقه
الشافعي في مسنده جلد 1 صفحہ 78، وعبد الرزاق رقم الحديث: 191، وابن أبي شيبة جلد 8
صفحہ 192، وابن راهويه رقم الحديث: 1710، وأحمد رقم الحديث: 25198، والدارمي رقم الحديث:
1987، وأبو داؤد رقم الحديث: 4124، والنسائي رقم الحديث: 4263، وابن ماجه رقم الحديث:
3612، والطحطاوى جلد 1 صفحہ 469، وابن حبان رقم الحديث: 1286، والبيهقي جلد 1 صفحہ 17 .
وقيل لأحمد كما في العلل لعبد الله جلد 2 صفحہ 130: ما ترى في هذا الحديث؟ قال: فيه أمه؟! كأنه
يكرهها في الحديث . وذكره أيضًا جلد 2 صفحہ 200، وقال: كأنه أنكره من أجل أمه . وأخرجه ابن

بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيطٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَدِّهِ فِي جِلْدٍ فِي رِخْصَتِ دِي جَبِ اس کی دباغت کر لی جائے یا یہ فرمایا کہ وہ پاک کر لی جائے۔

عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخِصَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ أَوْ قَالَ: طَهَّرَتْ

1674 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حضرت ام کلثوم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

راہویہ رقم الحدیث: 1168، وابن جریر فی مسند ابن عباس من تہذیب الآثار رقم الحدیث: 1198 من طریق ابن ابی ذئب، عن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان، عن عائشة، مرفوعاً بمعناه . واسناده منقطع . وانظر نصب الراية جلد 1 صفحہ 117، والخلافیات للبيهقي رقم الحدیث: 64 . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25255، والنسائی رقم الحدیث: 4256، والطحاوی جلد 1 صفحہ 470، وابن جریر فی مسند ابن عباس من تہذیب الآثار رقم الحدیث: 1233-1234، وابن حبان رقم الحدیث: 1290، والدارقطنی جلد 1 صفحہ 44-45-49، والبيهقي جلد 1 صفحہ 24-25، وابن عبد البر جلد 4 صفحہ 160 من طریق عطاء والأسود عن عائشة نحوه مرفوعاً وموقوفاً .

1674- حدیث صحیح . عزاه الحافظ فی المطالب رقم الحدیث: 3673 الی المصنف . وأخرجه ابن راہویہ

رقم الحدیث: 1165، وأحمد رقم الحدیث: 25180-25181، والحاکم جلد 1 صفحہ 521-522 من طریق شعبة، به . ووقع فی مسند اسحاق (أم کلثوم بنت علی) عند الحاکم (أم کلثوم بنت ابی بکر) . وأخرجه ابن ابی شیبہ جلد 10 صفحہ 264، وأحمد رقم الحدیث: 25063-25183، والبخاری فی الأدب المفرد رقم الحدیث: 639، وابن ماجه رقم الحدیث: 3846 من طریق حماد بن سلمة والجریری، عن جبر، به، نحوه . وأخرجه ابن حبان رقم الحدیث: 869، والطبرانی فی الدعاء رقم الحدیث: 1347 من طریق حماد، عن الجریری عن أم کلثوم، به . وأخرجه أبو یعلیٰ رقم الحدیث: 4473 مجن طریق حماد، عن الجریری وجبر، عن أم کلثوم، به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25825، وعبد بن حمید رقم الحدیث: 1527، ومسلم رقم الحدیث: 2716، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1550، والنسائی رقم الحدیث: 5540-5541، وابن ماجه رقم الحدیث: 3839 من طریق هلال بن یساف، وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25128-26248 من طریق ابی اسحاق السبعی کلاهما عن فروة بن نوفل الأشجعی، عن عائشة مرفوعاً .

روایت کرتی ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں، تو نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: تم پر جامع کلمات والی دعا لازم ہے جب نماز سے وہ فارغ ہوئیں، تو انہوں نے اس (جامع الدعاء) کے متعلق آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا: تو کہہ ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا - أَوْ قَرَّبَ مِنْهَا - مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ - أَوْ قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ - أَوْ قَالَ: مِنْ أَمْرٍ - فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ لِي رَشَدًا“۔

عَنْ جَبْرِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكَ مِنَ الدُّعَاءِ بِالْكَوَامِلِ الْجَوَامِعِ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ سَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَوْلِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا - أَوْ قَرَّبَ مِنْهَا - مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، اللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ مَا سَأَلْتُكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ - أَوْ قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَاءٍ - أَوْ قَالَ: مِنْ أَمْرٍ - فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ لِي رَشَدًا

حضرت معاذہ العدویہ کی حضرت

292- مُعَاذَةُ الْعَدَوِيَّةُ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایات

عَنْ عَائِشَةَ

حضرت معاذہ عدویہ فرماتی ہیں کہ میں نے

1675 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1675- حدیث صحیح . أخرجه أبو عوانة جلد 1 صفحہ 324، والبعوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 1535 من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25560، والدارمی رقم الحدیث: 993، ومسلم رقم الحدیث: 335، والبعوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 1535 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه الدارمی رقم الحدیث: 986، ومسلم رقم الحدیث: 335، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1001 من طریق حماد، عن يزيد الرشك، به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 1278، وابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 339، وابن

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي الْأَزْهَرِ الضُّبَيْعِيِّ
 الْقَسَامِ الرَّشِكِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، قَالَتْ: قُلْتُ
 لِعَائِشَةَ: اتَّقِضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: أَحْرُورِيَّةٌ
 أَنْتِ؟ كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكُنَّا نَقْضِي؟
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی: کیا حیض والی
 عورت نماز قضاء کرے گی؟ آپ نے فرمایا: کیا تو
 حروریہ ہے؟ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں حیض کی
 حالت میں ہوتی تھی تو کیا ہم قضاء نہیں کرتی تھیں؟

1676 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
 حضرت یزید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

راہویہ رقم الحدیث: 1384، وأحمد رقم الحدیث: 24082، والدارمی رقم الحدیث: 985، والبخاری
 رقم الحدیث: 321، ومسلم رقم الحدیث: 335، وأبو داؤد رقم الحدیث: 262-263، والترمذی رقم
 الحدیث: 130، والنسائی رقم الحدیث: 2317، وابن ماجہ رقم الحدیث: 631، وابن خزيمة رقم
 الحدیث: 1001، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 324، وابن حبان رقم الحدیث: 1349، والبيهقي
 جلد 1 صفحہ 308 من طرق عن معاذة، به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25584، والدارمی رقم
 الحدیث: 984-991، والترمذی رقم الحدیث: 787، وابن ماجہ رقم الحدیث: 1670 من طريق الأسود
 والقاسم، عن عائشة نحوه .

1676- حدیث صحیح . أخرجه الترمذی فی الشمالی رقم الحدیث: 288، والبغوی فی الجعديات رقم
 الحدیث: 1532، والبيهقي جلد 3 صفحہ 47 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث:
 25427، ومسلم رقم الحدیث: 719، وابن ماجہ رقم الحدیث: 1381، والبغوی فی الجعديات رقم
 الحدیث: 1531-1533، وابن حبان رقم الحدیث: 2529 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه مسلم رقم
 الحدیث: 719، وأبو يعلى رقم الحدیث: 4529 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن يزيد الرشك به .
 وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 4853، وابن راهويه رقم الحدیث: 1389-1391، وأحمد رقم
 الحدیث: 24500، والبخاری فی التاريخ الصغير جلد 1 صفحہ 172، ومسلم رقم الحدیث: 719،
 والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 479، وأبو يعلى رقم الحدیث: 4367، وأبو عوانة جلد 2
 صفحہ 267-268، والبيهقي جلد 3 صفحہ 47 من طرق عن معاذة، به نحوه . والحدیث ذكره البخاری
 فی التاريخ الصغير جلد 1 صفحہ 172 عن يزيد الرشك وقتادة، به معلقاً، وقال: وحمل أحمد بن حنبل
 على يزيد في هذا، وليس عليه حمل .

معاذہ کو فرماتے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا: رسول اللہ ﷺ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! چار رکعتیں ادا کرتے اور اضافہ بھی کر لیتے تھے جتنا اللہ چاہتا۔

عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: نَعَمْ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ

1677 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت یزید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت معاذہ سے سنا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی: کیا رسول اللہ ﷺ ہر ماہ کے تین روزے رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض کی: کس ماہ کے؟ آپ نے فرمایا: مجھے کیا ضرورت کہ کس ماہ کے روزے رکھتے تھے۔

عَنْ يَزِيدَ، سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، قُلْتُ لِعَائِشَةَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثًا مِنَ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قُلْتُ: مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ؟ قَالَتْ: كَانَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ

1678 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت معاذہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ

1677- حدیث صحیح . أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 763، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 1534 من طریق المصنف . وأخرجه ابن راهویہ رقم الحدیث: 1393، وأحمد رقم الحدیث: 25170، وابن ماجہ رقم الحدیث: 1709، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2130، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 11534، والطحاوی جلد 2 صفحہ 83، وابن حبان رقم الحدیث: 3654-3657، من طرق عن شعبة' به . وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 1160، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2453، والبيهقی جلد 4 صفحہ 295 من طریق عبد الوارث بن سعيد، عن يزيد الرشك' به .

1678- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحدیث: 25426، والنسائی رقم الحدیث: 412-239، والطحاوی جلد 1 صفحہ 24 من طرق عن شعبة' به . وأخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 168، وأحمد رقم الحدیث: 24767، ومسلم رقم الحدیث: 321، والنسائی رقم الحدیث: 412-239، وابن خزيمة رقم الحدیث: 236، وأبو يعلى رقم الحدیث: 4547، وغيرهم من طرق عن عاصم' به . وأخرجه ابن راهویہ رقم الحدیث: 1383، وأحمد رقم الحدیث: 24643، وابن خزيمة رقم الحدیث: 251، والطحاوی جلد 1 صفحہ 26، وابن حبان رقم الحدیث: 192، والبيهقی جلد 1 صفحہ 187 من طرق عن معاذة' به نحوه .

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے یہاں تک کہ آپ فرماتے: میرے لیے چھوڑو! میرے لیے چھوڑو!

عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَقُولَ: أَبْقِيَ لِي أَبْقِيَ لِي

293- عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ

عَنْ عَائِشَةَ

1679 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لَهٗ، عَصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ، لَمْ يَعْمَلْ سُوءًا قَطُّ، وَلَمْ يَدْرِ بِهِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَوْلَا تَدْرِينَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ الْجَنَّةَ، وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، وَخَلَقَ النَّارَ، وَخَلَقَ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

حضرت عائشہ بنت طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے پاس ایک انصار کا بچہ لایا گیا تاکہ آپ اس پر نماز جنازہ پڑھیں تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس کے لیے خوشخبری! یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے کبھی کوئی بُرا عمل نہیں کیا اور نہ اس کا کبھی خیال کیا۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا تو نہیں جانتی، بے شک اللہ عزوجل نے جنت پیدا کی، اس میں رہنے کے لیے اہل بھی پیدا کیے، حالانکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے اور دوزخ کو پیدا

1679- حدیث صحیح، وفی اسناد المصنف قیس بن الربیع، وهو ضعیف، ویحیی بن اسحاق لم أعرّفه، وقد

یکون مقلوبًا من اسحاق بن یحیی بن طلحة، وقد روی عن عمته عائشة بنت طلحة، وهو متکلم فیہ۔

وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 20095، وابن راهویه رقم الحدیث: 1017، وأحمد رقم الحدیث:

24178، ومسلم رقم الحدیث: 262، وأبو داؤد رقم الحدیث: 4713، وابن ماجه رقم الحدیث: 82،

والنسائی رقم الحدیث: 1946، والفریابی فی القدر رقم الحدیث: 47، ومن طریقہ الآجری فی الشریعة

رقم الحدیث: 406، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 4553، والعقیلی فی الضعفاء جلد 2 صفحہ 226، وابن

حبان رقم الحدیث: 6173، وأبو نعیم فی أخبار أصبهان جلد 2 صفحہ 53، والخطیب جلد 11 صفحہ 111

من طرق عن طلحة بن یحیی، عن عمته عائشة بنت طلحة، به۔ وأخرجه ابن راهویه رقم الحدیث:

1016، ومسلم رقم الحدیث: 2622، من طریق فضیل بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، به۔

کیا، تو اس میں رہنے والے بھی پیدا کیے، حالانکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔

لَهَا أَهْلًا، خَلَقَهَا لَهُمْ وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ

حضرت ام جعفر کی حضرت

294- ام جعفر

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

عَنْ عَائِشَةَ

حضرت ام جعفر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں

1680 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کی نماز کے متعلق سوال کیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: آپ ﷺ ظہر سے پہلے چار رکعت ادا کرتے اور ان میں لمبا قیام کرتے اور رکوع اور سجدہ بھی اچھی طرح کرتے اور فجر کی دو رکعتیں تندرستی اور بیماری، سفر و اقامت کی حالت میں نہیں چھوڑتے تھے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ وَيُحْسِنُ فِيهِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ يَدْعُ صَاحِبًا وَلَا سَقِيمًا شَاهِدًا وَلَا غَائِبًا فَالرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

حضرت بہیہ رضی اللہ عنہا کی حضرت

295- بہیہ عن

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

عَائِشَةَ

حضرت بہیہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی

1681 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ سے

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بُهَيْةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

1680 - اسنادہ ضعیف، لضعف قیس، ومخالفته، فقد خالفه جرير وهدبة بن المنهال، فروياه عن قابوس، عن

أبيه أنه أرسل الى عائشة..... الحديث. أخرجه ابن راهويه رقم الحديث: 1606، وأحمد رقم

الحديث: 24210، وابن ماجه رقم الحديث: 1156، والطبرانی في الأوسط رقم الحديث: 7457.

1681 - اسنادہ ضعیف، لحال بهیة وأبی عقیل، ونکارۃ أحادیثہ عنہا. وعزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل

المطالب رقم الحديث: 4399 الى المصنف. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25784، والحارث فی

مسنده (753-بغیة) والبغوی فی الجعدیات رقم الحديث: 2969، وابن عدی جلد 2 صفحہ 504.

مشرکین کے بچوں کے متعلق پوچھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ جہنم میں ہوں گے، اے عائشہ! میں نے عرض کی: مسلمانوں کے بچوں کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! وہ جنت میں ہوں گے، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کس طرح حالانکہ انہوں نے کوئی اعمال نہیں کیے اور ان کے متعلق قلم بھی جاری نہیں ہوا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے جو انہوں نے عمل کرنا تھا۔

حضرت ام سالم کی حضرت

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

حضرت ام سالم سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو فرمایا: تیرے گھر میں کتنی بکریاں ہیں؟ یعنی ایک یا دو۔

حضرت ساریہ، قریبہ اور ام عمارہ

بنت عمیر کی حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا سے روایات

حضرت ساریہ فرماتی ہیں کہ ہم سے حضرت عائشہ

قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: هُمْ فِي النَّارِ يَا عَائِشَةُ قُلْتُ: فَمَا تَقُولُ فِي أَطْفَالِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: هُمْ فِي الْجَنَّةِ يَا عَائِشَةُ قُلْتُ: وَكَيْفَ وَلَمْ يُدْرِكُوا الْأَعْمَالَ وَلَمْ تَجْرِعْ عَلَيْهِمُ الْأَقْلَامُ؟ قَالَ: رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ

296- ام سالم

عَنْ عَائِشَةَ

1682 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرَيْدٍ أَوْ ابْنُ بُرَيْدٍ عَنْ أُمِّ سَالِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ: كَمْ فِي بَيْتِكَ مِنْ بَرَكَةٍ؟ يَعْنِي شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ

297- ساریہ، وقریبہ،

وام عمارہ بنت

عمیر عن عائشہ

1683 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1682 - اسنادہ ضعیف، لجهالة أم سالم الراسبية - وعزاه حافظ في المطالب رقم الحديث: 2579، والبوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحديث: 3472، الی المصنف .

1683 - حدیث صحیح ذکرہ البخاری فی التاریخ جلد 4 صفحہ 180، والمزنی فی تهذیب الکمال

قَالَ: حَدَّثَنَا سَكْنُ بْنُ الْمُغِيرَةَ، قَالَ: أَخْبَرْتَنَا سَارِيَةَ، قَالَتْ: حَدَّثْتَنَا عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْبَلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ

رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ (میرا) بوسہ لیتے تھے روزہ کی حالت میں۔

1684 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ مَوْلَى قَرِيبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ قَرِيبَةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي

حضرت قریبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وصال کے (یعنی لگاتار) روزے رکھنے سے منع فرمایا، عرض کی گئی: یا رسول اللہ! آپ بھی تو لگاتار روزے رکھتے ہیں! آپ ﷺ نے فرمایا: میں (رب کے ہاں) رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

1685 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عمارہ بن عمیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا

جلد 11 صفحہ 209 فی ترجمہ سکن بن المغیرة .

1684 - حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لجهالة قریبة . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26097 من طریق المصنف . وأخرجه اسحاق بن راهویه رقم الحدیث: 1035-1406، وأحمد رقم الحدیث: 26254، وابن حبان فی الثقات جلد 5 صفحہ 329 من طریق وهب بن جریر وغندر وغيرهما، عن شعبة به . ووقع فی مسند أحمد رقم الحدیث: 26096: شعبة، عن أبي بكر، عن عاصم، وخطوا به: (أبي بكر عاصم)، وانظر تعجيل المنفعة جلد 1 صفحہ 700-701، وأطراف المسند رقم الحدیث: 12410 . وأخرجه ابن راهویه رقم الحدیث: 670، وأحمد رقم الحدیث: 24630-24668، والبخاری رقم الحدیث: 1964، ومسلم رقم الحدیث: 1105، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1280، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 3266، وأبو يعلى رقم الحدیث: 4513، والبيهقي جلد 2 صفحہ 458، وغيرهم من طرق عن عائشة .

1685 - حدیث صحیح، واسناد المصنف ضعیف، لجهالة أم عمارة . وأخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 480 من طریق المصنف . وأخرجه ابن راهویه رقم الحدیث: 1655-1656، وأحمد رقم الحدیث: 25709، وأبو داؤد رقم الحدیث: 3529، والعقيلي جلد 2 صفحہ 114، والحاكم جلد 2 صفحہ 46 من طرق عن شعبة به . وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي . ووقع عند الحاكم (عن أبيه) بدلاً من (عن أمه) . وكذا في

عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَدُ
الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ، فَكُلُوا مِنْ
مَالِهِمْ

سے روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آدمی
کا بیٹا اپنے والد کی کمائی سے کھا سکتا ہے سو تم ان کے
مالوں سے کھاؤ۔

المنتخب من العلل للخلال صفحہ 308 . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 25652، والدارمی رقم
الحديث: 2540، والبخاری فی التاريخ جلد 1 صفحہ 406-407، وأبو داؤد رقم الحديث: 3528
والنسائی رقم الحديث: 4461، وابن حبان رقم الحديث: 4259، والبيهقی جلد 7 صفحہ 479، وغيرهم
من طرق عن منصور، عن ابراهيم، عن عمارة، به، ولكنه قال: عن عمته . وقد تابع منصوراً على هذا
الوجه الأعمش، فأخرجه الحميدى رقم الحديث: 246، وابن راهويه رقم الحديث: 1508، وأحمد رقم
الحديث: 25695، والبخاری فی التاريخ جلد 1 صفحہ 407، والنسائی رقم الحديث: 4462، وفي
الكبرى رقم الحديث: 6044 من طرق عن سفيان، عن الأعمش، به . وقد رواه الأعمش، عن عمارة
كذلك . أخرجه أحمد رقم الحديث: 25439، والترمذى رقم الحديث: 1358، وابن ماجه رقم
الحديث: 2290، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 6047 من طريق يحيى بن زكريا وشعبة وعمرو
بن سعيد، عن الأعمش، به . وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا عن
عمارة بن عمر، عن أمه، عن عائشة . وأكثرهم قالوا: عن عمته، عن عائشة . وأخرجه أحمد رقم
الحديث: 25887، والنسائی رقم الحديث: 4464، وابن ماجه رقم الحديث: 2137، وابن حبان رقم
الحديث: 4260-4261، والبيهقی جلد 7 صفحہ 480، والبغوى فی شرح السنة رقم الحديث: 2398 من
طريق أبى معاوية ويعلى بن عبيد وشريك والفضل بن موسى وعمرو بن سعيد، عن الأعمش، عن ابراهيم،
عن الأسود، عن عائشة . ورجع أبو حاتم وأبو زرعة كما فى العلل لابن أبى حاتم رقم الحديث: 1396
طريق ابراهيم، عن عمارة، عن عمته . وقال أبو حاتم: وأرجو أن يكونا جميعاً صحيحين . وانظر
المنتخب من العلل للخلال صفحہ 309 . وأخرج ابن حبان رقم الحديث: 410-4262 من طريق عطاء
عن عائشة، مرفوعاً بلفظ: أنت ومالك لأبيك . ولا يصح . وله شاهد عن عبد الله بن عمرو عند أحمد
رقم الحديث: 7001، وأبى داؤد رقم الحديث: 3530، وعن جابر عند ابن ماجه رقم الحديث: 2291 .

298- عَمْرَةَ بِنْتُ عَبْدِ

حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کی حضرت

الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ

عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت

1686 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی عادت تھی کہ جب فجر طلوع ہو جاتی تو آپ دو رکعت ادا کرتے تھے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں: میری زیادہ معلومات کے مطابق فرمایا کہ آپ مختصر پڑھتے تھے۔ شعبہ کو ان کی تخفیف میں شک ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: سو میری رائے یہ ہے کہ آپ ان دونوں میں سورہ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعْتُ عَمْرَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ عَلَيَّ أَنَّهُ قَالَ: يُخَفِّفُهُمَا شَكَّ شُعْبَةَ فِي تَخْفِيفِهِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقُولُ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

1686- حدیث صحیح . أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 158 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم

الحدیث: 25435-24731 والبخاری رقم الحدیث: 1171، ومسلم رقم الحدیث: 724، والطحاوی

جلد 1 صفحہ 297، وغيرهم من طرق عن شعبة به . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 4774

والحمیدی رقم الحدیث: 181، وابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 44، وأحمد رقم الحدیث: 24171

والبخاری رقم الحدیث: 1171، ومسلم رقم الحدیث: 724، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1255، والنسائي

رقم الحدیث: 945، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1113، وابن حبان رقم الحدیث: 2466، والطحاوی

جلد 1 صفحہ 297، والبيهقي جلد 3 صفحہ 43-44، والبعثي في شرح السنة رقم الحدیث: 882 من طرق

عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن به . وأخرجه أبو يعلى رقم الحدیث: 4624 من طريق

يحيى بن سعيد، عن عمرة بلا واسطة . وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 4792 عن ابن عيينة، عن

يحيى بن سعيد، عن سمع عمرة تحدث عن عائشة . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 243، وأحمد

رقم الحدیث: 24094، والبخاری رقم الحدیث: 619-626، ومسلم رقم الحدیث: 624، وأبو داؤد رقم

الحدیث: 1339، والنسائي رقم الحدیث: 1761، وأبو يعلى رقم الحدیث: 4603، وأبو نعيم في الحلية

جلد 6 صفحہ 337، والبيهقي جلد 3 صفحہ 44 من طرق عن عائشة . وله شاهد عن حفصة أم المؤمنين

عند مسلم رقم الحدیث: 723، وغيره .

فاتحہ پڑھتے تھے۔

1687 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،
 عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ
 فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

حضرت عمرہ؛ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
 روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چور کا
 ہاتھ چار یا اس سے زیادہ درہم چوری کرنے پر کاٹا
 جائے۔

1688 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ
 حضرت عمرہ؛ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

1687- حدیث صحیح . واسناد المصنف ضعیف، لضعف زمعة . وأخرجه الشافعي جلد 2 صفحہ 164، وعبد
 الرزاق رقم الحديث: 18961، والحميدي رقم الحديث: 279، وابن أبي شيبة جلد 9 صفحہ 468-469،
 وأحمد رقم الحديث: 24124، والدارمي رقم الحديث: 2305، والبخاري رقم الحديث: 6789،
 ومسلم رقم الحديث: 1684، وأبو داؤد رقم الحديث: 4384، والترمذي رقم الحديث: 1445،
 والنسائي رقم الحديث: 4936-4931، وابن ماجه رقم الحديث: 2585، وأبو يعلى رقم الحديث:
 4411، وابن الجارود رقم الحديث: 824، والطحاوي جلد 3 صفحہ 167، وابن حبان رقم الحديث:
 4455، والدارقطني جلد 3 صفحہ 189، والبيهقي جلد 8 صفحہ 254، والبغوي في شرح السنة رقم
 الحديث: 2595 من طرق، عن الزهري، به من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وفعله . وفي بعض
 الروايات من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة مقرونين . وأخرجه النسائي رقم الحديث:
 4929 من طريق حفص بن حسان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة . وأخرجه مالك جلد 2
 صفحہ 832، والحميدي رقم الحديث: 280، والنسائي رقم الحديث: 4941، وابن حبان رقم الحديث:
 4465 من طريق يحيى بن سعيد وعبد الله بن أبي بكر بن محمد رزيق بن حكيم وعبد ربه بن سعيد
 والزهري، عن عمرة، عن عائشة، من فعله صلى الله عليه وآله وسلم . وأخرجه عبد الرزاق رقم
 الحديث: 18964، وابن أبي شيبة جلد 9 صفحہ 470، وأحمد رقم الحديث: 24559، والبخاري رقم
 الحديث: 6791، ومسلم رقم الحديث: 1684، والنسائي رقم الحديث: 4943، والطحاوي
 جلد 3 صفحہ 164-165، والدارقطني جلد 3 صفحہ 189، والبيهقي جلد 8 صفحہ 254-255 من طرق عن
 عمرة، به .

1688- حدیث صحیح . أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 1164، والحميدي رقم الحديث: 160، وأحمد

ابی ذئب، عن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
 أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، اسْتَحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ،
 فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ
 تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ

روایت کرتی ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا
 کو سات سال استحاضہ کی شکایت رہی انہوں نے نبی
 اکرم ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے انہیں
 حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے تو وہ ہر نماز کے
 لیے غسل کرتی تھیں۔

حضرت امیہ بنت

عبداللہ کی حدیث

299- اُمِّيَّةُ بِنْتُ

عَبْدِ اللَّهِ

حضرت امیہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں نے

1689- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

رقم الحدیث: 25585 والدارمی رقم الحدیث: 778، ومسلم رقم الحدیث: 334، وأبو داؤد رقم
 الحدیث: 289، وعقب حدیث: 290، والنسائی رقم الحدیث: 210-355، وفي الكبرى رقم
 الحدیث: 215، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 322، وابن حبان رقم الحدیث: 1351، والطحاوی
 جلد 1 صفحہ 99 من طریق الزہری، به۔ وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25016، والنسائی رقم
 الحدیث: 209-354، وفي الكبرى رقم الحدیث: 218، والطحاوی جلد 1 صفحہ 98، والبيهقي
 جلد 1 صفحہ 349 من طریق يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة به بلفظ: ثم
 تنتظر بعد ذلك فلتغتسل كل صلاة، وتصل.

1689- اسنادہ ضعیف، لضعف علی بن زید، وجهالة أمية. وأخرجه البيهقي في الشعب رقم الحدیث: 9809
 من طریق المصنف. وأخرجه اسحاق بن راهويه رقم الحدیث: 1413، وأحمد رقم الحدیث: 25877
 والترمذی رقم الحدیث: 2991، وابن أبي حاتم كما في التفسير لابن كثير جلد 1 صفحہ 505، والطبری
 في التفسير جلد 3 صفحہ 149، وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات رقم الحدیث: 101 من طرق عن
 حماد بن سلمة، به. وقال الترمذی: هذا حدیث حسن غریب من حدیث عائشة، ولا نعرفه الا من
 حدیث حماد بن سلمة. وقد روى في تفسير قوله تعالى (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِئْهُ) من حدیث عبید بن
 عمیر، وابن أبي مليكة مرفوعًا، ومن حدیث أبي المهلب موقوفًا، جميعًا عن عائشة، بمعناه. أخرجه
 اسحاق بن راهويه رقم الحدیث: 1249، وأحمد رقم الحدیث: 24413، وأبو داؤد رقم الحدیث: 3093

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ عزوجل کے اس ارشاد کے متعلق پوچھا: ”وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ“ (البقرہ: ۲۸۴) اور اللہ عزوجل کے اس ارشاد کے متعلق: ”مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِ بِهِ“ (النساء: ۱۲۳) تو آپ نے فرمایا: تو نے ایسی چیز کے متعلق پوچھا، جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، آپ ﷺ نے فرمایا: یہ اللہ عزوجل کا بندہ کے لیے عتاب ہے جو اس کو بخار، غم، پریشانی اس کو لائق ہو وہ نہ پائے جو پیسے اس نے اپنی جیب وہ پریشان ہو وہ اپنے دل میں بات پائے یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح لوہے سے سرخ زنگ، بھٹی میں دور ہو جاتا ہے۔

بُنْ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّئَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) (البقرة: 284)، وَسَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِ بِهِ) (النساء: 123)، فَقَالَتْ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذِهِ مُتَابَعَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ مِمَّا يُصِيبُهُ مِنَ الْحَمَى وَالْحَزَنِ وَالنَّكْبَةِ حَتَّى الْبِضَاعَةِ يَضَعُهَا فِي كُمِّهِ فَيَفْقِدُهَا، فَيَفْرَعُ لَهَا فَيَجِدُهَا فِي ضَيْبِهِ حَتَّى إِنْ الْعَبْدَ لِيَخْرُجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا يَخْرُجُ التِّبْرُ الْأَحْمَرُ مِنَ الْكَبِيرِ

و
300- ام

حضرت ام مغیرہ

رضی اللہ عنہا کی حدیث

الْمُغِيرَةَ

1690 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: أَخْبَرْتَنِي أُمُّ الْمُغِيرَةَ مَوْلَاةٌ لِلْأَنْصَارِ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْحَرِيرِ تَلْبَسُهُ

انصار کرام کی لونڈی حضرت ام مغیرہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس ریشم کے متعلق پوچھا جو عورتیں پہنتی ہیں، تو آپ رضی اللہ عنہا

وَابُو يَعْلَى رَقْمَ الْحَدِيثِ: 4839، وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي الْمَرَضِ وَالْكَفَارَاتِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 125-230 وَالْحَاكِمُ جُلْدَ 2 صَفْحَةَ 308، وَغَيْرُهُمْ .

1690 - اسنادہ ضعیف، لحال ام المغیرة، فلم أقف لها على ترجمة . وعزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 2449 الى المصنف . وأخرجه ابن سعد جلد 8 صفحہ 71 عن سليمان بن حرب، ومسلم بن ابراهيم كلاهما عن الأسود بن شيبان، به . وله شاهد، وعن أنس عند البخاري رقم الحديث: 5842 .

النِّسَاءُ، فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُكْسَى ثِيَابًا يُقَالُ لَهَا: السِّيرَاءُ، فِيهَا حَرِيرٌ

نے فرمایا: ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں جو کپڑے پہنتی تھیں، اس کو سیراء کہا جاتا ہے، اس میں ریشم ہوتا تھا۔

وہ روایات جو حضرت حفصہ

بنت عمر، نبی کریم ﷺ سے

روایت کرتی ہیں

301- وَمَا رَوَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ

عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ

حضرت حفصہ زوجہ نبی اکرم ﷺ سے روایت ہے کہ

نبی اکرم ﷺ روزہ کی حالت میں بھی بوسہ لیتے تھے۔

1691- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

الضُّحَى، يُحَدِّثُ عَنْ شَتِيرِ بْنِ شَكْلٍ، عَنْ

1691- حدیث صحیح . أخرجه الطبرانی جلد 32 صفحہ 203 من طریق عمرو بن مرزوق عن شعبة به .
 وخالفهما غندر عن أحمد رقم الحديث: 26805، وخالد بن الحارث عند النسائي في الكبرى رقم
 الحديث: 3084 فروياه عن شعبة من حديث أم حبيبة، وقال النسائي: لا نعلم أحدا تابع شعبة على قوله:
 عن أم حبيبة . والصواب: شتير عن حفصة . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 287، وابن أبي شيبة
 جلد 3 صفحہ 60، وأحمد رقم الحديث: 26491، ومسلم رقم الحديث: 1107، والنسائي في الكبرى
 رقم الحديث: 3082-3083، وأبو يعلى رقم الحديث: 7051، وابن حبان رقم الحديث: 3542،
 والطحاوي جلد 2 صفحہ 90، والطبرانی جلد 23 صفحہ 204-215-315 من طريق السفينيين وأبي عروانة
 وغيرهم عن منصور به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26491، ومسلم رقم الحديث: 1107،
 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 3082، وابن ماجه رقم الحديث: 1685، والطحاوي
 جلد 2 صفحہ 90، والطبرانی جلد 23 صفحہ 215، والبيهقي جلد 4 صفحہ 234 من طريق الأعمش عن
 أبي الضحى به . وروى هذا الحديث عن منصور، عن أبي الضحى عن مسروق عن شتير به . أخرجه
 النسائي في الكبرى رقم الحديث: 3080، والطبرانی جلد 23 صفحہ 203، وقال النسائي: هذا خطأ
 ليس فيه مسروق .

حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْبَلُ وَهُوَ
صَائِمٌ

1692 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ،
عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ كِلْتَاهُمَا، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ
لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَيَّ
مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

حضرت حفصہ یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما یا
دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور آخرت پر
ایمان رکھتی ہو وہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے
سوائے اپنے شوہر کے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

1693 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ

1692- حدیث صحیح . أخرجه مالك جلد 2 صفحہ 598، والشافعی جلد 2 صفحہ 113، وأحمد رقم

الحدیث: 26479، ومسلم رقم الحدیث: 1490، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 7035، وابن حبان رقم

الحدیث: 4302، والطحاوی جلد 3 صفحہ 76، والطبرانی جلد 23 صفحہ 207، والبیہقی جلد 7

صفحہ 438 من طرق عن نافع، به . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 5 صفحہ 280، وأحمد رقم الحدیث:

26495، ومسلم رقم الحدیث: 1490، والنسائی رقم الحدیث: 3503، وابن ماجه رقم الحدیث: 2086،

والطبرانی جلد 23 صفحہ 207، والبیہقی جلد 7 صفحہ 438، من طریق نافع، به، ولم يذكر عائشة .

وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 1490، والطحاوی جلد 3 صفحہ 76، والطبرانی جلد 23 صفحہ 208،

والبیہقی جلد 7 صفحہ 438، من طریق نافع، عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله

وسلم . وأخرجه النسائی رقم الحدیث: 3504، والطحاوی جلد 3 صفحہ 76، من طریق نافع، عن صفية

عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أم سلمة . وأخرجه النسائی رقم الحدیث:

3505، والطحاوی جلد 3 صفحہ 76، من طریق نافع، عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه

وآله وسلم وهي أم سلمة . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 25553، من طریق عبد الله بن دينار، عن

صفية، ولم يذكر نافعاً .

1693- حدیث صحیح . أخرجه البخاری رقم الحدیث: 7028-7029، من طریق صخر، به . وأخرجه أحمد

لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ پاک میں خواب دیکھتے تو اس کو حضور کی بارگاہ میں بیان کرتے رسول اللہ ﷺ اس کی تعبیر فرماتے جو اللہ چاہتا میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر تجھ میں بھلائی ہے تو میں ضرور خواب دیکھوں گا جس طرح لوگ دیکھتے ہیں پھر میں نے دعا کی: اے اللہ! اگر تو مجھ میں بہتری دیکھتا ہے تو مجھے خواب دکھا۔ پس جب میں سویا تو میں نے خواب دیکھا اپنی نیند میں کہ دو فرشتے ہیں ان کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہیں وہ دونوں مجھے لے کر چلے یہاں تک کہ مجھے جہنم کے پاس لے آئے اور وہ دونوں مجھے قتل کرتے ہیں تو دیکھا کہ جہنم بھری ہوئی ہے میں نے کہا: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی جہنم سے یہاں تک کہ ایک فرشتہ آیا اس نے کہا: تم نہیں دیکھتے! تو اچھا آدمی ہے اگر تو کثرت سے نماز پڑھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں حضرت حفصہ کے پاس آیا میں نے سارا خواب ان کے سامنے بیان کیا تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ

بُنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ الرُّؤْيَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقْضُونَهَا عَلَيْهِ، فَيَقُولُ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، فَقُلْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ لِنَفْسِي: لَوْ كَانَ فِيكَ خَيْرٌ لَرَأَيْتَ رُؤْيَا كَمَا يَرَى النَّاسُ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ فِيَّ خَيْرًا فَارِنِي، فَلَمَّا نِمْتُ رَأَيْتُ فِي مَنَامِي كَأَنَّ مَلَكَيْنِ اتَّيَانِي فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِقْمَعَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَنْطَلَقَا بِي حَتَّى وَقَفَا بِي عَلَى جَهَنَّمَ وَشَمَا يَعْتَلَانِي، فَإِذَا جَهَنَّمُ مَطْوِيَّةٌ، فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ جَهَنَّمَ حَتَّى جَاءَ مَلَكٌ، فَقَالَ: لَمْ تُرْعَ، نِعَمَ الْمَرْءُ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ تُكْثِرُ الصَّلَاةَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَصَصْتُهَا عَلَيْهَا فَقَصَصْتُهَا حَفْصَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ يُكْثِرُ الصَّلَاةَ

- رقم الحدیث: 4494 والدارمی رقم الحدیث: 2158-2159 والبخاری رقم الحدیث: 7015-1156
ومسلم رقم الحدیث: 2479 والترمذی رقم الحدیث: 3825 والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث:
8289 وابن ماجہ رقم الحدیث: 751 وابن خزیمہ رقم الحدیث: 1330 من طرق عن نافع، به .
وأخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 1645 وأحمد رقم الحدیث: 6330 والبخاری رقم الحدیث:
1121-1122-3738-3739 ومسلم رقم الحدیث: 2479 والترمذی رقم الحدیث: 321 وابن ماجہ
رقم الحدیث: 3919 وابن حبان رقم الحدیث: 7070 وأبو نعیم فی الحلیة جلد 1 صفحہ 303 والبیہقی
جلد 2 صفحہ 501 من طریق سالم عن أبيه .

سے بیان کیا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عبد اللہ نیک آدمی ہے۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبد اللہ کثرت سے نماز پڑھتے تھے۔

302- مَا رَوَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ

حضرت زینب بنت جحش رضی

اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ

جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

سے بیان کردہ حدیث

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1694 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم ﷺ کی

ازواج میں سے کسی سے روایت کرتی ہیں کہ ان میں کسی

کا دیور فوت ہو گیا تو انہوں نے زرد رنگ منگوا کر اسے

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ،

قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ

1694 - حدیث صحیح . وهذا الحديث ترويه زينب بنت ابي سلمة عن ثلاث من الصحابييات: الاولى: أمها أم

سلمة، وسيأتي بنحوه برقم: 1701 الثانية: أم حبيبة، وهو الحديث الآتي الثالثة: زينب بنت جحش،

صاحبة هذا الحديث . وقد أبهم اسمها في اسناد المصنف . وصرح به في رواية مالك كما جاء عقب

الحديث . وقد رواه محمد بن جعفر وحجاج، فقالا فيه: عن شعبة، عن حميد، عن زينب بنت أم سلمة

عن أمها، وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم . أخرجه أحمد رقم الحديث: 26809،

ومسلم رقم الحديث: 1486 . ورواه هاشم ومعاذ وشبابة، عن شعبة، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت

أم سلمة، عن أمها أو امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه الدارمي رقم

الحديث: 2290، ومسلم رقم الحديث: 1488، والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 1577، والبيهقي

جلد 8 صفحہ 437-438، وأما حديث مالك، فأخرجه في الموطأ جلد 2 صفحہ 596-597، ومن طريقه

الشافعي جلد 2 صفحہ 114، وعبد الرزاق رقم الحديث: 12130، وأحمد رقم الحديث: 26797،

والبخاری رقم الحديث: 1282-5335، ومسلم رقم الحديث: 1487، وأبو داؤد رقم الحديث: 2299،

والترمذی رقم الحديث: 1196، والنسائی رقم الحديث: 3534، والطحاوی جلد 3 صفحہ 75-76، وابن

حبان رقم الحديث: 4304، والبيهقي جلد 7 صفحہ 437، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 2389 .

لگانا شروع کر دیا اور فرمانے لگیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا: کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے شوہر کے کہ اس پر چار ماہ دس دن تک سوگ منا سکتی ہے۔ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس آئی۔

سَلَمَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ مَاتَ حَمِيمٌ لَهَا تُوفِّيَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسَحُ بِهَا وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ امِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ

حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان

303- مَا رَوَتْ امُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ

کی نبی کریم ﷺ سے

أَبِي سُفْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

بیان کردہ احادیث

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم ﷺ کی

1695 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1695- حدیث صحیح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 27438، والدارمی رقم الحديث: 2284، والبخاری رقم الحديث: 5339، ومسلم رقم الحديث: 1486، والنسائی رقم الحديث: 3500، وفي الكبرى رقم الحديث: 5683، وابن الجارود رقم الحديث: 765، والبغوی فی الجعدیات رقم الحديث: 1576، والطبرانی جلد 23 صفحہ 227، والبيهقی جلد 7 صفحہ 437 من طرق عن شعبة، به . وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 596-597، والشافعی فی مسنده جلد 2 صفحہ 113، وعبد الرزاق رقم الحديث: 12130، والحمیدی رقم الحديث: 306، وأحمد رقم الحديث: 26808، والبخاری رقم الحديث: 1280، ومسلم رقم الحديث: 1486، والنسائی رقم الحديث: 3533، وفي الكبرى رقم الحديث: 5721، والطحاوی جلد 3 صفحہ 75، وابن حبان رقم الحديث: 4304، والطبرانی جلد 23 صفحہ 226-227، والبيهقی جلد 7 صفحہ 437، والبغوی فی شرح السنة رقم الحديث: 2389 من طريق حميد بن نافع، به .

ازواج میں سے کسی سے روایت کرتی ہیں کہ ان میں کسی کا دیور فوت ہو گیا تو انہوں نے زرد رنگ منگوا کر اسے لگانا شروع کر دیا اور فرمانے لگیں: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ نے فرمایا: کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے شوہر کے کہ اس پر چار ماہ دس دن تک سوگ منا سکتی ہے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ حَمِيمًا لَهَا تُوْفِي، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَجَعَلَتْ تَمْسُحُ بِهَا وَتَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدِّثَ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

1696 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1696- حدیث صحیح . أخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 472 من طريق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26824 والدارمي رقم الحديث: 1445، ومسلم رقم الحديث: 728، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 408، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 261، وابن حبان رقم الحديث: 2451، والطبراني جلد 23 صفحہ 229، والبيهقي جلد 2 صفحہ 472 من طرق عن شعبة، به . وسقط عند الطبراني ذكر عمرو بن أوس . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 204، والبخاري في تاريخه جلد 7 صفحہ 37، ومسلم رقم الحديث: 728، وأبو داؤد رقم الحديث: 1250، وابن خزيمة رقم الحديث: 1187، وأبو يعلى رقم الحديث: 7124، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 261، والطبراني جلد 23 صفحہ 229 من طريق داود بن أبي هند، عن النعمان، به . وأخرجه النسائي رقم الحديث: 1800، وأبو يعلى رقم الحديث: 7135، وابن خزيمة رقم الحديث: 1188، وابن حبان رقم الحديث: 2852، والطبراني جلد 23 صفحہ 230، والحاكم جلد 1 صفحہ 311 من طريق عمرو بن أوس، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 27435، وابن خزيمة رقم الحديث: 1185 من طريق هشيم، عن داؤد، عن النعمان بن عبيسة، به، باسقاط عمرو بن أوس . وأخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 203-204، وأحمد رقم الحديث: 26817، وعبد ابن حميد رقم الحديث: 1551-1550، والترمذي رقم الحديث: 415، والنسائي رقم الحديث: 1797-1798، وابن ماجه رقم الحديث: 141، وابن خزيمة رقم الحديث: 189، والطبراني جلد 23 صفحہ 435، وتام في الفوائد (379-الروض البسام)، والحاكم جلد 1 صفحہ 312، والبيهقي جلد 2 صفحہ 472، من طرق

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، سَمِعَ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ، سَمِعَ عَنبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى ثِنْتِي عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ يُبَيِّتُ لَهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا تَرَكَتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ عَنبَسَةُ: مَا تَرَكَتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ عَمْرُو: مَا تَرَكَتُهُنَّ بَعْدُ، قَالَ النَّعْمَانُ: وَأَنَا مَا أَكَادُ أَدْعُهُنَّ بَعْدُ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے دن رات میں بارہ رکعت نفل ادا کیے فرضوں کے علاوہ اس کے لیے اللہ عزوجل جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت أم حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے بارہ رکعت نفل میں نہیں چھوڑے۔ حضرت عنبہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے بھی کبھی نہیں چھوڑے۔ حضرت عمرو نے فرمایا کہ میں نے بھی اس کے بعد نہیں چھوڑا اور حضرت نعمان نے کہا: اور میں اس کے بعد بھی نہیں چھوڑنے والا نہیں۔

1697 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی

عن عنبسة' به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 27451' والنسائي رقم الحديث: 1807-1809، وأبو يعلى رقم الحديث: 7138' والطبراني جلد 23 صفحہ 244' وتمام في الفوائد (375-الروض البسام) من طرق عن أم حبيبة . وروى موقوفاً على أم حبيبة عند النسائي رقم الحديث: 1806-1809 .

1697 - اسنادہ ضعیف، لضعف زمعة' وقد خولف فيه . وأخرجه الخطيب في المبهمات صفحہ 123 من طريق المصنف . وخالف زمعة أصحاب الزهري' فرووه عنه' عن أبي سلمة' عن أبي سفیان بن سعید بن المغيرة وقيل: ابن الأخنس عن أم حبيبة' به . أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 665-666' وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 51' وأحمد رقم الحديث: 26822' والنسائي رقم الحديث: 181' وفي الكبرى رقم الحديث: 186' وأبو يعلى رقم الحديث: 7145' والطبراني جلد 23 صفحہ 239-244 من طرق عن الزهري' به . وقد صحح هذا الوجه من الخلاف الدارقطني كما في العلل (5ب/ق: 78-ا) . وأبو سفیان ذكره ابن حبان في الثقات . وقال الحافظ: مقبول . ولم يتابع عليه . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26816-26825' وأبو داؤد رقم الحديث: 195' والطبراني جلد 23 صفحہ 239 من طريق يحيى بن أبي كثير' عن أبي سلمة' به' كرواية الجماعة عن الزهري' وأخرجه الطحاوي جلد 1 صفحہ 62 عن أبي بكره الثقفي' عن الطيالسي' عن حرب بن شداد' عن يحيى' به' كرواية السابقين . وأخرجه أحمد كذلك رقم الحديث: 27446 عن عبد الصمد' عن حرب بن شداد' به . وروى وكيع'

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى
 أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَتْ
 لَهُ بِسَوِيقٍ أَوْ بِطَعَامٍ، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَخٍ تَوْضَأُ
 فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ: الْوُضُوءُ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ أَوْ قَالَ مِمَّا مَسَّتِ
 النَّارُ

حضرت أم حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی اکرم ﷺ کے
 پاس آیا آپ نے اس کو سٹو یا کھانا دیا پھر آپ رضی اللہ
 عنہا نے اس کو فرمایا: اے میرے بھتیجے! وضو کر، کیونکہ
 میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے آپ نے فرمایا:
 جس کو آگ پر پکایا جائے اس کو کھانے کے بعد وضو کرنا
 ہوتا ہے (یہاں وضو معنوی مراد ہے یعنی ہاتھ دھولے
 جائیں، کھلی کی جائے)۔

304- مَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ

حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا کی

نبی کریم ﷺ سے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روایت کردہ احادیث

1698 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے

عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي سفيان بن
 الأحنس، عن أم حبيبة، به. أخرجه أحمد رقم الحديث: 26821. وهذا اسناد غريب عن الزهري.
 وقال الدارقطني: وهم فيه.

1698- حديث صحيح. أخرجه النسائي رقم الحديث: 3509 من طريق المصنف. وأخرجه أحمد رقم
 الحديث: 26700، والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 1592، والطبراني جلد 23 صفحہ 261
 مختصراً من طريق غندر وغيره، عن شعبة، به. وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 589، ومن طريقه عبد
 الرزاق رقم الحديث: 11726، والشافعي جلد 2 صفحہ 98، وأحمد رقم الحديث: 26758، والنسائي
 رقم الحديث: 3510، وابن حبان رقم الحديث: 4297، والطبراني جلد 23 صفحہ 261 عن عبد ربه بن
 سعيد، به. وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 590، وأحمد رقم الحديث: 26514، والدارمي رقم
 الحديث: 2284، والبخاري رقم الحديث: 4909-5318، ومسلم رقم الحديث: 1485، والترمذي رقم
 الحديث: 194، والنسائي رقم الحديث: 3511-3516، وابن الجارود رقم الحديث: 762، وابن حبان

ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اس عورت کے متعلق اختلاف کرتے سنا جس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ حاملہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس کی عدت دونوں میں سے آخری ہے (یعنی وضع حمل آخری ہو یا عدت وفات جو آخری ہوگی وہ ہوگی) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب حمل جن دے تو وہ عورت دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے (یعنی اس کی عدت وضع حمل ہے)۔ سو مجھے ان دونوں نے حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا کہ میں ان سے پوچھوں سو میں ان کے پاس آیا تو میں نے ان سے پوچھا آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: حضرت سبیعہ بنت حارث اپنے شوہر کی وفات کے بعد نفاس والی ہو گئیں پندرہ دن تک تو ان کو دو مردوں نے نکاح کا پیغام بھیجا لوگوں نے کہا: ابھی تیرے لیے شادی جائز نہیں تو وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آئی اور اس بات کا آپ سے تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: تیرے لیے شادی جائز ہے تو جس کے ساتھ چاہے نکاح کر لے۔

حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم ﷺ سے

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ اخْتَلَفَا فِي الْمَرَاةِ إِذَا تُوْفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَبَعَثَانِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَاتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: نَفَسْتُ سَبْعَةَ بَنَاتِ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسِ عَشْرَةَ، فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ فَهَوِيَتْ أَحَدَهُمَا، فَخَشُوا أَنْ تَفْتَاتَ بِنَفْسِهَا، فَقَالُوا: لَمْ يَحِلَّ لَكَ الْأَزْوَاجُ، فَاتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: بَلَى، قَدْ حَلَّتْ لَكَ الْأَزْوَاجُ فَأَنْكِحِي مَنْ شِئْتِ

1699 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

رقم الحديث: 4295-4296 والطبرانی جلد 23 صفحہ 269 من طرق عن أبي سلمة، به، وفي بعض

الطرق أنهم أرسلوا كريياً مولى ابن عباس، وفي بعضها بدون ذكر القصة .

1699- اسنادہ ضعیف، لضعف محمد بن ثابت، لکنہ متابع، وشہر حسن الحدیث، الا أن هذا الحدیث مما

وہموہ فیہ . وعزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 5345 الی المصنف .

واخرجه أبو نعیم فی الحلیة جلد 8 صفحہ 301 من طریق بشر بن السری، عن محمد بن ثابت . وأخرجه

مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَرَأَ: عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ

روایت کرتی ہیں کہ آپ نے پڑھا: ”عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ“۔

1700 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَامٌ،

عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ وَتُنَكِّرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرَّءٌ، وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَقْتُلُ فَجَرَتَهُمْ؟ فَقَالَ لَا، مَا صَلَّوْا

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عنقریب ایسے حکمران آئیں گے جن کو تم پہچانتے ہو گے اور ناپسند کرتے ہو گے، سو جس نے انکار کیا وہ بری الذمہ ہو گیا، اور جس نے ناپسند کیا وہ سلامتی والا ہوا، لیکن جو راضی ہوا اور تابع ہوا، صحابہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہم ان کی تابع داری کرنے والوں کو قتل نہ کر دیں، آپ نے فرمایا: نہیں! جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں۔

1701 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

أحمد رقم الحديث: 26775، وأبو داؤد رقم الحديث: 3983، والترمذی رقم الحديث: 2931-2932، وأبو يعلى رقم الحديث: 7020، والطبرانی جلد 23 صفحہ 335 من طريق هارون النحوى وعبد الله بن حفص وموسى بن خلف وغيرهم، عن ثابت، به .

1700 - حديث صحيح . أخرجه أحمد رقم الحديث: 26771، ومسلم رقم الحديث: 1854، والطبرانی جلد 23 صفحہ 330 من طرق عن همام، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26619، ومسلم رقم الحديث: 1854، وأبو داؤد رقم الحديث: 4761، والبيهقى جلد 8 صفحہ 158 من طريق قتادة، به . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 26648، ومسلم رقم الحديث: 1854، وأبو داؤد رقم الحديث: 4760، والترمذی رقم الحديث: 2265، وأبو يعلى رقم الحديث: 6980، والطبرانی جلد 23 صفحہ 331، والبلغوی رقم الحديث: 2459، والبيهقى جلد 3 صفحہ 367 من طريق الحسن، به .

1701 - حديث صحيح . أخرجه البيهقى جلد 7 صفحہ 439 منه طريق المصنف . وأخرجه البخارى رقم الحديث: 5338، والبلغوی فى الجعديات رقم الحديث: 1554، والبيهقى جلد 7 صفحہ 439 من طرق عن شعبة، به . والحديث يرويه كذلك عبد الله بن أبى بكر بن حزم ويحيى بن سعيد، عن حميد بن

قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعِ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً تَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَّتْ عَيْنَاهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّكَحِلُ؟ فَقَالَ: لَا، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمُكُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَوْلًا - أَوْ قَالَ: فِي إِحْلَاسِ بَيْتِهَا حَوْلًا - فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لَا، حَتَّى تَمُضِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا، تو اس کی آنکھیں خراب ہو گئیں، نبی اکرم ﷺ سے اس کے متعلق سوال کیا گیا: کیا وہ سرمہ لگا سکتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں! تم میں سے ہر ایک عورت اپنے شوہر کے گھر میں رکی رہے ایک سال یا اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے ایک سال جب کتا گزرے، وہ مینگی مارے، پھر وہ عورت نکلے، نہیں! یہاں تک کہ چار ماہ اور دس دن گزر جائیں۔

حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

1702 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبٌ

نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها أم سلمة، فرواه عبد الله بن أبي بكر في سياق الأحاديث الثلاثة التي ترويه زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة وسبق برقم 1695 وعن زينب بنت جحش وسبق برقم 1694 وعن أمها أم سلمة وهو حديثنا هذا - وروى يحيى بن سعيد حديث أم سلمة مقرونة بأم حبيبة، كلاهما تحكى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاشتكت عينيها الحديث - أخرجه مالك جلد 2 صفحہ 597، والحميدي رقم الحديث: 304، وأحمد رقم الحديث: 26797، والبخاري رقم الحديث: 5336، ومسلم رقم الحديث: 1486-1488، وأبو داؤد رقم الحديث: 2299، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5685-5727، وابن ماجه رقم الحديث: 2084، وأبو يعلى رقم الحديث: 7123، والطحاوى جلد 3 صفحہ 75، وابن حبان رقم الحديث: 4304، والطبراني جلد 23 صفحہ 349، والبيهقي جلد 7 صفحہ 437 من طرق عن عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد به .

1702- حديث صحيح . أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 3970، وأحمد رقم الحديث: 26687، والنسائي

رقم الحديث: 578، وفي الكبرى رقم الحديث: 1557، والطبراني جلد 23 صفحہ 257، والبيهقي

جلد 2 صفحہ 457 من طريق يحيى بن أبي كثير، به . وأخرجه الشافعي في مسنده جلد 1 صفحہ 159،

وعبد الرزاق رقم الحديث: 3971، والحميدي رقم الحديث: 295، وأحمد رقم الحديث: 26558،

وعبد بن حميد رقم الحديث: 1529، وابن خزيمة رقم الحديث: 1277، والطحاوى جلد 1 صفحہ 302،

بُنْ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ، فَجَاءَ وَقَدْ فَشَغَلُونِي

رسول اللہ ﷺ نے اپنے گھر میں عصر کے بعد دو رکعتیں ادا کیں، میں نے آپ سے اس کے متعلق پوچھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں ظہر کی دو رکعت ادا کرتا تھا، پس کچھ لوگ آئے تو انہوں نے مجھے ان سے مشغول رکھا۔

1703 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی اکرم ﷺ

والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 781 من طرق عن ابی سلمة، به . وأخرجه ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ 353، وأحمد رقم الحدیث: 26602، والدارمی رقم الحدیث: 1443، والبخاری رقم الحدیث: 4370، ومسلم رقم الحدیث: 834، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1273، والنسائی رقم الحدیث: 579، وفي الكبرى رقم الحدیث: 350، وابن ماجه رقم الحدیث: 1159، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 6946، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1276، والطحاوی جلد 1 صفحہ 301، وابن حبان رقم الحدیث: 1576، والطبرانی جلد 23 صفحہ 407، والبیہقی جلد 2 صفحہ 457 من طرق عن أم سلمة، نحوه .

1703- حدیث صحیح . أخرجه ابن سعد جلد 3 صفحہ 252، وأحمد رقم الحدیث: 26605، والنسائی فی

الكبرى رقم الحدیث: 8544، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 1179 من طریق المصنف . وفي المطبوع من مسند أحمد: (خالد الحذاء أو أيوب) وفي أطراف المسند جلد 9 صفحہ 433 علی الصواب . وأخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 189، وفي الدلائل جلد 2 صفحہ 549 من طریق المصنف، عن خالد وحده . وأخرجه الطبرانی جلد 23 صفحہ 363 من طریق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن أيوب، عن الحسن، به . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26525، ومسلم رقم الحدیث: 2916، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 8275، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 1645، وابن حبان رقم الحدیث: 7077، والطبرانی جلد 23 صفحہ 363، والبیہقی جلد 8 صفحہ 189 من طرق عن الحسن، به . وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 2916 من طریق عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة، عن خالد، عن سعید بن ابی الحسن والحسن، عن أمهما، عن أم سلمة . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26692، ومسلم رقم الحدیث: 2916، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 8543، والطبرانی جلد 23 صفحہ 369، والبیہقی جلد 8 صفحہ 189 من طریق غندر، عن شعبة، عن خالد الحذاء وحده عن سعید بن ابی الحسن، عن أمه

قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَرٍّ، وَخَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنِ الْحَسَنِ،
قَالَ: أَخْبَرْتَنَا أُمَّنَا، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ فِي عَمَّارٍ: تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر کمزور آدمی کا حج جہاد ہے۔

1704 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الْحَجُّ جِهَادٌ كُلِّ ضَعِيفٍ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت

1705 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،

عن أم سلمة ' به . وأخرجه الطبراني جلد 23 صفحہ 369 من طريق عمرو بن مرزوق ' والبيهقي في
الدلائل جلد 2 صفحہ 549 من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث كلاهما عن شعبة ' عن خالد ' عن
سعيد ' عن أمه ' به .

1704 - اسنادہ منقطع ' أبو جعفر محمد بن علی لم یسمع من أم سلمة . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26563
وابن ماجه رقم الحدیث: 2902 ' وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 6916 ' والبغوی فی الجعدیات رقم
الحدیث: 3415 ' والطبرانی جلد 23 صفحہ 292 ' وغيرهم من طرق عن القاسم بن الفضل الحدانی ' به .
وفی الباب عن أبی هریرة وابن عباس ومعاوية وعائشة وأسانیدها لا تخلو من مقال ' وانظر علل
الدارقطنی جلد 7 صفحہ 71 ' ونصب الراية جلد 3 صفحہ 149 ' والتلخیص الحبیر جلد 2 صفحہ 226
والضعیفه رقم الحدیث: 200 .

1705 - اسنادہ ضعیف ' لحال زمعة بن صالح . وأخرجه ابن الأثیر فی أسد الغابة جلد 5 صفحہ 351 ' وابن
عساکر فی تاریخہ (5/30) من طریق المصنف . وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 26729 ' وابن ماجه رقم
الحدیث: 3719 ' والطبرانی جلد 23 صفحہ 309 ' وابن عساکر جلد 17 صفحہ 600-601 مخطوط
والمزی فی تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 276 من طریق وکیع وروح ' عن زمعة ' به ' مطولاً فی قصة
سویط بن حرملة مع النعمان . وأخرجه ابن ماجه رقم الحدیث: 3719 من طریق وکیع أيضاً ' عن
زمعة ' عن الزہری ' عن وهب بن عبد بن زمعة ' عن أم سلمة .

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ تَاجِرًا إِلَى بَصْرَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بصری کی طرف نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں تجارت کے لیے گئے۔

1706 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ

بُنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ خَالَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجْرَجُ نَارَ جَهَنَّمَ أَوْ قَالَ: كَأَنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہا کہ حضرت ام سلمہ، حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: وہ لوگ جو چاندی کے برتن میں پیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ یا فرمایا: گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔

1707 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

حضرت سفینہ مولیٰ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

1706 - حدیث صحیح . أخرجه البغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 3053، من طریق صخر بن جویریة، به وأخرجه مالك جلد 2 صفحہ 924، وابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 21، وأحمد رقم الحدیث: 26610 والدارمی رقم الحدیث: 2135، والبخاری رقم الحدیث: 5634، ومسلم رقم الحدیث: 2065، وابن ماجه رقم الحدیث: 3414، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 6872، والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث: 3054-3062، وابن حبان رقم الحدیث: 5342، والطبرانی جلد 23 صفحہ 387-389، وتمام (1007-الروض البسام)، والبيهقي جلد 1 صفحہ 27، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 3030 وغيرهم من طرق عن نافع، به . وأخرجه مسلم رقم الحدیث: 2065، والبيهقي جلد 4 صفحہ 146 من طریق عثمان بن مرة، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وأخرجه معمر فی جامعہ رقم الحدیث: 19926 عن نافع عن الجراح مولی ام حبیبة عن ام سلمة، به .

1707 - أخرجه أبو عوانة جلد 1 صفحہ 197 . من طریق شعبه به أخرجه البخاری رقم الحدیث: 226-2471

والنسائی رقم الحدیث: 27 . ثم طریق جریر عن منصور به أخرجه البخاری رقم الحدیث: 225، وابن حبان رقم الحدیث: 1429 . من طریق جریر به ، بلفظ: ان موسى كان يبول في قارورة..... كما ذكره

فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا نے آزاد کیا اور یہ شرط لگائی کہ جب تک زندہ رہوں رسول اللہ ﷺ کی خدمت کروں گا۔

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَهَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَفِينَةُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: أَعْتَقْتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ

حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے لگاتار دو ماہ کے روزے کسی ماہ کے نہیں رکھے تھے سوائے شعبان اور رمضان کے (یعنی ان دو ماہ کے لگاتار روزے رکھتے ہیں)۔

1708 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ

حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

1709 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

المصنف أخرجه مسلم رقم الحديث: 273. رواه شعبة عن الأعمش عن أبي وائل. من طريق بهذا عن شعبة عن الأعمش ومنصور جميعاً عن أبي وائل به بلفظ حديث الأعمش أخرجه النسائي رقم الحديث: 28. انظر العليل لابی حاتم رقم الحديث: 2، وللدارقطني جلد 7 صفحہ 95، والجامع رقم الحديث: 13، والمسند للبخاري رقم الحديث: 2890-2892، والسنن للبيهقي جلد 1 صفحہ 101.

1708 - أخرجه الترمذی رقم الحديث: 2258. من طريق عمار بن رجاء عن الطيالسی عن شعبة عن عاصم والأعمش عن أبي وائل به أخرجه الطبرانی فی الأوسط رقم الحديث: 4835. من طريق ابن أبي عدی وغندر عن شعبة عن الأعمش عن أبي وائل به أخرجه البخاری رقم الحديث: 3586. من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن ابی وائل به أخرجه البزار رقم الحديث: 2893. من طرق عن الأعمش به أخرجه ابن أبي شيبة جلد 15 صفحہ 15-16، وأحمد رقم الحديث: 23460، والبخاری رقم الحديث: 1435-525، ومسلم رقم الحديث: 144، والنسائي فی الكبرى رقم الحديث: 327، وابن ماجة رقم الحديث: 3955، والبزار رقم الحديث: 2874، وابن حبان رقم الحديث: 5966. انظر العليل لابن أبي حاتم رقم الحديث: 2728، وروى من وجه آخر عن ابی وائل بنحوه. أخرجه البخاری رقم الحديث: 1897، ومسلم رقم الحديث: 144.

1709 - أخرجه الدارمی رقم الحديث: 691، وأحمد رقم الحديث: 23505، والنسائي رقم الحديث: 1621.

اللہ ﷺ جب نماز سے سلام پھیرتے تھے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے تھا تا کہ عورتیں گزر جائیں۔

إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَارِثِ الْقُرَشِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ لَمْ يَلْبَثْ فِي مَقْعَدِهِ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَقُومَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَفَرَى ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ النِّسَاءِ حَتَّى يَمْضِينَ

1710 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تھے تو آپ یہ دعا کرتے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا"۔

عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مَوْلَى لَأَمِ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

من طريق حصين به أخرجه أحمد رقم الحديث: 23463-3361، والبخاري رقم الحديث: 1136، ومسلم رقم الحديث: 255، وأبو داؤد رقم الحديث: 55، والنسائي رقم الحديث: 1620، وابن ماجه رقم الحديث: 286، والبخاري رقم الحديث: 2886-2894، وابن حبان رقم الحديث: 1072-1075، وغيرهم . من طريق أبي وائل به أخرجه أحمد رقم الحديث: 23290-23463، والبخاري رقم الحديث: 245-889، ومسلم رقم الحديث: 255، وأبو داؤد رقم الحديث: 55، وابن حبان رقم الحديث: 1072-1075، وغيرهم . وروى عن أبي وائل بلفظ: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل . أخرجه النسائي رقم الحديث: 1622-1623، والبخاري رقم الحديث: 2860، من طريق أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي وائل به .

1710 - أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 280 . من طريق شعبة به أخرجه الفريابي في صفة المنافق رقم الحديث: 54 . من طريق وكيع عن الأعمش أخرجه ابن أبي شيبة جلد 15 صفحہ 109، والبخاري رقم الحديث: 2870-2901، والفريابي رقم الحديث: 53 . من طريق أبي وائل أخرجه البخاري رقم الحديث: 7113، والنسائي في الكبرى كما في التحفة جلد 3 صفحہ 39، والبخاري رقم الحديث: 2901، والفريابي رقم الحديث: 56 .

حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ صبح کے وقت جنبی ہوتے پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ سعید کہتے ہیں: (جب یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی) تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا۔

حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنے گھر سے نکلتے تو یہ دعا مانگتے: اے اللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں پھسل جاؤں یا بھٹک جاؤں یا ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں یا جاہل ہو جاؤں یا جاہل کیا جاؤں۔

1711 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ قَالَ سَعِيدٌ: فَرَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ فُتِيَاهُ

1712 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ

1711 - أخرجه البيهقي في الدلائل جلد 2 صفحہ 364-365 . من طرق عن حماد به أخرجه ابن أبي شيبة جلد 14 صفحہ 306، وأحمد رقم الحديث: 23380-23391، وفي الموضوع الثاني عند أحمد سقط شيخه . انظر اطراف المسند جلد 2 صفحہ 239 . من طرق عن عاصم به أخرجه الحميدي رقم الحديث: 448، وأحمد رقم الحديث: 23333-23368، والترمذي رقم الحديث: 3147، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 11280، والبخاري رقم الحديث: 2915، وابن حبان رقم الحديث: 45، والحاكم جلد 2 صفحہ 359 . وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح الاسناد .

1712 - أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 175-176 . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 23425-23445، والبخاري رقم الحديث: 3745-4381-7254، ومسلم رقم الحديث: 2420، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8198، وابن ماجه رقم الحديث: 135، والبخاري رقم الحديث: 2925، وابن حبان رقم الحديث: 6999، والبيهقي جلد 10 صفحہ 86، وأبو نعيم جلد 7 صفحہ 176 . من طرق عن أبي اسحاق به أخرجه البخاري رقم الحديث: 4380، ومسلم رقم الحديث: 2420، والترمذي رقم الحديث: 3796، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8197، وابن ماجه رقم الحديث: 135 . وفيه خلاف على أبي اسحاق . انظره في العلل للدارقطني جلد 5 صفحہ 113-114، والتحفة جلد 3 صفحہ 41، والفتح جلد 8 صفحہ 94 .

عَلَى

1713 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

كَعْبٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلْمَةَ، فَقُلْتُ لَهَا: أَخْبِرِيْنِي بِأَكْثَرِ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كَانَ أَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، تَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُكْثِرُ أَنْ تَدْعُوا بِهَذَا؟ فَقَالَ إِنَّ قَلْبَ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ اصْبَعَيْ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَقَامَ، وَمَا شَاءَ أَزَاغَ

حضرت شہر بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، میں نے آپ سے عرض کی کہ مجھے بتلائیں کہ نبی اکرم ﷺ سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ سب سے زیادہ یہ دعا مانگتے تھے: اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ! میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ اکثر یہ دعا بہت مانگتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ابن آدم کا دل رحمن عزوجل کی دو انگلیوں (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) کے درمیان ہے وہ جسے چاہے سیدھا رکھے اور وہ چاہے ٹیڑھا کر دے۔

1714 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کی

1713- عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 3207 للمصنف . من طرق عن شعبة به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 9280 وابن أبي شيبة جلد 5 صفحہ 352 وابن الأعرابي في معجمة رقم الحديث: 166 والبخاري رقم الحديث: 2928 والبيهقي في الشعب رقم الحديث: 7585 . من طريق يزيد بن عطاء وهو ضعيف عن أبي اسحاق، فرفعه أخرجه البزار رقم الحديث: 2927 . وقال: لا نعلم أسنده الا يزيد عن عطاء عن أبي اسحاق . وقال الدارقطني وغيره: الصحيح موقوف . انظر المطالب والاتحاف جلد 7 صفحہ 474 والعلل للدارقطني جلد 3 صفحہ 171-172 وروى عن أبي اسحاق عن الحارث عن علي . وهو خطأ قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما . انظر العلل لابن أبي حاتم رقم الحديث: 1934 وللدارقطني جلد 3 صفحہ 171-172 والشعب للبيهقي رقم الحديث: 7586 وروى عن ابن اسحاق عن صلة عن عمار بن ياسر أخرجه ابن الأعرابي رقم الحديث: 165 ولا يصح أيضا .

1714- أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 278 . من طرق عن شعبة مثله موقوفاً أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 11294 والبزار رقم الحديث: 2926 والطبري جلد 15 صفحہ 144 . من طرق

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا مَاتَ - تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَكَانَ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ مَا دُورِمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَلَّ

قسم! آپ یعنی نبی اکرم ﷺ نے وصال نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ نے اس دوران اکثر نمازیں بیٹھ کر ہی پڑھی تھیں اور آپ ﷺ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل وہ تھا جس پر ہمیشگی ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔

حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

1715 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا كَامِلٌ

عن أبي اسحاق مثله أخرجه الطبري جلد 15 صفحه 144-145، والحاكم جلد 2 صفحه 363 . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وقال البزار: هكذا رواه شعبة عن أبي اسحاق عن صلة عن حذيفة . ورواه غير شعبة عن أبي اسحاق عن غير صلة عن حذيفة وقال أبو نعيم: رفعه عن أبي اسحاق جماعة . وروى عن ابن اسحاق به مرفوعًا أخرجه عاصم في السنة رقم الحديث: 789 من طريق حماد ابن سلمة عن عبد الله بن المختار من أبي اسحاق . من طريق موسى بن أعين عن ليث به أخرجه الطبراني في الأوسط رقم الحديث: 1058، والحاكم جلد 4 صفحه 573 .

1715 - أخرجه الترمذی رقم الحديث: 262 . ومن طريقه البغوی رقم الحديث: 622، وليس فيه ذكر الليل وقال: حسن صحيح . من طرق عن شعبة به مثل رواية المصنف أخرجه الدارمی رقم الحديث: 1312، والترمذی رقم الحديث: 263، والنسائی رقم الحديث: 1007، وفي الكبرى رقم الحديث: 1080 . من طريق شعبة به مختصرًا أخرجه الطبراني في الدعاء رقم الحديث: 536-537-590-591 . من طرق أخرى عن شعبة به وليس فيه ذكر الليل أخرجه أحمد رقم الحديث: 23288-23392، وأبو داؤد رقم الحديث: 871، والطحاوی جلد 1 صفحه 235 . من طريق الأعمش به من غير ذكر الليل أيضًا من طرق عن الأعمش به مطولًا أخرجه أحمد رقم الحديث: 23309-23415، ومسلم رقم الحديث: 772، والنسائی رقم الحديث: 1132، وابن حبان رقم الحديث: 2609، وأبو عوانة جلد 2 صفحه 168-169، والبيهقی جلد 2 صفحه 85 . من طرق عن الأعمش به مختصرًا جدًا أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2875، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحه 248، والنسائی رقم الحديث: 1008-1045، وابن ماجه رقم الحديث: 1351، وابن حبان رقم الحديث: 1897، والطبراني في الدعاء رقم الحديث: 536-537-589-590 .

أَبُو الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَوَّرُ وَيَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: کچھ لوگ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئیں گے حتیٰ کہ جب جنگلی زمین پر پہنچیں گے تو ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، آپ سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! ان میں مجبور لوگ بھی تو ہوں گے (کہ جن کو مجبور کر کے لایا گیا ہوگا)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کو نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔

1716 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

عِمْرَانُ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقَشِيرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقُبَيْطِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُقْبَلُ قَوْمٌ يَوْمَؤُنَ الْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بَبِيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خَسِفَ بِهِمْ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فِيهِمُ الْمُكْرَهُ، قَالَ: يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَاتِهِمْ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی

1717, 1718 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1716- أخرجه البيهقي جلد 2 صفحه 121-122 . من طرق عن شعبة به وعند بعضهم مختصراً أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 101، وأحمد رقم الحديث: 23423، وأبو داؤد رقم الحديث: 874، والترمذي في الشمائل رقم الحديث: 262، والنسائي رقم الحديث: 1068-1144، والبزار رقم الحديث: 2934، والطحطاوي في المشكل رقم الحديث: 712، والطبراني في الدعاء رقم الحديث: 523، والبعقوي في الجعديات رقم الحديث: 87، والبيهقي في الأسماء والصفات صفحه 138، والبعقوي في شرح السنة رقم الحديث: 910 . من طريق العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة فخالف شعبة أخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحه 231، والدارمي رقم الحديث: 1330، وأحمد رقم الحديث: 23447، والنسائي رقم الحديث: 1008-1664، والبزار رقم الحديث: 2935، والطبراني في الدعاء رقم الحديث: 524، وفي الأوسط رقم الحديث: 5689 . فقال: عن أبي حمزة عن حذيفة . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . من طريق حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب به أخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 897 .

1717, 1718- والحديث قد رواه غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي قال: سمعت رجلاً في جنازة حذيفة يقول: سمعت صاحب هذا السرير..... فذكره أخرجه ابن أبي شيبة جلد 15 صفحه 21، وأحمد رقم

قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ،
يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ الصَّرْحَةَ عَلَى عَائِشَةَ،
فَأَرْسَلَتْ جَارِيَتَهَا: انْظُرِي مَا صَنَعَتْ فَجَاءَتْ،
فَقَالَتْ: قَدْ قَضَتْ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُهَا اللَّهُ وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُوهَا

اکرم ﷺ نے فرمایا: جس کی دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنیں
ہوں یا دو قریبی رشتہ دار عورتیں ہوں تو وہ ان پر خرچ
کرے حتیٰ کہ ان کی کفالت کرے یا ان دونوں کو اللہ
اپنے فضل سے غنی کر دے تو وہ دونوں اُس کے لیے جہنم
سے پردہ بن جائیں گی۔

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب

305- مَا رَوَتْ أُمُّ هَانِئِ بِنْتُ

رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ

أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سے روایت کردہ احادیث

حضرت فاختہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ

1720, 1719 — حَدَّثَنَا يُونُسُ

الحديث: 23355، ورواه شيبان عن منصور به مثله أخرجه أحمد رقم الحديث: 23383، ورواه سفيان
عن منصور واختلف عنه فرواه قبيصة بن عقبة عن الثوري عن منصور به مثله أخرجه ابن مردويه كما
في التفسير لابن كثير جلد 3 صفحہ 81. ورواه وكيع عند ابن أبي شيبة جلد 15 صفحہ 17، وحسين بن
حفص عند الحاكم جلد 4 صفحہ 444. كلاهما عن سفيان عن منصور.

1719, 1720- أخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 188. من طريق أبي عوانة به أخرجه مسلم رقم الحديث: 1005
والبيهقي جلد 4 صفحہ 188. من طريق سفيان وشعبة عن أبي مالك به وأخرجه أحمد رقم الحديث:
23418-23427، وأبو داؤد رقم الحديث: 4947، وأبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 194. من طريق
معاوية عن أبي مالك به 'بلفظ: المعروف كله صدقة أخرجه أحمد رقم الحديث: 23300. من طريق
يزيد بن هارون عن أبي مالك به بلفظ حديث أبي معاوية وزاد: وان آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من
كلام النبوة: اذا لم تستح فافعل ما شئت' أخرجه أحمد رقم الحديث: 23488. عن ابن أبي شيبة عن
عباد بن العوام عن أبي مالك به باللفظ الأول أخرجه مسلم رقم الحديث: 1005، والحديث في
المصنف جلد 8 صفحہ 360 عن عباد به ولكنه موقوف. وله شاهد من جابر أخرجه البخاري رقم
الحديث: 6021.

عنها فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے دن میرے گھر آئے، پس آپ نے غسل کیا اور ایک ہی کپڑے میں لپیٹ کر نماز پڑھی۔

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِءٍ، عَنْ فَاخِتَةَ وَهِيَ أُمُّ هَانِءِ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ بَيْتِي، فَاغْتَسَلَ، فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا

فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے، تو میں نے آپ کے لیے پانی لائی، آپ نے پانی پیا، یا فرماتی ہیں کہ پھر مجھے دیا تو میں نے پیا اور میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں روزے کی حالت میں تھی لیکن میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کا جوٹھا تبرک چھوڑ دوں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر رمضان کی قضاء تھی تو اس کی جگہ ایک دن کا روزہ رکھ لے اور اگر نفلی روزہ تھا تو اگر چاہے تو قضاء کر، اگر چاہے تو قضاء نہ کر۔

1721 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أُمِّ هَانِءٍ، عَنْ أُمِّ هَانِءِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا لِي بِشَرَابٍ، فَشَرِبْتُ، أَوْ قَالَتْ: دَعَا بِشَرَابٍ، فَشَرِبْتُ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ، وَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ سُورَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ قِضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَصُومِي يَوْمًا

1721 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 23364 . من طريق موسى بن اسماعيل عن هشام به . وقال صحيح علي

شرط الشيخين ووافق الذهبي . أخرجه الحاكم جلد 4 صفحہ 469-470 . من طريق معاذ بن هشام عن

أبيه به وفي أوله قصة . أخرجه البزار رقم الحديث: 2797 . وروى عن أبي الطفيل من وجه آخر

موقوفًا . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 15 صفحہ 110، والبزار رقم الحديث: 2798 . وعن حذيفة موقوفًا

عند ابن أبي شيبة جلد 12 صفحہ 198، والبزار رقم الحديث: 2858 . وعن حذيفة مرفوعًا أخرجه ابن

أبي شيبة جلد 12 صفحہ 198، والبزار رقم الحديث: 2858 . وعن حذيفة مرفوعًا أخرجه ابن أبي شيبة

جلد 15 صفحہ 111، وأحمد رقم الحديث: 23397، والحاكم جلد 4 صفحہ 470 . وروى من مسند أبي

الطفيل أخرجه البزار رقم الحديث: 2778، واسناده ضعيف . وله شاهد عن أبي سعيد عند أحمد رقم

الحديث: 11839، واسناده ضعيف .

مَكَانَهُ، وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِي، وَإِنْ
شِئْتَ فَلَا تَقْضِي

1722 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسٌ،

قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ مَوْلَى
أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ: (وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ) (العنكبوت:
29) قَالَ: كَانُوا يَخْذِفُونَ مَنْ مَرَّ بِهِمْ، وَيَسْخَرُونَ
مِنْهُ، فَذَلِكَ الْمُنْكَرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ

1723 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْدَةُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ
هَانِئٍ، وَكَانَ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ يُسَحِّثُهُ

حضرت أم هانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں
نے رسول اللہ ﷺ سے اللہ عزوجل کے اس ارشاد کے
متعلق پوچھا: ”وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ“
(العنكبوت: ۲۹) ”کہ تم اپنی مجلس میں بری باتیں کرتے
ہو۔“ آپ نے فرمایا: وہ گزرنے والوں کو کنکریاں
مارتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے یہی وہ کام تھا جو وہ
کرتے تھے۔

حضرت أم هانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا سے

روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے ہیں
نے آپ کو پانی پیش کیا تو آپ نے پانی پیا، پھر مجھے دیا

1722 - أخرجه أبو نعیم جلد 4 صفحہ 178-179 . من طریق شعبة به أخرجه النسائي في الكبرى رقم

الحديث: 11614 . من طرق عن منصور به أخرجه أحمد رقم الحديث: 23416-23481 والبخاري

رقم الحديث: 6056، ومسلم رقم الحديث: 105، والترمذي رقم الحديث: 2026-2954 وابن حبان

رقم الحديث: 5765 وغيرهم . من طريق ابراهيم به أخرجه أحمد رقم الحديث: 23353-23468

ومسلم رقم الحديث: 105، وأبو داؤد رقم الحديث: 4871، وروى من طريق أبي وائل عن حذيفة

أخرجه أحمد رقم الحديث: 23497، ومسلم رقم الحديث: 105 .

1723 - أخرجه المزني في تهذيب الكمال جلد 34 صفحہ 57، ورواه غندر وغيره عن شعبة به مثله أخرجه

البخاري في التاريخ جلد 8 صفحہ 327-328، والمزني في التهذيب جلد 34 صفحہ 56 . وحديث وهب

بن جرير: من طريق وهب به مرفوعاً أخرجه البخاري في التاريخ جلد 8 صفحہ 328، والبخاري رقم

الحديث: 2967، والبيهقي جلد 6 صفحہ 33 . ورواه مسلم بن قتيبة عن شعبة مثل حديث وهب أخرجه

البخاري في التاريخ جلد 8 صفحہ 328، والمزني في التهذيب جلد 34 صفحہ 56 والموقوف هو

الصواب . انظر العلل لابن أبي حاتم رقم الحديث: 2373 .

يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنَا امِّ هَانٍ، قَالَ شُعْبَةُ: فَلَقِيْتُ أَنَا أَفْضَلَهُمَا جَعْدَةَ فَحَدَّثَنِي عَنْ امِّ هَانٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَنَاولَتْهُ شَرَابًا فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاولَهَا فَشَرِبَتْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ آمِنُ نَفْسِهِ أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لَجَعْدَةَ: أَسَمِعْتَهُ أَنْتِ مِنْ امِّ هَانٍ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَهْلُنَا وَأَبُو صَالِحٍ مَوْلَى امِّ هَانٍ عَنْ امِّ هَانٍ

تو میں نے پیا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں روزے کی حالت میں تھی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نقلی روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امین یا اپنے نفس کا امیر ہوتا ہے، اگر چاہے تو روزہ رکھے اور اگر چاہے تو افطار کر لے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے جعدہ سے کہا: کیا آپ نے حضرت ام ہانی سے سنا ہے؟ (حضرت جعدہ نے) فرمایا: مجھے ہمارے گھر والوں نے اور ابو صالح نے جو حضرت ام ہانی کے غلام تھے انہوں نے ام ہانی سے روایت بیان کی۔

1724 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے بطن (پیٹ) مبارک میں نے نہیں دیکھا مگر میں نے دو مصری چادروں کا ذکر کیا جو ایک دوسرے کے اوپر بندھی ہوتی تھیں۔

شَيْبَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ امِّ هَانٍ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ بَطْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ إِلَّا ذَكَرْتُ الْقَرَّاطِيسَ الْمَثْبِيَّةَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ

1725 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت ابن ابی لیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی چاشت کی نماز کے متعلق

1724 - أخرجه البخاری فی التاریخ جلد 8 صفحہ 328، وابن ماجہ رقم الحدیث: 2491، وابن عدی جلد 7 صفحہ 2623، وله شاهد عن سعید بن حریت أخرجه أحمد رقم الحدیث: 15881-18761، وابن ماجہ رقم الحدیث: 2490، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 2628، وغيرهم انظر الصحیحة رقم الحدیث: 2327.

1725 - أخرجه أبو نعیم جلد 1 صفحہ 271، ورواه غیر واحد عن الأعمش، سفیان وشعبة وغيرهما. أخرجه

أحمد رقم الحدیث: 23303-23304-23305-23477، والبخاری رقم الحدیث: 7276، ومسلم رقم

الحدیث: 143، والترمذی رقم الحدیث: 2179، وابن ماجہ رقم الحدیث: 4053، وغيرهم.

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی کو نہیں بیان کرتے دیکھا، آپ نے بیان کیا کہ آپ کے گھر میں نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے دن داخل ہوئے سو آپ نے غسل کیا اور آٹھ رکعات ادا کیں، آپ کی اس سے زیادہ مختصر نماز میں نے نہیں دیکھی، لیکن آپ رکوع اور سجدہ مکمل کرتے تھے۔

لَيْلِي، يَقُولُ: مَا أَخْبَرَنِي أَحَدٌ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى غَيْرَ أُمَّ هَانٍ، فَإِنَّهَا حَدَّثَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، مَا رَأَيْتُهُ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ أَحَفَّ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ

حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ

306- مَا رَوَتْ أُمِيمَةُ بِنْتُ

عنها کی نبی کریم ﷺ سے

رُقَيْقَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

روایت کردہ حدیث

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

کہ میں ان عورتوں میں شامل تھی جنہوں نے نبی اکرم ﷺ سے بیعت کی تھی، سو آپ نے ہم سے وعدہ لیا کہ ہم چوری نہیں کریں گی، پوری آیت ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم سے بیعت لیجئے! تو آپ ﷺ

1726 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ بِنْتُ عُمَرَ الْيَشْكُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمِيمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَسْرِقَ، الْآيَةَ كُلَّهَا،

1726 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 23404-23426، والبزار رقم الحديث: 2974. من طرق عن أبي اسحاق

به أخرجه الحميدي رقم الحديث: 445، وأحمد رقم الحديث: 23291-23450، والترمذي رقم

الحديث: 1783، والنسائي رقم الحديث: 15344، وفي الكبرى رقم الحديث: 9687-9690، وابن

ماجه رقم الحديث: 3572، والبزار رقم الحديث: 2973، وابن حبان رقم الحديث: 5445-5449،

والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 2529 وغيرهم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال زيد ابن

أبي أنيسة عن أبي اسحاق عن الأعرابي مسلم عن حذيفة أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 5448، وقال

حجاج عن يونس عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب. أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث:

9685-9686 وأعلها.

فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَايَعْنَا فَقَالَ: إِنِّي لَا أَصَافِحُ
النِّسَاءَ، وَقَوْلِي لَأَمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَقَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ
نے فرمایا: میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا اور میرا ایک
عورت کو کہنا ایسے ہی ہے جیسے سو عورتوں کو کہنا ہے۔

307- وَأُخْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ

عنہما کی بہن کی نبی کریم ﷺ

رَوَّاحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

سے روایت کردہ حدیث

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1727- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی بہن نبی

1727- أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحه 127. ورواه أبو الوليد الطيالسي وعمرو بن مرزوق ومحمد بن كثير عن شعبة به أخرجه ابن سعد جلد 3 صفحه 154، والطبراني رقم الحديث: 8487. ورواه يحيى بن سعيد وسليمان بن حرب عن شعبة به ولم يذكره فيه قوله: ولقد علم المحفوظون..... أخرجه أحمد رقم الحديث: 23461، والبخاري رقم الحديث: 3762، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8265. ورواه عفان عن شعبة به ولم يذكر هذه الزيادة وقال في رواياته عن أبي اسحاق: ولم نسمع هذا من عبد الرحمن بن يزيد: لقد علم المحفوظون..... أخرجه أحمد رقم الحديث: 23398. ورواه اسرايل عن أبي اسحاق به بذكر الزيادة وبدونها أخرجه أحمد رقم الحديث: 23356، والترمذي رقم الحديث: 3807 بذكرها وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 242، وأحمد رقم الحديث: 23456، والطبراني رقم الحديث: 8489 بدونها. ورواه أبو وائل عن حذيفة أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحه 126 من طريق المصنف عن شعبة عن أبي اسحاق عن الأعمش عن أبي وائل به بالزيادة فقط. من طريق غندر عن شعبة مثله أخرجه الطبراني رقم الحديث: 8481. ورواه غير واحد عن الأعمش أخرجه ابن سعد جلد 3 صفحه 154، وأحمد رقم الحديث: 23389-23390، والبخاري رقم الحديث: 6097، والطبراني رقم الحديث: 8480، والحاكم جلد 3 صفحه 315 بذكر الزيادة وعدمها وهي ليست عند البخاري ورواه غير واحد عن حذيفة عند ابن أبي شيبة رقم الحديث: 12290، وابن أبي عاصم رقم الحديث: 241-243، وأحمد رقم الحديث: 23399، والطبراني رقم الحديث: 8490-8491، والحاكم جلد 3 صفحه 320.

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ
 طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ عَنْ أُخْتِ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، قَالَ: وَجَبَ الْخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ
 يَعْنِي فِي الْعِيدَيْنِ

اکرم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ ﷺ نے
 عیدین میں نکلنے کو واجب کیا۔

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی

308- مَا رَوَتْ جُوَيْرِيَةٌ

نبی کریم ﷺ سے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

روایت کردہ حدیث

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

1728 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

ان کے پاس رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن تشریف لائے

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ، عَنْ

1728 - أَخْرَجَهُ الْخَطِيبُ فِي الْمَبْهَمَاتِ (صَفْحَةٌ: 52). مِنْ طَرِيقِ الْمَصْنُفِ وَفِيهِ الْوَلِيدُ بْنُ الْمَغِيرَةَ بْنِ الْوَلِيدِ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ جُلْدًا 6 صَفْحَةٌ 3، وَرَوَاهُ غَنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ: الْوَلِيدُ أَبُو الْمَغِيرَةَ أَوْ الْمَغِيرَةَ

أَبُو الْوَلِيدِ - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 23410، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكَبْرِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 10283، وَتَابَعَهُ

بِشْرُ بْنُ الْمَفْضَلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ جُلْدًا 1 صَفْحَةٌ 510. وَرَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ سَفْيَانَ وَأَبُو

الْأَحْوَصِ وَأَسْرَائِيلَ وَغَيْرَهُمْ فَقَالُوا: عَيْدُ بْنُ الْمَغِيرَةَ أَوْ الْمَغِيرَةَ. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ جُلْدًا 10

صَفْحَةٌ 297، وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 23388-23417-23469، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكَبْرِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

10284-10287، وَابْنُ مَاجَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3817، وَابْنُ حِبَّانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 926، وَالْحَاكِمُ جُلْدًا 1

صَفْحَةٌ 511، وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيَّةِ جُلْدًا 1 صَفْحَةٌ 276. وَقَالَ الْحَاكِمُ فِي الْمَوْضُوعِينَ: صَحِيحٌ. وَوَافَقَهُ

الذَّهَبِيُّ. وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَامَرَ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ نَذِيرٍ عَنْ حَذِيفَةَ أَخْرَجَهُ

النَّسَائِيُّ فِي الْكَبْرِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 10282، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

6307، وَعَنْ الْأَغْرَ الْمَزْنِيِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2702، وَعَنْ ابْنِ عَمْرٍو عِنْدَ ابْنِ مَاجَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

جُوَيْرِيَّةَ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: صُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: تَصُومِينَ غَدًا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَأَفْطِرِي

اور وہ روزہ سے تھیں، تو آپ نے فرمایا: کل تو نے روزہ رکھا تھا؟ میں نے عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: کل تو روزہ رکھے گی؟ انہوں نے عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: پھر افطار کر لو۔

حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ

عنها کی نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

309- وَمَا رَوَتْ الرَّبِيعُ بِنْتُ

مُعَوِّذٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل فرماتے ہیں کہ مجھے

حضرت علی بن حسین نے حضرت ربیع بنت معوذ کی

طرف بھیجا کہ میں ان سے پوچھوں کہ رسول اللہ ﷺ

ان کے پاس بہت زیادہ وضو کرتے تھے سو میں ان کے

پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا (کہ آپ وضو کیسے

کرتے تھے) آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ

1729 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي عَلِيُّ بْنُ

الْحُسَيْنِ إِلَى الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ؛ أَسْأَلُهَا أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَثِيرًا مَا يَتَوَضَّأُ

عِنْدَهُمْ، فَاتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ

1729- وعزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 740 للمصنف . عن شريك به نحوه أخرجه ابن أبي شيبة

جلد 2 صفحہ 465 وتابعه أبو الوليد عن شريك مختصراً عند الطحاوی جلد 1 صفحہ 311 ورواه

اسرائیل عن ابی اسحاق به مطولاً وفيه وصف صلاة الخوف كما شهدها مع رسول الله صلى الله عليه

وآله وسلم أخرجه أحمد رقم الحديث: 23501 وابن خزيمة رقم الحديث: 1365 والبيهقي جلد 3

صفحہ 252 . عن وكيع عن سفيان عن ابی اسحاق به ' بلفظ: ان هاج بك هائج فقد حل لك القتال

والكلام يعنى فى الصلاة . أخرجه ابن ابى شيبة جلد 2 صفحہ 465 . وروى من وجه آخر عن حذيفة

أخرجه ابن ابى شيبة جلد 2 صفحہ 461 وأحمد رقم الحديث: 23315-23437 وأبو داؤد رقم

الحديث: 1246 والنسائي رقم الحديث: 1529 والطحاوی جلد 1 صفحہ 310 والحاكم جلد 1

صفحہ 335 والبيهقي جلد 3 صفحہ 261 . وقال الحاكم: صحيح الاسناد . ووافقه الذهبي .

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَاخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً
جَدِيدًا
کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے سر کے مسح
کے لیے نیا پانی لیا۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی

310- وَمَا رَوَتْ مَيْمُونَةُ

نبی کریم ﷺ سے

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

روایت کردہ احادیث

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے

1730 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غسل کیا، یا فرمایا کہ
آپ نے غسل جنابت سے بچے ہوئے پانی سے وضو
کیا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ
الْحَارِثِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اغْتَسَلَ - أَوْ قَالَتْ: تَوَضَّأَ - بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ
الْجَنَابَةِ

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ

1731 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1730 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 23317-23405-23422-23449، والبخارى رقم الحديث: 5381

ومسلم رقم الحديث: 2067، وأبو داؤد رقم الحديث: 2723، والترمذی رقم الحديث: 1878

والطحاوی فی المشکل رقم الحديث: 1418 وغيرهم . من طریق مجاهد وغيره من طریق عبد الملك

بن ابی غنیمہ عن الحكم به مختصراً أخرجه أحمد رقم الحديث: 23362، عن ابن ابی لیلی به أخرجه

الحمیدی رقم الحديث: 440، وأحمد رقم الحديث: 23405-23511، والبخارى رقم الحديث:

5426-5633-5837، ومسلم رقم الحديث: 2067، والنسائی رقم الحديث: 5316، وفي الكبرى رقم

الحديث: 6871، وابن ماجه رقم الحديث: 3414، وابن الجارود رقم الحديث: 865، وغيرهم . من

طریق عبد اللہ بن حکیم عن حذیفہ أخرجه مسلم رقم الحديث: 2067، والنسائی رقم الحديث:

5316، وابن حبان رقم الحديث: 5339، والخطیب جلد 10 صفحہ 3 .

1731 - أخرجه ابن ابی شیبہ جلد 9 صفحہ 117، وأحمد رقم الحديث: 23313-23429، وأبو داؤد رقم

عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ
الْهَادِ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ

رسول اللہ ﷺ چٹائی پر نماز پڑھتے تھے۔

1732 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت حکم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مقسم

سے کہا کہ میں تین وتر پڑھتا ہوں، پھر میں نماز کے لیے
جاتا ہوں اس خوف سے کہ میری نماز نہ رہ جائے۔

حضرت مقسم نے کہا کہ وتر پانچ یا سات رکعات ہوتی
ہیں (حضرت حکم فرماتے ہیں کہ) میں نے یہ بات

حضرت مجاہد اور یحییٰ بن جزار کو بتائی تو دونوں نے مجھے
کہا: اس سے پوچھو کہ اس نے کس سے سنا ہے؟ میں نے

ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا: ثقہ سے انہوں نے ثقہ

عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: قُلْتُ لِمَقْسَمٍ: إِنِّي أُوْتِرُ بِثَلَاثٍ،
ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَخَافَةَ أَنْ تَفُوتَنِي، فَقَالَ: لَا
يَصْلُحُ الْوِتْرُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ فَأَخْبَرْتُ بِهِ
مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، فَقَالَ لِي: سَلُهُ عَمَّنْ؟
فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: عَنِ الثَّقَةِ عَنِ الثَّقَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ
وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الحديث: 4980 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10821 والطحاوي في المشكل رقم

الحديث: 236 وروى هذا الحديث معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيبة وهي من المهاجرات

الأول أخرجه أحمد رقم الحديث: 27138 والنسائي رقم الحديث: 3782 وفي الكبرى رقم

الحديث: 10822 والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 238-239 والحاكم جلد 4 صفحہ 297

والبيهقي جلد 3 صفحہ 216 وغيرهم . وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي . وروى عن معبد بن

خالد عن قتيبة ليس فيه عبد الله بن يسار أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 10823 .

1732 - أخرجه ابن أبي شيبة جلد 9 صفحہ 117، وأحمد رقم الحديث: 23313-23429 وأبو داؤد رقم

الحديث: 4980 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10821 والطحاوي في المشكل رقم الحديث:

236 وروى هذا الحديث معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيبة وهي من المهاجرات الأول

أخرجه أحمد رقم الحديث: 27138 والنسائي رقم الحديث: 3782 وفي الكبرى رقم الحديث:

10822 والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 238-239 والحاكم جلد 4 صفحہ 297 والبيهقي

جلد 3 صفحہ 216 وغيرهم . وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي . وروى عن معبد بن خالد عن

قتيبة ليس فيه عبد الله بن يسار أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 10823 .

سے انہوں نے حضرت میمونہ اور حضرت عائشہ سے انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ان کے ہاں غسل کیا، تو وہ رومال لے کر آئیں، آپ نے اس کو پھینک دیا۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت ابراہیم کے پاس کیا، تو انہوں نے فرمایا: حدیث اس طرح ہی ہے، لیکن رومال سے صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ (لوگوں کی) عادت ہے۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب غسل کر لیتے تھے تو آپ غسل کی جگہ سے ہٹ جاتے پھر اپنے دونوں قدموں کو دھوتے تھے۔

1733 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَ عِنْدَهَا فَاتَّهَتْهُ بِمِنْدِيلٍ فَرَمَى بِهِ قَالَ الْأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُهُ لِابْرَاهِيمَ، فَقَالَ: الْحَدِيثُ هَكَذَا وَلَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ بِالْمِنْدِيلِ، إِنَّمَا هُوَ عَادَةٌ

1734 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ تَنَحَّى مِنَ الْمُغْتَسَلِ فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ

1733- أخرجه أحمد رقم الحديث: 23396، والحاكم جلد 2 صفحہ 158. وقال الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. ورواه الأعمش عن عمرو بن مرة به أخرجه الطبراني جلد 17 صفحہ 253-703، والحاكم جلد 4 صفحہ 437-438. وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. وخالف هارون بن سعد الأعمش فلم يذكر أبا البختري في اسناده أخرجه الطبراني جلد 17 صفحہ 254-705.

1734- أخرجه أحمد رقم الحديث: 23329، ومسلم رقم الحديث: 2891، والبزار رقم الحديث: 2795. وقد ذكر الحاكم في المستدرک جلد 4 صفحہ 426 أن الشيخين اتفقا على حديث شعبة عن عدی بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة والحديث انما أخرجه مسلم فقط بهذا الاسناد وهذا السياق. وأخرجه البخاري رقم الحديث: 6604، ومسلم رقم الحديث: 2891 وغيرهما من طريق أبي وائل عن حذيفة، قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقامًا ما ترك شيئًا يكون في مقامه ذلك قيام الساعة الا حدث به، حفظه من حفظه ونسبه من نسبه.....

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب میرے گھر سے باہر نکلتے تھے تو اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ"۔

1735 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهَذَلِيُّ، عَنْ شَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِي رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أُضِلَّ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

حضرت اسماء بنت یزید

انصاریہ رضی اللہ عنہا کی

نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ احادیث

311- مَا رَوَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ

يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1736 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا

1735- أخرجه أحمد رقم الحديث: 23503، وأبو داؤد رقم الحديث: 4692، والبيهقي جلد 10 صفحہ 203. من طريق الثوري ولم يذكر في اسناده عمر بن محمد أخرج ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 329، من طريق آخر عن عمر مولى غفرة وسمى الرجل عطاء بن يسار أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية جلد 1 صفحہ 151. واضطرب عمر مولى غفرة في اسناده. انظر السنة لابن أبي عاصم رقم الحديث: 329-339، وشرح العقيدة الطحاوية جلد 2 صفحہ 157، والشريعة للآجری رقم الحديث: 381-382-383، وجنة المراتب صفحہ 30-46-47.

1736- أخرجه البيهقي جلد 3 صفحہ 235. من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 23424-23454، والترمذي رقم الحديث: 2753، والحاكم جلد 4 صفحہ 281، وقال الترمذي حسن صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ورواه شريك عن شعبة وهمام عن قتادة به أخرجه القطيعي في جزء الألف دينار رقم الحديث: 119، والخطيب جلد 12 صفحہ 9. من طريق أبان بن يزيد العطاء عن قتادة به أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 14826، والبزار رقم الحديث: 2957، وابن عدي جلد 1 صفحہ 38.

فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ نے پڑھا: "إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ"۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کے گوشت (یعنی اس کی غیبت) کا اس کی غیر موجودگی میں دفاع کیا، اللہ پر ضروری ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔

حضرت اسماء (بنت یزید) رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دجال کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا: دجال کے ایک سال نکلنے سے پہلے آسمان سے تہائی بارش روک لی جائے گی اور زمین اپنا تہائی غلہ اگانا روک دے گی، دوسرے سال آسمان دو تہائی قطرے (یعنی بارش) روک لے گا (یعنی نہیں برے گی) اور زمین اپنا دو تہائی غلہ اور تیسرے سال آسمان سے قطرے آنے بند ہو جائیں گے، زمین اپنی اگانے والی اشیاء (روک لے گی) یہاں تک کہ داڑھ اور کھر والی کوئی شی باقی نہیں رہے گی، ان فتنوں میں سے سب سے

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ: إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ

1737 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَخَارِجَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ شَهْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْمَغِيْبَةِ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ

1738 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

هَشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَالَ فَقَالَ: إِنَّ قَبْلَ خُرُوجِهِ عَامًا تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثَلَاثَ قَطْرِهَا، وَالْأَرْضُ ثَلَاثَ نَبَاتِهَا، وَالْعَامَ الثَّانِي تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثَلَاثِي قَطْرِهَا، وَالْأَرْضُ ثَلَاثِي نَبَاتِهَا، وَالْعَامَ الثَّلَاث تُمْسِكُ السَّمَاءَ قَطْرَهَا وَالْأَرْضُ نَبَاتَهَا حَتَّى لَا يَبْقَى ذَاتٌ ضَرْسٍ، وَلَا ذَاتٌ ظِلْفٍ، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ فِتْنَتَيْهِ أَنْ يَقُولَ لِلرَّجُلِ: إِنَّ أَحْيَيْتُ لَكَ أُمَّكَ وَأَبَاكَ، أَتَعْلَمُ إِنِّي

والبيهقي جلد 3 صفحہ 235 . وقد نص شعبة على أن أب امجلز لم يدرك حذيفة . انظر المسند رقم

الحديث: 23424، والعلل لأحمد جلد 1 صفحہ 154 . وقال ابن معين: لم يسمع من حذيفة انظر تاريخ

الدوري جلد 4 صفحہ 147 .

1737 - أخرجه البيهقي جلد 3 صفحہ 234 .

بڑا فتنہ یہ ہو گا کہ آدمی سے (دجال) کہے گا: اگر میں تیرے لیے تیری ماں اور تیرے باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تو یقین کرے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ سو ان کے لیے شیطان متمثل ہوں گے۔ پھر رسول اللہ ﷺ اپنے کسی کام کے لیے نکلے تو آپ واپس آئے اور آپ کے اہل بیت رورہے تھے۔ آپ نے دروازے کی چوٹ کو پکڑا، پھر فرمایا: کیا ہوا؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے دجال کا ذکر کیا، اللہ کی قسم! بے شک ہم میں کوئی آٹا اگوندھتا ہے، اس نے روٹی نہیں پکائی یہاں تک کہ فتنہ کا خوف ہونے لگا۔ اور آپ نے فرمایا: کھانا لپیٹ لیا جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کے لیے اس دن کافی ہو گا وہی جو فرشتوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! بے شک فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، لیکن وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کا کھانا اس دن تسبیح ہو گی، اگر وہ دجال نکلا اس حالت میں کہ میں تم میں ہوا تو میں اس کے لیے رکاوٹ بن جاؤں گے، اگر میرے بعد نکلا تو اللہ ہی نگہبان ہو گا۔

حضرت ام کرز الکعبیہ رضی اللہ عنہا

کی نبی کریم ﷺ سے روایت

کردہ حدیث

حضرت ام کرز الکعبیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

رَبُّكَ؟ فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيَاطِينُ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَجَاءَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ يَبْكُونَ، فَأَخَذَ بِعِضَادَتِي الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: مَهَيْمٌ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَكَرْتَ الدَّجَالَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَعْجَنُ عَجِينَهُ فَمَا يَخْتَبِرُ حَتَّى يَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ، وَأَنْتَ تَقُولُ: الْأَطْعَمَةُ تُرْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ يَكْفِي الْمُؤْمِنَ يَوْمَئِذٍ مَا يَكْفِي الْمَلَائِكَةَ قَالُوا: فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَأْكُلُ وَلَا تَشْرَبُ وَلَكِنَّهَا تَقْدِسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَعَامُ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَئِذٍ التَّسْبِيحُ، فَإِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَاجِبُهُ، وَإِنْ يَخْرُجُ بَعْدِي، فَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

312- مَا رَوَتْ أُمُّ كُرْزٍ

الْكَعْبِيَّةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1739 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: پرندوں کو اپنی جگہ پر رہنے دو یعنی کھونسوں میں۔

قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ الْكُفَيْبِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَقْرُوا الطَّيْرَ عَلَى مَكَانَتِهَا قَالَ: يَعْنِي الطَّيْرَةَ

حضرت أم قیس بنت محسن الانصاریہ
رضی اللہ عنہا کی نبی کریم ﷺ
سے روایت کردہ احادیث

313- مَا رَوَتْ أُمُّ قَيْسِ بِنْتُ
مِحْصَنِ الْأَنْصَارِيَّةِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت أم قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا فرماتی

ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا اور رسول اللہ ﷺ نے مدینہ پاک کی کسی گلی میں میرا ہاتھ پکڑا، اس میں کوئی گھر نہیں تھا، حتیٰ کہ ہم بقیع غرقہ میں پہنچے آپ نے فرمایا: اے أم قیس! میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اور تابعداری کے لیے تیار ہوں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: تو یہ قبرستان دیکھ رہی ہے، میں نے عرض کی:

1740 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الْمَدَنِيُّ، مَوْلَى نَافِعِ مَوْلَى أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ الْأَسَدِيِّ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرْتَنِي أُمُّ قَيْسِ بِنْتُ مِحْصَنِ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذٌ بِيَدِي فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، وَمَا فِيهَا بَيْتٌ حَتَّى انْتَهَيْتُنَا إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَقَالَ يَا أُمَّ قَيْسِ

الصحيحة جلد 1 صفحہ 9، والحديث عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 2783 للمصنف. عن المصنف أخرجه أحمد رقم الحديث: 18430. أخرجه البزار رقم الحديث: 2796 عن الوليد بن عمرو بن سكين بن يعقوب بن اسحاق الحضرمي عن ابراهيم بن داود عن حبيب بن سالم به.

1740- أخرجه أحمد رقم الحديث: 23350 عن شيخه اسماعيل عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطالب عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حليفة. ورواه علي بن حجر عن اسماعيل بن جعفر مثله. أخرجه البغوي في شرح السنة رقم الحديث: 4154. ورواه الدراوردي عن عمرو بن عمرو مثله. أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2170 وابن ماجه رقم الحديث: 4043.

فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: تَرَيْنَ هَذِهِ الْمَقْبَرَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: يُبْعَثُ مِنْهَا سَبْعُونَ أَلْفًا، وَجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا؟ قَالَ وَأَنْتَ فَقَامَ آخَرٌ، فَقَالَ: وَأَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ

یا رسول اللہ! جی ہاں! آپ ﷺ نے فرمایا: اس میں ستر ہزار ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی: اور میں؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: تو بھی، تو ایک اور کھڑا ہوا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! اور میں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔

1741 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ صَبِيًّا بَالَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا قَالَ الزُّهْرِيُّ فَمَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ يُنْضَحَ بَوْلٌ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ

حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہیں بتایا گیا کہ ایک بچے نے نبی اکرم ﷺ کی گود میں پیشاب کر دیا، وہ کھانا کھانے کی عمر کو نہیں پہنچا تھا تو رسول اللہ ﷺ نے پانی منگوایا اور اس پر بہا دیا، اس کو دھویا نہیں۔ امام زہری فرماتے ہیں: یہی سنت جاریہ ہے کہ جو بچہ کھانا نہیں کھاتا اس کے پیشاب پر پانی بہا دیا جائے اور جو بچہ کھانا کھاتا ہے، اس کے پیشاب کو دھویا جائے۔

1741 - غیر ان نعیم بن ابی ہند یروی عن حدیفة مباشرة كما عند أحمد رقم الحدیث: 23372 وبواسطة كما

عند مسلم رقم الحدیث: 2935 وغيره ولم أر من نص على روايته عن حدیفة وجوه آخر. من طریق موسی بن ابی المختار عن بلال بن یحیی عن حدیفة. أخرجه ابن سعد جلد 6 صفحہ 6، وأحمد رقم الحدیث: 23314، والبزار رقم الحدیث: 2944، والطبرانی فی الأوسط رقم الحدیث: 3028، وقال الهیثمی فی المجمع جلد 10 صفحہ 64 ورجال أحمد والبزار ثقات. من طریق الرکین بن الربیع عن ابیه عن حدیفة مختصرًا أخرجه ابن ابی شیبة رقم الحدیث: 12497، وابن سعد جلد 6 صفحہ 6. من طریق الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم عن حدیفة أخرجه ابن ابی شیبة رقم الحدیث: 12489، وابن سعد جلد 6 صفحہ 6. من طریق مغيث البکری عن حدیفة أخرجه ابن سعد جلد 6 صفحہ 6. وله شاهد عن سلمان أخرجه ابن ابی شیبة رقم الحدیث: 12487، وابن سعد جلد 6 صفحہ 6.

الطَّعَامِ مِنَ الصِّبْيَانِ، وَمَضَّتِ السُّنَّةُ أَنْ يُغْسَلَ بَوْلُ
مَنْ أَكَلَ الطَّعَامَ مِنَ الصِّبْيَانِ

314- مَا رَوَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی

اللہ عنہما کی نبی کریم ﷺ سے

أَبِي بَكْرٍ عَنِ النَّبِيِّ

روایت کردہ احادیث

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ ہم حضرت اسماء

1742- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے ہم نے ان سے

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُسْلِمِ الْقُرَيْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا

عورتوں کے ساتھ متعہ کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے

عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ

فرمایا: ہم نبی اکرم ﷺ کے زمانہ میں کرواتی تھیں۔

النِّسَاءِ، فَقَالَتْ: فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے

1743- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ

1742- رواه النضر بن عدی والأسود بن عامر عن شاذان عن شريك عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن

حذيفة أخرج ابن عدی جلد 4 صفحہ 1331-1332، والحاكم جلد 3 صفحہ 70 وفي الكامل اسناد آخر

مصحف . وقال الحاكم: عثمان بن عمير هذا هو أبو اليقظان . وقال الذهبي: ضعفه وشريك شيعي

لين الحديث .

1743- أخرج أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 271 . وقال: رواه قتادة عن نصر وسمي اليشكري: خالدًا .

ورواه القعني وأبو أسامة وغيرهما عن سليمان بن المغيرة به . أخرج أحمد رقم الحديث: 23330

وأبو داؤد رقم الحديث: 4246، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8032، وابن حبان رقم

الحديث: 5963، وأبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 271، وأخرج ابن أبي شيبة رقم الحديث: 18961

مختصرًا أبو سقط منه ذكر اليشكري . ورواه أبو عامر الخزاز صالح بن رستم عن حميد بن هلال عن

عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة أخرج النسائي في الكبرى رقم الحديث: 8033، وابن ماجه رقم

الحديث: 3981 . من طريق أبي عامر به أخرج البزار رقم الحديث: 2961 .

روایت ہے کہ ایک عورت نے آپ ﷺ سے کپڑے کو حیض کے خون لگنے کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو پانی کے ساتھ کھرچ دو اور اس کے ارد گرد پر پانی چھڑک دو۔

بُنْ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْدَرِ، عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: تَقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَأَنْضِحِي مَا حَوْلَهُ

حضرت عامر بن عبد اللہ بن زبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی قتیلہ کو زمانہ جاہلیت میں طلاق دی تھی اور وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی ماں تھی وہ اس مدت میں حضرت اسماء کے پاس آئی جس میں رسول اللہ ﷺ اور قریش کے درمیان معاہدہ ہوا تھا۔ وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے لیے بہت زیادہ تحفے اور اشیاء لے کر آتی تھی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اس سے قبول کرنا ناپسند کیا یہاں تک کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اس بات کا ذکر آپ کے سامنے کیا تو اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: ”اللہ عزوجل تم کو منع نہیں کرتا ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ دین میں

1744 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

الْمُبَارَكِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَتِيلَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَهِيَ أُمُّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِمْ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَأَهْدَتْ إِلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قُرْطًا وَأَشْيَاءَ، فَكَرِهَتْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهَا، حَتَّى آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ) (المتحنة: 8)

1744 - أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 20711، وأحمد رقم الحديث: 23476-23479، وأبو داؤد رقم الحديث: 4245، والبزار رقم الحديث: 2959-2960، والحاكم جلد 4 صفحہ 432، والبخاری في السنة رقم الحديث: 4219. من طريق مسدد وعبد الصمد بن عبد الوارث عن عبد الوارث به أخرجه أحمد رقم الحديث: 23474، وأبو داؤد رقم الحديث: 4247. من طريق وكيع عن حماد بن نجيح به أخرجه ابن أبي شيبة رقم الحديث: 18960، وابن عدی جلد 2 صفحہ 667. من طريق شعبة عن أبي التياح به أخرجه أحمد رقم الحديث: 23473. والحديث ثابت أيضا من طريق أبي ادريس الخولاني عن حذيفة. أخرجه البخاری رقم الحديث: 7084، ومسلم رقم الحديث: 1847، وغيرهما.

جنگ نہیں کرتے“ (الممتحنہ: ۸)۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا: اللہ عزوجل سے زیادہ کوئی چیز غیرت مند نہیں ہے۔

1745 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ

بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لَيْسَ شَيْءٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما نے حجاج بن

یوسف کو کہا: سن! رسول اللہ ﷺ نے بنی ثقیف کے متعلق ہم سے بیان کیا کہ اس میں ایک جھوٹا ہوگا اور ایک خون بہانے والا ہوگا، بہر حال جھوٹے کو تو ہم کو دیکھ

1746 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نُوفَلٍ بْنِ أَبِي عَقْرَبٍ، عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ لِلْحَجَّاجِ: أَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَنَّ فِي

1745 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 21504، والترمذي رقم الحديث: 2644، وابن حبان رقم الحديث: 169، وابن منده في الايمان رقم الحديث: 83. ورواه النضر بن شميل وبقية وغندر وغيرهم عن شعبة أخرجه البخاري رقم الحديث: 3224-6443، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 10958-10961. ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع أخرجه البخاري رقم الحديث: 6443، ومسلم جلد 2 صفحہ 688، ورواه أبو الأحوص وحفص بن غياث وأبو معاوية وأبو شهاب عن الأعمش به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21385، والبخاري رقم الحديث: 6444، ومسلم رقم الحديث: 94 وغيرهم. ورواه المعمر بن سويد وأبو الأسود الدبلي عن أبي ذر. أخرجه البخاري رقم الحديث: 1237-5827-7487، ومسلم رقم الحديث: 94، انظر العلل للدارقطني جلد 6 صفحہ 239.

1746 - أخرجه الترمذي رقم الحديث: 158. ورواه جماعة منهم: غندر وآدم بن أبي ايأس وحجاج وأبو الوليد الطيالسي وغيرهم عن شعبة به. أخرجه ابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 324، وأحمد رقم الحديث: 21413-21479-21573، والبخاري رقم الحديث: 535-539-629-2358، ومسلم رقم الحديث: 616، وأبو داؤد رقم الحديث: 401، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 437، وابن حبان رقم الحديث: 1509، والبيهقي جلد 1 صفحہ 438 وغيرهم.

ثَقِيفٍ كَذَابًا وَمُبِيرًا فَأَمَّا الْكُذَّابُ فَقَدْ رَأَيْنَاهُ، وَأَمَّ
الْمُبِيرُ فَلَا أَخَالَكَ إِلَّا آيَاهُ

حضرت عبداللہ مولیٰ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی

اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے خاندان سے کہا مزدلفہ کی رات: کیا چاند غروب ہو چکا ہے؟ کیا چاند غروب ہو چکا ہے؟ جب لوگوں نے کہا: جی ہاں! آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ہم کو اسی طرح اٹھاتے تھے۔

1747 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَسْمَاءَ، كَانَتْ تَقُولُ لِأَهْلِهَا لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ: أَغَابَ الْقَمَرُ؟ أَغَابَ الْقَمَرُ؟ فَإِذَا قَالُوا: نَعَمْ، قَالَتْ: قَوْمُوا، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت

کرتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما نے عرض کی: یا رسول اللہ! میری والدہ قریش کے عہد میں آئی ہے اور وہ شرک کی طرف راغب بھی ہے کیا میں

1748 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي اتَّيَّنِي فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ، وَهِيَ رَاغِبَةٌ

1747- وهذا الحديث طرف من الحديث السابق برقم رقم الحديث: 445 من طريق شعبة عن حبيب بن أبي

ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع عن زيد بن و ب . ورواه المعمر بن سويد ومرثد الحنفى والنعمان الغفارى عن أبى ذر . أخرجه الحميدى رقم الحديث: 140، وأحمد رقم الحديث: 21385-21437-21450-21529-21610، والبخارى رقم الحديث: 6638، ومسلم رقم الحديث: 990، والترمذى رقم الحديث: 617، والنسائى رقم الحديث: 2440، وابن ماجه رقم الحديث: 4130، وأبو نعيم فى الحلية جلد 8 صفحہ 325 وبعضهم زاد فيه التشديد على من لا يؤدى الزكاة .

1748- عزاه البوصيرى فى الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 3095 للمصنف . من طريق غندر عن شعبة

أخرجه أحمد رقم الحديث: 23171، والبزار رقم الحديث: 3986، ورواه سفيان وجريرو وزائدة وغيرهم عن يزيد بن أبى زياد . أخرجه ابن أبى شيبة جلد 13 صفحہ 243، وأحمد رقم الحديث: 21587، وابن أبى عاصم فى الزهد رقم الحديث: 175، والبزار رقم الحديث: 3985، والبيهقى فى الشعب جلد 7 صفحہ 282 . وللحديث شاهد صحيح بمعناه من حديث عمرو بن عوف وعقبة بن عامر عند البخارى رقم الحديث: 6425-6426 .

مُشْرِكَةً، أَفَاصِلُهَا. نَالَ: نَعِمٌ، صَلَّى أُمَّكَ

اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:
ہاں!

315- مَا رَوَتْ بِنْتُ حَارِثَةَ بِنِ

حضرت بنت حارثہ بن نعمان کی

النُّعْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ

نبی کریم ﷺ سے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روایت کردہ حدیث

1749 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت بنت حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنِ ابْنِ مَعْنٍ، عَنْ

عنها فرماتی ہیں کہ ہم نے تنور دیکھے اور ہمارا اور رسول

بِنْتِ حَارِثَةَ بِنِ النُّعْمَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَتْ: لَقَدْ

اللہ ﷺ کا ایک ہی تنور تھا اور میں نے سورہ ق رسول

رَأَيْتُنَا وَتَنُورُنَا وَتَنُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اللہ ﷺ کے منہ سے یاد کی تھی، جب آپ خطبہ ارشاد

وَسَلَّمَ وَاحِدٌ، وَمَا أَخَذْتُ قَافَ يَعْني سُورَةَ قِ إِلَّا

دفرما رہے تھے۔

مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

يَخْطُبُ

316- مَا رَوَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ

حضرت فاطمہ بنت قیس کی

قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

نبی کریم ﷺ سے

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

روایت کردہ احادیث

1750 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابو بکر بن ابی الجہم فرماتے ہیں کہ میں اور

1749 - أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 21571. مِنْ طَرِيقِ شَيْبَانَ بْنِ فَرُوحٍ وَابْنِ أَسَامَةَ وَعَفَانَ وَغَيْرِهِمْ عَنْ

سَلِيمَانَ بْنِ الْمَغِيرَةَ بِهِ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ قَوْلُهُ: سَيَمَاهِمُ التَّحْلِيْقُ. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

19735، وَالِدَارِمِيُّ جُلْدَ 2 صَفْحَةَ 213-214، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السَّنَةِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 921، وَأَحْمَدُ رَقْمَ

الْحَدِيثِ: 20361، وَمُسْلِمٌ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1067، وَابْنُ مَاجَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 170.

1750 - أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ جُلْدَ 2 صَفْحَةَ 79، وَالْبَيْهَقِيُّ جُلْدَ 2 صَفْحَةَ 301، وَرَوَاهُ غَنْدَرٌ وَابْنُ أَدْرِيسَ وَغَيْرِهِمْ عَنْ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
الْجَهْمِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي
مُلْكِ آلِ الزُّبَيْرِ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا، هَلْ
لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، لَمْ يَجْعَلْ
لِي سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَمْ
يَجْعَلْ لِي سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةً، قَالَ: صَدَقَ ثُمَّ
قَالَ: اِغْتَدِي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ
الْمُهَاجِرِينَ يَأْتُونَهَا وَلَكِنْ اِغْتَدِي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ
مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، وَعَسَى أَنْ تُلْقِينَ
عَنْكَ ثِيَابَكَ أَوْ بَعْضَ ثِيَابِكَ قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا
انْقَضَتْ عِدَّتِي خَطَبَنِي أَبُو الْجَهْمِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ
وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَهُوَ
رَجُلٌ شَدِيدٌ عَلَى النِّسَاءِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ لَا
مَالَ لَهُ قَالَتْ: ثُمَّ خَطَبَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَزَوَّجْتُهُ،
فَبَارَكَ اللَّهُ لِي فِي أُسَامَةَ

ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن عوف، حضرت فاطمہ بنت قیس
رضی اللہ عنہا کے پاس آئے آل زبیر کے دور حکومت
میں، ہم نے ان سے طلاقِ ثلاثہ والی عورت کے متعلق
پوچھا کہ کیا اس کے لیے نفقہ ہے؟ (حضرت فاطمہ رضی
اللہ عنہا نے) فرمایا: مجھے میرے شوہر نے تین طلاقیں
دیں، مجھے سکنی (گھر) و نفقہ (خرچ) نہیں دیا۔ میں
رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور میں نے آپ سے
اس بات کا ذکر کیا، میں نے عرض کی: میرے لیے اس
نے گھر و خرچہ نہیں رکھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے
سچ کہا، پھر آپ نے فرمایا: تو ام شریک کے گھر عدت
گزار، پھر فرمایا: مہاجرین اس کے پاس آتے ہیں تو
عدت ابن ام مکتوم کے گھر گزار، کیونکہ وہ نابینا آدمی ہے
ہو سکتا ہے کہ تیرا کپڑا اتر جائے یا تیرا بعض کپڑا اتر
جائے۔ آپ فرماتی ہیں: پس میں نے ایسے ہی کیا، تو
جب میری عدت گزر گئی تو مجھے ابو جہم نے نکاح کا پیغام
بھیجا، یہ قریش کے ایک آدمی تھے اور معاویہ بن سفیان
نے بھی۔ پس میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور
میں نے آپ سے اس بات کا ذکر کیا، تو رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا: رہا ابو جہم تو وہ عورتوں پر بڑا سخت ہے اور رہ گیا

شعبہ بہ - أخرجه مسلم رقم الحديث: 648، وابن ماجه رقم الحديث: 1256، وابن حبان رقم

الحديث: 1718، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 78، والبيهقي في الشعب رقم الحديث: 5919، ورواه حماد

بن زيد ومعمرو وغيرهما عن أبي عمران به أخرجه الدارمي جلد 1 صفحہ 279، وعبد الرزاق رقم

الحديث: 3782، وأحمد رقم الحديث: 21362-21528، ومسلم رقم الحديث: 648، وأبو داؤد رقم

الحديث: 431، والترمذي رقم الحديث: 176.

معاویہ تو وہ مال دار نہیں ہے۔ آپ فرماتی ہیں: پھر مجھے حضرت اسامہ بن زید نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو میں نے ان سے شادی کر لی، سو اللہ تعالیٰ نے اسامہ کے ساتھ نکاح میں مجھے برکت دی۔

حضرت امام شعبی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، آپ رضی اللہ عنہا نے ہماری مہمان نوازی ان کھجوروں سے کی جنہیں ابن طاب کہا جاتا تھا اور پینے کے لیے ستو دیئے، سو ہم نے ان سے طلاقِ ثلاثہ والی عورت کے متعلق پوچھا کہ وہ عدت کہاں گزارے گی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے اجازت دی تھی کہ میں اپنے گھر ایک سال عدت گزاروں، اس دن لوگوں کو الصلوٰۃ جامعہ کے ساتھ پکارا گیا تھا، سو میں بھی عورتوں کے ساتھ نکلی، اور میں اس پہلی صف میں تھی جو صف مردوں کے آگے والی صف کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: تمہیں داری کے چچا زاد سمندر میں سوار تھے ان

1751 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ أَبُو الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَاتَّحَفْتَنَا بِرُطْبٍ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ طَابٍ، وَسَقْتَنَا سَوِيقَ سُلَيْمٍ، فَسَأَلْنَاهَا عَنِ الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا: أَيْنَ تَعْتَدُ؟ فَقَالَتْ: أَدْنَى لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَعْتَدَ فِي أَهْلِي، أَيْ: أَتَحَوَّلُ وَيَوْمَئِذٍ نُودِي فِي النَّاسِ: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَخَرَجْتُ فِيمَنْ خَرَجَ مِنَ النِّسَاءِ وَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، مِمَّا يَلِي الصَّفَّ الْمُؤَخَّرَ مِنَ الرِّجَالِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَيْنِي عَمَّ لِتَمِيمِ الدَّارِيِّ رَكْبُوا الْبَحْرَ، وَإِنَّ سَفِينَتَهُمْ قَدَفْتَهُمْ إِلَى

1751 - أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 606، وأحمد رقم الحديث: 21465، ومسلم رقم الحديث: 2625، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 6690، وابن حبان رقم الحديث: 514، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 78. ورواه يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أبي عمران به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21540، رواه حماد بن سلمة وغيره عن أبي عمران به أخرجه الحميدي رقم الحديث: 439، والبخاري في الأدب رقم الحديث: 114، وأحمد رقم الحديث: 21364-21418، والترمذي رقم الحديث: 1833، وابن ماجه رقم الحديث: 3362، وابن حبان رقم الحديث: 513، والبيهقي جلد 4 صفحہ 188 وروى من طريق غريب عن الثوري عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 8 صفحہ 357، والخطيب جلد 3 صفحہ 252.

سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ، وَهُنَاكَ دَابَّةٌ يُوَارِيهَا
شَعْرُهَا، فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهَا قَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، ثُمَّ
قَالَتْ: إِنَّ فِي ذَلِكَ الدَّيْرِ مَنْ هُوَ إِلَى رُؤْيَتِكُمْ
بِالْأَشْوَاقِ، فَدَخَلْنَا، فَإِذَا رَجُلٌ مُكَبَّلٌ فِي الْحَدِيدِ
بِضُرُورَةٍ، فَقَالَ: أَخْرَجَ صَاحِبُكُمْ؟ يَعْنِي النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَاتَّبِعُوهُ، ثُمَّ
قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، أَيَطْعِمُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ،
قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبْرِيةِ أَكْثِيرَةُ الْمَاءِ
هِيَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: فَأَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُعْرَ
أَكْثِيرَةُ الْمَاءِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ قَدْ
خَرَجْتُ لَوَطِئْتُ الْبِلَادَ غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ قَالَتْ
فَاطِمَةُ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمُخَصَّرَتِهِ: أَلَا وَهَذِهِ طَيْبَةُ يَوْمَئِذٍ إِلَى
أَرْضِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ مَكَّةَ

کی کشتی کو سمندر نے سمندر کے جزیروں میں سے ایک
جزیرہ میں پھینک دیا، وہاں ایک جانور تھا جو اپنے بالوں
میں چھپا ہوا تھا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو اس نے
کہا: میں جساسہ ہوں، پھر اس نے کہا: اس جزیرہ میں
ایک آدمی ہے، تم میں سے کون اس کو دیکھنے کا شوق رکھتا
ہے۔ پس ہم داخل ہوئے، تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو
بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا: تم کو تمہارے
صاحب یعنی نبی ﷺ نے بھیجا ہے؟ ہم نے کہا: ہاں!
اس نے کہا: اس کی اتباع کرو۔ پھر اس نے کہا: مجھے
کھجوروں کے باغ کے متعلق بتاؤ کہ کیا وہ کھاتے ہیں؟
ہم نے کہا: ہاں! پھر اس نے کہا: مجھے بتاؤ! کیا بحیرہ طبریہ
بہت زیادہ پانی والا ہے؟ ہم نے کہا: ہاں! پھر اس نے
کہا: مجھے زغر چشمہ کے متعلق بتاؤ کہ کیا وہ بہت زیادہ پانی
والا ہے؟ ہم نے کہا: ہاں! اس نے کہا: اگر میں نکلا تو
سارے شہروں کو اپنے قدموں تلے روندوں گا سوائے مکہ
اور مدینہ کے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے عصا
کے ساتھ اشارہ کیا، یعنی سرزمین مدینہ اور مکہ کی طرف۔

317- مَا رَوَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ

زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت سودہ بنت زمعہ کی

نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

1752 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

1752 - أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 5964. وأخرجه ابن سعد جلد 4 صفحه 232 عن عفان وعمرو بن

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا زَوَاجَ فِي حَاجَةِ الْوَدَاعِ: إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُضْرِ قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يُسَافِرْنَ إِلَّا زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ، فَإِنَّهُمَا قَالَتَا: لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةً بَعْدَمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللہ ﷺ نے حجۃ الوداع کے دن اپنی ازواج سے فرمایا: بے شک تمہارا یہ حج ہو گیا اس کے بعد چٹائیوں کی پشتوں کو لازم پکڑو یعنی اپنے گھروں میں ہی رہو پھر فرمایا کہ پھر ان سب نے سفر کیا سوائے زینب اور سودہ کے۔ دونوں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے سننے کے بعد ہم نے اپنی سواری کو حرکت نہیں دی۔

حضرت ضباعہ بنت زبیر اور حضرت
ام فضل رضی اللہ عنہما کی نبی کریم ﷺ
سے روایت کردہ احادیث

318- مَا رَوَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ
الزُّبَيْرِ وَأُمُّ الْفَضْلِ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت

ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ضباعہ بنت زبیر کو حکم دیا کہ وہ حج میں شرط لگائے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے حکم سے ایسے ہی کیا۔

1753- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرَمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَنْ تَشْتَرِطَ فِي الْحَجِّ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عمیر مولیٰ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا

1754- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

عاصم عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت .

1753- أخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 185 . من طريق ابن ادریس وغندر وغيرهما عن شعبة به أخرجه ابن أبي

عاصم في السنة رقم الحديث: 1052، ومسلم رقم الحديث: 1837 .

1754- أخرجه أبو عوانة جلد 2 صفحہ 47 . ورواه غندر وغيره عن شعبة به أخرجه الدارمي رقم الحديث:

1421، وأحمد رقم الحديث: 21361-21467، ومسلم رقم الحديث: 510، وأبو داؤد رقم الحديث:

فرماتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عرفہ کے دن عرفات میں روزہ رکھنے کے متعلق جھگڑنے لگے، حضرت ام الفضل نے کہا: میں تم سے زیادہ اس کے متعلق جانتی ہوں، سو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کی طرف ایک برتن بھیجا تھا، اس میں دودھ تھا، تو آپ نے اسے نوش کیا۔

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ، قَالَ: تَمَارَى النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَتْ أُمُّ الْفَضْلِ: أَنَا أَعْلَمُ لَكُمْ ذَلِكَ، فَبَعَثْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کی

نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ احادیث

319- مَا رَوَتْ أُمُّ سَلِيمٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں

1755- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

702' وابن ماجه رقم الحديث: 952' وابن خزيمة رقم الحديث: 830' وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 47' والبيهقي جلد 2 صفحہ 274. ورواه غير واحد عن حميد بن هلال به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21415-21461' ومسلم رقم الحديث: 510' وأبو داؤد رقم الحديث: 702' والنسائي رقم الحديث: 750' والترمذي رقم الحديث: 338' وابن ماجه رقم الحديث: 3210' وابن حبان رقم الحديث: 2389' وغيرهم. ورواه علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الصامت به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2348' وأحمد رقم الحديث: 21493' والطبراني في الكبير رقم الحديث: 1632.

1755- أخرجه أبو عوانة جلد 2 صفحہ 77. ورواه خالد بن الحارث وغيره عن شعبة به أخرجه الدارمي

جلد 1 صفحہ 279' وأحمد رقم الحديث: 21517' ومسلم رقم الحديث: 648' والنسائي رقم الحديث:

859' من طريق خالد بن الحارث عن شعبة عن أبي نعام عن عبد الله بن الصامت به أخرجه مسلم رقم

الحديث: 648' ورواه أيوب السختياني وغيره عن أبي العالية به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث:

3781' ومسلم رقم الحديث: 648' والنسائي رقم الحديث: 778' وابن خزيمة رقم الحديث:

قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ،
عَنِ ابْنِ بِنْتِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ سُلَيْمٍ،
قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَرِبَ مِنْ فِي قِرْبَةٍ فَقَطَعْتُهَا، وَقُلْتُ: لَا يَشْرَبُ
مِنْهَا أَحَدٌ بَعْدَهُ

فائدہ: یہ حدیث تبرکات کے محترم ہونے کی دلیل ہے اور یہ کہ تبرکات کا ادب و احترام سنت صحابہ کرام ہے۔ اور
یہی عقیدہ و نظریہ ملک اہل سنت و جماعت کا ہے۔

1756 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
هَشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ
عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي الْمَرَاةِ إِذَا حَاضَتْ، وَقَدْ
طَافَتْ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ زَيْدٌ: يَكُونُ آخِرَ
عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَنْفِرُ إِذَا شَاءَتْ،
فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: لَنْ نَتَابِعَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَنْتَ
تُخَالِفُ زَيْدًا، فَقَالَ: سَلُوا صَاحِبَتِكُمْ أُمَّ سُلَيْمٍ،
فَقَالَتْ: حِضْتُ يَوْمًا بَعْدَمَا طُفْتُ بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَنْفِرَ،
وَحَاضْتُ صَفِيَّةَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: حَبَسْتِينَا،
فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْفِرَ

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت
ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کا اس
عورت کے متعلق اختلاف ہو گیا جسے یوم نحر حیض کا خون
آنا شروع ہو جائے حالانکہ وہ طواف کعبہ کر چکی ہو۔ تو
حضرت زید رضی اللہ عنہ کہنے لگے: وہ آخر میں بیت اللہ کا
طواف کرے جبکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ
فرمایا: جب چاہے چلی جائے۔ تو انصار کہنے لگے: اے
ابن عباس! ہم ہرگز آپ کی اتباع نہیں کریں گے کیونکہ
آپ نے حضرت زید کے ساتھ اس مسئلہ میں اختلاف
کیا ہے۔ تو آپ نے جواباً کہا: تم اپنے ساتھی حضرت ام
سلیم رضی اللہ عنہا سے دریافت کر لو۔ تو وہ کہنے لگیں:
طواف کعبہ کے بعد مجھے بھی ماہواری لاحق ہو گئی تو مجھے

1637-1639، وابن حبان رقم الحديث: 1482، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 78، والبيهقي جلد 2

صفحہ 299 .

1756- أخرجه ابن أبي شيبة رقم الحديث: 10507، وابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 717، وأحمد رقم

الحديث: 21438-21515، ومسلم رقم الحديث: 2624، وابن ماجه رقم الحديث: 4225، والبيهقي

في الشعب رقم الحديث: 6999-7000 . ورواه حماد بن زيد عن أبي عمران به .

بھی رسول اکرم ﷺ نے نکل جانے کا حکم دیا تھا، اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی اس بیماری میں مبتلا ہوئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں کہ تو نے ہمیں روک لیا ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے انہیں بھی نکل جانے کا حکم صادر فرمایا۔

حضرت زینب ثقفیہ رضی اللہ عنہا

کی نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ احادیث

حضرت زینب ثقفیہ زوجہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ جب تو نمازِ عشاء کے لیے آئے تو خوشبو لگا کر نہ نکلا کر۔

حضرت زینب ثقفیہ زوجہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورتوں کو حکم دیا کہ صدقہ ادا کیا کرو اگرچہ وہ زیورات سے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے حضرت عبد اللہ (بن مسعود) رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا میرے لیے کافی ہے کہ میں اپنی زکوٰۃ آپ کو اور اپنی بھائی کے بیٹے اور اپنی بہن کے یتیم بیٹوں کو دوں۔ اور حضرت عبد اللہ غریب آدمی

320- مَا رَوَتْ زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1757 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ لَا تَمَسَّ الطِّيبَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

1758 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبِ الثَّقَفِيَّةِ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنِّسَاءِ: تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ فَقَالَتْ زَيْنَبُ لِعَبْدِ اللَّهِ: أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِيكَ وَفِي بَنِي أَخِي أَوْ أُخْتِي أَيَتَامٍ؟ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ خَفِيفَ ذَاتِ

تھے انہوں نے فرمایا کہ تو اس بارے رسول اللہ ﷺ سے پوچھ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی وہاں انصار کی ایک عورت تھی اس کو بھی زینب کہا جاتا تھا۔ وہ بھی وہی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی جو میں پوچھنے آئی تھی حضرت بلال ہمارے پاس آئے ہم نے ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھو اور ہمارے بارے نہ بتانا کہ ہم کون ہیں کہ کیا ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ اپنے بھتیجیوں اور بھانجیوں کو دے دیں جو ہماری پرورش میں ہیں اور وہ یتیم ہیں؟ تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ سے اس بات کا ذکر کیا آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کون سی زینب ہیں؟ (حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے) عرض کیا: زینب زوجہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک زینب انصار کی عورت۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: ان کو بتا دے کہ ان دونوں کے لیے دو اجر ہیں: (۱) ایک رشتہ داری کا (۲) اور ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا۔

حضرت ام حصین الاحمسیہ رضی اللہ

عنہا کی نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

حضرت حصین الاحمسی فرماتے ہیں کہ مجھے میری

دادی حضرت حصین الاحمسیہ نے بتایا کہ میں نے رسول

الْبَيْدِ، فَقَالَ: سَلِي عَنْ ذَاكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ زَيْنَبُ: فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، جَاءَتْ تَسْأَلُ عَمَّا جِئْتُ أَسْأَلُ عَنْهُ، فَخَرَجَ إِلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا لَهُ: سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ: أَيُجِزُ عَنِّي أَنْ أَضَعَ صَدَقَتِي فِي بَيْتِي أَخِي أَيْتَامٍ أَوْ بَيْتِي أُخْتِي أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي؟ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَيُّهُ، فَقَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ هِيَ؟ فَقَالَ: زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَزَيْنَبُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْبِرْهُمَا أَنَّ لَهُمَا أَجْرَيْنِ أَجْرَ الْقَرَابَةِ وَأَجْرَ الصَّدَقَةِ

321- امُّ حُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1759 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ، قَالَ: أَخْبَرْتَنِي

جَدَّتِي حُصَيْنُ الْأَحْمَسِيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدًا حَبَشِيًّا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَاطِيعُوا

اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: اگر تم پر حبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے جو کتاب اللہ کو پڑھنے والا ہو تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔

1760 — حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ

حضرت ام حنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول

حُصَيْنٍ، عَنْ جَدَّتِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً

اللہ ﷺ نے سر منڈانے والوں کے لیے تین مرتبہ دعا کی اور قصر کرنے والوں کے لیے ایک مرتبہ۔

1760 - أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 159 . وأخرجه البزار رقم الحديث: 3948 عن محمد بن معمر

عن أبي داؤد الطيالسی به مطولاً وليس فيه لفظه شفاء سقم . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 14

صفحہ 315-319، وأحمد رقم الحديث: 21565-21566، والدارمی رقم الحديث: 2642-2527،

ومسلم رقم الحديث: 2514-2473، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثانی رقم الحديث: 989، وابن

حبان رقم الحديث: 7133، والبيهقی في الدلائل جلد 2 صفحہ 208، وفي السنن جلد 5 صفحہ 147

كلهم من طرق عن سليمان بن المغيرة به مطولاً ومنهم من اختصره . أخرجه مسلم رقم الحديث:

2473، والبزار رقم الحديث: 3929-3846-3947-3949، والطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 106،

وفي الكبير جلد 2 صفحہ 163، وأبو نعيم في أخبار أصبهان جلد 2 صفحہ 224، وفي الحلية جلد 1

صفحہ 159، كلهم من طرق عن حميد بن هلال وعند البزار والطبرانی في الصغير لفظه شفاء سقم .

أخرجه أحمد رقم الحديث: 21575، وفي الفضائل رقم الحديث: 1665، ومسلم رقم الحديث: 2514،

من طريق أبي داؤد الطيالسی والخطيب في تاريخه جلد 5 صفحہ 426، كلهم من طريق شعبة عن أبي

عمران الجونى عن عبد الله بن الصامت به مقتصرًا على قوله أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها .

وللحديث وجهان آخران عن أبي ذر فرواه ابن عباس وأبي ليلى الأشعري عنه أخرجه البخارى رقم

الحديث: 3861، ومسلم رقم الحديث: 3774، والبزار رقم الحديث: 3888، وابن سعد في الطبقات

جلد 4 صفحہ 224، والحاكم جلد 3 صفحہ 338، وأبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 158، كلهم من طريق

ابن عباس . من طريق أبي ليلى الأشعري أخرجه الحاكم جلد 3 صفحہ 339، وأبو نعيم في الحلية

جلد 1 صفحہ 157 .

322- وَأُمُّ كَلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ
عنها کی نبی کریم ﷺ سے
روایت کردہ حدیث

حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت

ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو دو آدمیوں کے
درمیان صلح کروائے (جھوٹ بول کر) وہ جھوٹا نہیں ہے
اور فرمایا: وہ بھلائی کر رہا ہے یا بھلائی کو بڑھا رہا ہے۔

1761- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كَلْثُومٍ
بِنْتِ عُقْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: لَيْسَ الْكَاذِبُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَقَالَ
خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا

323- وَبُسْرَةَ بِنْتُ صَفْوَانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت بسرہ بنت صفوان رضی اللہ
عنها کی نبی کریم ﷺ سے
روایت کردہ حدیث

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

1762- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1761- أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 4261-4409 وابن ماجه رقم الحديث: 3958 والحاكم
جلد 4 صفحہ 424 والبيهقي جلد 8 صفحہ 191-269. ورواه شعبة وحماد بن سلمة وغيرهما عن أبي
عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت به ليس فيه المنبعث ويقال المشعث أخرجه عبد الرزاق رقم
الحديث: 20729 وابن أبي شيبة رقم الحديث: 18970، وأحمد رقم الحديث: 21363-21483 وابن
حبان رقم الحديث: 5960-6685 والحاكم جلد 2 صفحہ 156-157، وأبو نعيم في الحلية جلد 8
صفحہ 251 والبيهقي جلد 8 صفحہ 191.

1762- أخرجه أحمد رقم الحديث: 21390-21481-12583 والبخاري رقم الحديث: 4803-7424 ومسلم

رقم الحديث: 159، الترمذی رقم الحديث: 2186-3227 والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 11430

کہ مروان نے انہیں حضرت بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تو انہوں (حضرت بسرہ) نے نبی اکرم ﷺ کے حوالہ سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے ذکر کو مس کیا وہ وضو کرے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ، أَرْسَلَ إِلَيَّ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ يَسْأَلُهَا، فَحَدَّثْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ

عنہا کی نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

324- وَقِيلَةُ بِنْتُ مَخْرَمَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو فجر کی نماز پڑھائی، اس وقت جب فجر ظاہر ہو چکی تھی اور ستارے آسمان پر چمک رہے تھے، اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچانا نہیں ج رہا تھا اور مرد حضرات نہیں پہچان سکتے تھے۔

1763 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَسَّانَ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَدَّتَايَ، دُحَيْبَةُ وَصَفِيَّةُ بِنْتَا عَلِيَّةَ، عَنْ رَبِيئَتَيْهِمَا وَجَدَّةِ أَبِيهِمَا قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنُّجُومُ شَابِكَةٌ فِي

وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 108، وابن حبان رقم الحديث: 6152-6154 وغيرهم . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 21338-21497، ومسلم رقم الحديث: 159، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 107، وابن حبان رقم الحديث: 6153 من طريق ابراهيم التيمي به .

1763 - أخرجه البزار رقم الحديث: 4016-4017، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 1549-1551، وابن حبان رقم الحديث: 1610، والطبرانی في الصغير جلد 2 صفحہ 120-138، وأبو نعيم في الحلية جلد 4 صفحہ 217، والبيهقي جلد 2 صفحہ 437، وابن عساكر جلد 1 صفحہ 319 كلهم مرفوعًا . وأخرجه موقوفًا الطحاوي في المشكل رقم الحديث: 1552، وقد اختلف في رفع هذا الحديث ووقفه انظر علل الدارقطني جلد 6 صفحہ 274، وعلل ابن أبي حاتم رقم الحديث: 261 .

السَّمَاءِ، مَا تَكَادُ تَعَارَفُ مَعَ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ،
وَالرِّجَالُ مَا تَكَادُ تَعَارَفُ

حضرت ام بجید رضی اللہ عنہا کی

نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

325- وَأُمُّ بَجِيدٍ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت عبدالرحمن بن بجید اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! سائل آتا ہے تو میرے دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہوتا جو میں اس کو دوں آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو دے اگرچہ جلی ہوئی ہڈی ہی کیوں نہ ہو۔

1764 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَجِيدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَجِيءُ السَّائِلُ فَيَقُومُ عَلَيَّ بَابِي، وَكَيْسَ عِنْدِي مَا أَدْفَعُ إِلَيْهِ، قَالَ: أَعْطِيهِ وَلَوْ ظُلْفًا مُحْرَقَةً

حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا کی

نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

326- وَأُمُّ جَنْدَبٍ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت سلیمان بن عمرو بن احوص فرماتے ہیں کہ

1765 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1764 - أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 4 صفحہ 216 . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21459-21506 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 11069 وابن خزيمة رقم الحديث: 787 والطبري جلد 4 صفحہ 8-9 وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 392 . من طرق عن الأعمش به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21371-21420-21427-21428-21459 والبخاري رقم الحديث: 3366-3425 ومسلم رقم الحديث: 520 وابن ماجه رقم الحديث: 753 والنسائي رقم الحديث: 689 .

1765 - قال الامام أحمد كما في جامع العلوم والحكم جلد 2 صفحہ 177: هو أشرف حديث لأهل الشام .

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَدَّتِي، أَوْ أُمِّي تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ وَقَدْ أزدَحَمَ النَّاسُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

میں نے اپنی دادی یا اپنی والدہ کو بیان کرتے سنا کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے سنا، جمرہ کو کنکری مارتے اس وقت لوگوں کا ہجوم تھا، آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اپنے آپ کو قتل نہ کرو، تم ٹھیکری کی مثل کنکری مارو۔

حضرت انیسہ رضی اللہ عنہا کی

نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

327- وَأُنَيْسَةُ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1766 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

والحدیث أخرجه مسلم رقم الحديث: 2577، وأحمد رقم الحديث: 21458، عن عبد الصمد زاد أحمد: عبد الرحمن كلاهما عن همام به . من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي ادريس الخولاني عن أبي ذر به مطولاً مسلم رقم الحديث: 2577، والحاكم جلد 4 صفحہ 241، والبيهقي جلد 6 صفحہ 93، وفي الشعب جلد 5 صفحہ 405 .

1766- أخرجه البزار رقم الحديث: 3999 . من طريق الأعمش عن المعرور به أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 1035، وأحمد رقم الحديث: 21398-21526، ومسلم رقم الحديث: 2687، وابن ماجه رقم الحديث: 3821، والبزار رقم الحديث: 3988، والبيهقي في شعب الايمان رقم الحديث: 7048 . من طريق عاصم بن أبي النجود عن المعرور به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21605-21414-21353، وابن منده في الايمان رقم الحديث: 79، والحاكم جلد 4 صفحہ 241، وأبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 248 . من طريق ربعي بن حراش عن المعرور به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21349 . انظر علل الدارقطني جلد 6 صفحہ 265 وليس عند من تقدم قوله ومن هم بحسنة..... لم يكتب عليه شيء وقد أخرجه مستقلة الطبراني في الصغير جلد 1 صفحہ 180 من وجه آخر عن أبي ذر ولها شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري رقم الحديث: 6491، ومسلم رقم الحديث: 131 .

بلال اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما دونوں نبی اکرم ﷺ کے زمانہ پاک میں اذان دیتے تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلال رات کو اذان دیتے ہیں تم کھایا اور پیا کرو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان دے سو ہم حضرت ابن ام مکتوم کو اذان دینے سے روک لیتے تھے ہم کہتے کہ ٹھہرو! ہمیں سحری کرنے دو ٹھہرو! ہمیں سحری کرنے دو اور ان دونوں کی اذان کے درمیان فرق یہ تھا کہ یہ (حضرت بلال رضی اللہ عنہ) اترتے تھے اور یہ (ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ) چڑھ رہے ہوتے تھے۔

دَاوُدُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي أُنَيْسَةُ، قَالَتْ: كَانَ بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بِلَالَ لَا يُؤَذِّنُ بَلِيلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُنَّا نَحْبِسُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَنِ الْأَذَانِ فَنَقُولُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ، كَمَا أَنْتَ حَتَّى نَتَسَحَّرَ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ آذَانِهِمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَضَعَدَ هَذَا

حضرت معقل الاشجعیہ رضی اللہ

عنہا کی نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

328- وَأُمُّ مَعْقِلٍ الْأَشْجَعِيَّةُ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابو بکر بن حارث بن ہشام القرشی فرماتے ہیں کہ مروان نے حضرت ام معقل کی طرف قبیلہ اشجع کی عورت کو بھیجا اس عورت نے کہا: میرے ذمہ عمرہ تھا میرا شوہر اللہ کی راہ میں مال دے رہا تھا میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ مجھے دے دے میں اس سے عمرہ کر لوں گی

1767 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بَنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ الْقُرَشِيِّ، يَقُولُ: أَرْسَلَ مَرْوَانَ بَنَ الْحَكَمِ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ امْرَأَةٍ مِنْ أَشْجَعٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: كَانَتْ عَلَيَّ

1767- أخرجه أحمد رقم الحديث: 21360-21463-21572، والدارمي رقم الحديث: 2770، والخطيب في

التاريخ جلد 8 صفحہ 376. من طريق الأحنف أخرجه أحمد رقم الحديث: 21462، والبخاري رقم

الحديث: 1408، ومسلم رقم الحديث: 992. من طريق سالم بن أبي الجعد أخرجه أحمد رقم

الحديث: 21367. من طريق عبيد الله بن عباس عن أبي ذر أخرجه البزار رقم الحديث: 3899.

وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة بنحو لفظ المصنف أخرجه أحمد رقم الحديث: 10577.

اس نے کہا: میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ سو میں نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں آئی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بے شک حج و عمرہ اللہ کی راہ سے ہے پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کو عطیہ دے تاکہ وہ اس سے عمرہ کر لے۔

عُمْرَةً، وَإِنَّ زَوْجِي جَعَلَ بَكْرًا لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَنِيهِ أَعْتَمِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَأَمْرُهُ أَنْ يُعْطِيَهَا تَعْتَمِرُ عَلَيْهِ

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: رمضان میں عمرہ کرنا حج کی طرح ہے یا فرمایا: تیرے لیے حج سے کفایت کرے گا۔ حضرت شعبہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بشر نے حضرت سعید بن جبیر کے حوالے سے روایت بیان کی مجھ سے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ حکم اسی عورت کے لیے خاص ہے۔

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ أَوْ قَالَ تُجْزِئُ بِحَجَّةٍ قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثَنِي أَبُو بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ خَاصَّةً

حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی

بیٹی کی نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے روایت

329- وَابْنَةُ خَبَّابٍ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1768 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1768- أخرجه البيهقي في الشعب رقم الحديث: 3683 من طريق وهيب به أخرجه الطحاوي جلد 1 صفحہ 349 ورواه غير واحد عن داؤد بن أبي هند منهم محمد بن فضيل وهشيم وبشر بن المفضل والثوري وعلي بن عاصم وسلمة بن علقمة وغيرهم. أخرج أحاديثهم عبد الرزاق رقم الحديث: 7706، وأحمد رقم الحديث: 21457، والدارمي رقم الحديث: 1784-1785، وأبو داؤد رقم الحديث: 1375، وابن ماجه رقم الحديث: 1327، والترمذی رقم الحديث: 806، والنسائي رقم الحديث: 1604-1363، وابن خزيمة رقم الحديث: 2206، وابن حبان رقم الحديث: 2547، والبيهقي

قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنَةِ حَبَّابٍ، أَنَّهَا آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ، فَاعْتَقَلَهَا، فَحَلَبَهَا، وَقَالَ: ائْتِنِي بِأَعْظَمِ إِنَاءٍ لَكُمْ فَاتَيْنَاهُ بِجَفْنَةِ الْعَجِينِ فَحَلَبَ فِيهَا حَتَّى مَلَأَهَا ثُمَّ قَالَ: اشْرَبُوا أَنْتُمْ وَجِيرَانُكُمْ

ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بکری لے کر آئی، تو آپ نے اسے باندھا اور اس کا دودھ دوہا، آپ نے فرمایا: میرے پاس تم اپنا بڑا برتن لے کر آؤ، سو میں ایک بڑا برتن لائی تو آپ نے اس میں دودھ دوہا، یہاں تک کہ وہ بھر گیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: خود بھی پیو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی پلاؤ۔

حضرت فریجہ حضرت ابوسعید کی

بہن کی نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

حضرت زینب، حضرت فریجہ جو کہ ابوسعید کی ہمشرہ

330- وَفُرَيْعَةُ أُخْتُ

أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1769 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

جلد 2 صفحہ 494 وفی بعض الفاظہم اختلاف وقال الترمذی حسن صحیح ورواه أبو الزاہریة عن جبیر بن نفیر باختلاف یشیر فی لفظہ . أخرجه ابن خزيمة رقم الحدیث: 2205 من طریق معاویة عن أبی الزاہریة به .

1769 - أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 1211، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 40، والبیہقی جلد 5 صفحہ 165، وفی الشعب رقم الحدیث: 3444 . وقال الترمذی: حسن صحیح . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحدیث: 21356-21473، والدارمی رقم الحدیث: 2608، ومسلم رقم الحدیث: 106، وأبو داؤد رقم الحدیث: 4087، وابن ماجہ رقم الحدیث: 2208، والنسائی رقم الحدیث: 2562-4470، وفی الکبریٰ رقم الحدیث: 1013، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 40، والبیہقی فی الشعب رقم الحدیث: 4851 . من طریق المسعودی عن علی بن مدرک به أخرجه أحمد رقم الحدیث: 21442-21584، وابن ماجہ رقم الحدیث: 2208 . من طریق سلیمان بن مسهر عن خرشة ابن الرحبة أخرجه أحمد رقم الحدیث: 21519، ومسلم رقم الحدیث: 106، وأبو داؤد رقم الحدیث: 4088، والنسائی رقم الحدیث: 2563-4471-5348، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 39، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 3487 .

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ فُرَيْعَةَ، أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ زَوْجَهَا، تَبِعَ أَعْلَاجًا فَقَتَلُوهُ، وَهِيَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْمَدِينَةِ، فَاتَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، وَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ تَأْتِيَ إِخْوَاتَهَا فَتَعْتَدُ عِنْدَهُمْ، فَأَذِنَ لَهَا، ثُمَّ دَعَاَهَا أَوْ دُعِيَتْ لَهُ فَقَالَ: اْمْكِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي آتَاكَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

تھیں سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے خاوند نے کافروں کا تعاقب کیا تو انہوں نے اسے شہید کر دیا حالانکہ آپ شہر مدینہ کی ایک بستی میں قیام پذیر تھیں، تو وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس تشریف لائیں اور سارا ماجرا گوش گزار کر دیا اور انہوں نے اپنے بھائی کے گھرایامِ عدت گزارنے کی اجازت طلب کی تو آپ ﷺ نے انہیں اجازت عطا فرمادی۔ بعد ازیں آپ ﷺ نے مجھے یا میرے بھائی کو بلوا کر فرمایا کہ تو اس گھر میں عدت کے دن گزار جہاں تجھے اپنے خاوند کی موت کی خبر موصول ہوئی تھی حتیٰ کہ عدت کے دن مکمل ہو جائیں۔

حضرت أم رومان رضی اللہ عنہا کی
نبی کریم ﷺ سے روایت
کردہ حدیث

331- وَأُمُّ رُومَانَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

حضرت أم رومان، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی

1770 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1770- أخرجه البيهقي جلد 9 صفحہ 160. من طرق عن الأسود به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21570، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 2784، والحاكم جلد 2 صفحہ 88، والبيهقي في الشعب رقم الحديث: 9549. ورواه سعيد الجريري واختلف عليه فقال معمر عن الجريري عن أبي العلاء عن أبي ذر ولم يذكر مطرفاً. أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 20282-20285، وأخرجه ابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 1212، عن معمر عن رجل عن أبي العلاء عن أبي ذر مختصراً ورواه ابن عليه وعبد الأعلى وحماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن الجريري عن أبي العلاء عن ابن الأحمس من أبي ذر أخرجه أحمد رقم الحديث: 21378، والمروزي في قيام الليل صفحہ 177، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 2782-2783، والحديث يروي من وجه آخر عن أبي ذر أخرجه أحمد رقم الحديث: 21393-21394، والترمذي رقم الحديث: 2568، والنسائي رقم الحديث: 1614-2569،

والدہ فرماتی ہیں: اس دوران کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک میرے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے اس طرح اس طرح کرے میں نے کہا: کیوں؟ اس نے کہا: اس نے راز ظاہر کیا ہے یعنی حضرت عائشہ کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کیا یہ بات رسول اللہ ﷺ سے سنی ہے؟ اس نے کہا: ہاں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: یہ بات حضرت ابو بکر نے سنی ہے انہوں نے کہا: جی ہاں! حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی چیز لی وہ کھڑی نہیں ہوئیں مگر بخار کی حالت میں سو میں نے ان پر ان کا کپڑا ڈالا۔ پس رسول اللہ ﷺ داخل ہوئے آپ نے فرمایا: اس کا کیا حال ہے! میں نے کہا: مجھے شدید بخار ہے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شاید اس بات کی وجہ سے جو اس کے متعلق کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی گئی کہا: اللہ کی قسم! اگر میں قسم اٹھاؤں تو آپ میری تصدیق نہیں کریں گے۔ اور اگر میں بات کروں تو آپ میری بات نہیں مانیں گے اور میری مثال اور تمہاری مثال حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کی طرح ہے (جو انہوں نے کہا تھا:)" وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ " اللہ سے مدد چاہنے والا ہوں جو تم بیان کرتے ہو فرمایا کہ پس اللہ عزوجل نے

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثْتَنِيْ أُمُّ رُومَانَ أُمَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ بَيْنَا أَنَا قَاعِدَةٌ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: وَمَا لَهُ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ أَفْشَى الْحَدِيثِ - يَعْنِي ذَكَرَ عَائِشَةَ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعَ بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَسَمِعَ بِهَذَا أَبُو بَكْرٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَآخَذَهَا شَيْءٌ، مَا قَامَتْ إِلَّا بِحُمَى، فَالْقَيْتُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَخَذْتُهَا حُمَى بِنَافِضٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَعَلَّهُ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ حُدَيْثٍ بِهِ فَقَعَدَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَئِنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّقُونِي، وَلَئِنْ قُلْتُ لَا تَقْبَلُوا مِنِّي، وَمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ إِلَّا كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَبَنِيهِ، (وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوْنَ) (يوسف: 18)، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عُذْرَهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكَ وَلَا بِحَمْدِ أَحَدٍ

وابن خزيمة رقم الحديث: 2456-2564 و ابن حبان رقم الحديث: 3349-3350 والحاكم

جلد 1 صفحہ 416 من طرق عن منصور بن المعتمر عن ربعي عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر انظر علل

الدارقطني جلد 6 صفحہ 241 .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا عذر نازل کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں، آپ کی تعریف بھی نہیں کرتی اور کسی کی بھی نہیں۔

حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا

کی نبی کریم ﷺ سے

روایت کردہ حدیث

332- وَأُمُّ عُمَارَةَ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1771- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ زَيْدٍ

الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَيْلَى،

تُحَدِّثُ عَنْ جَدَّتِهَا أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، أَنَّهَا

سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ

صَائِمٍ يُؤْكَلُ عِنْدَهُ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى

يَشْبَعُوا وَقَالَ مَرَّةً: حَتَّى يَفْرُغُوا

حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت

ہے کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے سنا: جو آدمی روزہ کی حالت میں ہو اس کے پاس لوگ کھائیں تو فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ سیر ہو کر کھالیں اور ایک مرتبہ فرمایا: یہاں تک کہ وہ فارغ ہو جائیں۔

1771- أخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 285 . أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2400، عن ابن جريج عن عمرو

بن دينار عن رجل سماه عن أبي ذر به بنحوه وفيه زيادة . أخرجه عبد الرزاق كذلك رقم

الحديث: 2402 عن معمر وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن رجل من بني غفار عن أبي بصرة عن أبي

ذر بنحو سابقه . أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2405، وابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 412 عن ابن

عيينة عن عمرو ابن دينار عن محمد بن طلحة وعبد الله بن عياش عن أبي ذر موقوفاً .

333- مَا أَسْنَدَ جَابِرُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ

مَا رَوَى عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ

عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ

1772- حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ صَائِمًا حَتَّى آتَى كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَالنَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَاةً وَرُكْبَانًا، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ نَاسًا قَدْ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ كَيْفَ فَعَلْتَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَرَفَعَهُ وَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ، فَصَامَ بَعْضُ النَّاسِ

جو حدیثیں حضرت جابر بن عبد اللہ

انصاری رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب

ہیں جو انہوں نے حضرت محمد بن علی بن

حسین رضی اللہ عنہم سے روایت کیں

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں

کہ رسول اللہ ﷺ فتح کے سال روزہ کی حالت میں نکلے، حتیٰ کہ آپ مقام کراع الغمیم کے پاس پہنچے اور لوگ بھی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کچھ پیدل اور کچھ سوار تھے، یہ ماہ رمضان میں ہوا تھا۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! لوگ روزہ کی حالت میں ہیں، ان پر روزہ کی شدت ہے اور وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پس رسول اللہ ﷺ نے پانی منگوا یا پیالے میں، سو اس کو بلند کیا اور پیا، اور لوگ دیکھ رہے تھے، بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے افطار

1772- عزاه البوصیری فی الاتحاف رقم الحدیث: 1335-1336 للمصنف . عن ابن عیینة به أخرجه عبد

الرزاق رقم الحدیث: 2404 . وقد رواه الثوری واختلف علیه فروی عنه عن ابن ابی لیلی وهو محمد

عن أخیه عیسی عن أبیه عبد الرحمن بن ابی لیلی عن ابی ذر مرفوعًا مثل حدیث ابن ابی نجیح عند

المصنف أخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 2403، وأحمد رقم الحدیث: 21484، والبزار رقم

الحدیث: 4021 . وروی عنه عن محمد بن ابی لیلی عن عبد الله بن عیسی عن عبد الرحمن بن ابی

لیلی أخرجه ابن خزیمة رقم الحدیث: 916، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 1429 . من طریق

ابن نمیر عن ابن ابی لیلی بنفس طریق الثوری والأول أخرجه ابن ابی شیبة جلد 2 صفحہ 411 . من

طریق ایوب عن ابی ذر موقوفًا أخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 2401 .

کیا ہوا تھا۔ نبی اکرم ﷺ کو خبر دی گئی کہ بعض روزہ کی حالت میں ہیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہی لوگ نافرمان ہیں۔

وَأَفْطَرَ بَعْضٌ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بَعْضَهُمْ صَائِمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُولَئِكَ الْعُصَاةُ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ منورہ میں کھڑے ہوئے تو تاریخ کو آپ نے حج نہیں کیا تھا، پھر لوگوں کے لیے اعلان حج کیا تو بہت زیادہ لوگ حج کے لیے تیار ہو گئے، جو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جانے کے لیے نکلے، پس آپ نکلے حتیٰ کہ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو حضرت اسماء بنت عمیس کے ہاں حضرت محمد بن ابی بکر صدیق پیدا ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کی طرف انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ سے پوچھیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: غسل کر لے اور کپڑا رکھ لے، پھر حلال ہو جا۔ پس انہوں نے ایسے ہی کیا، پھر جب رسول اللہ ﷺ اونٹنی پر بیٹھ گئے، تو آپ نے تلبیہ پڑھا، اور ہم نے بھی تلبیہ پڑھا، ہماری

1773 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعًا لَمْ يَحْجَّ، ثُمَّ أَذِنَ لِلنَّاسِ فِي الْحَجِّ، وَفِيهَا نَاسٌ كَثِيرٌ يُرِيدُونَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا آتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ، فَقَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَتْفِرِي، ثُمَّ أَهْلِي فَفَعَلْتُ، قَالَ: فَلَمَّا اطْمَأَنَّ صَدْرُ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ

1773 - عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 1761 للمصنف . من طرق عن الأعمش عن عمرو عن أبي

البختری عن أبي ذر مطولاً أخرجه أحمد رقم الحديث: 21401-21507، وهناد في الزهد رقم

الحديث: 1081، والبيهقي جلد 6 صفحہ 82، وفي الشعب رقم الحديث: 7619. والحديث يرويه أبو

الأسود الديلي وأبو سلام وأبو سعيد مولى المهري عن أبي ذر أخرجه أحمد رقم الحديث: 21588،

ومسلم رقم الحديث: 1006، وأبو داؤد رقم الحديث: 5243-5244-1285، والنسائي في الكبرى رقم

الحديث: 9028 وسقط منه ذكر أبي الأسود وابن حبان رقم الحديث: 41679، والبيهقي جلد 4

صفحہ 188 من طريق أبي الأسود به . من طريق أبي سلام ضمن حديث طويل أخرجه أحمد رقم

الحديث: 21520، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 9027. من طريق أبي سعيد مولى المهري

أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 4192.

نیت صرف حج کی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے دائیں بائیں میرے پیچھے پیدل اور سوار لوگ ہی لوگ تھے پس ہم نکلے اور ہمارا ارادہ صرف حج ہی کا تھا۔ تو رسول اللہ ﷺ آئے آپ پڑھ رہے تھے: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ" سو ہم چلے ہم حج کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے تھے جس کے لیے ہی ہم نکلے تھے اور رسول اللہ ﷺ ہمارے ساتھ تھے اور قرآن بھی نازل ہو رہا تھا اور آپ اس کی تاویل (یعنی تفسیر) کو جانتے ہیں اور آپ وہ وہی عمل کرتے تھے جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا یہاں تک کہ ہم مکہ مکرمہ آئے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے طواف کی ابتداء حجر اسود سے کی اس کو استلام کیا پھر سات مرتبہ طواف کیا اس میں تین مرتبہ رمل کیا اور چار مرتبہ چلے پھر یہ آیت تلاوت کی: "مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو" کہا کہ آپ نے دو رکعت ادا کیں۔ میرے والد فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ ان میں قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھی جائے اور یہ الفاظ حضرت جابر کی حدیث میں مذکور نہیں پھر حضرت جابر کی حدیث کی طرف پلٹے فرمایا کہ پھر آپ رکن کے پاس آئے تو اس کو استلام کیا پھر آپ صفا کی طرف گئے آپ نے فرمایا: ہم اس سے ابتداء ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح اللہ نے ابتداء کی اور آیت پڑھی: "صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں"۔ کہا کہ آپ صفا پر چڑھے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ أَهْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلَنَا لَا نَبِيَّ إِلَّا الْحَجُّ، قَالَ جَابِرٌ: فَنَظَرْتُ مَدَّ بَصْرِي وَمِنْ وَرَائِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي مِنَ النَّاسِ مُشَاءَةً وَرُكْبَانًا، فَخَرَجْنَا لَا نَعْرِفُ إِلَّا الْحَجَّ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ فَانْطَلَقْنَا لَا نَعْرِفُ إِلَّا الْحَجَّ، لَهُ خَرَجْنَا، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَنَا، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُ بِمَا أُمِرَ بِهِ، حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، فَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجْرِ، فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ طَافَ سَبْعًا، رَمَلَ فِي ذَلِكَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) (البقرة: 125)، قَالَ: صَلَّى رُكْعَتَيْنِ، قَالَ أَبِي: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: ثُمَّ أَتَى الرُّكْنَ فَاسْتَلَمَهُ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا قَالَ: نَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، وَقَالَ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) (البقرة: 158)، قَالَ: فَرَفِقَى عَلَى الصَّفَا حَتَّى بَدَأَ لَهُ الْبَيْتُ، وَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحُدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،

يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ يَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَمَشَى حَتَّى آتَى بَطْنَ الْمَسِيلِ سَعَى حَتَّى إِذَا أَصْعَدَ قَدَمَيْهِ فِي الْمَسِيلِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى إِذَا آتَى الْمَرْوَةَ، فَصَعِدَ حَتَّى بَدَأَ لَهُ الْبَيْتُ، فَكَبَّرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هَكَذَا كَمَا فَعَلَ يَعْنِي عَلَى الصَّفَا ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، فَلَوْ آتَى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَاحْلُوا وَقَدِمَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَرَأَى النَّاسَ قَدْ حَلُّوا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِي شَيْءٌ أَهْلَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ أَهْلُ بِمَا أَهَلَ بِهِ رَسُولُكَ، قَالَ: فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلَّ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيُّ عَلَى فَاطِمَةَ وَقَدْ اُكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا، فَاذْكُرْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ فَقَالَتْ: أَمَرَنِي بِهِ أَبِي، فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ: فَكَانَ عَلَيُّ يُحَدِّثُ بِالْعِرَاقِ، قَالَ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ فِي الْيَدَى ذَكَرْتُ، فَقَالَ: صَدَقْتُ، أَنَا أَمَرْتُهَا قَالَتْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً وَنَحَرَ عَلِيُّ مَا غَبَرَ، وَكَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ قِطْعَةً، فَطَبَخَ فَأَكَلَ هُوَ وَعَلِيُّ، وَشَرِبَا مِنَ الْمَرْقَةِ، وَقَالَ

یہاں تک کہ آپ کو خانہ کعبہ واضح نظر آنے لگا اور آپ نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اور یہ پڑھا: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" پھر ان کے درمیان دعا کی۔ کہا کہ پھر آپ اترے پس آپ چلے یہاں تک کہ بطن المسیل پر سعی کی (مسیل، اخضر سے پہلے صفا و مروہ کے درمیان کی وادی کا نام ہے) حتیٰ کہ جب بطن مسیل میں اترے پھر آپ چلے یہاں تک کہ مروہ پر آئے اس پر چڑھے یہاں تک کہ آپ کو خانہ کعبہ نظر آنے لگا۔ آپ نے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اسی طرح پڑھا جیسے صفا پر پڑھا تھا پھر اترے فرمایا: جس کے پاس قربانی نہیں وہ حلال ہو جائے اور اس کو عمرہ بنا لے اور اگر مجھے اس معاملے کا پہلے پتہ ہوتا جو مجھے بعد میں معلوم ہوا تو میں بھی اسے عمدہ بنا لیتا پس انہوں نے احرام کھول دیئے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یمن سے تشریف لائے آپ نے لوگوں کو دیکھا وہ حلالی ہو گئے ہیں۔ تو نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا: کس شی کے ساتھ تم نے احرام باندھا؟ کہا کہ میں نے کہا: اے اللہ! میں اسی کا احرام باندھتا ہوں جس کے ساتھ تیرے رسول نے احرام باندھا ہے۔ فرمایا کہ میرے پاس قربانی ہے تو میں حلالی نہ ہوں۔ کہا: میں (حضرت علی) حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور انہوں نے سرمہ لگایا ہوا تھا اور رنگ دار

سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ، دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ وَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ

کیڑے پہنے ہوئے تھے، آپ نے اس کو ناپسند کیا، (حضرت علی رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: کس نے آپ کو یہ پہننے کا حکم دیا ہے۔ (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا) فرمانے لگیں: مجھے میرے والد نے حکم دیا ہے۔ حضرت محمد بن علی فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ عراق میں بیان فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، پوچھنے کے لیے جس کا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے ذکر کیا تھا، آپ نے فرمایا: اس نے سچ کہا، میں نے اس کو حکم دیا تھا، یہ جملہ رسول اللہ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا، پھر جب قربانی کا دن آیا تو رسول اللہ ﷺ نے تریسٹھ اونٹ نحر کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نحر کیے تو سو ہو گئے، آپ نے ہر اونٹ سے ایک ٹکڑا لیا، اس کو پکایا، آپ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھایا اور اس کا شور بہ پیا۔ حضرت سراقہ بن جعشم رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا یہ اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے، آپ نے حج کو عمرہ میں داخل کیا، اور رسول اللہ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کیا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں

1774 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1774 - عزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 6010 للمصنف . من طرق عن شعبة به

أخرجه أحمد رقم الحدیث: 21472 والبخاری فی التاریخ الكبير جلد 5 صفحہ 455 والبخاری

(3461-الكشف) . ورواه الأعمش كما جاء عقب الحدیث عن مجاهد عن عبید بن عمیر عن أبی ذر .

من طریق جریر عن الأعمش به أخرجه أبو داؤد رقم الحدیث: 489، وابن المبارک فی الزهد رقم

مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي،
قَالَ: فَقَالَ لِي جَابِرٌ: مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِبَائِرِ
فَمَا لَهُ وَاللِّشَّفَاعَةِ

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری شفاعت میری
امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔
(حضرت جعفر) فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت جابر رضی
اللہ عنہ نے کہا کہ اگر کبیرہ گناہ کرنے والے نہ ہوتے تو
شفاعت کس کے لیے ہوتی۔

334- مَا رَوَى عَنْهُ عَبْدُ

اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ

حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل

رضی اللہ عنہم کی ان سے

روایت کردہ احادیث

بْنِ عَقِيلٍ

1775 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں

کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ انصاری کی ایک عورت

قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

الحديث: 1069-1620، والبيهقي في الدلائل جلد 5 صفحہ 473، وأبو نعيم في الحلية جلد 3
صفحہ 377. ورواه ابن اسحاق وأبو عوانة وأبو أسامة ومنديل عن الأعمش كرواية جرير. أخرجه ابن
أبي شيبة جلد 11 صفحہ 435، وأحمد رقم الحديث: 21337-21352، والدارمي رقم الحديث: 2470،
والبخاري في التاريخ جلد 5 صفحہ 455، وابن حبان رقم الحديث: 6462، والحاكم جلد 2 صفحہ 424
وصححه ووافقه الذهبي. ورواه وكيع عن الأعمش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
مرسلاً أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 1618 وروى بواسطة بن الأعمش ومجاهد انظر
عمل الدارقطني جلد 6 صفحہ 256-258. وللحديث شاهد من حديث جابر عند البخاري رقم
الحديث: 335.

1775- أخرجه أحمد رقم الحديث: 21482-21514، وأبو داؤد رقم الحديث: 5214. من طريق بشر بن

المفضل عن أبي الحسين به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21481، والبيهقي في الشعب رقم الحديث:

8960. وذكره البخاري في التاريخ جلد 1 صفحہ 409 عن أيوب بن بشير عن أبي ذر بلا واسطة وقال

مرسل.

کے پاس چلا اس نے آپ کے لیے ایک بکری ذبح کی اور وہ ہمارے پاس کھانا لائی، تو رسول اللہ ﷺ نے کھایا اور ہم نے بھی کھایا پھر ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو ہم سے کسی نے بھی وضو نہیں کیا (یعنی ہمارا پہلے سے وضو تھا) پھر ہم آئے باقی بکری کھائی، سو ہم اس کو کھا کر سیر ہو گئے اور نماز عصر کا وقت آ گیا، تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے تو ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے پس ہم نے نماز پڑھی تو ہم میں سے کسی نے پانی کو چھووا تک نہیں۔

عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَشَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، وَآتَتْنَا بِالطَّعَامِ، فَأَكَلْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآكَلْنَا، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الظُّهْرِ، لَمْ يَتَوَضَّأْ أَحَدٌ مِنَّا، ثُمَّ آتَيْنَا بِبَقِيَّةِ الشَّاةِ، فَتَعَشَيْنَا مِنْهَا، وَحَضَرَتِ الْعَصْرُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا لَمْ يَمَسَّ أَحَدٌ مِنَّا مَاءً

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تم وتر رات کو کس وقت پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: اوّل رات عشاء کے بعد۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا: تم کس وقت وتر پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: رات کے آخری حصہ میں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تو نے مضبوطی کو پکڑا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تو

1776 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَيَّ حِينٍ تُوتِرُ مِنَ اللَّيْلِ؟ قَالَ: أَوَّلَ اللَّيْلِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: أَيَّ حِينٍ تُوتِرُ؟ قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: أَخَذْتَ بِالْوُثْقَى وَقَالَ لِعُمَرَ أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ

1776 - أخرجه أبو عوانة جلد 1 صفحہ 146، وابن منده فی الايمان رقم الحديث: 770. من طرق عن يزيد بن ابراهيم به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21429-21537-21567، ومسلم رقم الحديث: 178، والترمذی رقم الحديث: 3282، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 147، وابن خزيمة فی التوحيد رقم الحديث: 304-305، وابن منده رقم الحديث: 770-771 وغيرهم. من طريق قتادة به أخرجه مسلم رقم الحديث: 178، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 147، وابن أبي عاصم رقم الحديث: 441، وابن خزيمة فی التوحيد رقم الحديث: 307، وابن منده رقم الحديث: 772-774، وابن حبان رقم الحديث: 58 وغيرهم.

نے قوت کو پکڑا۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا دھاری دار تھا۔

1777 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ جَابِرٌ: ذَلِكَ الثَّوْبُ نَمْرَةٌ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کو غسل دیا اور اس کو خوشبو لگائی اور کفن دیا، پھر ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تاکہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو آپ نے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا: کیا اس پر قرض ہے؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں! دو دینار ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم خود ہی

1778 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تُوَفِّيَ رَجُلٌ فَعَسَلْنَاهُ وَحَنَطْنَاهُ وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ آتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَخَطَّ خَطًّا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، دِينَارَانِ، قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ

1777- أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 761، والبیہقی جلد 4 صفحہ 294. وقال الترمذی: حسن. من طریق غندر وغيره عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحدیث: 21474، والنسائی رقم الحدیث: 2422-2423، وابن خزيمة رقم الحدیث: 2128. من طریق فطر بن حلیفة عن یحیی بن سام به أخرجه أحمد رقم الحدیث: 21677، والنسائی رقم الحدیث: 2421، وابن حبان رقم الحدیث: 3655، والبیہقی فی الشعب رقم الحدیث: 3848. ورواه یزید عن أبی زیاد وهو ضعيف عن موسى بن طلحة به أخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 7873.

1778- أخرجه أحمد رقم الحدیث: 21593، والبیہقی فی شرح السنة رقم الحدیث: 663. أخرجه ابن المبارك فی الزهد رقم الحدیث: 1185، والحمیدی رقم الحدیث: 128، وأحمد رقم الحدیث: 21368-21486، والدارمی رقم الحدیث: 1395، وأبو داؤد رقم الحدیث: 945، والترمذی رقم الحدیث: 379. وقال: حسن. والنسائی رقم الحدیث: 1190، وابن ماجه رقم الحدیث: 1027، وابن خزيمة رقم الحدیث: 913-914، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 1426-1428، وابن حبان رقم الحدیث: 2273-2274، والبیہقی جلد 2 صفحہ 284 وغيرهم من طرق عن الزهري به.

فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَيْنُهُ عَلَى اللَّهِ،
فَقَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمَا عَلَيْكَ
حَقَّ الْغَرِيمِ، وَبِرِّءِ الْمَيْتِ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ،
ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ، وَقَالَ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ قَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا مَاتَ أَمْسٍ، ثُمَّ لَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ،
فَقَالَ: مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ
قَضَيْتُهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الْآنَ، بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ

اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ
عنه نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اس کا قرض میرے ذمہ
ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دونوں درہم تجھ پر
اس کا قرض ہیں اور میت اس سے بری الذمہ ہے۔
(حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے) عرض کی: جی ہاں! پس
آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی پھر دوسرے دن
آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا:
دو دیناروں کا کیا کیا؟ (حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے)
عرض کی: یا رسول اللہ! وہ کل فوت ہوا ہے پھر دوسرے
دن ملاقات ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: دو دیناروں کا
کیا کیا؟ (حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے) عرض کی:
یا رسول اللہ! میں نے وہ دونوں ادا کر دیئے تو رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: اب اس کی جلد اس پر ٹھنڈی ہوئی
ہے۔

1779 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول
اللہ ﷺ کے ساتھ انصار کی عورت کے پاس جانے کے
لیے چلا، تو اس نے آپ کے لیے بکری ذبح کی، پس وہ

زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: مَشَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

1779 - والبخاری رقم الحديث: 883-910، والطحاوی جلد 1 صفحہ 369، وابن حبان رقم الحديث: 2776
والطبرانی رقم الحديث: 6190، والبيهقی جلد 3 صفحہ 232 من طرق عن ابن أبي ذئب به . وأما
حديث أبي ذر فأخرجه أحمد رقم الحديث: 21579، وابن ماجه رقم الحديث: 1097، وابن خزيمة
رقم الحديث: 1764-1812 من طريق يحيى القطان عن ابن عجلان به . من طريق الليث عن ابن
عجلان به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21609، وابن خزيمة رقم الحديث: 1763 . عن ابن عيينة عن
ابن عجلان ولم يذكر أبا سعيد المقبري في رواية وشك فيه في أخرى أخرجه عبد الرزاق رقم
الحديث: 5589، والحميدي رقم الحديث: 138 .

وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَذَبَحَتْ لَهُمْ شَاةً، فَاتَيْنَا بِذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: لِيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَدَخَلَ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَدْخُلَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهُ عَلِيًّا فَدَخَلَ عَلِيٌّ

ہمارے لیے اس سے کھانا تیار کر کے لائی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جو اہل جنت سے ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے پھر فرمایا: تمہارے پاس ایک آدمی آئے گا جو ضرور اہل جنت سے ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس ضرور ایک آدمی آئے گا جو اہل جنت سے ہوگا، اے اللہ! اگر تو چاہے تو علی ہی بھر دے! تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرے وہ زانی ہے۔

1780 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ

1780- وعزاه البوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 4650-5126 للمصنف . من طريق المصنف أخرجه البزار رقم الحديث: 4034، والبيهقي في شعب الايمان رقم الحديث: 3576 . من طرق عن المسعودي به أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في المطالب العالية رقم الحديث: 3807 وأحمد رقم الحديث: 21586-21592، والبخاري في التاريخ جلد 5 صفحہ 447، وهناد في الزهد رقم الحديث: 1065، والنسائي رقم الحديث: 5522، والبزار رقم الحديث: 4034 . وأخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 166 من طريق ابراهيم بن هشام الفسائي عن أبيه عن جدّه عن أبي ادريس عن أبي ذر بنحوه مطولاً و ابراهيم هذا كذبه أبو حاتم وغيره . ورواه عبيد بن عمير اللبثي عن أبي ذر بنحوه مختصراً أخرجه الحاكم جلد 2 صفحہ 597، وفي اسناده يحيى بن سعيد السعدي البصري وهو ضعيف ورواه معاوية بن صالح عن أبي عبد الملك محمد بن أيوب عن عبد الرحمن بن عائذ عن أبي ذر الغفاري في الأنبياء فحسب أخرجه ابن عساكر في تاريخه جلد 7 صفحہ 445 .

335- عَطَاءُ بْنُ

أَبِي رِبَاحٍ

عَنْ جَابِرٍ

حضرت عطاء بن ابی رباح کی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

روایت کردہ احادیث

حضرت عطاء حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ صبح کے وقت آئے جب ذی الحجہ کے چار دن گزر چکے تھے ہم سب نے حج کا احرام باندھا ہوا تھا آپ نے ہم کو حکم دیا تو ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور ہم نے دو رکعتیں ادا کیں اور ہم نے صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حلال ہو جاؤ! (یعنی احرام کھول دو) ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! حلال ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: عورتوں کے ساتھ جماع اور خوشبو کا استعمال اب حلال ہو گیا ہے۔ پھر عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کی گئی اور خوشبوئیں بھی استعمال ہوئیں۔ ہم میں سے کوئی منی کی طرف جا رہا ہوتا تھا اس حال میں کہ اس کے ذکر سے منی کے قطرے ٹپک رہے ہوں تو آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا:

1781 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ، مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، مُهْلِينَ بِالْحَجِّ كُلَّنَا، فَأَمَرَنَا فَطَفْنَا بِالْبَيْتِ، وَصَلَيْنَا رَكَعَتَيْنِ، وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَلُّوا قُلُنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: حِلُّ مَا يَحِلُّ لِلْحَلَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالطِّيبِ فَغَشِيَتِ النِّسَاءُ وَسَطَعَتِ الْمَجَامِرُ، قَالَ: وَبَلَغَهُ أَنْ بَعْضُهُمْ يَقُولُ: أَيْنُطَلِّقُ أَحَدُنَا إِلَى مَنِيٍّ، وَذَكَرَهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فَخَطَبَهُمْ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَآثَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سَقْتُ الْهَدْيَ، وَلَوْ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ لَأَحَلَلْتُ أَنَا، فَخُذُوا

1781- وعزاه البوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 4550 للمصنف . عن غندر عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21477 وأخرجه ابن أبي شيبة ومن طريقه أبو يعلى كما في الاتحاف للبوصيري وأحمد رقم الحديث: 21399 من طريق ابن نمير عن الأعمش به . ورواه حجاج عن فطر عن المنذر عن أبي ذر بلا واسطة أخرجه أحمد رقم الحديث: 21478 . ورواه ابن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر أخرجه البزار (147-كشف) وابن حبان رقم الحديث: 65 والطبراني رقم الحديث: 1647 .

مَنَاسِكِكُمْ قَالَ جَابِرٌ: فَأَقَامَ الْقَوْمُ بِحِلْيَتِهِمْ حَتَّى إِذَا
كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ، فَكَانَ الْهَدْيُ عَلَى
مَنْ وَجَدَهُ، وَالصِّيَامُ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ، وَأَشْرَكَ
بَيْنَهُمْ فِي هَدْيِهِمْ، الْجَزُورُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةُ عَنْ
سَبْعَةٍ، وَكَانَ طَوَافُهُمْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ طَوَافًا وَاحِدًا، وَسَعْيًا وَاحِدًا، لِحَجَّتِهِمْ،
وَعُمْرَتِهِمْ

اللہ کی حمد اور تعریف کی، پھر فرمایا: اگر مجھے اپنے معاملے کا
پہلے سے پتا ہوتا جو مجھے بعد میں پتہ چلا ہے تو میں قربانی
کا جانور لاتا اور اگر قربانی کا جانور نہ لے جاتا تو میں
حلالی ہو جاتا، سو تم حج کے ارکان سیکھو۔ حضرت جابر
فرماتے ہیں: ایک قوم کھڑی ہوئی احرام کے ساتھ یہاں
تک کہ جب ترویہ کا دن تھا، انہوں نے حج کا احرام
باندھا، فرمایا: اور ہدی اس پر لازم ہے جو اسے پالے اور
روزہ اس پر ہے جو (ہدی) نہ پالے اور قربانی میں ان
کے درمیان اونٹ اور گائے میں سات آدمیوں کو شرکت
کی اجازت دی اور ان کا طواف اور صفا و مروہ کے
درمیان ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی تھی، ان کے حج
اور عمرہ کے لیے۔

1782 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1782- قال الألبانی عنہ فی الصحیحہ رقم الحدیث: 1588-1967، وهذا الاسناد صحیح رجالہ ثقات رجال
الشیخین غیر أصحاب المنذر فانہم لم یسموا ذلك مما لا یضر لأنہم جمع من التابعین فینجبر
جہالتہم بکثرتہم کما نبہ علی ذلك الحافظ السنخاوی فی غیر هذا الحدیث . والحدیث عزاء
البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 4583 للمصنف . عن غندر عن شعبۃ بہ أخرجه
أحمد رقم الحدیث: 21476 . من طریق الأعمش ذکرہ عن أبی ذر أخرجه ابن أبی شیبۃ وأبو یعلیٰ کما
فی الاتحاف والطبری جلد 5 صفحہ 120 . ورواہ اسحاق بن سلیمان عن فطر بن خلیفۃ عن منذر
الثوری عن أبی ذر مرسلًا بلا واسطۃ أخرجه الطبری جلد 5 صفحہ 120 . والحدیث أخرجه أبو بکر بن
أبى داؤد فی البعث والنشور رقم الحدیث: 36، عن اسحاق بن ابراهیم شاذان عن الطیالسی عن شعبۃ
عن الأعمش عن ابراهیم التیمی عن أبیہ عن أبی ذر والحدیث یرویہ كذلك ہذیل بن شرحبیل عن أبی
ذر بنحوہ أخرجه أحمد رقم الحدیث: 21550، والبزار رقم الحدیث: 4032-4033، باسناد جید فی
الشواہد والمتابعات وفیہ لیث بن أبی سلیم .

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پڑوسی پڑوس کی وجہ سے شفعہ کا زیادہ حق دار ہے اس کا انتظار کیا جائے گا، اگرچہ وہ غائب ہو، جب کہ راستہ دونوں کا ایک ہی ہو۔

هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَةِ جَارِهِ يُنْتَظَرُ بِهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا

حضرت عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا۔

1783 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

حضرت عطاء، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے قیدی حاملہ عورتوں سے وطی کرنے سے منع فرمایا۔

1784 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُوْطَأَ النِّسَاءُ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيِ

حضرت عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1785 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1783 - أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 8648، والطبراني رقم الحديث: 2953 من طريق شعبة من طرق عن أبي هاشم به أخرجه البخاري رقم الحديث: 3966-3968-3969-4743، ومسلم رقم الحديث: 3033، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8154-8172-8649، وابن ماجه رقم الحديث: 2835، والطبري جلد 17 صفحہ 99، والحاكم جلد 2 صفحہ 386 وغيرهم . انظر في تنمہ تخريج الحديث ما أخرجه البخاري رقم الحديث: 3967-4743، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8650، والطبري جلد 17 صفحہ 99، والحاكم جلد 2 صفحہ 386، وما قاله الدارقطني في العلال جلد 4 صفحہ 101، والحافظ في الفتح جلد 8 صفحہ 444 .

1784 - أخرجه البيهقي رقم الحديث: 3856 .

1785 - أخرجه البيهقي في الشعب رقم الحديث: 1173 . من طريق مهدي بن ميمون به أخرجه أحمد رقم

الحديث: 21589-21607، والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 230، ومسلم رقم الحديث:

553، وابن خزيمة رقم الحديث: 1308، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 406، وابن حبان رقم الحديث:

عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عَطَاءً، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمَرَى جَائِزَةٌ
روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: عمری
جائز ہے۔

1786 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں

1641 والبیہقی جلد 2 صفحہ 291 وغیرہم . ورواہ ہشام بن حسان وحماد بن زید عن واصل بن
یذکر ابا الأسود . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 9 صفحہ 29، وأحمد رقم الحديث: 21590، وابن ماجه رقم
الحديث: 3683، من طريق هشام وذكره الدارقطني في العلل جلد 6 صفحہ 280 عن حماد . ورواه
معتمر بن سليمان عن هاشم عن يحيى بن عقيل كرواية مهدي بن ميمون أخرجه ابن حبان رقم
الحديث: 1640 .

1786- انظر نصب الراية جلد 1 صفحہ 148، والتلخيص الحبير جلد 1 صفحہ 154، والارواء جلد 1
صفحہ 181 . والحديث عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 263 للمصنف .
من طريق المصنف أخرجه الخطيب في المدرج جلد 2 صفحہ 939-949 . وأخرجه أبو داؤد رقم
الحديث: 333، ومن طريقه البيهقي جلد 1 صفحہ 217 عن موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة به
بنحوه ورواه معمر وسعيد وابن عليه والثوري وعبد الوهاب عن أيوب به أخرجه عبد الرزاق رقم
الحديث: 912، وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 156، وأحمد رقم الحديث: 21342-21343-21408،
والبخاري في التاريخ جلد 6 صفحہ 317، والدارقطني في السنن جلد 1 صفحہ 187 . ورواه مخلد بن
يزيد فقال: عن الثوري عن أيوب وخالده عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر مقتصرًا على آخره أخرجه
النسائي رقم الحديث: 321، عن أيوب فقط وابن حبان رقم الحديث: 1313، والدارقطني
جلد 1 صفحہ 186، والبيهقي جلد 1 صفحہ 312 . وأما رواية خالد الحذاء التي فيها عمرو بن بجدان
فقد أخرجه البخاري في التاريخ جلد 6 صفحہ 317، وابن حبان رقم الحديث: 1312، والدارقطني
جلد 1 صفحہ 187، والبيهقي جلد 1 صفحہ 212 من طريق يزيد بن زريع عن خالد، به 'مختصرًا' . من
طريق خالد الحذاء به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 913، وأحمد رقم الحديث: 21608، وأبو داؤد
رقم الحديث: 332، والترمذي رقم الحديث: 124، وابن حبان رقم الحديث: 1311، والحاكم جلد 1
صفحہ 176، والبيهقي جلد 1 صفحہ 7، وقال الترمذي حسن صحيح . وقال الحاكم: صحيح . ووافقه
الذهبي وقال الدارقطني بعد أن ساق أوجه الاختلاف فيه في العلل جلد 6 صفحہ 255: والقول قول

ہشام، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِبَاحٍ، قَالَ: قُلْتُ لِحَبِيبٍ: هَلْ صَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ النَّجَاشِيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي

نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے عرض کی: کیا نبی اکرم ﷺ نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی تھی؟ (حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے) فرمایا: ہاں! اور میں دوسری صف میں تھا۔

1787 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءً، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَّاقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ، وَلَا عَتَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ

حضرت عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کا نکاح نہیں ہوا اس کی طلاق نہیں ہے اور اس کا آزاد کرنا نہیں ہے جس کا کوئی غلام نہیں۔

1788 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

حضرت عطاء، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

خالد الحذاء . انظر تاريخ البخارى جلد 6 صفحه 317، وعلل ابن ابي حاتم جلد 1 صفحه 11، وسنن الدارقطنى جلد 1 صفحه 187، ونصب الراية جلد 1 صفحه 148 . وللحديث شاهد من حديث ابي هريرة عند الطبرانى فى الاوسط رقم الحديث: 1355 باسناد صحيح كما قال الألبانى فى الارواء ومن حديث عمار بن ياسر .

1787 - قال الدارقطنى فى العلل جلد 6 صفحه 237 . من طرق عن يحيى بن سعيد به الحديث أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب الأحوال رقم الحديث: 6، وابن أبى شيبة جلد 12 صفحه 215، وابن سعد جلد 4 صفحه 231، والفسوى فى المعرفة جلد 2 صفحه 484، والحاكم جلد 4 صفحه 92 و صححه الحاكم ووافقه الذهبى . ورواه بكر بن عمرو عن الحارث بن يزيد عن ابن حجيرة الأكبر عن أبى ذر . فزاد فى اسناده ابن حجيرة . أخرجه مسلم رقم الحديث: 1825، والبيهقى جلد 10 صفحه 95 . ورواه ابن لهيعة عن الحارث عن ابن حجيرة الشيخ عمن سمع أبا ذر يقول..... فذكره أخرجه أبو عبيد رقم الحديث: 7، وأحمد رقم الحديث: 21552 . وروى سالم بن أبى سالم الجيشانى عن أبيه عن أبى ذر نحوه بلفظ يا أبا ذر انى أراك ضعيفاً وانى أحب لك ما أحب لنفسى فلا تأمرن على اثنتين ولا تولين مال يتيم . أخرجه مسلم رقم الحديث: 1826، وأبو داؤد رقم الحديث: 2868 .

1788 - أخرجه أبو عوانة جلد 5 صفحه 77 . من طريق الأعمش به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19648

عَوَانَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّخْلِ وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَانْتَهَى إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ، وَهُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَوَضَعَ الصَّبِيَّ فِي حِجْرِهِ، فَبَكَى، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَنْهَانَا عَنِ الْبُكَاءِ؟ قَالَ: لَمْ أَنَّهُ عَنِ الْبُكَاءِ، إِنَّمَا نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنِ، صَوْتِ مِزْمَارٍ عِنْدَ نِعْمَةٍ، مِزْمَارِ شَيْطَانٍ وَلَعِبٍ، وَصَوْتِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، شَقِّ الْجُيُوبِ، وَرَنَةِ شَيْطَانٍ، وَإِنَّمَا هَذِهِ رَحْمَةٌ

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کھجوروں کے ایک باغ کی طرف نکلے اور آپ کے ساتھ حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی تھے سو آپ اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس گئے اور ان کا آخری وقت تھا، تو آپ ﷺ کی گود میں بچے کو رکھ دیا گیا، سو آپ رو پڑے، حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آپ نے ہم کو رونے سے منع نہیں کیا؟ (آپ نے فرمایا:) بے شک میں نے دو گندی آوازوں سے منع کیا ہے: (۱) نعمت کے وقت باجوں کی آواز سے، باجے شیطان اور کھیل کود ہیں اور مصیبت کے وقت کی آواز سے، اپنے گریبان کو پھاڑنا، اور شیطان کی طرف دھیان کرنا اور یہ (رونا) تو رحمت ہے۔

1789 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: أَرْمِ وَلَا خَرَجَ

حضرت عطاء، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے قربانی کر لی ہے کنکریاں مارنے سے پہلے، آپ ﷺ نے فرمایا: کنکریاں مار لے کوئی خرچ نہیں۔

والبخاری رقم الحديث: 7458، ومسلم رقم الحديث: 1904، والترمذی رقم الحديث: 1646، وابن ماجه رقم الحديث: 2783، والبخاری رقم الحديث: 3010، والرویانی فی مسنده رقم الحديث: 532، وأبو یعلیٰ رقم الحديث: 7253، وغيرهم .

1789- أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 2018، وأبو عوانة جلد 5 صفحہ 75، من طریق شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19611، والبخاری رقم الحديث: 2810-3126، ومسلم رقم الحديث: 1904، وأبو داؤد رقم الحديث: 2517، والنسائی رقم الحديث: 3136، والبخاری رقم الحديث: 3011-3012، والرویانی رقم الحديث: 527، وغيرهم .

1790 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهْلِينَ بِالْحَجِّ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً

حضرت عطاء حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے کے لیے نکلے آپ ﷺ نے فرمایا: جو چاہے تم میں سے اس کو عمرہ کر لے اور جس کے پاس قربانی ہے وہ اس کے لیے استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اسے عمرہ بنا لے۔

1791 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَنَ رَجُلًا لَيْلًا

حضرت عطاء حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حاضر تھا آپ نے ایک آدمی کو رات کو دفن کیا۔

336- أَبُو سَلَمَةَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ جَابِرٍ

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن کی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

روایت کردہ احادیث

1792 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف حضرت جابر

1790 - أخرجه البخاری رقم الحديث: 123، ومسلم رقم الحديث: 1904 وغيرهما . انظر العليل للدارقطني

جلد 7 صفحہ 228-277 .

1791 - أخرجه البيهقي جلد 9 صفحہ 226 . من طريق جرير وحده عن منصور به أخرجه البخاری رقم

الحديث: 3046، وأبو يعلى رقم الحديث: 7325، والبزار رقم الحديث: 3017، والرويانى رقم

الحديث: 530 . من طريق منصور به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19535-19658، والبخاری رقم

الحديث: 5174-5373-5649-7173، وأبو داؤد رقم الحديث: 3105، والنسائي فى الكبرى رقم

الحديث: 8666، وابن حبان رقم الحديث: 3324، والرويانى رقم الحديث: 526 وغيرهم .

1792 - أخرجه مسلم رقم الحديث: 2759، والرويانى فى مسنده رقم الحديث: 556، والبيهقى فى السنن

قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمَرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عمری اس کے لیے جس کو ہبہ کیا گیا۔

1793 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ

حضرت یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں کہ میں نے

جند 8 صفحہ 136، وفي الشعب رقم الحديث: 7075، وفي الأسماء والصفات (صفحة: 321) من طريق المصنف . من طريق شعبة به أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 561، وأحمد رقم الحديث: 19547-19635، ومسلم رقم الحديث: 2759، والبزار رقم الحديث: 3020، وابن خزيمة رقم الحديث: 99، والبيهقي في الشعب رقم الحديث: 7075، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد رقم الحديث: 694-695 . من طريق عمرو بن مرة به أخرجه ابن أبي شيبة جلد 13 صفحہ 181، وابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 1091، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 11180، وابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 615-616، والبزار رقم الحديث: 3021، والبخاري في شرح السنة رقم الحديث: 1298 .

1793- أخرجه أبو عوانة جلد 1 صفحہ 146 . من طريق شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19548، ومسلم رقم الحديث: 179، والبزار رقم الحديث: 3018، وابن خزيمة رقم الحديث: 101، والرويانى فى مسنده رقم الحديث: 555، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 146 . من طريق المسعودى به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19602، وابن ماجه رقم الحديث: 196، وأبو يعلى رقم الحديث: 7262، والآجرى فى الشريعة رقم الحديث: 762، والبيهقى فى الأسماء والصفات صفحہ 181 . من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19649، ومسلم رقم الحديث: 179، وابن أبي عاصم فى السنة رقم الحديث: 614، وابن ماجه رقم الحديث: 195، وأبو يعلى رقم الحديث: 7263، وابن خزيمة رقم الحديث: 100، والآجرى رقم الحديث: 760، والبيهقى صفحہ 180، وابن منده فى الايمان رقم الحديث: 777، وغيرهم . انظر صحيح ابن حبان رقم الحديث: 266، والأوسط للطبرانى رقم الحديث: 1512، والشريعة للآجرى رقم الحديث: 762، والعل للدارقطنى جلد 7 صفحہ 234 . وروى من طريق أبى بردة عن أبيه أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 540، والآجرى رقم الحديث: 660 .

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے پوچھا: قرآن پاک کی کون سی سورت پہلے نازل ہوئی؟ انہوں نے فرمایا: سورۃ المدثر! میں نے عرض کی: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ سب سے پہلے اقرأ باسم ربك الذی خلق نازل ہوئی ہے تو حضرت ابوسلمہ نے فرمایا: میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ قرآن پاک کی کون سی سورۃ پہلے نازل ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا: سورۃ المدثر! میں نے عرض کی: مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ سب سے پہلے اقرأ باسم ربك الذی خلق نازل ہوئی تھی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میں آپ کو وہی بات نہ بتا دوں جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی ہے آپ نے فرمایا: میں غار حراء میں عبادت کرتا تھا جب میں غار حراء سے عبادت کر کے فارغ ہوا تو میں واپس ہونے لگا جب میں نے وادی پار کی تو مجھے آواز دی گئی میں نے اپنے آگے اپنے دائیں اور اپنے بائیں اور اپنے پیچھے دیکھا تو مجھے کوئی شی نہ دکھائی دی میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو وہ عرش پر آسمان وزمین کے درمیان میں کوئی شی تھی میں اس کو دیکھ کر پریشان ہوا امام ابوداؤد نے فرمایا: یعنی آپ اس سے خوف زدہ ہوئے۔ پس میں خدیجہ کے پاس آیا یا فرمایا: میں اپنے اہل کے پاس آیا میں نے کہا: مجھے چادر اوڑھا دو! مجھے چادر اوڑھا دو! سو مجھے چادر اوڑھا دی گئی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا گیا پس میں آیا پھر حکم دیا گیا: "يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ"۔

بُنْ شَدَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَيُّ الْقُرْآنِ أَنْزِلَ أَوَّلُ؟ قَالَ: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) (المدثر: 1)، قُلْتُ: إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزِلَ: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (العلق: 1) فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: أَيُّ الْقُرْآنِ أَنْزِلَ أَوَّلُ؟ فَقَالَ لِي: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) (المدثر: 1) قُلْتُ: إِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَا أَنْزِلَ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) (العلق: 1)، فَقَالَ جَابِرٌ: لَا أُخْبِرُكَ إِلَّا بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جَاوَزْتُ فِي حِرَاءَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ جَوَارِي أَنْطَلَقْتُ، فَلَمَّا هَبَطْتُ الْوَادِي نُودِيْتُ، فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ خَلْفِي فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا هُوَ عَلَى عَرْشٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجِئْتُ مِنْهُ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي فَصُرِعْتُ مِنْهُ قَالَ - فَاتَيْتُ خَدِيجَةَ - أَوْ قَالَ: آتَيْتُ أَهْلِي - فَقُلْتُ: دَثِرُونِي دَثِرُونِي فَدَثِرْتُ وَصَبَّ عَلَيَّ مَاءٌ بَارِدٌ، فَاتَيْتُ فَقِيلَ: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) (المدثر: 2)

حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پھر وحی آنا بند ہوگئی (سورہ اقرآ کے بعد دوڑھائی ماہ کے لیے)۔

1794 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ

بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ

حضرت ابوسلمہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جسے عمری عطا کیا گیا تو وہ اس کے لیے اور اس کے بعد اس کے وارثوں کے لیے ہے۔

1795 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَعْمَرَ عُمُرِي فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ

1794 - أخرجه البزار رقم الحديث: 3023، والبيهقي في الدلائل جلد 1 صفحہ 156. من طريق المسعودی به أخرجه ابن أبي شيبة رقم الحديث: 11739، وابن سعد جلد 1 صفحہ 40، وأحمد رقم الحديث: 19543-19637-19668، والرويانى فى مسنده رقم الحديث: 583، والحاكم جلد 2 صفحہ 604، والبيهقى فى الشعب رقم الحديث: 1400. من طرق عن عمرو بن مرة به أخرجه البخارى فى الصغير جلد 1 صفحہ 36، ومسلم رقم الحديث: 2355، وأبو يعلى رقم الحديث: 7244، والبزار رقم الحديث: 4022، وابن حبان رقم الحديث: 6314، والطبرانى فى الصغير جلد 1 صفحہ 80، والبيهقى فى الشعب رقم الحديث: 1400، وفى الدلائل جلد 1 صفحہ 156، وأبو نعيم فى الحلية جلد 5 صفحہ 99-100.

1795 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 19621. من طريق عاصم به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 9244، وعبد بن حميد رقم الحديث: 541، وأحمد رقم الحديث: 19538-19760، والبخارى رقم الحديث: 2992-4205، ومسلم رقم الحديث: 2704، وأبو داؤد رقم الحديث: 1528، والنسائى فى الكبرى رقم الحديث: 7679-8823، وابن ماجه رقم الحديث: 2824، والرويانى فى مسنده رقم الحديث: 544، والبيهقى جلد 2 صفحہ 184 وغيرهم. من طريق أبى عثمان به بذكر الزيادة عند بعضهم أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة رقم الحديث: 618-619، وأحمد رقم الحديث: 19665-19770، والبخارى رقم الحديث: 6384-6409-6610-7386، ومسلم رقم الحديث: 2704، وأبو داؤد رقم الحديث: 1527، والنسائى فى الكبرى رقم الحديث: 7681-8824، والترمذى رقم الحديث: 3374، وأبو يعلى رقم الحديث: 7252، والرويانى فى مسنده رقم الحديث: 543-545 وغيرهم.

حضرت ابوسلمہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ کو چار مرتبہ واپس کیا۔

1796 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ مَا عَزَا أَرْبَعًا

حضرت ابوسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے شفعہ کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ (شفعہ کرنا تب جائز ہے) جب تک وہ تقسیم نہ ہو اور اس کی حد بند کی نہ ہو۔

1797 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمَ وَتَوَقَّتْ حُدُودُهُ

حضرت ابوسلمہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1798 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،

1796- أخرجه أحمد رقم الحديث: 19630، والبخاری رقم الحديث: 5020-7560، ومسلم رقم الحديث: 797، وعبد بن حميد رقم الحديث: 563، وابن حبان رقم الحديث: 770 وغيرهم . من طرق عن قتادة به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 20933، وأحمد رقم الحديث: 19567-19679، والبخاری رقم الحديث: 5427، ومسلم رقم الحديث: 797، وأبو داؤد رقم الحديث: 4830، والترمذی رقم الحديث: 2865، وابن ماجه رقم الحديث: 214 والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 8082-11769، وابن حبان رقم الحديث: 771 . ورواه أبان عن قتادة واختلف عنه انظر سنن أبي داؤد رقم الحديث: 4829، والنسائی رقم الحديث: 6733، وشرح السنة للبغوی رقم الحديث: 1175 .

1797- أخرجه البيهقی جلد 10 صفحہ 94 . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19549-19701، والدارمی رقم الحديث: 2750، وعبد بن حميد رقم الحديث: 560، والبخاری رقم الحديث: 1445، وفي الأدب المفرد رقم الحديث: 255-306، ومسلم رقم الحديث: 1008، والنسائی رقم الحديث: 2537، والبيهقی جلد 4 صفحہ 188، وفي شعب الايمان رقم الحديث: 7616 وغيرهم .

1798- أخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 3391، والنسائی رقم الحديث: 5611، وأبو عوانة جلد 4 صفحہ 83، والبيهقی جلد 8 صفحہ 154، وفي الدلائل جلد 5 صفحہ 401 . من طرق عن شعبة به فمن أخرجه اللفظين معاً: أحمد رقم الحديث: 19757، والبخاری رقم الحديث: 4344-4345-6124-7172، وأبو عوانة جلد 4 صفحہ 84، والبغوی فی الجعديات رقم الحديث: 553 وغيرهم . من طريق زيد بن أبي

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَى

حضرت ابوسلمہ کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت

جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: پھر مجھ پر کچھ دیر کے لیے وحی آنا بند ہو گئی، سو جب

میں چل رہا تھا میرے پاس وہی فرشتہ آیا جو غار حرا میں

میرے پاس آیا تھا، تخت پر زمین و آسمان کے درمیان،

1799 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ

بْنُ أَبِي الْأَحْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو

سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتْرَةً،

فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذَا أَنَا بِالْمَلِكِ الَّذِي آتَانِي فِي غَارِ

أنيسة عن سعيد بن أبي بردة به أخرجه أبو عوانة جلد 4 صفحہ 85، وابن حبان رقم الحديث: 5376،

والبيهقي جلد 8 صفحہ 91 وغيرهم . من طريق شعبة به أخرجه باللفظ الأول فحسب البخاري رقم

الحديث: 3038، ومسلم رقم الحديث: 1733، وأبو عوانة جلد 4 صفحہ 83 . من طريق زيد بن أبي

أنيسة عن سعيد بن أبي بردة به أخرجه مسلم رقم الحديث: 1733 . من طريق محمد بن عباد عن

سفيان عن عمرو عن سعيد بن أبي بردة به أخرجه مسلم رقم الحديث: 1733، والبيهقي

جلد 8 صفحہ 294 . من طريق يزيد بن عبد الله عن أبي بردة به أخرجه مسلم رقم الحديث: 1732، وأبو

داؤد رقم الحديث: 4845، وأبو يعلى رقم الحديث: 7319 . من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي

بردة بنحوه مرسلاً أخرجه البخاري رقم الحديث: 4341 .

1799 - أخرجه مستقلاً أحمد رقم الحديث: 19688، والطحاوي جلد 4 صفحہ 217 من طريق شعبة به . من

طريق أبي اسحاق الشيباني عن سعيد بن أبي بردة به أخرجه البخاري رقم الحديث: 4343، وقال رواه

جرير وعبد الواحد عن الشيباني عن أبي بردة . من طريق ابن فضيل عن الشيباني كرواية جرير أخرجه

ابن حبان رقم الحديث: 5377 . من طريق أبي اسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى أخرجه

الدارمي رقم الحديث: 1104، والنسائي رقم الحديث: 5612 . من طريق قرعة بن خالد عن يسار أبي

الحكم عن أبي بردة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19664، وأبو يعلى رقم الحديث: 7248، والبيهقي

جلد 8 صفحہ 291، ورواه أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه أخرجه أحمد رقم الحديث: 19613، والنسائي

في الكبرى رقم الحديث: 6816، وأبو يعلى رقم الحديث: 7239 .

سو مجھ پر اس کا رعب طاری ہو گیا، پس میں خدیجہ کے پاس آیا، میں نے کہا: مجھے چادر اوڑھا دو! مجھے چادر اوڑھا دو! تو مجھے چادر اوڑھا دی گئی، اس کے بعد جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے (پاؤں زمین پر مارتے ہوئے) کہا: ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ“۔ حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں کہ رجز بتوں کو کہتے ہیں جن کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔

حِرَاءٍ عَلَى سَرِيرٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَرُعِبْتُ مِنْهُ، فَاتَيْتُ خَدِيجَةَ، فَقُلْتُ: دَثِرُونِي دَثِرُونِي، فَدَثِرْتُ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ بِرَجْلِهِ: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ فَكَبِيرٌ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) (المدثر: ٢٠)، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَالرُّجْزُ: الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ

حضرت عمرو بن دینار کی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ

سے روایت کردہ احادیث

337- عَمْرُو

بْنُ دِينَارٍ

عَنْ جَابِرٍ

حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے فرماتے سنا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر واپس آ کر اپنی قوم کو نماز پڑھاتے۔

حضرت عمرو، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما

1800 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِمْ لِي بِقَوْمِهِ

1801 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1800 - وقد أخرج هذا الطريق النسائي رقم الحديث: 5613، والطحاوي جلد 4 صفحہ 17 من طريق

المصنف .

1801 - أخرج أحمد رقم الحديث: 19503-19504-19578، والبخاري في التاريخ جلد 1 صفحہ 38، ومسلم

رقم الحديث: 2767، وأبو يعلى رقم الحديث: 7281، وابن حبان رقم الحديث: 630، والبيهقي في

البعث والنشور رقم الحديث: 86، وفي شعب الايمان رقم الحديث: 376 وغيرهم . وأخرج البخاري

في التاريخ جلد 1 صفحہ 38، من طريق يحيى بن زياد وأبو يعلى رقم الحديث: 7267-7268، ومن طريق

عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَصِلْ رَكَعَتَيْنِ

سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے خطبہ میں ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دن آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز ادا کرے۔

1802 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں

نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے مدبر غلام بیچا۔

عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَبِّرًا

حضرت عمرو سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی

1803 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عبد الرحمن بن سعيد بن أبي بردة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة به . من طرق عن أبي بردة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19671، والبخاری في التاريخ جلد 1 صفحہ 38-39، ومسلم رقم الحديث: 2767، وابن ماجه رقم الحديث: 4291، وأبو يعلى رقم الحديث: 7282، والبيهقي في البعث والنشور رقم الحديث: 84-89 وغيرهم . أخرجه مسلم رقم الحديث: 2767، والبيهقي في البعث والنشور رقم الحديث: 90، وقال: لا أراه محفوظًا..... وإنما لفظ الحديث على ما رواه سعيد بن أبي بردة وغيره عن أبي بردة .

1802 - أخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 26 . ومن طرق عن حماد بن زيد به أخرجه أحمد رقم الحديث:

19576، والبخاری رقم الحديث: 6623-6718-6719، ومسلم رقم الحديث: 1649، وأبو داؤد رقم

الحديث: 3276، والنسائي رقم الحديث: 3789، وابن ماجه رقم الحديث: 2107، وأبو يعلى رقم

الحديث: 7251، والبيهقي جلد 10 صفحہ 51 وغيرهم . من طرق عن يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن

أبي بردة به أخرجه البخاری رقم الحديث: 4415-6678، ومسلم رقم الحديث: 1649، وأبو يعلى رقم

الحديث: 6297-7258 . وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 766، وأحمد رقم الحديث: 19638،

والبخاری رقم الحديث: 3133، وغير موضع ومسلم في الموضوع السابق وابن حبان رقم الحديث:

4354، وغيرهم من طرق عن زهدم بن مضر عن أبي موسى .

1803 - أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 128، وأبو نعيم في أخبار أصبهان جلد 2 صفحہ 47، والحافظ في التعليق

جلد 4 صفحہ 397 . من طريق أبي بكر بن عياش به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19673، والبخاری

عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلِيَّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ جَابِرٍ؟ قَالَ: لَا

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہو رہا تھا۔ حضرت امام شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو سے کہا: کیا آپ نے حضرت جابر سے سنا ہے؟ فرمایا: نہیں!

1804 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

حضرت عمرو حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جنگ دھوکا ہے۔

1805 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،

حضرت عمرو حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما

تعلیقاً رقم الحدیث: 5083، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 8 صفحہ 308، والبیہقی جلد 7 صفحہ 128، وأخرجه أبو عوانة جلد 1 صفحہ 104 من طریق یزید بن زریع عن شعبه به . و ذکره الدارقطنی فی العلل جلد 7 صفحہ 200 وقال تفرد به یزید بن زریع عن شعبه والقول قول شعبه .

1804 - أخرجه أبو عوانة جلد 1 صفحہ 103 . من طریق عن شعبه به أخرجه أحمد رقم الحدیث: 19618، والدارمی رقم الحدیث: 2251، ومسلم رقم الحدیث: 154، والطبری جلد 27 صفحہ 141، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 1974 . من طرق عن صالح به أخرجه كذلك أحمد رقم الحدیث: 19707، والبخاری رقم الحدیث: 3046-3011-97، ومسلم رقم الحدیث: 154، والترمذی رقم الحدیث: 1116، والنسائی رقم الحدیث: 3344، وابن ماجه رقم الحدیث: 1956، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 7256، والطبری جلد 17 صفحہ 141، والطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 1968-1972، وابن حبان رقم الحدیث: 7227 وغيرهم . من طرق عن الشعبي به أخرجه أحمد رقم الحدیث: 19582-19742، والبخاری رقم الحدیث: 2544، ومسلم فی الموضوع المذكور وأبو داؤد رقم الحدیث: 2053، والترمذی رقم الحدیث: 1116، والنسائی رقم الحدیث: 3345، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 7343، وغيرهم . أخرجه البخاری رقم الحدیث: 2551، وأبو یعلیٰ رقم الحدیث: 7308 فی المملوك فحسب من طریق بريد عن أبي بردة عن أبي موسى .

1805 - وهو فی الزهد لابن المبارك رقم الحدیث: 350، ومن طریقہ أخرجه مسلم رقم الحدیث: 2585، والحدیث یرویه غیر واحد عن بريد بن عبد الله منهم الثوری وأبو اسامة وابن ادريس . من طرق عن

سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ تکبیر کہتے تھے جب (رکوع کرنے کے لیے) جھکتے تھے اور جب (رکوع سے) اٹھتے تھے۔

حضرت عمرو سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا، ہم نے گھوڑے کا گوشت کھلایا۔

حضرت عمرو بن دینار، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کون مجھ سے خریدے گا؟ تو حضرت نعیم نے اس کو آٹھ سو کے بدلے خریدا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ قبلی غلام تھا جو پہلے سال مر گیا تھا۔

عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ

1806 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ وَأَطَعَمَنَا لَحْمَ الْفَرَسِ

1807 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بِثَمَانِمِائَةٍ. قَالَ جَابِرٌ: غَلَامٌ قِبْطِيٌّ مَاتَ عَامَ أَوَّلِ

بريد به أخرجه ابن أبي شيبة جلد 11 صفحه 21، والحميدي رقم الحديث: 772، وأحمد رقم الحديث:

19640-19641-19682، وعبد بن حميد رقم الحديث: 555، والبخاري رقم الحديث: 2446-6026

ومسلم رقم الحديث: 2585، والترمذي رقم الحديث: 1928، والنسائي رقم الحديث: 2559، وأبو

يعلى رقم الحديث: 7295، وابن حبان رقم الحديث: 231-232 وغيرهم .

1806 - أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 5 صفحه 98، من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث:

19541-19683، عبد بن حميد رقم الحديث: 564، والبخاري رقم الحديث: 5418-3769، ومسلم

رقم الحديث: 2431، والترمذي رقم الحديث: 1834، والنسائي رقم الحديث: 3957، وفي الكبرى رقم

الحديث: 8353-8356-8381، وابن ماجه رقم الحديث: 3280، وأبو يعلى رقم الحديث: 7269، وابن

حبان رقم الحديث: 7114 وغيرهم .

1807 - عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 6312 للمصنف . من طريق المصنف

أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين جلد 1 صفحه 75، وأبو نعيم في أخبار أصبهان جلد 1 صفحه 71،

وابن الأثير في أسد الغابة جلد 2 صفحه 58 . من طريق أبي عوانة به أخرجه ابن المبارك في الجهاد رقم

- 1808 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خُمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ
- حضرت عمرو بن دینار حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پانچ سے کم اوقیہ میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
- 1809 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ
- حضرت حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت

الحديث: 141، وابن أبي شيبة جلد 13 صفحہ 13، وأحمد رقم الحديث: 19676، والبخاری في الصغير جلد 1 صفحہ 148، والحارث في مسنده (1035-بغية) والطبرانی رقم الحديث: 3610، وأبو نعيم في أخبار أصبهان جلد 1 صفحہ 71-290.

- 1808 - أخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 158، وأحمد رقم الحديث: 19532-19662، وعبد بن حميد رقم الحديث: 545، والترمذی رقم الحديث: 1720، والنسائی رقم الحديث: 5280، والطحاوی جلد 4 صفحہ 251، والبيهقی جلد 2 صفحہ 425. وروى عن عبيد الله بغير هذا الوجه ولا يصح انظر علل الدارقطنی جلد 7 صفحہ 241. ورواه أيوب السخيتانی كذلك عن نافع به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 1993، عن معمر والنسائی في الكبرى رقم الحديث: 9450. من طريق ابن أبي عروبة والبيهقی جلد 3 صفحہ 275 من طريق حماد بن زيد ثلاثتهم عن أيوب بن عروبة. من طريق سعيد بن أبي عروبة فقالا: عن أيوب عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل من أهل العراق عن أبي موسى به بنحوه أخرجه أحمد رقم الحديث: 19521، عن عبد الرزاق عن معمر والسهمی في تاريخ جرجان صفحہ 179. وكذا رواه عبد الله العمري عن نافع عن حصيد بن أبي هند عن رجل من أهل البصرة عن أبي موسى أخرجه أحمد رقم الحديث: 19525، وذكره الدارقطنی في العلل جلد 7 صفحہ 241. والحديث يرويه كذلك عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه..... أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 19931 عن معمر عنه وقال: عن أبي موسى. أخرجه أحمد رقم الحديث: 19520 عن عبد الرزاق عن عبد الله باسقاط معمر من اسناده. أخرجه الطحاوی جلد 2 صفحہ 251 من طريق غندر عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند لم يذكر عن رجل.

- 1809 - أخرجه البغوی في الجعديات رقم الحديث: 897. من طريق شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19632، والنسائی رقم الحديث: 1864. من طرق عن منصور به أخرجه أبو داؤد رقم الحديث:

بُنْ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ
 بَنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ
 بِالشَّفَاعَةِ قَالَ عَمْرُو: نَعَمْ

عمرو بن دینار سے کہا: کیا آپ نے حضرت جابر بن
 عبداللہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ
 نے فرمایا: ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا میری
 شفاعت کے ساتھ۔ تو حضرت عمرو نے فرمایا: جی ہاں!

1810 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت عمرو بن دینار، حضرت جابر رضی اللہ عنہ
 سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک

3130 والنسائی رقم الحديث: 1865، والطحاوی فی المشکل رقم الحديث: 1335. ورواه أبو بردة

عن أبي موسى عن أبيه. أخرجه البخاری تعليقاً رقم الحديث: 1296، ووصله مسلم رقم الحديث:

104، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 56، وابن حبان رقم الحديث: 3152، والبيهقی جلد 4 صفحہ 64

وغيرهم. وأخرجه مسلم فی الموضوع السابق. من طريق عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة عن أبي

موسى وابن ماجه رقم الحديث: 1586، والبيهقی جلد 4 صفحہ 64. ويرويه كذلك عياض الأشعري

عن امرأة أبي موسى عند مسلم فی الموضوع المذكور والطحاوی فی المشکل رقم الحديث: 1333

وغيرهما وعند الطحاوی ليس فيه ذكر امراته. ورواه عبد الأعلى النخعي عن أم عبد الله عن أبي

موسى. أخرجه أبو يعلى رقم الحديث: 7235. ورواه كذلك صفوان بن محرز وربيع بن حراش

والفرثع الضبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي موسى ورواه غير واحد عن أبي موسى أخرجه

أحاديثهم: عبد الرزاق رقم الحديث: 6684، وابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 289، وأحمد رقم الحديث:

19705-19558، ومسلم رقم الحديث: 104، والنسائی رقم الحديث: 1866، وأبو يعلى رقم الحديث:

7235، وأبو عوانة جلد 1 صفحہ 56، والطحاوی فی المشکل رقم الحديث: 1333-1332، وابن حبان

رقم الحديث: 3151 وغيرهم. وانظر التبع للدارقطنی (صفحہ: 210-211).

1810- أخرجه البيهقی جلد 3 صفحہ 68، وفي الشعب رقم الحديث: 9699. من طرق عن حماد به أخرجه نعيم

بن حماد في زوائده على الزهد لابن المبارك رقم الحديث: 108، وأحمد رقم الحديث: 19741، وعبد

بن حميد رقم الحديث: 550، والترمذی رقم الحديث: 1021، وابن السني رقم الحديث: 581، وابن

حبان رقم الحديث: 2948، والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 1548 من طرق حماد به وقال

الترمذی: حسن غريب. انظر الصحيحة للألبانی رقم الحديث: 1408.

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَخْرُجُونَ مِنَ نَارٍ بِالشَّفَاعَةِ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
قوم کو جہنم سے نکالا جائے گا میری شفاعت کے ساتھ پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے۔

1811 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارٌ سَلَّيْتُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالْتَّمْرِ، وَبَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ لِلنَّبِيدِ
حضرت عمرو بن دینار، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا خشک اور تر کھجوروں اور کشمش اور کھجوروں کو ملا کر نبید بنانے سے۔

1812 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ
حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں شیبہ عورت سے شادی

1811 - وعزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 4497 للمصنف عن طريق المصنف
أخرجه البزار (16- كشف) وأبو نعيم في الحلية جلد 4 صفحہ 308 . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19580-19554 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 11241 والطبري جلد 12 صفحہ 13 وابن حبان رقم الحديث: 4880 . وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم رقم الحديث: 153 .

1812 - أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 19730 عن محمد عن أيوب عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى مرفوعًا . ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع به كما عند المصنف الا أن لفظه مرفوع . أخرجه أحمد رقم الحديث: 19595 وعبد بن حميد رقم الحديث: 546 والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 1272 وابن ماجه رقم الحديث: 3762 وأبو يعلى رقم الحديث: 7290 والحاكم جلد 1 صفحہ 50 والبيهقي جلد 10 صفحہ 215 وغيرهم . وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لوهم وقع لعبد الله بن سعيد بن أبي هند لسوء حفظه فيه . ووافقه الذهبي ورواه عن مالك في الموطأ جلد 2 صفحہ 958 ومن طريقه أخرجه أحمد رقم الحديث: 19569 والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 1269 وأبو داؤد رقم الحديث: 4938 وابن حبان رقم الحديث: 5872 والبيهقي جلد 10 صفحہ 214 . أخرجه أحمد رقم الحديث: 19519 وعبد بن حميد رقم الحديث: 547 والحاكم جلد 1 صفحہ 50 .

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيْبًا، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا بَكْرًا
تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُتِلَ أَبِي وَتَرَكَ عَلَيَّ أَخَوَاتٍ،
فَكِرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ جَارِيَةً، وَلَكِنْ أَتَزَوَّجُ امْرَأَةً
تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: بَارِكَ اللَّهُ لَكَ

کی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو نے باکرہ سے شادی
کیوں نہیں کی کہ وہ تیرے ساتھ کھیلتی اور تو اس کے ساتھ
کھیلتا، تو اس کو ہنستا اور وہ تجھے ہنساتی۔ میں نے عرض کی:
یا رسول اللہ! میرا باپ شہید ہو گیا تھا اور میری بہنیں چھوڑ
گیا تھا، سو میں نے ناپسند کیا کہ میں باکرہ سے شادی
کروں لیکن میں نے ایک عورت سے شادی کی تاکہ ان
کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ
پاک تجھے برکت دے!

حضرت عمرو، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت

کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول
اللہ! میں نے ناپسند کیا کہ ایسی لڑکی سے نکاح کروں جو
انہی کی طرح ناسمجھ ہو، لیکن میں نے شادی ایسی عورت

1813 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ جَارِيَةً خَرَقَاءَ
مِثْلَهُنَّ، وَلَكِنْ امْرَأَةً تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ،

1813 - أخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 92 . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19568-19575

والدارمي رقم الحديث: 2374، وأبو داؤد رقم الحديث: 4557، وابن حبان رقم الحديث: 6013

والدارقطني في السنن جلد 3 صفحہ 211 وغيرهم . وتابع ابن عليه وعلي بن عاصم وخالد بن يحيى

شعبة عليه عن غالب أخرجه أبو يعلى رقم الحديث: 7335، والدارقطني في السنن جلد 3 صفحہ 211

والبيهقي جلد 8 صفحہ 92 . وخالفهم سعيد بن أبي عروبة فرواه عن غالب التمار عن حميد بن هلال

عن مسروق بن أوس به أخرجه ابن أبي شيبة جلد 9 صفحہ 192، وأحمد رقم الحديث: 19722، وأبو

داؤد رقم الحديث: 4556، والنسائي رقم الحديث: 4860، وابن ماجه رقم الحديث: 2654، وأبو يعلى

رقم الحديث: 7334، والدارقطني جلد 3 صفحہ 210، والبيهقي جلد 8 صفحہ 92 وغيرهم . أخرجه

النسائي رقم الحديث: 4859 من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بدون ذكر حميد بن هلال بمثل رواية

شعبة ومن وافقه . أخرجه النسائي رقم الحديث: 4858، والدارقطني جلد 3 صفحہ 211 من طريق سعيد

عن قتادة عن مسروق به . وللحديث شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري رقم الحديث: 895

ومن حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه رقم الحديث: 2653 .

قَالَ: أَصَبْتُ

سے کی جوان کی کنگھی کر سکے اور ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو نے اچھا کیا۔

حضرت عمرو بن دینار سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے ایک انصاری کولات ماری انصاری نے آواز دی: اے انصار! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا جاہلیت والے دعوے ہیں؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس نے اسے لات ماری ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو چھوڑو یہ گندہ ہے۔

1814 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَسَعَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ

حضرت محمد بن منکدر کی حضرت

338- مُحَمَّدُ بْنُ

جابر رضی اللہ عنہ سے

الْمُنْكَدِرِ

روایت کردہ احادیث

عَنْ جَابِرٍ

حضرت محمد بن منکدر نے فرمایا کہ میں نے حضرت

1815 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1814 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 19775 . من طريق حماد بن سلمة عن عاصم به أخرجه النسائي رقم

الحديث: 1727، والبيهقي جلد 3 صفحہ 25 .

1815 - أخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 300 . من طريق شعبة به موقوفًا . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 78

وأحمد رقم الحديث: 19728، ورواه سعيد بن أبي عروبة كما أشار المصنف عن قتادة مرفوعًا .

أخرجه النسائي كما في التحفة جلد 6 صفحہ 422، والبخاري (1040- كشف) وابن خزيمة رقم

الحديث: 2154-2155 من طريق ابن أبي عدى عن سعيد به . من طريق همام عن قتادة عن أبي تميمة

به موقوفًا أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 562 . ورواه الشوري عند عبد الرزاق رقم

الحديث: 7866 وعقبه الأصم عند أحمد في الزهد رقم الحديث: 1093 كلاهما عن أبي تميمة به

موقوفًا .

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَفَنَفَخَ فِي وَجْهِ، فَأَفَقْتُ، وَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرِيضَةِ (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) (النساء)

جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس آئے اس حالت میں کہ میں مریض تھا آپ نے مجھ پر پھونک ماری تو میں افاقہ میں ہو گیا سو وراثت والی آیت نازل ہوئی: "يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ"۔

(176:

1816 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: اسْتَفْتَحْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: أَنَا وَكَرِهَ ذَلِكَ

حضرت محمد بن منکدر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کون ہے؟ میں نے کہا: میں! آپ ﷺ نے فرمایا: میں میں (کیا ہوتا ہے) اور آپ نے اس کو ناپسند کیا۔

1817 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1816 - أخرجه البزار رقم الحديث: 1041، والبيهقي جلد 4 صفحه 300 . من طرق عن الضحاك بن يسار به أخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحه 78، وأحمد رقم الحديث: 19728، والعقيلي جلد 2 صفحه 219، وابن حبان رقم الحديث: 3584، والبيهقي جلد 4 صفحه 300 .

1817 - ولم أقف عليه من رواية أنس عن أبي موسى الا عند أبي داؤد رقم الحديث: 4830 عن مسدد عن يحيى وابن معاذ كلاهما عن شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن..... فذكر الحديث ثم قال: وزاد ابن معاذ، قال: قال أنس: كنا نتحدث أن مثل الجليس الصالح فذكره وذكر العقيلي جلد 1 صفحه 159-160 الحديثين من رواية قتادة . أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 4829 . وحديث شبيل بن عزرة أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 4831، وأبو يعلى رقم الحديث: 4295، والحاكم جلد 4 صفحه 280 وغيرهم . والحديث يروى عن أبي موسى من غير وجه . أخرجه أحمد رقم الحديث: 19640، والحميدي رقم الحديث: 770، والبخاري رقم الحديث: 5534-2101، ومسلم رقم الحديث: 2628، وأبو يعلى رقم الحديث: 7307، وابن حبان رقم الحديث: 579-561 وغيرهم من طريق أبي بردة عن أبيه . من طريق أبي كبشة عن أبي موسى أخرجه

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ جب مجھے میرے باپ کے پاس اُحد کے دن لایا گیا تو میری پھوپھی آئی، اس پر رونے لگی، کہا کہ میں بھی رونے لگا، اور لوگ مجھے منع کرنے لگے اور رسول اللہ ﷺ مجھے منع نہیں کر رہے تھے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کے لیے رویانہ رؤ اللہ کی قسم! فرشتے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں اپنے پروں کے ساتھ یہاں تک کہ تم اسے دفن کر دو۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: لَمَّا جِيَءَ بِأَبِي يَوْمَ أُحُدٍ وَجَاءَتْ عَمَّتِي تَبْكِي عَلَيْهِ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَبْكِي وَجَعَلَ الْقَوْمُ يَنْهَوْنَنِي، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْهَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْكُوهُ أَوْ لَا تَبْكُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تَنْظُرُهُ بِأَجْنِحَتَيْهَا حَتَّى دَفَنْتُمُوهُ

حضرت محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اس حالت میں جبکہ آپ کا وصال ہو چکا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔

1818 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ

بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَبَّلَ جَبْهَتَهُ

حضرت محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ

1819 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

أحمد رقم الحديث: 19679، وهناد في الزهد رقم الحديث: 1237، والعقيلي جلد 1 صفحة 160 وغيرهم .

1818 - أخرج الطحاوي جلد 2 صفحة 190، والبيهقي جلد 4 صفحة 339 . أخرج أبو داؤد رقم الحديث: 4829 . وحديث شيبان بن عذرة أخرج أبو داؤد رقم الحديث: 4831، وأبو يعلى رقم الحديث: 4295، والحاكم جلد 4 صفحة 280 وغيرهم . والحديث يروى عن أبي موسى من غير وجه . أخرج أحمد رقم الحديث: 19640، والحميدي رقم الحديث: 770، والبخاري رقم الحديث: 2101-5534، ومسلم رقم الحديث: 2628، وأبو يعلى رقم الحديث: 7307، وابن حبان رقم الحديث: 561-579 وغيرهم من طريق أبي بردة عن أبيه . من طريق أبي كبشة عن أبي موسى أخرج أحمد رقم الحديث: 19679، وهناد في الزهد رقم الحديث: 1237، والعقيلي جلد 1 صفحة 160 وغيرهم .

1819 - أخرج أبو عوانة جلد 2 صفحة 128، والبيهقي جلد 2 صفحة 141 . من طرق عن هشام به أخرج أحمد

الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا وَقَى بِهِ الْمُؤْمِنُ عِرْضَهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ لِيَصِدَّقَ بِهِ.

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس چیز کے ساتھ مؤمن اپنی عزت بچائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔

1820 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ قَدِمَ

حضرت محمد بن منکدر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ دیہات سے ایک آدمی مدینہ منورہ آیا اس نے نبی اکرم ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی

رقم الحديث: 19680، ومسلم رقم الحديث: 404، وابن ماجه رقم الحديث: 901، والنسائي رقم الحديث: 1172، وابن خزيمة رقم الحديث: 1584-1593، وابن حبان رقم الحديث: 2167. من طرق عن قتادة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19610-19738، والدارمي رقم الحديث: 1318-1365، ومسلم رقم الحديث: 404، وأبو داؤد رقم الحديث: 972، وابن ماجه رقم الحديث: 901، والنسائي رقم الحديث: 829، وأبو يعلى رقم الحديث: 7224-7326، وابن خزيمة رقم الحديث: 1584-1593، وأبو عوانة جلد 2 صفحہ 129-277، والطحاوی جلد 1 صفحہ 264-265، والدارقطني في السنن جلد 1 صفحہ 351-352، وفي العلل جلد 7 صفحہ 253، والبيهقي جلد 2 صفحہ 140-141 وغيرهم.

1820 - أخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 493، وأحمد رقم الحديث: 11161-19692-19765، والدارمي رقم الحديث: 2622، وابن ماجه رقم الحديث: 3706، وابن عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 2502. من طريقين عن أبي نضرة به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 19423، وأحمد رقم الحديث: 19528، ومسلم رقم الحديث: 2153، والترمذي رقم الحديث: 2690، والبيهقي جلد 7 صفحہ 97 وغيرهم انظر علل الدارقطني جلد 7 صفحہ 197، والفتح جلد 11 صفحہ 29. من طريق بسر بن سعيد عن أبي سعيد أخرجه مالك جلد 2 صفحہ 963، والحميدي رقم الحديث: 734، وأحمد رقم الحديث: 11043، والبخاري رقم الحديث: 6245، ومسلم رقم الحديث: 2153، وأبو داؤد رقم الحديث: 5180، وأبو يعلى رقم الحديث: 981 وغيرهم. أخرجه أحمد رقم الحديث: 19574، والبخاري رقم الحديث: 7353-2062، ومسلم رقم الحديث: 2153، وأبو داؤد رقم الحديث: 5183-5181، وأبو يعلى رقم الحديث: 7257، وابن حبان رقم الحديث: 5807. انظر علل الدارقطني جلد 7 صفحہ 198-199.

تو اس کو بخار آیا، وہ نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا، اس نے کہا: میری بیعت واپس لیجئے! واپس لیجئے! دو مرتبہ یا تین مرتبہ کہا، کہا کہ پھر وہ نکلا تو نبی اکرم ﷺ کو بتایا گیا کہ وہ نکل گیا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مدینہ (کی مثال بھٹی کی طرح ہے) جو زنگ کو دور کر دیتا ہے اور عمدگی نکھار دیتا ہے۔

حضرت محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ

سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا، تو میں نے (حضرت عمر کا) محل دیکھا تو مجھے پسند آیا، میں نے دریافت کیا: یہ کس کا ہے؟ کہا گیا: یہ عمر بن خطاب کا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ اس میں داخل ہو جاؤں، سو مجھے تیری غیرت یاد آگئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟

حضرت محمد بن منکدر یا سالم بن ابی النضر یا دونوں

الْمَدِينَةَ، فَبَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوُعِكَ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَقْلِنِي أَقْلِنِي، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ، فَأُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَدِينَةَ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَيْبَهَا

1821 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ قَصْرًا، فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَارَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ فَبَكَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: وَعَلَيْكَ أَغَارِيَا رَسُولَ اللَّهِ

1822 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1821- أخرجه الحاكم جلد 3 صفحہ 465 وقال صحيح الاسناد . ووافقه الذهبي . من طريق شعبة به أخرجه

أحمد رقم الحديث: 19555-19586-19729 . من طريق حماد بن سلمة عن أبي التياح به أخرجه أبو

داؤد رقم الحديث: 3 . من طريق أبي وائل أخرجه البخاري رقم الحديث: 226 . من طريق أبي بردة عن

أبيه أخرجه أب ويعلی رقم الحديث: 7284 . وللحديث شاهد من حديث عبد الرحمن بن حسنة عند

أحمد رقم الحديث: 17793، والنسائي رقم الحديث: 30 . وكذلك الأحاديث الآمرة بالترفة من البول

كحديث ابن عباس عند البخاري رقم الحديث: 216 .

1822- أخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 436، وأحمد رقم الحديث: 19689، والبخاري رقم الحديث:

7075-452، ومسلم رقم الحديث: 2615، وأبو داؤد رقم الحديث: 2587، وابن ماجه رقم الحديث:

3778، وأبو يعلى رقم الحديث: 7291، وابن خزيمة رقم الحديث: 1318، والطحاوي جلد 4

وَرَقَاءُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَوْ سَالِمِ أَبِي
النَّضْرِ أَوْ كِلَاهُمَا شَكَّ وَرَقَاءُ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ
يَمِينِهِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ
بَيْنَ طَرَفَيْهِ

سے روایت ہے ورقاء کو شک ہے کہ حضرت جابر بن
عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نبی
اکرم ﷺ کے پاس گیا، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے
میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو آپ نے مجھے
اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا، سو میں نے دیکھا کہ آپ
ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے آپ نے اس کو
دونوں طرف مخالف سمت میں لٹکایا ہوا تھا۔

1823 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

طَلْحَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمْرَ صَارِحًا يَصْرُخُ
بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ اتَّخَلَفَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ
الصَّلَاةِ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

حضرت محمد بن منکدر سے روایت ہے کہ حضرت
جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: بے شک میں نے ارادہ کیا کہ بلند آواز
میں نماز کے لیے حکم دوں، پھر میں ان مردوں کے پاس
جاؤں جو نماز سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو میں ان پر ان
کے گھروں کو جلا دوں۔

1824 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

طَلْحَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ
الْأَعْمَالِ إِيْمَانٌ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

حضرت محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ
سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: افضل اعمال میں ایمان اللہ تعالیٰ پر
ایمان لانا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کہا کہ ہم

صفحہ 280، وابن حبان رقم الحديث: 1649، والبيهقي جلد 8 صفحہ 23. من طريقين عن أبي بردة به

أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 1735، وأحمد رقم الحديث: 19518-19592-19718-19769.

1823- أخرجه أحمد رقم الحديث: 19826، وابن ماجه رقم الحديث: 1479، والطحاوي جلد 1 صفحہ 478،

والبغوي في الجعدييات رقم الحديث: 609، ورواه زائدة محمد بن فضيل عند ابن أبي شيبة

جلد 3 صفحہ 281، وابن علية عند أحمد رقم الحديث: 19627 عن ليث به.

1824- أخرجه جلد 4 صفحہ 22 من طريق أبي الوليد الطيالسي عن زائدة به أخرجه الطحاوي جلد 1

صفحہ 479، والخطيب جلد 11 صفحہ 223.

قَالَ: قُلْنَا: مَا بَرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَطِيبُ
الْكَلَامِ
نے عرض کی: حج کی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کھانا
کھلانا اور اچھی کلام کرنا۔

حضرت محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ

1825 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ،

میں جنت میں داخل ہوا، تو میں نے حضرت ابو طلحہ کی

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

بیوی دیکھی اور میں نے اپنے آگے چلنے کی آواز سنی، میں

وَسَلَّمَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ امْرَأَةً أَبِي طَلْحَةَ،

1825- أخرجه الترمذی رقم الحديث: 1101 . وابن ماجه رقم الحديث: 1881، والطحاوی جلد 3 صفحہ 9 .

من طریق معلى بن منصور عن ابي عوانة به أخرجه الحاكم جلد 2 صفحہ 171، والبيهقى

جلد 7 صفحہ 107 . وقال البيهقى: قال معلى: ثم قال أبو عوانة بعد ذلك: لم أسمعه من أبي اسحاق

بيني وبينه اسرايل وقد أخرجه الطحاوی جلد 3 صفحہ 9 عن طريق معلى عن اسرايل . والحديث

يروى عن ابي اسحاق من غير وجه فأخرجه أحمد رقم الحديث: 19725، والدارمی رقم الحديث:

2188، وأبو داؤد رقم الحديث: 2085، والترمذی رقم الحديث: 1101، وابن الجارود رقم الحديث:

702، وأبو يعلى رقم الحديث: 7227، والطحاوی جلد 3 صفحہ 8، والدارقطنی جلد 3 صفحہ 218،

والحاكم جلد 2 صفحہ 170، والبيهقى جلد 7 صفحہ 107 وغيرهم من طريق اسرايل عن ابي اسحاق

به . من طريق شريك عن ابي اسحاق به أخرجه الدارمی رقم الحديث: 2189، والترمذی رقم

الحديث: 1101، والطحاوی جلد 3 صفحہ 9، والحاكم جلد 2 صفحہ 170، والبيهقى جلد 7 صفحہ 107 .

من طريق زهير وقيس مفرقين عن ابي اسحاق به أخرجه ابن الجارود رقم الحديث: 703، وابن حبان

رقم الحديث: 4077، والطحاوی جلد 3 صفحہ 9، والحاكم جلد 2 صفحہ 170، والبيهقى

جلد 7 صفحہ 108 . ورواه يونس بن ابي اسحاق واختلف عنه فرواه زيد بن حباب وعيسى بن يونس

والحسن بن قتيبة وحجاج بن محمد والهشيم بن جميل عن يونس عن ابي اسحاق به كرواية

السابقى . أخرج أحاديثهم الترمذی رقم الحديث: 1101، والحاكم جلد 2 صفحہ 171، والبيهقى

جلد 7 صفحہ 109 . ورواه أبو عبيدة وأسباط وقبيصة عن يونس عن ابي بردة به بدون ذكر ابي

اسحاق . أخرج أحاديثهم: أحمد رقم الحديث: 19761-19725، وأبو داؤد رقم الحديث: 2085،

وابن الجارود رقم الحديث: 1-7، والحاكم جلد 2 صفحہ 171، والبيهقى جلد 7 صفحہ 109 .

وَسَمِعْتُ خَشْفَةَ أَمَامِي، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: بِلَالٍ
 قَالَ: بِلَالٍ

نے کہا: اے جبریل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: بلال
 ہے۔

1826 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ
 جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ: لَا

حضرت محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی
 اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے
 جس چیز کا سوال کیا گیا، آپ ﷺ نے نہ نہیں فرمائی۔

339- مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو

حضرت محمد بن عمرو بن حسن کی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

روایت کردہ احادیث

بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَابِرٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

1827 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت محمد بن عمرو بن حسن، حضرت جابر رضی اللہ

1826 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 19734، وأبو نعيم في أخبار أصبهان جلد 2 صفحہ 359، والبيهقي
 جلد 5 صفحہ 253 . من طريق عمرو بن مرزوق عن عمران به . أخرجه البيهقي جلد 5 صفحہ 253 . من
 طريق هشام الدستوائي عن قتادة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19735، وأبو داؤد رقم الحديث:
 1538، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8631، وابن السني في اليوم والليلة رقم الحديث: 335،
 وابن حبان رقم الحديث: 4765، والحاكم جلد 2 صفحہ 142، والبيهقي جلد 5 صفحہ 253 . قال
 الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي . من طريق حجاج ومطر مفرقين عن قتادة به أخرجه أبو عوانة جلد 4
 صفحہ 87 .

1827 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 19774 . من طرق عن أبي عوانة به أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 4033،
 والترمذي رقم الحديث: 2479، وأبو يعلى رقم الحديث: 7266، والبغوي رقم الحديث: 3098 . من
 طرق عن قتادة به أخرجه ابن أبي شيبة رقم الحديث: 4958، وأحمد رقم الحديث: 19669-19773،
 وابن ماجه رقم الحديث: 3562، والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 1967، وابن عدی
 جلد 6 صفحہ 261، والبيهقي جلد 2 صفحہ 420 .

عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ سفر میں تھے کہ ایک آدمی دیکھا جس پر سایہ کیا ہوا تھا، آپ نے اس کے متعلق پوچھا، لوگوں نے عرض کی: اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَجُلًا يُظَلُّ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

1828 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ، يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ الْحَجَّاجُ بْنُ يَوْسُفَ كَانَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَجِيرِ أَوْ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً، وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ، يُؤَخِّرُ أَحْيَانًا، وَيُعَجِّلُ أَحْيَانًا، إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَجَلًا، وَإِذَا تَأَخَّرُوا آخَرَ، وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ أَوْ قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَهَا بِغَلَسٍ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا قَالَ شُعْبَةُ

حضرت محمد بن عمرو بن حسن فرماتے ہیں کہ جب حجاج بن یوسف کا دور حکومت آیا، تو یہ نماز کو وقت سے مؤخر کرتا تھا، ہم نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے نماز کے وقت کے متعلق پوچھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ظہر کی نماز پڑھتے دوپہر کے وقت یا جس وقت سورج ڈھل جاتا اور عصر کی نماز پڑھتے تھے جس وقت سورج بلند ہوتا، اور مغرب کی نماز پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا، اور عشاء کی نماز کبھی دیر سے پڑھتے کبھی جلدی پڑھتے، جب لوگ جمع ہو جاتے آپ جلدی پڑھ لیتے اور جب دیر سے آتے تو آپ دیر سے پڑھتے اور صبح کی نماز غلَس میں پڑھتے یا فرمایا کہ انہیں غلَس (اندھیرے) میں پڑھاتے۔ امام ابوداؤد فرماتے ہیں: شعبہ نے اسی طرح کہا ہے۔

1828 - وعزاه البوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 6172 للمصنف . من طرق عن

المسعودي به أخرجه أحمد رقم الحديث: 19542-19709، والحاكم جلد 3 صفحہ 212 . من طرق

عن برید بن عبد اللہ عن أبي بردة به مطولاً أخرجه البخاري رقم الحديث: 3876-4231، ومسلم رقم

الحديث: 2503، وأبو يعلى رقم الحديث: 7316، وأبو نعيم في الحلية جلد 2 صفحہ 74، والبيهقي في

الدلائل جلد 4 صفحہ 244 .

340- سُلَيْمَانُ بْنُ

قَيْسٍ عَنِ

جَابِرٍ

1829 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى أَبِي طَيْبَةَ فَحَجَمَهُ، وَقَالَ: كَمْ خَرَأُجُكَ؟ قَالَ: ثَلَاثَةُ أَصْعٍ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا

حضرت سلیمان بن قیس کی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ

سے روایت کردہ حدیث

حضرت سلیمان بن قیس، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ابو طیبہ کی طرف آدمی بھیجا، اس نے آپ کو پچھنا لگایا، اور آپ نے فرمایا: تیرا کتنا معاوضہ ہے؟ اس نے کہا: تین صاع، تو آپ نے اسے ایک صاع کم دیا۔

341- مُحَارِبُ

بْنُ دِثَارٍ

عَنْ جَابِرٍ

1830 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت محارب بن دثار کی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ

سے روایت کردہ احادیث

حضرت محارب بن دثار نے فرمایا کہ میں نے

1829- عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 1836 للمصنف . من طريق المصنف أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 322 . وقال: هذا مرسل . وطريق موسى بن مسعود المشار اليه عقب الحديث أخرجه البيهقي كذلك جلد 7 صفحہ 322 . وتابعه مؤمل بن اسماعيل عليه عن الثوري . أخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 2017، والطبري جلد 2 صفحہ 539، وابن حبان رقم الحديث: 4265، والبيهقي جلد 7 صفحہ 322 . ومؤمل وموسى بن مسعود فيهما كلام لكنهما يتعاضدان . من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى وفي اسناده أبو خالد الدالاني متكلم فيه وهو عاضد لمن قبله أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 323 . انظر ضعيف ابن ماجه رقم الحديث: 440 .

1830- أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 322 . وقال: هذا مرسل . وطريق موسى بن مسعود المشار اليه عقب

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ
أَهْلَهُ طُرُوقًا

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ
رسول اللہ ﷺ ناپسند کرتے تھے کہ آدمی رات کو اپنے
اہل خانہ کے پاس آئے۔

1831 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت محارب بن دثار نے فرمایا کہ میں نے

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا،
يَقُولُ: بَعْتُ بَعِيرًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَوَزَنَ، فَأَرْجَحَ، فَمَا زَالَ بَعْضُ تِلْكَ
الدَّرَاهِمِ مَعِيَ حَتَّى أُصِيبَتْ يَوْمَ الْحَرَّةِ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ میں نے رسول
اللہ ﷺ سے اونٹ خریدا تو آپ نے تول کر دیا تو
زیادہ دیا اور ان میں سے بعض درہم میرے پاس رہے
یہاں تک کہ حرہ کے دن گم ہو گئے۔

1832 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت محارب بن دثار نے فرمایا کہ میں نے

الحدیث أخرجه البيهقي كذلك جلد 7 صفحہ 322 . وتابعه مؤمل بن اسماعيل عليه عن الثوري .
أخرجه ابن ماجه رقم الحديث: 2017، والطبري جلد 2 صفحہ 539، وابن حبان رقم الحديث: 4265،
والبيهقي جلد 7 صفحہ 322 . ومؤمل وموسى بن مسعود فيهما كلام لكنهما يتعاضدان . من طريق
حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى وفي اسناده أبو خالد الدالاني متكلم فيه وهو عاضد لمن قبله
أخرجه البيهقي جلد 7 صفحہ 323 . انظر ضعيف ابن ماجه رقم الحديث: 440 .

1831 - أخرجه أبو عوانة جلد 1 صفحہ 157، والبيهقي في البعث والنشور رقم الحديث: 239 . من طرق عن
الحارث به أخرجه ابن أبي شيبة جلد 13 صفحہ 148، وأحمد رقم الحديث: 19746، وعبد بن حميد
رقم الحديث: 544، والدارمي رقم الحديث: 2825، والطبري جلد 16 صفحہ 37، وأبو عوانة
جلد 1 صفحہ 157، وأبو نعيم جلد 2 صفحہ 316، وفي صفة الجنة رقم الحديث: 58 . عن طرق عن عبد
العزیز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران به بدون آخر ثم تصدع بأنهار..... أخرجه أحمد رقم
الحديث: 19697، والبخاري رقم الحديث: 4878-4880-7444، ومسلم رقم الحديث: 180،
والترمذي رقم الحديث: 2528، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 7765، وابن ماجه رقم
الحديث: 186، وأبو يعلى رقم الحديث: 7331، وابن حبان رقم الحديث: 7386 .

1832 - أخرجه أبو عوانة جلد 5 صفحہ 39-40 . من طرق عن جعفر بن سليمان به أخرجه أحمد رقم

عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، وَأَنَا عَلَى بَعِيرٍ، فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ، تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: فَمَا لَكَ وَالْعَدَارَى وَلِعَبْهَنَّ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، اور میں ایک اونٹ پر تھا، آپ نے مجھے فرمایا: اے جابر! تو نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! فرمایا: باکرہ سے کی یا ثیبہ سے؟ میں نے عرض کی: ثیبہ سے، فرمایا: باکراؤں سے کیوں نہیں کی؟ تو ان کے ساتھ کھیلتا۔

1833 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ لِي: أَنْتِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

حضرت محارب بن دثار نے فرمایا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے، پس جب ہم مدینہ منورہ آئے تو آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: تو مسجد میں جا اور اس میں دو رکعت ادا کر۔

الحديث: 19556-19695، ومسلم رقم الحديث: 1902، والترمذی رقم الحديث: 1659، وأبو يعلى رقم الحديث: 7324-7331، وأبو عوانة جلد 5 صفحہ 39، وابن حبان رقم الحديث: 3617، والبيهقي جلد 9 صفحہ 44 وغيرهم . وأخرجه أبو عوانة جلد 1 صفحہ 40 عن أبي أمية الطرطوسي عن أبي داؤد الطيالسي عن الحارث بن عبيد وجعفر بن سليمان مقرونین به .

1833 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 19681، والبخاری رقم الحديث: 2261-6923، ومسلم رقم الحديث: 1733، وأبو داؤد رقم الحديث: 3579-4354، والنسائي رقم الحديث: 4، وأبو عوانة جلد 4 صفحہ 410، وأبو يعلى رقم الحديث: 7240، وابن حبان رقم الحديث: 1071، والبيهقي جلد 8 صفحہ 195 . من طرق عن قررة بن خالد به أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 4354، وأبو عوانة جلد 4 صفحہ 409، والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1134 . من طريق يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى . . . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 12 صفحہ 215، والبخاری رقم الحديث: 7149، ومسلم رقم الحديث: 1733، وأبو يعلى رقم الحديث: 7320، وأبو عوانة جلد 4 صفحہ 408 . من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أخرجه أحمد رقم الحديث: 19756، والنسائي رقم الحديث: 5397، وأبو عوانة جلد 4 صفحہ 410 .

حضرت محارب بن دثار نے فرمایا کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ انصار کا ایک آدمی آیا اس کے ساتھ دو آدمی اور تھے حضرت معاذ کے پاس اور وہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ یا سورہ نساء شروع کی حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ محارب کو شک ہے۔ سو جب اس آدمی نے دیکھا تو نماز پڑھی پھر چلا گیا تو اس آدمی کو خبر پہنچی کہ حضرت معاذ نے کہا ہے کہ وہ منافق آدمی ہے۔ تو وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے اس بات کا ذکر کیا تو رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: اے معاذ! کیا تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے؟ کیا تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے؟ کیا تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے؟ یا فرمایا: فتنہ ڈالنے والے کیا تو "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى" "يَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا" نہیں پڑھ سکتا امام شعبہ فرماتے ہیں کہ محارب کو شک ہے تیرے پیچھے

1834 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: انْتَهَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ نَاصِحَانِ لَهُ إِلَى مُعَاذٍ، وَهُوَ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، فَاسْتَفْتَحَ مُعَاذٌ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ النَّسَاءِ - قَالَ شُعْبَةُ: شَكَّ مُحَارِبٌ - فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الرَّجُلُ صَلَّى ثُمَّ انْطَلَقَ فَبَلَغَ الرَّجُلَ أَنَّ مُعَاذًا يَقُولُ: هُوَ مُنَافِقٌ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: يَا مُعَاذُ، أَفْتَانٌ، أَفْتَانٌ، أَفْتَانٌ - أَوْ قَالَ - فَاتِنٌ أَوْ لَا قَرَأْتَ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى أَوْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا - قَالَ شُعْبَةُ: شَكَّ مُحَارِبٌ - يُصَلِّي وَرَاءَكَ ذُو الْحَاجَةِ وَالصَّغِيرُ أَوْ قَالَ: وَالضَّعِيفُ شَكَّ مُحَارِبٌ

1834- قال الدارقطني في العلل جلد 7 صفحه 224: يرويه أبو اسحاق السبيعي واختلف عنه فرواه الثوري وشعبة ويوسف بن أبي اسحاق وزكريا بن أبي زائدة عن أبي اسحاق عن الأسود عن أبي موسى وقال قائل عن أبي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي موسى . وقول الثوري ومن تابعه هو الصواب . وقيل: عن شعبة عن أبي اسحاق عن أبي الأحوص عن أبي موسى قاله عفان عنه . وقيل: عنه عن أبي اسحاق . قال شعبة: لا أدري هو عن أبي الأحوص أو لا ان أبا موسى قال ذلك يقول الحضرمي عنه عن شعبة . والحديث من رواية الثوري ويوسف وزكريا قد أخرجه البخاري رقم الحديث: 3763-4384، ومسلم رقم الحديث: 2460، والترمذي رقم الحديث: 3806، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 8263-8388، والطبراني رقم الحديث: 8497-8498، والدارقطني في العلل جلد 7 صفحه 255، والحاكم جلد 3 صفحه 314 .

ضرورت مند اور بچے بھی ہوتے ہیں یا فرمایا: اور کمزور بھی ہوتے ہیں۔ محارب کو شک ہے۔

حضرت سالم بن ابی الجعد کی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

روایت کردہ احادیث

342- سَالِمُ بْنُ

أَبِي الْجَعْدِ

عَنْ جَابِرٍ

1835 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ جَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَ الشَّجْرَةِ؟ قَالَ: كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةَ، وَذَكَرَ عَطَشًا أَصَابَهُمْ، قَالَ: فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ الْعُيُونُ قَالَ: فَشَرِبْنَا وَوَسِعْنَا وَكَفَانَا، قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ كَفَانَا كُنَّا أَلْفًا وَخَمْسِمِائَةَ

حضرت سالم بن ابی الجعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے عرض کی: آپ درخت (کے نیچے بیعت کرنے والے حضرات) (حدیبیہ) کے دن کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا: ہماری تعداد پندرہ سو تھی اور صحابہ کی اس پیاس کا ذکر کیا، جو ان کو لگی تھی۔ فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک برتن میں پانی لایا گیا، سو آپ نے اپنا ہاتھ اس میں رکھا، تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی نکلنے لگا گویا کہ چشمے میں۔ کہا کہ پس ہم نے پیا اور رکھ بھی لیا، اور ہمیں کافی ہو گیا۔ کہا کہ میں نے عرض کی: آپ کتنے تھے؟ فرمایا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہمارے لیے کافی ہوتا، ہم اس وقت پندرہ سو تھے۔

حضرت سالم بن ابوالجعد، حضرت جابر رضی اللہ

1836 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

1835 - عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 1998 للمصنف . من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد به

نحوه أخرجه أحمد في الأشربة رقم الحديث: 225، والبيهقي جلد 8 صفحہ 295 . وله شاهد من

حديث أنس عند البخاري رقم الحديث: 4620-5584، ومسلم رقم الحديث: 1980 .

1836 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 19758 عن غندر عن شعبة به وفيه أن الواسطة المبهمة من قوم زياد أي من

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ،
يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
غُلَامٌ، فَأَرَادُوا أَنْ يُسَمُّوهُ الْقَاسِمَ، فَأَبَتِ الْأَنْصَارُ،
فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَقَالَ: أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ، تَسَمُّوا بِاسْمِي وَلَا
تَكُونُوا بِكُنْيَتِي

عنه سے روایت کرتے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی کے
ہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کا نام قاسم
رکھیں تو انصار نے انکار کر دیا، اس بات کا ذکر نبی
اکرم ﷺ کے پاس ہوا، تو آپ نے فرمایا: اے انصار!
تم نے اچھا کیا، میرے نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر
کنیت نہ رکھو۔

حضرت سالم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1837 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میرے

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

نام پر نام رکھو اور میری کنیت پر کنیت نہ رکھو۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَسَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُونُوا

بنی ثعلبة وأن زيادًا لم يرض بقوله فتثبت فيه من سيد الحي و كان معهم فصدقه ان ابا موسى حدثهم
اياه . من طريق ابن مهدي عنه أخرجه رواية سفيان الأولي أحمد رقم الحديث: 19546، ورواية مسعر
الطبراني في الصغير جلد 1 صفحہ 127 ورواية سعاد بن سليمان البخاري في التاريخ جلد 4 صفحہ 211،
والبزار رقم الحديث: 2989، والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 1418، ورواية أبي بكر النهشلي عن
أحمد رقم الحديث: 19759، وأبو يعلى رقم الحديث: 7226، وخرج البزار رقم الحديث: 2986، ورواية
أبي بكر النهشلي هذه . الا أنه قال: عن قطبة بن مالك بدلًا من أسامة بن شريك . وخرج رواية
الحجاج البزار رقم الحديث: 2988، ورواية أبي مريم الدارقطني في العلل جلد 7 صفحہ 257 .
للحديث شاهد من حديث أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى عند أحمد رقم الحديث: 18105،
والحاكم جلد 2 صفحہ 93 .

1837 - أخرجه ابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 980، والبزار (3296- كشف) والبيهقي في الشعب رقم

الحديث: 11180 . من طريق سعيد بن بشير كلاهما عن قتادة أخرجه أحمد رقم الحديث: 19505 من

طريق همام والطبراني في مكارم الأخلاق رقم الحديث: 113 . من طريق مؤمل عن سفيان عن عاصم

عن أبي عثمان عن أبي موسى أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحہ 74، وابن عدی جلد 7

صفحہ 2568، والدارقطني في العلل جلد 7 صفحہ 242، وأخرجه ابن عدی جلد 7 صفحہ 2568 من

طريق هشام بن لاحق . وذكره الدارقطني في مسند عمر جلد 2 صفحہ 244 .

بُکْنِیَّتِی

1838 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

حضرت سالم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مد پانی کے ساتھ وضو کرتے تھے اور ایک صاع کے ساتھ غسل کرتے تھے۔

عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ

حضرت ابو زبیر کی حضرت جابر

343- مَا رَوَى أَبُو

بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے

الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ

روایت کردہ احادیث

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی۔

1839 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

1838- أخرجه الطبري في التفسير جلد 26 صفحہ 12، والمزى في تهذيب الكمال جلد 10 صفحہ 253. من طريق محمد بن دينار به أخرجه أبو داؤد في سننه رقم الحديث: 3986، والترمذی رقم الحديث: 2934، وحكاية ابن عباس مع عمرو بن العاص أخرجه ابن جرير جلد 16 صفحہ 11. ورويت أيضا عن ابن عباس مع معاوية أخرجه ابن جرير جلد 16 صفحہ 11، وابن أبي حاتم كما في التفسير لابن كثير جلد 5 صفحہ 189. وروى عن ابن عباس مرفوعاً ولا يصح اسناده أخرجه الطبراني في الكبير رقم الحديث: 12480، والصغير جلد 2 صفحہ 124، انظر التفسير للطبري جلد 16 صفحہ 11-12، ولا بن كثير جلد 5 صفحہ 188-189.

1839- أخرجه أحمد رقم الحديث: 20716. من طريق خالد الحذاء عن عمار به أخرجه أحمد رقم الحديث:

23531. أخرجه أحمد رقم الحديث: 1845-3035-3165-3367، والبخاري رقم الحديث: 6597،

ومسلم رقم الحديث: 2660 وغيرهم.

حضرت ابو زبیر سے روایت ہے کہ حضرت جابر

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے لیے لیلۃ البعیر (اونٹ والی رات) کو پچیس مرتبہ دعا مانگی۔

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو تہ بند نہ پائے اسے چاہیے کہ وہ شلوار پہن لے اور جو جوتے نہ پائے وہ موزے پہن لے (حج کے دوران احرام میں)۔

حضرت ابو زبیر سے روایت ہے کہ حضرت جابر

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ

1840 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اسْتَغْفَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْبَعِيرِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً

1841 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ

1842 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

1840 - أخرجه مسلم رقم الحديث: 2380-2661، وأبو داؤد رقم الحديث: 4705-4706، والترمذی رقم

الحديث: 3150، وابن حبان رقم الحديث: 6221، والطحاوی فی المشکل رقم الحديث: 3125، وعبد الله فی زیادات المسند رقم الحديث: 21160 وغيرهم وعند بعضهم زیادة ولو أدرك لأرهب أبو یه طغیاناً وكفراً .

1841 - أخرجه الترمذی رقم الحديث: 3793-3898، والحاكم جلد 2 صفحہ 531 وأبو نعیم فی الحلیة جلد 4

صفحہ 187 . من طریق شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21240، وابنه رقم الحديث: 21241 . قال الترمذی: حديث حسن، وزاد فی الموضوع الآخر: صحيح . أخرج البخاری رقم الحديث: 3809، ومسلم رقم الحديث: 799 وغيرهما من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي أن الله أمرني وعند البخاری أيضاً رقم الحديث: 6439، وكذلك رقم الحديث: 6440 .

1842 - أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 13363، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 7150، وابن حبان رقم

الحديث: 4428-4429، وعبد الله بن أحمد فی الزیادات رقم الحديث: 21245، والطبرانی فی الأوسط رقم الحديث: 4352، والحاكم جلد 2 صفحہ 315، والبيهقی جلد 8 صفحہ 211 . ورواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف عن زر به أخرجه عبد الله بن أحمد رقم الحديث: 21244 من طريق منصور عن عاصم عن زر به مطولاً . أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 4429 .

بارش میں ایک سفر میں تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جو چاہے اپنی رہائش گاہ پر نماز پڑھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی

اکرم ﷺ کی مصاحبت میں حج کا تلبیہ پڑھتے ہوئے

روانہ ہوئے تو اسی دوران سراقہ بن مالک نے پوچھا:

آپ ہمیں اپنے دین کے متعلق خبردار کریں، گویا ہم اسی

دین کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں، کیا ہم اسی کے مطابق

عمل پیرا ہوں گے جس کے متعلق اقلام اور تقدیریں

جاری ہوئیں یا مستقبل کو دیکھیں۔ آپ ﷺ نے

جواب دیتے ہوئے فرمایا: جس کے متعلق اقلام جاری ہو

چکے ہیں۔ زبیر کہتے ہیں کہ ابوزبیر نے ایسا کلمہ کہا جس کو

میں سمجھنے سے قاصر رہا، تو میں نے یاسین الزیات سے

اس کلمے کے متعلق دریافت کیا، اُس نے جواباً کہا: عمل

کرو ہر ایک کیلئے اس کے عمل کو آسان بنا دیا گیا ہے۔

حضرت ابوزبیر سے روایت ہے کہ حضرت جابر

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ،
فَقَالَ: مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُصَلِّ فِي رَحْلِهِ

1843 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَلِّينَ بِالْحَجِّ، فَقَالَ

سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ: أَخْبِرْنَا عَنْ دِينِنَا، كَأَنَّا خُلِقْنَا لَهُ

الآن نَعْمَلُ فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ وَمَضَتْ بِهِ

الْمَقَادِيرُ أَمْ نَسْتَقْبِلُ؟ قَالَ: مَا جَرَتْ بِهِ الْأَقْلَامُ

قَالَ: زُهَيْرٌ: فَتَكَلَّمَ أَبُو الزُّبَيْرِ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَفْهَمَهَا،

فَقُلْتُ لِيَاسِينَ الزِّيَاتِ: مَا قَالَ؟ قَالَ: اَعْمَلُوا فَكُلُّ

مَيْسَرٌ

1844 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1843- أخرجه أحمد رقم الحديث: 21223 عن غندر عن شعبة به . من طرق عن عاصم به أخرجه أحمد رقم

الحديث: 21219-21220-21224-21225 وابن عاصم رقم الحديث: 21226 وابن حبان رقم الحديث:

797-4229 وغيرهم . من طريق ابن عيينة عن عاصم وعبد بن أبي لبابة عن زر به أخرجه البخاري رقم

الحديث: 4976-4977 .

1844- أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 11690، وعبد الله في الزوائد رقم الحديث: 21237، وابن

خزيمة رقم الحديث: 2187 . من طريق عبده بن أبي لبابة عن زر به أخرجه أحمد رقم الحديث:

21228-21230-21233-21234-21236، ومسلم رقم الحديث: 762، والنسائي في الكبرى رقم

الحديث: 3407-3408، والترمذي رقم الحديث: 3351-793، وابن خزيمة رقم الحديث: 2193

وغيرهم .

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہ کو ظہر کی نماز کھجوروں میں پڑھائی تو مشرکوں نے ان کے ساتھ بارنے کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا: چھوڑو اس کو اس کے بعد ایک اور نماز ہے جو ان کے اپنے بیٹوں سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ ﷺ بارگاہ میں آئے اور آپ کو خبر دی تو آپ نے اپنے صحابہ کو عصر کی نماز پڑھائی تو ان کی دو صفیں کر لیں، ایک دشمن کے سامنے اور ایک رسول اللہ ﷺ کے سامنے، تو ان سب نے نماز کی تکبیر کی اور تمام نے رکوع کیا، پھر قریب والوں نے سجدہ کیا اور دوسرے کھڑے رہے، پھر جب انہوں نے سر اٹھایا تو دوسروں نے سجدہ کیا پھر وہ آگے بڑھے اور یہ پیچھے ہو گئے تو انہوں نے تکبیر کہی اکتھے اور تمام نے رکوع بھی اکتھے کیا، پھر قریب والوں نے سجدہ کیا اور دوسرے کھڑے رہے، پھر جب انہوں نے سر اٹھایا تو دوسروں نے سجدہ کیا۔

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دباء و مزفت و نقیر و حاتم کے برتنوں میں پینے سے منع کیا۔

هَشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ بِنَخْلٍ، فَهَمَّ بِهِمُ الْمُشْرِكُونَ، ثُمَّ قَالُوا: دَعُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ صَلَاةَ بَعْدَ هَذِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ العَصْرَ، فَصَفَّهُمْ صَفَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَالْعَدُوِّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَالْآخِرُونَ قِيَامًا، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُسَهُمْ سَجَدَ الْآخِرُونَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ وَتَأَخَّرَ هَؤُلَاءِ، فَكَبَّرُوا جَمِيعًا وَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، وَالْآخِرُونَ قِيَامًا، فَلَمَّا رَفَعُوا رُؤُسَهُمْ سَجَدَ الْآخِرُونَ

1845 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْبُ

بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزْفَتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَتَمِ

1845- أخرجه ابن أبي شيبة جلد 10 صفحہ 518، وأحمد رقم الحديث: 21242-21243، والترمذی رقم

الحديث: 2944، وابن حبان رقم الحديث: 739، والطحاوی فی المشکل رقم الحديث: 3098 وغيرهم

من طریق أبي عوانة عن عاصم به أخرج المقدسی فی المختارة رقم الحديث: 1169 من طریق عبد

الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أخرجه مسلم رقم الحديث: 821.

1846 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حَرْبٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ: كُلُوا وَأَطِعُوا وَأَدِّخِرُوا قَالَ: فَصَنَعْنَا مِنْهُ وَشِيقَةً فَحَمَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قربانی کا گوشت تین دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا، پھر ہم کو خطبہ دیا، تو فرمایا: کھاؤ اور ذخیرہ کر لو۔ (حضرت جابر رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں: پس ہم نے اس گوشت سے بنایا اور اس کو مدینہ شریف اٹھا کر لے گئے۔

1847 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّمَنُ

بْنُ نَابِلٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا

حضرت ابو زبیر سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو یہ تشہد سکھاتے تھے: "بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ،"

1846 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 21883، وأبو نعيم في الحلية جلد 4 صفحہ 363، وأخبار أصبهان جلد 1

صفحہ 294، والمقدسی في المختارة رقم الحديث: 1203. من طريق شعبة به أخرجه أحمد رقم

الحديث: 21184-21185، والبخاری في التاريخ جلد 5 صفحہ 78، وابن حبان رقم الحديث: 6795،

وأبو نعيم في أخبار أصبهان جلد 1 صفحہ 294. وقال أبو نعيم: غريب من حديث عبد الله تفرد به

حبيب ورواه عن شعبة عن غندر ووهب بن جرير مثله ورواه النضر بن شميل عن شعبة عن حبيب عن

عبد الله ولم يذكر عبد الله بن خباب وحديث النضر أخرجه عبد الله بن أحمد رقم الحديث:

21186.

1847 - أخرجه البخاری في خلق أفعال العباد رقم الحديث: 421-422، وأبو داؤد رقم الحديث: 3981،

والحاكم جلد 2 صفحہ 240، وأبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 251، وابن عساكر في تاريخ دمشق

جلد 7 صفحہ 320. من طريق يحيى بن سعيد عن الأجلح به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21174،

والبخاری في خلق أفعال العباس رقم الحديث: 423، وابن عساكر جلد 7 صفحہ 320، ورواه أسلم

المنقري عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزي به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21175، والبخاری في

خلق أفعال العباد رقم الحديث: 420-421، والحاكم جلد 3 صفحہ 304، وأبو نعيم في الحلية جلد 1

صفحہ 251، وابن عساكر جلد 7 صفحہ 319، منه طريق الثوري عن أسلم به وصححه الحاكم وأقره

الذهبي.

التَّشَهُدَ: بِسْمِ اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ،
وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ،
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْأَلُ اللَّهَ
الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ -

حضرت ابوزبیر سے روایت ہے کہ حضرت جابر

1848 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ

رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ میرے پاس

الدَّسْتَوَائِي، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: دَخَلَ

1848 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 15394، عن الطيالسي وأخرجه أحمد رقم الحديث: 15395-15390

والنسائي رقم الحديث: 1731-1732-1735، والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 491، وأبو نعيم في

الحلية جلد 7 صفحہ 181 . أخرجه أبو نعيم جلد 7 صفحہ 181 من طريق عمرو بن علي عن الطيالسي

عن شعبة . وأخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 181 من طريق سليمان بن حرب عن شعبة عن

زيد وحمده به . من طريق سفيان عن زبيد أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 4696، وأحمد رقم

الحديث: 15398 . وقال أبو نعيم: حديث زبيد وسلمة مشهور ولشعبة فيه أقوال سبعة . انظر المسند

رقم الحديث: 15403، والسنن للنسائي رقم الحديث: 1733-1742، والكبرى رقم الحديث: 14349،

والحلية جلد 7 صفحہ 181-182 . أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 176، وأبو داؤد رقم الحديث:

1423، والنسائي رقم الحديث: 1729، وابن ماجه رقم الحديث: 17171، وابن حبان رقم الحديث:

2436، وعبد الله في زوائده رقم الحديث: 21179، والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 1666،

والدارقطني جلد 2 صفحہ 31، والحاكم جلد 2 صفحہ 257، والبيهقي جلد 3 صفحہ 38 من طرق عن

الأعمش به . وقال الحاكم: صحيح الاسناد . من طريق الأعمش عن طلحة وحمده به أخرجه النسائي

رقم الحديث: 1728-1730، وفي الكبرى رقم الحديث: 1429، وابن حبان رقم الحديث: 2450، وعبد

الله بن أحمد رقم الحديث: 21180 . من طريق جرير بن حازم عن زيد به أخرجه عبد الله بن أحمد

رقم الحديث: 21181 . انظر الكبرى للنسائي رقم الحديث: 1432، والسنن لابن ماجه رقم الحديث:

1182، والدارقطني جلد 2 صفحہ 31، والبيهقي جلد 3 صفحہ 40-41 .

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ، فَقَالَ لِي: يَا جَابِرُ، إِنِّي لَأَرَاكَ مَيِّتًا مِنْ مَرَضِكَ هَذَا، فَبَيِّنِ الَّذِي لِأَخَوَاتِكَ فَأَوْصِي لَهُنَّ بِالثَّلَاثِينَ، قَالَ: فَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي نَزَلَتْ: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ) (النساء: 176) الْآيَةَ

آئے اور میں مریض تھا، آپ ﷺ نے مجھے فرمایا: اے جابر! میں دیکھتا ہوں کہ تو اس مرض میں مر جائے گا، اپنی بہنوں کے لیے وصیت کر! سوانہوں نے ان کی بہنوں کے لیے دو تہائی کی وصیت کی۔ کہا کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے: ”فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ“ (النساء: 176)۔

حضرت ابوزبیر سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے انصار کے گروہ! تم اپنے اموال اپنے لیے روک رکھو اس کو تعمیر پر نہ لگاؤ کیونکہ جو کوئی اپنی زندگی میں کوئی چیز تعمیر کرے گا، تو وہ اس کے لیے اس کی زندگی کے لیے ہوگی اور اس کے مرنے کے بعد۔

1849 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ شَيْءًا أَحْيَاةَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِ

1850 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةٌ

حضرت ابوزبیر سے روایت ہے کہ حضرت جابر

1849- أخرجه أحمد رقم الحديث: 21276، والترمذي رقم الحديث: 57، وابن ماجه رقم الحديث: 421، وابن خزيمة رقم الحديث: 122، وابن عدی جلد 3 صفحہ 923، والحاكم جلد 1 صفحہ 162، والبيهقي جلد 1 صفحہ 197، وابن الجوزي في الواهيات جلد 1 صفحہ 346 وغيرهم . انظر سنن البيهقي جلد 1 صفحہ 197 . وجنة المرقاب (صفحہ: 195-198) .

1850- وقد أخرج الطريق الأول أبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 254 من طريق المصنف . ورواه يونس بن عبيد عن الحسن واختلف عليه فرواه هشيم عنه موقوفاً . أخرجه ابن صاعد في زياداته على الزهد لابن المبارك رقم الحديث: 493 ورواه سفيان الثوري عن يونس مرفوعاً . حديث صحيح من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود عن الثوري به أخرجه عبد الله في زوائد رقم الحديث: 21277، وابن حبان رقم الحديث: 702، وابن صاعد في زياداته على الزهد لابن المبارك رقم الحديث: 594، والطبراني في الكبير رقم الحديث: 531، وأبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحہ 254، والبيهقي في الشعب رقم الحديث: 10473-5652، وأبو حذيفة متكلم في روايته عن الثوري لكن تابعه عبد السلام بن حرب عن يونس

رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیجا اور ہم تین سو تیرہ آدمی تھے ہمارا زادِ راہ ایک بیگ کھجوریں تھیں وہ (حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ) ہم کو ایک ایک مٹھی کھجوروں کی دیتے تھے جب کم ہو گئیں تو وہ ہم کو ایک ایک کھجور دیتے سو ہم اس کو چوستے جیسے بچہ دودھ چوستا ہے اور اس پر پانی پی لیتے پس جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو ہم اس وقت سمندر کے کنارے پر چل رہے تھے کہ ہم نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا کثیف کی مثل اس کو عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ مردار ہے اس کو نہ کھاؤ۔ پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا لشکر ہے اور اللہ کی راہ میں ہے اور ہم مجبور بھی ہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو بیس راتیں یا پندرہ راتوں تک کھاتے رہے سو ہم نے اس سے بچا کر رکھ بھی لیا ہم میں سے اس کی آنکھ میں بارہ آدمی بیٹھ جاتے تھے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی پکڑی اس کو کھڑا کیا اس کے نیچے سے لوگوں کا بہت بڑا اونٹ گزارا گیا تو وہ گزر گیا کہا کہ جب ہم رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا: تم کو کس نے روکا تھا؟ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم نے قریش کے

بْنُ خَالِدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ جَابِرًا، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، فَرَزَوْنَا جَرَابًا مِنْ تَمْرٍ، فَكَانَ يُعْطِينَا مِنْهُ قَبْضَةً قَبْضَةً، فَلَمَّا أَنْجَزْنَا أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً، فَكُنَّا نَمَضُّهَا كَمَا يَمَضُّ الصَّبِيُّ، وَنَشْرَبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَلَمَّا فَقَدْنَاهَا، وَجَدْنَا فَقْدَهَا، فَكُنَّا نَخْبِطُ الْخَبِطَ بِتِسِينَا فَنَسْفُهُ، وَنَشْرَبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى سُمِينَا جَيْشَ الْخَبِطِ، فَبِينَا نَحْنُ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ إِذَا نَحْنُ بِدَابَّةٍ مِثْلِ الْكَيْبِ، يُقَالُ لَهَا: الْعَنْبَرُ، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ، فَلَا تَأْكُلُوهُ، ثُمَّ قَالَ: جَيْشُ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَنَحْنُ مُضْطَرُونَ، قَالَ: فَأَكَلْنَا مِنْهَا عِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ قَالَ: خَمْسَةَ عَشَرَ لَيْلَةً وَصَنَعْنَا مِنْهُ وَشِيقَةً، وَلَقَدْ قَعَدَ مِنَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا عَلَى مَوْضِعِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ، فَرَحَلَ بِهِ أَجْسَمَ بَعِيرٍ فِي أَبَاعِرِ الْقَوْمِ، فَأَجَازَ تَحْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَبَسَكُمْ؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبَعْنَا

مثله . أخرجه ابن صاعد رقم الحديث: 595، والبيهقي رقم الحديث: 5651 وله شاهد عن الضحاك بن

سفيان الكلابي عند أحمد رقم الحديث: 15785، والبيهقي في الشعب رقم الحديث: 10472-5653

وفيه على بن زيد بن جدعان . وكذلك عن سلمان عند ابن المبارك في الزهد رقم الحديث: 491-492

والطبراني رقم الحديث: 6119 وفيه كلام .

لشکر کا پیچھا کیا اور اس جانور کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ رزق تھا جو اللہ نے تم کو دیا تھا، کیا اس سے کوئی چیز تمہارے پاس ہے؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں!

حضرت ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت سعد بن معاذ کو داغ لگایا، ان کو تیر لگنے کی وجہ سے۔

عِيرَاتٍ قُرَيْشٍ، فَذَكَرْنَا لَهُ شَانَ الدَّابَّةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَكُمُوهُ اللَّهُ، أَمَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَقُلْنَا نَعَمْ

1851 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ

حضرت ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1852 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ

1851- أخرجه حديث سعيد بن منصور وعلى ابن حجر بن هشيم الحاكم جلد 1 صفحه 344، وأخرج رواية سعيد بن سليمان وأحمد بن منيع ابن سعد جلد 1 صفحه 33، والمقدسي في المختارة رقم الحديث: 1250 وزوائده. وأخرج رواية اسماعيل بن عليه عن يونس الحاكم جلد 1 صفحه 344، كما خرج ابن عساكر في التاريخ جلد 7 صفحه 457 رواية خارجة بن مصعب بالرفع وخرج رواية حميد عن الحسن: عن عبد الله في زوائده رقم الحديث: 21278، والمقدسي في المختارة رقم الحديث: 1251، وابن عساكر جلد 7 صفحه 456 من طريق هدية بن خالد عن حماد بن سلمة عن حميد. وخرج رواية ثابت بن الحسن: الطبراني في الأوسط رقم الحديث: 8261، والمقدسي رقم الحديث: 1252، وابن عساكر جلد 7 صفحه 455 من طريق روح بن أسلم عن حماد عن ثابت. خرج رواية اسحاق بن الربيع: ابن سعد جلد 1 صفحه 33.

1852- أخرجه عبد الله في زوائده جلد 5 صفحه 141 بعد حديث: 21315. وأما رواية سفيان المشار إليها فأخرجها عبد الرزاق رقم الحديث: 6001، وأحمد رقم الحديث: 21315، وأبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحه رقم الحديث: 250. ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري مثله. أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 178، وابن عساكر في تاريخ دمشق جلد 7 صفحه 330 بلفظه. وأخرجه مسلم رقم الحديث: 810، وأبو داؤد رقم الحديث: 1460، وأبو نعيم في الحلية جلد 1 صفحه 250 من طريق عبد الأعلى كذلك ولم يذكروا قوله: فوالذي نفسي بيده..... ومثل ذلك سنداً ومتمناً رواية يزيد بن هارون عن الحميري عند الحاكم جلد 3 صفحه 304.

بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ مِنْ رَمِيَّتِهِ فَحَسَمَهُ بِمِشْقَصٍ فَتَوَرَّمَتْ ثُمَّ حَسَمَهُ الثَّانِيَةَ

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے داغ لگایا تیر لگنے کی وجہ سے۔

1853 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ يُوْرِكُهُ، أَوْ قَالَ: بِظَهْرِهِ

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے احرام کی حالت میں جسم پر یا پیٹ پر پچھنا لگوا یا۔

1854 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا اعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنا مدبر غلام آزاد کیا، پس یہ بات نبی اکرم ﷺ تک پہنچی تو آپ ﷺ

1853- أخرجه الحميدي رقم الحديث: 376، وأحمد رقم الحديث: 21251-21253، ومسلم رقم الحديث: 663، وابن ماجه رقم الحديث: 783، وابن خزيمة رقم الحديث: 450-1500، وعبد الله في زوائد رقم الحديث: 21255. عن طريق سليمان التيمي أخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 207-208، والدارمي جلد 1 صفحہ 294، وعبد بن حميد رقم الحديث: 161، وأحمد رقم الحديث: 21252، ومسلم رقم الحديث: 663، وأبو داؤد رقم الحديث: 557، وغيرهم وله شاهد عن أنس عند البخاري رقم الحديث: 655-656-1887، وعن جابر عند مسلم رقم الحديث: 664-665.

1854- أخرجه أحمد رقم الحديث: 21250، والبخاري رقم الحديث: 2426-2437، ومسلم رقم الحديث: 1723، وأبو داؤد رقم الحديث: 1701-1702، وابن حبان رقم الحديث: 4891، وعبد الله في زوائد رقم الحديث: 21205. من طرق عن سلمة به أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 162، وأحمد رقم الحديث: 21204-21206-21208، ومسلم رقم الحديث: 1723، وأبو داؤد رقم الحديث: 1703، والترمذي رقم الحديث: 1374، وابن ماجه رقم الحديث: 2506، وابن حبان رقم الحديث: 4892، وعبد الله بن أحمد رقم الحديث: 21208، وله شاهد عن زيد بن خالد عند البخاري رقم الحديث: 2427.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَك شَيْءٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لَا،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِهِ
مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بِثَمَانِمِائَةٍ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ
الثَّمَنَ وَقَالَ: أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ فَضَلَ فَضْلُ
فَعَلَى قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ فَضْلُ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا
وَهَاهُنَا وَأَشَارَ أَبُو دَاوُدَ بِيَدِهِ أَمَامَهُ وَعَنْ يَمِينِهِ
وَعَنْ يَسَارِهِ

نے فرمایا: کیا تیرے لیے اس کے علاوہ کوئی شے ہے؟ اس
نے عرض کی: نہیں! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسے
مجھ سے کون خریدے گا؟ تو حضرت نعیم رضی اللہ عنہ نے
اس کو آپ سے آٹھ سو درہم میں خریدا، آپ نے وہ
قیمت اس کو دے دی اور فرمایا: اس کو اپنی ذات پر خرچ
کر، اگر بیچ جائے تو اس کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر، اگر
پھر بھی بیچ جائے تو اس کو یہاں یہاں اور اپنے یہاں
خرچ کر۔ اور امام ابو داؤد نے اپنے ہاتھ سے اشارہ اپنے
آگے اپنی دائیں و بائیں جانب کیا۔

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ
میں داخل ہوئے تو آپ پر سیاہ عمامہ تھا۔

1855 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ
عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1856 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1855- أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 3389، والبيهقي جلد 4 صفحہ 314 . من طرق عن حماد به
أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 181، وأحمد رقم الحديث: 23314، وأبو داؤد رقم الحديث:
2463، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 3344، وابن ماجه رقم الحديث: 1770، وابن خزيمة رقم
الحديث: 5225، وابن حبان رقم الحديث: 3663 وغيرهم . وللحديث شاهد من حديث عائشة عند
البخاري رقم الحديث: 2033، ومسلم رقم الحديث: 1172، ومن حديث ابن عمر عند مسلم رقم
الحديث: 1171، ومن حديث أنس عند الترمذی رقم الحديث: 703 .

1856- أخرجه البيهقي جلد 3 صفحہ 67 . من طرق عن شعبة به أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 173،
وأحمد رقم الحديث: 21302، وأبو داؤد رقم الحديث: 554، وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند
رقم الحديث: 12309، وابن خزيمة رقم الحديث: 1477، وابن حبان رقم الحديث: 2056، والحاكم
جلد 1 صفحہ 247، والبيهقي جلد 3 صفحہ 67 . من طريق الثوري عن أبي اسحاق الا عبد الله فمن طريق

هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِي بِكُنْيَتِي، وَمَنْ أَكْتَنِي بِكُنْيَتِي فَلَا يَتَسَمَّنْ بِاسْمِي

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو میرے نام پر نام رکھنا چاہے وہ میری کنیت پر کنیت نہ رکھے اور جو میری کنیت پر کنیت رکھے وہ میرے نام پر نام نہیں رکھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول

1857 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ،

اللہ ﷺ نے نقیر (لکڑی کا برتن) و مزفت (تارکول

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

والا پیالہ) اور دباء (پکے کدو سے بنایا ہوا برتن) سے منع

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ

الحجاج عن أبي اسحاق به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2004، وأحمد رقم الحديث: 21303

وابنه عبد الله في زياداته رقم الحديث: 21309، والحاكم جلد 1 صفحہ 248. وذكر الحاكم

جلد 1 صفحہ 248، والبيهقي جلد 3 صفحہ 61-68 رواية غير واحد عن أبي اسحاق مثله. وروى عن

شعبة عن ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن ابنه. وقال شعبة: قال أبو اسحاق: قد سمعته منه

ومن ابنه أخرجه النسائي رقم الحديث: 842، وابن حبان رقم الحديث: 2057، وعبد الله بن أحمد رقم

الحديث: 21304، والحاكم جلد 1 صفحہ 249، والبيهقي جلد 3 صفحہ 68 منه طريق خالد بن الحارث

عن شعبة. وكذلك رواه يحيى بن سعيد عن شعبة أخرجه الحاكم جلد 1 صفحہ 249. وأخرجه البيهقي

جلد 3 صفحہ 68 من طريق يحيى بن سعيد مقرونًا بخالد بن الحارث وعند ابن خزيمة رقم

الحديث: 1477 من طريق يحيى بن سعيد مقرونًا بفنندر عن شعبة ولم يذكر في روايته: عن أبيه.

ورواه كذلك زهير والأعمش عن أبي اسحاق أخرجه الدارمي جلد 1 صفحہ 291، وأحمد رقم

الحديث: 21306، وابنه رقم الحديث: 21305-21307، والبيهقي جلد 3 صفحہ 68، انظر سنن ابن ماجه

رقم الحديث: 790.

1857 - عزاه البوصيري في الاتحاف رقم الحديث: 752 للمصنف. من طريق المصنف أخرجه أحمد رقم

الحديث: 21301، وابن عساكر في تاريخه جلد 7 صفحہ 334. من طريق شعبة به أخرجه عبد بن حميد

رقم الحديث: 177، وأحمد رقم الحديث: 21300-21310، والحاكم جلد 4 صفحہ 226. وقال

الحاكم: صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي. من طريق قيس بن عباس به أخرجه النسائي رقم الحديث:

807، وابن خزيمة رقم الحديث: 1573، وابن حبان رقم الحديث: 2181.

وَالدُّبَاءِ

کیا۔

1858 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ

حضرت ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے مشکیزے میں نبیذ بنائی جاتی تھی۔

1859 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ،

حضرت ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1858 - أخرج أحاديثهم أحمد رقم الحديث: 21193، وابنه رقم الحديث: 21194. وقال عبد الله بن أحمد: هكذا يقول إبراهيم بن سعد في حديثه: عبد الله بن الأسود وإنما هو عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث عن أبي بن كعب كذا يقول غير إبراهيم بن سعد. ورواه يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد فقال: ابن الأسود بن عبد يغوث. ولم يسمه. أخرجه أحمد رقم الحديث: 21192. ورواه غير واحد عن الزهري وقالوا عبد الرحمن بن الأسود على الصواب. أخرج أحاديثهم أحمد رقم الحديث: 15824-21196-21200، والدارمي رقم الحديث: 2707، والبخاري رقم الحديث: 6145، وفي الأدب المفرد رقم الحديث: 864، وأبو داؤد رقم الحديث: 5010، وابن ماجه رقم الحديث: 3755، وعبد الله في زوائد رقم الحديث: 21198-21201. انظر مصنف عبد الرزاق جلد 11 صفحة 263، ومسند أحمد رقم الحديث: 21195-21197-21199-21202، ففيه أوجه أخرى من الاختلاف وهي غير مؤثرة. انظر الفتح جلد 10 صفحة 539.

1859 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 21210، ومسلم رقم الحديث: 821، وأبو داؤد رقم الحديث: 1478، والنسائي رقم الحديث: 938، وابن حبان رقم الحديث: 738، وغيرهم. ورواه محمد بن جحادة عن الحكم به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21215. ورواه زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21213. ورواه ابن الصامت عن أبي عند أحمد رقم الحديث: 21130-21131، وابن حبان رقم الحديث: 742، والطبراني في التفسير جلد 1 صفحة 15، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 3096-3097. ورواه أنس بن مالك عن أبي عند أحمد رقم الحديث: 21170، والنسائي رقم الحديث: 940، وابن حبان رقم الحديث: 737، والطبراني جلد 1 صفحة 15، وغيرهم. ورواه سليمان بن صرد عن أبي عند أحمد رقم الحديث: 21187-21188، وأبي داؤد رقم الحديث: 1477، والطبري جلد 1 صفحة 15، وغيرهم.

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شہری دیہاتی کے لیے بیچ نہ کرے، لوگوں کو چھوڑ دو اللہ عزوجل ان کے بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے۔

حضرت زہیر، حضرت ابوزبیر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا: کیا آپ سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابوقحافہ کو فرمایا: اپنی سفیدی کو بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ تو انہوں نے کہا: نہیں!

حضرت ابوزبیر سے روایت ہے کہ حضرت جابر

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

1860 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ،

عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَحَدَّثَكَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي قُحَافَةَ: غَيِّرْ وَا، وَجَنِّبْهُ السَّوَادَ فَقَالَ: لَا

1861 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1860- أخرجه البيهقي جلد 10 صفحہ 114، والخطيب في الفقيه والمتفقه رقم الحديث: 511. وأخرجه متصلاً: أحمد رقم الحديث: 22060-22153، والدارمي جلد 1 صفحہ 60، وابن سعد، جلد 2 صفحہ 347، وأبو داؤد رقم الحديث: 3593، والترمذي رقم الحديث: 1328، ووکیع فی أخبار القضاة جلد 1 صفحہ 98، وابن عبد البر فی جامع بیان العلم رقم الحديث: 1592-1594، والخطيب رقم الحديث: 413-512-515، والبيهقي جلد 10 صفحہ 114، وابن حزم فی الأحكام جلد 7 صفحہ 111 وغيرهم. وأخرجه بالارسال عبد بن حميد رقم الحديث: 124، وأحمد رقم الحديث: 22114، وأبو داؤد رقم الحديث: 3592، والترمذي رقم الحديث: 1327، وابن حزم جلد 7 صفحہ 111. وفي هذا الحديث كلام كثير فقد أعله البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن الجوزي والذهبي والحافظ أعلوه بما سبق من الجهالة والارسال وقواه آخرون. انظر علل الدارقطني جلد 6 صفحہ 89، والتلخيص الحبير جلد 4 صفحہ 182. وأعلام الموقعين جلد 1 صفحہ 234، والسلسلة الضعيفة جلد 2 صفحہ 273-286.

1861- أخرجه ابن أبي شيبة في الايمان رقم الحديث: 1، وأحمد رقم الحديث: 22085-22121، والنسائي

رقم الحديث: 2225. مقتصرًا على ذكر الصوم والطبري في تفسير (102/215) والطبراني في الكبير جلد 20 صفحہ 147-148. وقال شعبة في رواية أحمد رقم الحديث: 22085 فقلت له: سمعه من معاذ؟ قال: لم يسمعه منه وقد أدركه. ومثله في العلل لأحمد جلد 2 صفحہ 336، وانظر جامع العلوم

هَشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ، قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَجَعَلَ يَتَقَدَّمُ وَيَتَأَخَّرُ يَتَأَخَّرُ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَرَّبْتُ مِنِّي الْجَنَّةَ حَتَّى لَوْ تَنَاوَلْتُ مِنْهَا قِطْفًا، قَصَرْتُ يَدِي عَنْهُ - أَوْ قَالَ: نِلْتُهُ، شَكَ هَشَامٌ - وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَجَعَلْتُ أَتَأَخَّرُ رَهْبَةً أَنْ تَغْشَاكُمْ وَرَأَيْتُ امْرَأَةً حَمِيرِيَّةً سَوْدَاءَ طَوِيلَةً تُعَذِّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطْتُهَا

رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا، اس دن گرمی بہت زیادہ تھی، سو رسول اللہ ﷺ نے نماز پڑھائی، تو آپ نے لمبا قیام فرمایا یہاں تک کہ لوگ گرنے کے قریب ہو گئے، کہا کہ پھر آپ نے رکوع کیا تو رکوع بھی لمبا کیا پھر رکوع سے اٹھے، پھر لمبا قیام فرمایا پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر اٹھے تو لمبا قیام کیا پھر دو سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت کی ہی طرح کیا۔ پس آپ نے چار رکوع کیے اور چار ہی سجدے کیے، اور آپ مقدم کو مقدم اور مؤخر کو مؤخر کرتے رہے اپنی نماز میں۔ پھر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، آپ ﷺ نے فرمایا: مجھ پر جنت و دوزخ پیش کی گئی، جنت میرے قریب کر دی گئی یہاں تک کہ اگر میں اس سے کوئی ٹہنی توڑنا چاہتا تو میں توڑ سکتا تھا، میرا ہاتھ اس سے تھوڑا دور تھا، یا فرمایا: میں

والحکم (صفحہ: 300) . وقال شعبة في رواية أحمد رقم الحديث: 22085-22121 والنسائي: قال لي الحكم وحدثني به ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل وقال الحكم: سمعته منه منذ أربعين سنة وميمون لم يسمع من معاذ أيضًا . وحديث ميمون بن أبي شبيب أخرجه ابن أبي شيبة في الايمان رقم الحديث: 2، والنسائي رقم الحديث: 2223-3334، والطبري جلد 21 صفحہ 102، والطبراني جلد 20 صفحہ 142-144، والحاكم جلد 2 صفحہ 412-413، وصححه البيهقي جلد 9 صفحہ 20 مطولاً ومختصراً من طرق عن ميمون به واختلف فيه انظر العلل للدارقطني جلد 6 صفحہ 74-77 . من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ به مطولاً أخرجه أحمد رقم الحديث: 22175، والبزار (1653-كشوف)، والطبراني جلد 20 صفحہ 63 . وهذا اسناد قابل للتحسين شهر صدوق وله أوهام وحسن البخاري حديثه وقوى أمره فالحديث بمجموع طرقه حسن . انظر العلل للدارقطني جلد 6 صفحہ 77، وجامع العلوم والحكم صفحہ 298، والارواء جلد 2 صفحہ 138 .

فَلَمْ تُطْعِمَهَا وَلَمْ تَسْقِهَا وَلَمْ تَدْعَهَا تَأْكُلْ مِنْ
خَشَاشِ الْأَرْضِ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَبَا ثَمَامَةَ عَمْرَو بْنَ
مَالِكٍ يَجْرُ قُضْبَهُ فِي النَّارِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا
يَقُولُونَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ إِلَّا
لِمَوْتِ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ، يُرِيكُمُوهَا فَإِذَا انْكَسَفَا فَصَلُّوا حَتَّى
تُنْجَلِيَ

اسے لے لیتا، ہشام کو شک ہے۔ مجھ پر دوزخ کو پیش کیا
گیا، سو میں پیچھے ہٹنے لگا، ڈر کی وجہ سے میں نے ایک
عورت حمیرہ کالی لمبی دیکھی، اس کو ایک بلی کی وجہ سے
عذاب ہو رہا تھا جس کو اس نے باندھا تھا، اس نے اس کو
کھانے پینے کے لیے نہیں دیا تھا اور اس کو چھوڑا بھی نہیں
تھا کہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھالے اور میں نے جہنم
میں عمرو بن مالک کو دیکھا، جس کو اس کے ڈنڈے سے
کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا گیا کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ
سورج اور چاند کو کسی بڑے آدمی کی موت پر گرہن لگتا
ہے، فرمایا: حالانکہ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، جنہیں وہ
تم کو دکھاتا ہے، سو جب دونوں کو گرہن لگ جائے تو نماز
پڑھا کرو یہاں تک کہ گرہن چلا جائے۔

حضرت ابوزبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام نے فرمایا: اے محمد!
زندہ رہیں جتنا آپ چاہیں، آپ نے دنیا سے پردہ کرنا
ہے، جتنا پسند کریں گے کتنی دیر رہنا ہے، آپ نے دنیا
سے جدا ہونا ہے، اور عمل کریں جتنا چاہیں، آپ نے اس
ذات سے ملاقات ضرور کرنی ہے۔

حضرت ابوزبیر سے روایت ہے کہ حضرت جابر

1862 - وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: عَنِ الْحَسَنِ

بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ جَبْرِيلُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُحَمَّدُ عِشْ مَا شِئْتَ
فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحِبَّ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَفَارِقُهُ،
وَأَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ لِأَقِيهِ

1863 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ

1862 - عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 3548 للمصنف .

1863 - أخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 353، وأحمد رقم الحديث: 22061-22122 والطبرانی

جلد 20 صفحہ 146 . وروى عن معاذ بلفظ آخر رواه يحيى بن عبد الله الجابر عن عبيد الله بن مسلم

عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلمين يتوفى لهما ثلاثة إلا أدخلهما

بُنْ اِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا
 اجْتَمَعَ قَوْمٌ ثُمَّ تَفَرَّقُوا عَنْ غَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، وَصَلَاةٍ
 عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا قَامُوا عَنْ
 أَنْتِنَ جِيْفَةً

رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو
 لوگ اللہ کے ذکر اور نبی ﷺ پر درود پڑھے بغیر آپس
 سے جدا ہوتے ہیں، ان کے مجلس سے اٹھنے پر مردار کی سی
 بدبو پھیل جاتی ہے۔

1864 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے
 روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کشمش اور کھجور
 اور خشک اور تر کھجوروں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا
 ہے۔

اللَّثِيثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ
 الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ لِلنَّبِيدِ وَأَنْ يُخْلَطَ البُسْرُ وَالتَّمْرُ

1865 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكَّارُ،

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ أَيُّهَا . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَائْتَانِ؟ قَالَ أَوْ ائْتَانِ قَالُوا: أَوْ وَاحِدٌ قَالَ: أَوْ وَاحِدٌ .
 ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَنْ السَّقَطَ يَجْرُ أَمَهُ بِسُرْرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبْتَهُ . أَخْرَجَهُ عَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ
 رَقْمَ الْحَدِيثِ: 123، وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 22143، وَابْنُ مَاجَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1609، وَالطَّبْرَانِيُّ جُلْدَ 20
 صَفْحَةَ 145-147 وَيَحْيَى الْجَابِرِيُّ لَيْن .

1864 - عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 3694 للمصنف . وأخرجه النسائي في الكبرى رقم
 الحديث: 10641 من طريق المصنف وقرن مع ثابت عاصمًا وسمى شيخ شهر أبا ظبية . من طريق
 حماد بن سلمة عن عاصم عن شهر به أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 126، وأحمد رقم الحديث:
 22101-22102-22145-22167، وأبو داؤد رقم الحديث: 5040، والنسائي في الكبرى رقم
 الحديث: 10642، وابن ماجه رقم الحديث: 3881، والبخاري رقم الحديث: 2676، والطبراني جلد 20
 صفحہ 118، وقد جاء الحديث من طريق شهر عن أبي ظبية عن عمرو بن عتبة ضمن حديث آخر
 أخرجه أحمد رقم الحديث: 17062، والنسائي رقم الحديث: 10643-10645 .

1865 - عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 5169 للمصنف . من طريق المصنف أخرجه أبو نعيم في
 الحلية جلد 8 صفحہ 179 . من طريق ابن المبارك أخرجه أحمد رقم الحديث: 22125، وابن أبي الدنيا
 في حسن الظن بالله رقم الحديث: 10، والطبراني في الكبير جلد 20 صفحہ 125-251، وأبو نعيم في

روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرت امام بکار فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا کہ انہوں نے گوشت کھایا، سو انہوں نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ بَكَارٌ: وَأَحْسَبُهُ قَدْ ذَكَرَ عُثْمَانَ أَكَلُوا لَحْمًا فَصَلُّوا وَلَمْ يَتَوَضَّؤْا

حضرت ابو زبیر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا کہ تلوار کو ننگانہ لہرایا جائے۔

1866 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حَمَادٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُورًا

حضرت عبدالرحمن بن جابر کی

344- وَمَا رَوَى عَبْدُ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ

روایت کردہ احادیث

عَنْ جَابِرٍ

حضرت عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ الانصاری

1867 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحلیة جلد 8 صفحہ 179، والبغوی فی شرح السنة رقم الحدیث: 1452. وهو فی الزهد برقم 276. وقال أبو نعیم: لا یعرف له راو غیر معاذ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تفرد به عبید اللہ عن خالد. وروی من وجه آخر عن معاذ. أخرجه الطبرانی رقم الحدیث: 2094، وفی مسند الشامیین رقم الحدیث: 409 من طریق لا یصح عن خالد بن معدان عن معاذ ولم یسمع منه.

1866 - أخرجه مسلم رقم الحدیث: 30، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2559، والطبرانی فی الکبیر جلد 20

صفحہ 127. من طرق عن أبی اسحاق به أخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 20546، وأحمد رقم

الحدیث: 22044-22047، والبخاری رقم الحدیث: 2856، والترمذی رقم الحدیث: 2643، والنسائی

فی الکبری رقم الحدیث: 5877، والطبرانی جلد 20 صفحہ 126-127، انظر التحفة جلد 8 صفحہ 411.

وروی عن معاذ من غیر وجه أخرجه أحمد رقم الحدیث: 22046-22111.

1867 - عزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 615 للمصنف. من طریق المصنف أخرجه

قَالَ: حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حَبِيبٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ،
 ضَجِيعِ حَمَزَةٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
 جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، يَقُولُ: خَرَجَ جَابِرٌ
 يَوْمَ الْحَرَّةِ فَنَكَبَتْ رِجْلُهُ بِحَجَرٍ، قَالَ: تَعَسَّ مَنْ
 أَخَافَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 قُلْتُ: وَمَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَخَافَ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ،
 فَقَدْ أَحَافَ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ يَعْنِي جَنَبِيَّ

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گرمی
 کے دن نکلے، آپ کا پاؤں پتھر کے ساتھ ٹھوکر لگنے سے
 زخمی ہو گیا، فرمایا: افسوس! جو رسول اللہ ﷺ پر خوف
 کرے۔ کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے
 ہوئے سنا: جو اس قبیلہ انصار پر خوف کرنے بے شک اس
 نے خوف کیا ان دونوں پہلوؤں کے درمیان۔

1868 — قَالَ طَالِبٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ
 حضرت عبدالرحمن بن جابر اپنے والد سے روایت

ابو داؤد رقم الحدیث: 507 . من طریق یزید بن ہارون وغیرہ عن المسعودی بہ أخرجه أحمد رقم
 الحدیث: 22177 وأبو داؤد رقم الحدیث: 507، وابن خزيمة رقم الحدیث: 381 والطبرانی
 جلد 20 صفحہ 132-133 . من طرق عن عمرو بن مرة بہ أخرجه أحمد رقم الحدیث: 22176 وابن
 خزيمة رقم الحدیث: 381، والدارقطنی فی العلل جلد 6 صفحہ 60، وفی السنن جلد 1 صفحہ 242 .
 انظر علل الدارقطنی جلد 6 صفحہ 59-61، وفتح الباری لابن رجب الحنبلی جلد 5 صفحہ 191-193،
 وله شاهد عن البراء عند البخاری رقم الحدیث: 399 .

1868 - انظر المستدرک جلد 1 صفحہ 398، والتمهید جلد 2 صفحہ 275، والتلخیص جلد 2 صفحہ 152 . وقد
 اختلف فی هذا الحدیث علی الأعمش كما سبق والیک البیان: فروایة شعبة المرسله: أخرجه الشاشی
 جلد 3 صفحہ 250، وتابعه علیها معمر وجریر عن الأعمش أخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 19268،
 والشاشی جلد 3 صفحہ 250-253، انظر علل الدارقطنی جلد 6 صفحہ 96 . ورواه الثوری وغیر واحد
 عن الأعمش عن أبی وائل عن مسروق عن معاذ به أخرجه عبد الرزاق رقم الحدیث: 6841، وأحمد
 رقم الحدیث: 22066، والدارمی رقم الحدیث: 1630، والترمذی رقم الحدیث: 623، والنسائی رقم
 الحدیث: 2449-2450، وابن ماجه رقم الحدیث: 1803، والبزار رقم الحدیث: 2654، وابن خزيمة
 رقم الحدیث: 2267، والطبرانی جلد 2 صفحہ 129، والدارقطنی جلد 2 صفحہ 102، والحاكم

کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت سے جو مرے اللہ کے فیصلہ کے بعد اور اس کے لکھے اور اس کے اندازہ کے بعد۔

حضرت عبدالرحمن، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ بنو سلمہ نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی جگہ بدل لیں، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنی جگہ رہو کیونکہ جو تم میں سے کوئی بندہ نماز کی طرف چل کر آئے گا اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا، جتنے قدم وہ اٹھا کر آیا ہے۔

الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جُلُّ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَكِتَابِهِ وَقَدَرِهِ بِالْأَنْفُسِ يَعْنِي بِالْعَيْنِ

1869 - قَالَ طَالِبٌ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَرَدْنَا بَنُو سَلِمَةَ أَنْ نَتَّحَوَّلَ مِنْ مَنَازِلِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اثْبُتُوا، فَإِنَّكُمْ أَوْتَادُهَا، وَمَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُو خُطْوَةً إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا كَتَبَ لَهُ بِهَا أَجْرًا

کئی دوسرے افراد کی

345- الْأَفْرَادُ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ

عَنْ

سے روایت کردہ احادیث

جَابِرٍ

حضرت عبدالملک بن جابر اپنے والد سے روایت

1870 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

جلد 1 صفحہ 398 من طرق عن الأعمش به . قال الترمذی: حسن وقال الحاكم: صحيح على شرط

الشيخين ووافقه الذهبي وفيه أوجه أخرى من الاختلاف انظر العليل للدارقطني جلد 6 صفحہ 66-69 .

1869 - أخرجه البيهقي جلد 6 صفحہ 205-254 . من طرق عن شعبة به أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم

الحديث: 954، وأحمد رقم الحديث: 22058-22110، وأبو داؤد رقم الحديث: 2913، والطبراني

جلد 20 صفحہ 162، والحاكم جلد 4 صفحہ 345، ووكيع في أخبار القضاة جلد 1 صفحہ 98-99 .

أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 2912، ومن طريقه البيهقي جلد 6 صفحہ 254-255 من طريق عبد

الوارث بن سعيد عن عمرو بن أبي حكيم وفيه حديثي أبو الأسود أن رجلاً حدثه عن معاذ . انظر العليل

للمدارقطني جلد 6 صفحہ 87، والأباطيل للجورقاني رقم الحديث: 549-551 .

1870 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 22050، ومسلم رقم الحديث: 706، والبزار رقم الحديث: 2638، وابن

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنُبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيثَ وَهُوَ يَلْتَفِتُ
فَهِىَ أَمَانَةٌ

کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: جب کوئی آدمی کسی کو کوئی بات بتائے تو وہ اس کی
طرف متوجہ ہو، تو وہ اس کے پاس امانت ہے۔

1871 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ جَابِرٍ،

حضرت محمد بن سلیمان، حضرت جابر رضی اللہ عنہ
کے کسی گھروالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول

خزیمہ رقم الحدیث: 966، والطبرانی جلد 20 صفحہ 59. من طرق عن أبي الزبير به أخرجه مالك
جلد 1 صفحہ 143، وأحمد رقم الحدیث: 22065-22089-22115-22123-221420، ومسلم رقم
الحدیث: 706، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1206-1208، والنسائی رقم الحدیث: 586، وابن ماجه رقم
الحدیث: 1070، وابن خزيمة رقم الحدیث: 968-1704، والطبرانی جلد 20 صفحہ 57-59. وروى
الحدیثین من طریق یزید بن أبی حبیب عن أبی الطفیل بما یفید أنه جمع جمع تقدیم. أخرجه أحمد
رقم الحدیث: 22147، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1220، والترمذی رقم الحدیث: 553 وقد أنکر هذا
اللفظ غیر واحد من أهل العلم وقال أبو داؤد: حدیث منکر ولید فی جمع التقدیم حدیث قائم انظر
العلل للدارقطنی جلد 6 صفحہ 40-43، ولابن أبی حاتم رقم الحدیث: 245، ومعرفة علوم الحدیث
للحاكم صفحہ 119، والفتح جلد 2 صفحہ 583، والتلخیص جلد 2 صفحہ 48-49، والارواء جلد 3
صفحہ 28.

1871 - أخرجه أبو داؤد رقم الحدیث: 4780، والطبرانی جلد 20 صفحہ 140. من طرق عن عبد الملك بن
عمیر به أخرجه عبد بن حمید رقم الحدیث: 111، وأحمد رقم الحدیث: 22139-22164، والترمذی
رقم الحدیث: 3452، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 10221-10222، والطبرانی جلد 20
صفحہ 140-141. وقال الترمذی: هذا حدیث مرسل عبد الرحمن بن أبی لیلی لم یسمع من معاذ بن
جیل مات معاذ فی خلافة عمر بن الخطاب وقتل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن أبی لیلی غلام ابن
ست سنین. انظر العلل للدارقطنی جلد 6 صفحہ 57-58. وله شاهد من حدیث سلیمان بن صرد عند
البخاری رقم الحدیث: 6115، ومسلم رقم الحدیث: 2610.

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْخِرْبِزَ بِالرُّطْبِ، وَيَقُولُ: هُمَا الْأَطْيَانِ

اللہ ﷺ خربوزہ کھاتے تھے تر کھجور کے ساتھ ملا کر اور فرماتے: یہ دونوں پاک ہیں۔

حضرت مطر الوراق ایک آدمی سے وہ حضرت جابر

1872 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے

بُنْ سَلَمَةَ، عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرٍ،

فرمایا: میں کسی کو معاف نہیں کرتا قتل کی دیت لینے کے

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أُعَافِي

بعد۔

أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ

حضرت ابو عتیق، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ

1873 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1872 - أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي الْمَشْكَلِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3895. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 22055 وَمِنْ طَرِيقِ

الْحَاكِمِ جُلْدَ 4 صَفْحَةَ 169 عَنْ غَنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ حَدَّثَ بِهِ عِبَادَةَ بِالْحَدِيثِ

الْآتِي بَعْدَ هَذَا. وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا. أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزَّهْدِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 715 وَأَحْمَدُ

رَقْمَ الْحَدِيثِ: 22084 وَالْبَزَارُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2672 وَالطَّحَاوِيُّ فِي الْمَشْكَلِ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

3892-3894 وَالطَّبْرَانِيُّ جُلْدَ 20 صَفْحَةَ 78-82 وَفِي مَسْنَدِ الشَّامِيِّينَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1403-1659

وَالْحَاكِمِ جُلْدَ 4 صَفْحَةَ 169-170 وَأَبُو نَعِيمٍ فِي الْحَلِيَةِ جُلْدَ 5 صَفْحَةَ 206 كُلُّهُمْ مِنْ طَرُقِ عَنْ أَبِي

إِدْرِيسَ عَنْ مَعَاذِ بِهِ مَرْفُوعًا. وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ قِصَّةُ عِبَادَةَ فِي آخِرِهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ أَنَّ عِبَادَةَ قَالَ:

قَدْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْهُ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَهُ الْآتِي. مِنْ

طَرُقِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ بِهِ مَرْفُوعًا وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ جُلْدَ 2 صَفْحَةَ 953 وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 125

وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 22083-22184 وَابْنُ حِبَّانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 575 وَالطَّحَاوِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

3890-3891 وَالطَّبْرَانِيُّ جُلْدَ 20 صَفْحَةَ 80-81-92 وَالْحَاكِمِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 4168-169 وَأَبُو نَعِيمٍ فِي

الْحَلِيَةِ جُلْدَ 4 صَفْحَةَ 131 وَأَنْظَرَ الْعَلَلُ لِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1830. وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عِنْدَ الْبُخَارِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 660 وَمُسْلِمٌ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1031-2566.

1873 - عَزَاهُ الْبُوصَيْرِيُّ فِي الْإِتْحَافِ بِذَيْلِ الْمَطَالِبِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2871-3949 لِلْمَصْنُفِ. مِنْ طَرِيقِ

الْمَصْنُفِ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي الْمَشْكَلِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3895. حَيْثُ قَرَنَ الْحَدِيثَانِ عِنْدَ أَكْثَرِ

الْمُنْخَرَجِينَ فَإِنَّ أَبَا إِدْرِيسَ لَقِيَ عِبَادَةَ فَحَدَّثَهُ بِمَا سَمِعَ مِنْ مَعَاذٍ فَأَجَابَهُ عِبَادَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ. أَنْظَرَ أَيْضًا

خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا وَصَالَ فِي الصَّوْمِ

عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روزوں میں وصال نہیں ہے (یعنی لگاتار روزے عبادت نہیں ہیں)۔

1874 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت ابو عبس، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

الْيَمَانُ أَبُو حُدَيْفَةَ، عَنْ أَبِي عَبْسٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا وَصَالَ فِي الصَّوْمِ

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: روزوں میں وصال نہیں ہے۔

1875 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

قبیلہ بنی یشکر کے ایک آدمی، حضرت جابر رضی اللہ

مسند احمد رقم الحدیث: 22835، والبزار رقم الحدیث: 2697 .

1874 - عزاه الحافظ في المطالب رقم الحدیث: 349 للمصنف . من طريق المصنف أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 5 صفحہ 126-127 . قال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري لم يروه عنه بهذا اللفظ الا زمعة وانما يعرف من حديث ابن محيريز عن المنخدجي عن عبادة . وحديث ابن محيريز عن المنخدجي وهو أحد الطريقتين الآخريين عن عبادة . أخرجه مالك جلد 1 صفحہ 123، والحميدي رقم الحدیث: 388، وأحمد رقم الحدیث: 22772-22804، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1420، والنسائي رقم الحدیث: 460، وفي الكبرى رقم الحدیث: 314، وابن ماجه رقم الحدیث: 1401، والطحاوي في المشكل رقم الحدیث: 3167-3170، وابن حبان رقم الحدیث: 1731-1732، والبيهقي جلد 1 صفحہ 361 وغيرهم من طرق عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز به والمنخدجي مجهول . والطريق الآخر عن عبادة أخرجه أحمد رقم الحدیث: 44756، وأبو داؤد رقم الحدیث: 425، والطبراني في الأوسط رقم الحدیث: 4658، وأبو نعيم في الحلية جلد 5 صفحہ 130-131، والبيهقي جلد 2 صفحہ 215 من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي عن عبادة . وهذا اسناد رجاله ثقات وقد صححه ابن عبد البر وأقره ابن الملقن والعراقي وصححه أيضا ابن حبان وابن السكن . انظر مختصر سنن أبي داؤد للمنذري جلد 2 صفحہ 123، واطحفة المنهاج جلد 1 صفحہ 576، وتخریج الاحياء جلد 1 صفحہ 146 .

1875 - أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 2309، وأبو يعلى رقم الحدیث: 3236، والبيهقي في الأسماء والصفات

عنه سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: قبیلہ غفار کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے!

الْحَجَّاجُ بْنُ حَسَّانَ الْقَيْسِيُّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي يَشْكُرَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمَ سَأَلَهَا اللَّهُ

1876 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْيَمَانُ أَبُو حُدَيْفَةَ، وَخَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، فَأَمَّا خَارِجَةُ فَحَدَّثَنَا عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَأَمَّا الْيَمَانُ، فَحَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عَبْسٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِضَاعَ بَعْدَ فَصَالٍ، وَلَا يُتَمَّ بَعْدَ اخْتِلَامٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ، وَلَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرُبَ بَعْدَ

حضرت ابو عتیق، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: دودھ چھڑانے کے بعد رضاع نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیمی بھی نہیں، اور آزاد کرنا ملکیت کے بعد ہوگا، اور طلاق نکاح کے بعد ہے، اور قطع تعلقی میں قسم نہیں، اور فتح کے بعد ہجرت نہیں، اور بیٹے کی قسم اپنے والد کے حوالے سے نہیں، اور عورت کی قسم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں، اور غلام کی قسم اپنے آقا کے ساتھ نہیں، اور اللہ کی نافرمانی میں

(صفحہ: 500) . من طریق ہمام عن قتادة به أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 184 وأحمد رقم الحديث: 22796 والدارمی رقم الحديث: 2759 والبخاری رقم الحديث: 6507 ومسلم رقم الحديث: 2683 والبيهقي (صفحہ: 500) وغيرهم وتابعه سليمان التيمي عن قتادة أخرجه الترمذی رقم الحديث: 1066 والنسائي رقم الحديث: 1836 .

1876 - أخرجه مسلم رقم الحديث: 2264 والترمذی رقم الحديث: 2271 . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 22749-22774 والدارمی رقم الحديث: 2143 والبخاری رقم الحديث: 6987 ومسلم رقم الحديث: 2264 وأبو داؤد رقم الحديث: 5018 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 7625 والبخاری رقم الحديث: 2678 وأبو يعلى رقم الحديث: 3237 وغيرهم . من طريق سعيد عن قتادة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 22750 . وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم له طريقاً عن عبادة الا هذا الطريق ورواه ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ورواية ثابت عن أنس عند البخاری رقم الحديث: 6994 ومسلم رقم الحديث: 2264 وقد عد غير واحد من المتواتر . انظر لفظ الأزهار المتناثرة رقم الحديث: 174 ونظم المتناثر رقم الحديث: 139 .

کوئی نذر نہیں اور اگر کوئی دیہاتی دس حج بھی کرتا ہے پھر ہجرت کرتا ہے تو اس پر دوبارہ حج ہے اگر اس تک جانے کی استطاعت رکھے اور اگر بچہ دس حج بھی کرے پھر بالغ ہو جائے تو دوبارہ اس پر حج فرض ہے اگر اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہے تو اور اگر غلام دس حج بھی کر لے پھر آزاد ہو جائے تو دوبارہ اس پر حج لازم ہے اگر اس تک جانے کی طاقت رکھے۔

هِجْرَةً، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينٍ لَوْلَدٍ مَعَ وَالِدٍ، وَلَا يَمِينٍ لَامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجٍ، وَلَا يَمِينٍ لِعَبْدٍ مَعَ سَيِّدِهِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حَجَجٍ ثُمَّ هَاجَرَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ صَبِيًّا حَجَّ عَشْرَ حَجَجٍ ثُمَّ احْتَلَمَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا حَجَّ عَشْرَ حَجَجٍ ثُمَّ عُتِقَ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

حضرت یحییٰ العززی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب آدمی (اپنے گھر سے) غائب ہو تو اپنے اہل خانہ کے پاس رات کو نہ آئے۔

1877 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ نُبَيْحِ الْعَنْزِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا غَابَ الرَّجُلُ فَلَا يَأْتِي أَهْلَهُ طُرُوقًا

حضرت ابن ابی ذئب، بنی سلمہ کے ایک شخص سے

1878 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

1877 - أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3679. مِنْ طَرِيقِ حَمَادِ بْنِ أَحْمَدَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 22726. مِنْ طَرِيقِ عَنِ حَمِيدِ بْنِ أَحْمَدَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 22724-22773، وَالِدَارِمِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1788، وَالْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2023-6049، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكَبِيرِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3395-3394، وَابْنُ خَزِيمَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2198، وَالْبَزَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2680، وَابْنُ حِبَّانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3679، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3678، وَغَيْرِهِمْ. انظر كتاب الأحاديث التي خولف فيها مالك للدارقطني (صفحة: 134-135) والعلل لابن أبي حاتم رَقْمَ الْحَدِيثِ: 696.

1878 - أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السَّنَةِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 105، وَالتِّرْمِذِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2155-3319، وَاللَّالِكَاثِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 357، وَالمِزِيُّ فِي تَهْدِيبِ الْكَمَالِ جُلْدَ 18 صَفْحَةَ 456. مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ جُلْدَ 6 صَفْحَةَ 92، وَالتَّطْبَرِيُّ فِي التَّفْسِيرِ جُلْدَ 29 صَفْحَةَ 16، وَفِي التَّارِيخِ جُلْدَ 1 صَفْحَةَ 32، وَالبَغْوِيُّ فِي الْجَعْدِيَّاتِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3478، وَالمِزِيُّ فِي التَّهْدِيبِ جُلْدَ 18 صَفْحَةَ 457.

ابی ذئب، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلِيمَةَ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَصَابَهُ الْكَرْبُ يَوْمَ الْأَحْزَابِ، أَلْقَى رِدَاءَهُ، وَقَامَ مُتَجَرِّدًا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا، وَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّيْ قَالَ: ثُمَّ آتَانَا، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَصَلَّى

وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو جب یوم الاحزاب کے دن سخت بھوک لگی تو آپ نے اپنی چادر بچھا دی اور اکیلے ہی کھڑے ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی اور نماز نہیں پڑھی کہتے ہیں کہ پھر ہم آپ کے پاس آئے تو آپ نے اسی کی مثل (پھر) کیا اور نماز پڑھی۔

1879 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت مہاجر کی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت

من طريق عبد الله بن السائب عن عطاء به أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 104، وفي الأوائل رقم الحديث: 2. من طريق الوليد بن عباد به أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 103-107، وفي الأوائل رقم الحديث: 1، وأحمد رقم الحديث: 22757-22759، والبخاري في التاريخ جلد 6 صفحہ 92 والبخاري رقم الحديث: 2687، والآجری فی الشریعة رقم الحديث: 180، والطبری فی التفسیر جلد 29 صفحہ 17، وفي التاريخ جلد 1 صفحہ 32. وروى عن عباد من أوجه أخر. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 102، وأبو داؤد رقم الحديث: 4700، والآجری فی الشریعة رقم الحديث: 181 ولا يخلو اسناد من أسانيد هذه المتابعات من ضعف ولكن بمجموعها تعاضد ويقوى الحديث. وقال الترمذی: حسن صحيح غريب. كذا في التحفة جلد 4 صفحہ 261، وتهذيب الكمال جلد 18 صفحہ 457 وفي الجامع في الموضوع الأول: غريب من هذا الوجه. وفي الثاني: حسن غريب. وقال: ابن المدینی كما في النكت الظراف جلد 4 صفحہ 261 عن طريق عباد بن الوليد بن عباد اسناده حسن. وله شاهد عن غير واحد من الصحابة انظر السنة لابن أبي عاصم رقم الحديث: 108-106. والتفسیر للطبری جلد 29 صفحہ 14-17، والتاريخ له جلد 1 صفحہ 32-34.

1879 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 16042. ورواه شيبان عن قتادة فقال: عن عذرة بن عبد الرحمن عن راشد. أخرجه الطبرانی في الأوسط رقم الحديث: 9314. ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة فقال: عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن راشد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه أحمد رقم الحديث: 16041. وروى عن عباد من وجه آخر وفيه ضعف. أخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد رقم الحديث: 22836.

جابر رضی اللہ عنہ سے عرض کی: آدمی جب خانہ کعبہ کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرے؟ (حضرت جابر نے) فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یہ کام یہود کرتے تھے، ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے ہیں، کیا ہم ایسے کریں؟

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ وَاسْمُهُ سُوَيْدُ بْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرٍ: الرَّجُلُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا نَظَرَ إِلَى الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودَ، خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفَكُنَّا نَفْعَلُهُ؟

1880 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ نَأْتِي بَنِي سَلَمَةَ، فَلَوْ رَمِينَا رَأَيْنَا مَوَاقِعَ نَبَلِنَا

1881 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُتْبَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي الْمُصَبِّحِ الْحَمِصِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَسِيرُ فِي صَائِفَةٍ وَعَلَى النَّاسِ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيُّ، فَاتَى عَلِيَّ جَابِرٍ وَهُوَ يَمْشِي يَقُودُ بَغْلًا لَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَلَا تَرَكْبُ وَقَدْ حَمَلَكَ اللَّهُ؟

حضرت قعقاع، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے پھر ہم بنی سلمہ کے پاس آتے، تو اگر ہم تیر پھینکتے تو ہم اپنے تیر پھینکنے کی جگہ کو دیکھ سکتے تھے۔

حضرت ابوالحکم الحمصی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

ہم ایک صائفہ میں چل رہے تھے اور لوگوں کے امیر حضرت مالک بن عبد اللہ خثعمی تھے، سو وہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، حضرت جابر پیدل چل رہے تھے اور اپنی خچر کو ہانک کر لے جا رہے تھے، انہوں نے آپ سے عرض کی: آپ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ جبکہ اللہ نے

1880 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 22722-22784، من طريق هشيم عن خالد به أخرجه أحمد رقم

الحديث: 22721، ومسلم رقم الحديث: 1709، وابن ماجه رقم الحديث: 2603. ورواه اسماعيل بن

ابراهيم هو ابن علي عن خالد عن أبي قلابة قال خالد: أحسبه ذكره عن أبي أسماء قال: قال عبادة .

أخرجه أحمد رقم الحديث: 22720 . من طرق عن عبادة بن الصامت به بنحوه أخرجه الحميدي رقم

الحديث: 387، وأحمد رقم الحديث: 22730-22794-22806، والدارمي رقم الحديث: 2457،

والبخاري رقم الحديث: 6873-7213، ومسلم رقم الحديث: 1709، والترمذي رقم الحديث: 1439،

والنسائي رقم الحديث: 4173-4189-4221-5017 .

1881 - هذا الحديث جزء من الحديث السابق .

آپ کو سواری دی ہے، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے پاؤں راہ حق میں گرد آلود ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے اور میرے پاس سواری کی سہولت بھی تھی اور میں اپنی قوم سے بے نیاز بھی تھا (لوگ آپ کی گفتگو سن کر) اپنی سواریوں سے نیچے اتر پڑے اور میں نے اس دن زیادہ تعداد میں لوگوں کو پیدل چلتے ہوئے دیکھا۔

فَقَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ وَأُصْلِحَ لِي دَائِي وَأَسْتَفْنِي عَنْ قَوْمِي، فَوَثَبَ النَّاسُ عَنْ دَوَابِّهِمْ، فَمَا رَأَيْتُ نَازِلًا أَكْثَرَ مِنْ يَوْمِنِذٍ

حضرت ابوسفیان طلحہ بن

نافع کی حضرت جابر سے

روایت کردہ احادیث

حضرت ابوسفیان، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو مؤمن مرد اور مؤمن غورت اور مسلمان مرد اور مسلمان

346- وَمَا رَوَى أَبُو سُفْيَانَ

طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ

عَنْ جَابِرٍ

1882 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1882 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 22735-22779، ومسلم رقم الحديث: 1587، وأبو داؤد رقم الحديث:

3350، والترمذی رقم الحديث: 240، والبزار رقم الحديث: 2732، والبيهقی جلد 5 صفحہ 277

وغيرهم . من طريق عن سلمة بن علقمة به وقرن مع سلمة عبد الله بن عبيد أخرجه أحمد رقم

الحديث: 22781، والنسائی رقم الحديث: 4574-4575-4576، وابن ماجه رقم الحديث: 2254،

والبيهقی جلد 5 صفحہ 276 وغيرهم . انظر المعجم الأوسط للطبرانی رقم الحديث: 2655، وتهذيب

الكمال جلد 15 صفحہ 273 . من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابن سيرين به ولم يذكر فيه بقية

عبد الله ابن عبيد أخرجه الحميدى رقم الحديث: 390، والبزار رقم الحديث: 2834 . ورواه عقبه بن

خالد عن ابن سيرين عن شراحيل بن آداة عن عبادة . ذكره الدارقطني في العلل (4/ق: 27-ب) .

قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ وَلَا مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يَمْرُضُ مَرَضًا إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ خَطَايَاهُ
عورت کسی مریض کی عیادت کریں، اللہ عزوجل ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔

1883 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْخَلَّ نِعَمَ الْأَدَمِ هُوَ

حضرت طلحہ بن نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سرکہ بہترین سالن ہے۔

1884 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

حضرت ابوسفیان، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1883 - أخرجه ابن سعد جلد 3 صفحہ 528، وأحمد رقم الحديث: 17830-22736-22808. من طريق أبي

بكر بن حفص به أخرجه الدارمي رقم الحديث: 2419، وابن عساكر (جلد 19 صفحہ 179 - مخطوط).

وروى عن عبادة من أوجه أخر من طريق عبادة بن قسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة قال: أتاني رسول

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وأنا مريض..... فذكر القصة مع عبادة نفسه. أخرجه أحمد رقم

الحديث: 22754، والبزار رقم الحديث: 2602-2693-2710. من طريق عبادة بن قسي عن عبادة

مباشرة وهو مرسل. أخرجه أحمد رقم الحديث: 22737. من طريق يعلى بن شداد عن عبادة أخرجه

عبد الله بن أحمد في زوائده رقم الحديث: 22836.

1884 - أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2275 عن بندار عن أبي داؤد الطيالسي عن حرب ابن شداد وعمران

القطان عن يحيى به. وقال: حسن. أخرجه الطبري في التفسير جلد 11 صفحہ 134 عن محمد بن

المثنى عن أبي داؤد عن عمير بن ذكوان عن يحيى به. من طريق عبد الله بن رجاء عن حرب بن شداد به وقال:

صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وأخرجه الحاكم جلد 4 صفحہ 391. من طريق أبي

سعيد مولى بني هاشم عن حرب به. وفيه: عن سلمة، عن عبادة أخرجه رقم الحديث: 22792. من

طرق عن يحيى بن أبي كثير به أخرجه أحمد رقم الحديث: 22739-22740، والدارمي رقم الحديث:

2142، وابن ماجه رقم الحديث: 3898، والطبري جلد 11 صفحہ 133-134-136، والحاكم

جلد 2 صفحہ 340، وروى عن عبادة من وجهين آخرين عند أحمد رقم الحديث: 22819، وابن جرير

جلد 11 صفحہ 134-135 وفي اسنادهما ضعف غير أن الحديث بهما وباسناد المصنف يتقوى ويكون

حسنًا. وله شاهد من حديث أبي الدرداء وغيره.

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو وہ اپنے باغ میں تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: کس نے یہ پودا لگایا ہے؟ مؤمن ہے یا کافر؟ آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ! بلکہ مؤمن نے لگایا ہے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو مؤمن کوئی پودا لگائے یا اناج اگائے تو اس سے جانور درندے پرندے جو کھائیں تو یہ اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔

حضرت ابوسفیان حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے وہاں تھوک اور پیشاب اور قضاء حاجت کرنا نہیں ہوگا، ان میں سے ہر ایک کی حاجت صرف ڈکار ہوگا، خوشبو اس کی مشک کی خوشبو کی طرح ہوگی۔

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أُمِّ مُبَشِّرٍ وَهِيَ فِي نَخْلِ لَهَا، فَقَالَ: مَنْ غَرَسَ هَذَا، أَكْفِيرٌ أَمْ مُؤْمِنٌ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلْ مُؤْمِنٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَتَأْكُلُ مِنْهُ بَهِيمَةٌ أَوْ سَبْعٌ أَوْ طَيْرٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

1885 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا، وَيَشْرَبُونَ، لَا يَتَفَلُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ، وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، إِنَّمَا حَاجَةٌ أَحَدِهِمْ جُشَاءً، رِيحٌ كَرِيحِ الْمِسْكِ

1885 - وقد أخرج الرواية المنقطعة عبد الله بن أحمد في زوائده رقم الحديث: 22832 عن شيبان بن فروخ عن جرير به - من طريق الحسن به أخرجه الطبري في التفسير جلد 4 صفحہ 294 والبغوي في شرح السنة رقم الحديث: 2580 والبيهقي جلد 8 صفحہ 210 - من طريق قتادة ومنصور بن زاذان وغيرهما عن الحسن به وأخرج الرواية المتصلة أحمد رقم الحديث: 22767-22782-22783 ومسلم رقم الحديث: 1690 وأبو داؤد رقم الحديث: 4415-4416 والترمذي رقم الحديث: 1434 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 7142-7144-7980-11093 وابن حبان رقم الحديث: 4425-4427 وابن الجارود رقم الحديث: 810 والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 4543-4544 وغيرهم - انظر السنن لأبي داؤد رقم الحديث: 4417 وابن ماجه رقم الحديث: 2550 والعلل لابن أبي حاتم رقم الحديث: 1370 وشرح معاني الآثار جلد 3 صفحہ 143 ومسند البزار رقم الحديث: 2686 وتحفة الأشراف جلد 4 صفحہ 247.

1886 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ أَوْ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَيُّ الشُّهَدَاءِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ يُعْقَرَ جَوَادُكَ وَيُهْرَاقَ دَمُكَ قَالَ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طَوْلُ الْقُنُوتِ

حضرت ابوسفیان، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یا یہ فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سا شہید افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو تیرے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالے تیرا خون بہایا جائے اس نے عرض کی: کون سی نماز افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: لمبے قیام والی۔

1887 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَمَا يُجْزِنُنَا مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا أَنَا فَأُفْرِغْ

حضرت ابوسفیان، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل طائف میں سے کچھ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہماری زمین ٹھنڈی ہے، ہم غسل جنابت نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہر حال میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈال لیتا ہوں۔

1886 - عزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 289 للمصنف . من طریق الأحوص أخرجه

العقيلي فی الضعفاء جلد 1 صفحہ 121، والبزار رقم الحدیث: 2691-2708، والشاشی رقم

الحدیث: 1290-1291، قال العقيلي: لا يتابع أحوص عليه ولا يعرف الا به . انظر ضعيف الجامع رقم

الحدیث: 301 وله شاهد عن أنس عند الطبرانی فی الأوسط رقم الحدیث: 3095 باسناد ضعيف .

1887 - أخرج حديث شعبة: أحمد رقم الحدیث: 18098، والنسائي رقم الحدیث: 5174، وأخرج حديث بلال

أحمد رقم الحدیث: 22761، وابن ماجه رقم الحدیث: 22761، وابن ماجه رقم الحدیث: 3385،

والبزار رقم الحدیث: 2689-2720-2721، والشاشی رقم الحدیث: 1308، وابن أبي الدنيا ذم

المسکر رقم الحدیث: 8 من طریق بلال بن يحيى عن أبي بكر به . وله شاهد عن عائشة وغيرها من

الصحابة . انظر الصحيحة رقم الحدیث: 89-90 .

عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا

1888 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

حضرت ابوسفیان، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی

اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ

میں نے رسول اللہ ﷺ سے آپ کے وصال سے تین

دن پہلے آپ کو فرماتے سنا: تم میں سے کوئی ہرگز نہ مرے

مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان

رکھتا ہو۔

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ: لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ

إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت نبیح العنزی رضی اللہ

347- وَمَا رَوَى نُبَيْحٌ

عنه کی حضرت جابر رضی اللہ

العنزی، عَنْ

عنه روایت کردہ حدیث:

جَابِرٍ

حضرت نبیح العنزی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1889 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1888 - عزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 2515 للمصنف . من طریق المصنف وأعله

بالانقطاع أخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 56 . ورواه المغيرة وجرير عن الشعبي به أخرجه أحمد رقم

الحدیث: 22753 والنسائي فی الكبرى رقم الحدیث: 11146، وعبد الله بن أحمد رقم الحدیث:

22844-22846، وابن جرير فی تفسیره جلد 6 صفحہ 260 . ورواه مجالد عن الشعبي عن مجرر براء

بن ابن أبي هريرة عن رجل من الصحابة أخرجه أحمد رقم الحدیث: 23541 واسناده ضعيف . وله

شاهد عن أبي الدرداء أخرجه أحمد رقم الحدیث: 27574، والترمذی رقم الحدیث: 1393 من طریق

أبي السفر عنه وهو منقطع الا أن الحدیث بمتابعاته وشواهدہ يرتقى الى الحسن .

1889 - أخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 375، وعبد بن حميد رقم الحدیث: 224، وأحمد رقم الحدیث:

23586-23601، والبخاری رقم الحدیث: 1375، ومسلم رقم الحدیث: 2869، والنسائي رقم

الحدیث: 2058، وابن حبان رقم الحدیث: 3123، والطبرانی رقم الحدیث: 3756، والآجری فی

الشریعة رقم الحدیث: 748، والبيهقي فی عذاب القبر رقم الحدیث: 98-100 وغيرهم .

روایت کرتے ہیں کہ اُحد کے شہیدوں کو اُٹھایا گیا جس وقت ان کو قتل کیا گیا اُن جگہوں پر تو نبی اکرم ﷺ کے نداء دینے والے نے نداء دی کہ شہیدوں کو ان کی جگہ واپس رکھا جائے گا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں: ایک مرتبہ اُن کے قتل کی جگہ پر میں نے پوری ادا کر دیں اس آدمی کو کھجوروں سے جو میرے باپ کے ذمہ قرض تھیں تو میں بہت تیر دوڑ کر لے آیا، گویا کہ میں (آگ کا) شرارہ تھا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْحًا الْعَنْزِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ قَتْلَى أَحَدٍ حُمِلُوا حِينَ قُتِلُوا مِنْ مَضَاجِعِهِمْ، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ رُدُّوا الْقَتْلَى إِلَى مَضَاجِعِهَا وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ مَرَّةً: إِلَى مَضَارِعِهَا قَالَ: فَلَمَّا وَقَفْتُ الرَّجُلَ التَّمْرَ الَّذِي كَانَ لَهُ عَلَى أَبِي جُنْتُ أَسْعَى كَأَنِّي شَرَارَةٌ

حضرت سعید بن میناء کی

348- وَمَا رَوَى

حضرت جابر رضی اللہ عنہ

سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ،

سے روایت کردہ احادیث

عَنْ جَابِرٍ

حضرت سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی

1890 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1890- أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 1807، والحاکم جلد 3 صفحہ 460، وتابع المصنف سعید بن عامر ومعاذ بن معاذ العنبری عن شعبة أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده رقم الحدیث: 20935، والطبرانی رقم الحدیث: 1889، ورواه غندر ويحيى القطان وغيرهما عن شعبة وجعلوه من مسند أبي أيوب أخرجه عبد بن حميد رقم الحدیث: 229، وأحمد رقم الحدیث: 23572-23584، ومسلم رقم الحدیث: 2053، والنسائي في الكبرى رقم الحدیث: 6630. وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 21061، وعبد الله في زوائده رقم الحدیث: 20936 وجاء في المطبوع من المسند من رواية أبيه والتصويب من أطراف المسند للحافظ جلد 1 صفحہ 693، وجامع المسانيد لابن كثير جلد 2 صفحہ 539، والطبرانی رقم الحدیث: 1972 من طرق حماد وحده به. ورواه أبو الأحوص وزهير بن معاوية عن سماك به وجعله من مسند جابر أخرجه عبد الله في زوائده رقم الحدیث: 20917، والطبرانی رقم الحدیث: 1986. ورواه اسرئيل عن سماك فجعله من مسند أبي أيوب أخرجه ابن أبي شيبة في

قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشَقَّحَ قَيْلٌ: وَمَا تُشَقَّحُ؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ

اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا کہ پہلوں کی بیع کرنے سے حتیٰ کہ وہ پک جائیں، عرض کی گئی: ایک جان کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ سرخ اور زرد ہو جائیں۔

1891 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ الْهَدَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ

حضرت سعید بن میناء مکی نے فرمایا کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے بیع محافلہ و مزابنہ و مخابره سے منع فرمایا۔

المسند رقم الحديث: 1 وفيه سقط . وعنه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم الحديث: 1884 والطبرانی رقم الحديث: 3874، ورواه أفلح مولى أبي أيوب أخرجه أحمد رقم الحديث: 23564، ومسلم رقم الحديث: 2054، والطبرانی رقم الحديث: 3984، والدارقطني في العلل جلد 6 صفحہ 111-112، والبيهقي في الدلائل جلد 2 صفحہ 509 . وقال الدارقطني: صحيح غريب وروى من أوجه أخر عن أبي أيوب أخرجه أحمد رقم الحديث: 23551-23554-23573-23616 والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 6629، وابن خزيمة رقم الحديث: 1670، والطبرانی رقم الحديث: 3878، والبيهقي في الدلائل جلد 2 صفحہ 510 . وله شاهد من حديث أم أيوب عند الحميدي رقم الحديث: 339، وأحمد رقم الحديث: 27482، والترمذي رقم الحديث: 1810 .

1891 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 23595-23599-23619، والدارمي رقم الحديث: 1890، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 4023، والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 480، والطبرانی رقم الحديث: 3869 . من طريق يحيى بن سعيد عن عدي به أخرجه مالك جلد 1 صفحہ 401، وأحمد رقم الحديث: 23612، والدارمي رقم الحديث: 1524، والبخاري رقم الحديث: 1674-4414، ومسلم رقم الحديث: 1287، والنسائي رقم الحديث: 604-3026، وابن ماجه رقم الحديث: 3020، وابن حبان رقم الحديث: 3858، والطبرانی رقم الحديث: 3863-3865-3867-3868، والبيهقي جلد 5 صفحہ 120 .

انظر علل الدارقطني جلد 6 صفحہ 114 .

حضرت سعید بن میناء حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نجاشی کے جنازہ پر چار تکبیریں پڑھیں۔

1892 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ

بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ عَلَى النَّجَاشِيِّ أَرْبَعًا

حضرت سعید بن میناء حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، سو اس میں جوئیں اور کیڑے گرنے لگے، وہ اُن کو اس سے نکالتا ہے اور میں تم کو تمہاری پیٹھ سے پکڑ کر جہنم کی آگ سے تمہیں بچا رہا

1893 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ

بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَوْقَدَ نَارًا، فَجَاءَتِ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهَا، وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ أَنْ تَهَافُتُوا فِي النَّارِ، وَأَنْتُمْ

1892- أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 2741، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 7 صفحہ 163 . من طرق عن شعبة به

أخرجه أحمد رقم الحدیث: 23603-23635-23636، والدارمی رقم الحدیث: 2662، والترمذی رقم

الحدیث: 2741، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 10041 والبغوی فی الجعدیات رقم الحدیث:

679، والطبرانی رقم الحدیث: 4009، والحاکم جلد 4 صفحہ 266، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 7

صفحہ 163 . وروایتہ عن علی أخرجه ابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 689، وأحمد رقم الحدیث:

972-973-995، والترمذی رقم الحدیث: 2741، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 10040، وأبو

یعلیٰ رقم الحدیث: 306، والحاکم جلد 4 صفحہ 266 .

1893- أخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 377، وابن ابی شیبہ جلد 8 صفحہ 341، وأحمد رقم الحدیث: 23575

والبخاری رقم الحدیث: 6237، ومسلم رقم الحدیث: 2560، والترمذی رقم الحدیث: 1932،

والطبرانی رقم الحدیث: 3951-3953 . من طرق عن الزهري به أخرجه مالك جلد 2 صفحہ 906-907،

وعبد الرزاق رقم الحدیث: 20223، وعبد بن حمید رقم الحدیث: 223، وأحمد رقم الحدیث:

23623-23632، والبخاری رقم الحدیث: 6077، وفي الأدب المفرد رقم الحدیث: 399-406-985،

ومسلم رقم الحدیث: 2560، وأبو داؤد رقم الحدیث: 4911، والطبرانی رقم الحدیث: 3958-3960،

والبيهقي جلد 10 صفحہ 63 .

تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي

ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو۔

1894 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمٌ

حضرت سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی

بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ

مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری مثال اور انبیاء علیہم

وَأَحْسَنَهَا إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، فَكَانَ مَنْ دَخَلَهَا وَنَظَرَ

السلام کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک گھر

بنایا اس کو مکمل کیا اور خوبصورت بنایا مگر ایک اینٹ کی جگہ

چھوڑ دی، سو اس میں جو داخل ہو اس نے اس کو دیکھا اور

کہا: کتنا اچھا ہے سوائے اس ایک اینٹ کی جگہ کے، سو

مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ، خَتَمَ بِي الْأَنْبِيَاءِ

1894 - أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 4633، وابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 295، والنسائي رقم

الحديث: 1711-1712، وفي الكبرى رقم الحديث: 1402، والطحاوي جلد 1 صفحہ 291 والدارقطني

جلد 2 صفحہ 24، والحاكم جلد 1 صفحہ 303، والبيهقي جلد 3 صفحہ 27. وروى من طريق ابن عيينة

ومعمر ويونس وأشعث مرفوعًا عند ابن حبان رقم الحديث: 2407-2411. والطحاوي جلد 1

صفحہ 291، والدارقطني جلد 2 صفحہ 32، والحاكم جلد 1 صفحہ 303. والوقف منهم أصح قاله

الذهلي والدارقطني انظر السنن للدارقطني جلد 2 صفحہ 22، والعلل له جلد 6 صفحہ 98-100، والسنن

للبیهقي جلد 3 صفحہ 24 ورواه سفيان بن حسين كما أشير اليه هنا والأوزاعي وبكر بن ودويد بن نافع

ومحمد بن الوليد الزبيري ومحمد بن أبي حفصة عن الزهري مرفوعًا أخرجه ابن أبي شيبة في المسند

رقم الحديث: 6، وفي المصنف جلد 2 صفحہ 295، وأحمد رقم الحديث: 3591، وأبو داؤد رقم

الحديث: 1422، والنسائي رقم الحديث: 1709-1710، وفي الكبرى رقم الحديث: 1401، وابن ماجه

رقم الحديث: 1190، والطحاوي جلد 1 صفحہ 291، وابن حبان رقم الحديث: 2410، والطبراني رقم

الحديث: 3961-3967، وابن عدی جلد 4 صفحہ 1423، والدارقطني جلد 2 صفحہ 23، والحاكم

جلد 1 صفحہ 303، والبيهقي جلد 3 صفحہ 24، قال الحاكم ولست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث

لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه، وهذا مما لا يعقل مثل هذا الحديث. وقد رجح غير واحد وقفه.

انظر العلل لابن أبي حاتم رقم الحديث: 490، وللدارقطني جلد 6 صفحہ 98، وشرح البخاري لابن

رجب جلد 9 صفحہ 114، والتلخيص الحبير جلد 2 صفحہ 13.

میں ہی وہ اینٹ کی جگہ ہوں، مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کیا گیا ہے۔

حضرت عامر شعبی کی حضرت

جابر رضی اللہ عنہ سے

روایت کردہ احادیث

349- وَمَا رَوَى

عَامِرُ الشَّعْبِيِّ

عَنْ جَابِرٍ

حضرت شعبی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

1895 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1895- أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 3916 . من طريق شعبة عن ورقاء به أخرجه أحمد رقم الحديث:

23602 'والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 2864' والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 2340

والطبرانی رقم الحديث: 3903 . من طريق ابن المبارك وابن نمير ويحيى بن سعيد وغيرهم عن سعد

بن سعيد به . أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 228' وأحمد رقم الحديث: 23580-23607

ومسلم رقم الحديث: 1164' والترمذي رقم الحديث: 759' والنسائي في الكبرى رقم الحديث:

2862' وابن ماجه رقم الحديث: 1716' والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 2337-2338

وغيرهم . من طريق عبد العزيز الدراوردي عن صفوان بن سليم وسعد بن سعيد كلاهما عن عمر بن

ثابت به أخرجه الحميدي رقم الحديث: 381' وأبو داؤد رقم الحديث: 2433' والنسائي في الكبرى

رقم الحديث: 2836' وابن خزيمة رقم الحديث: 2114' والطحاوي في المشكل رقم الحديث:

2344 . انظر علل الدارقطني جلد 6 صفحہ 109 فقد تفرد به الدراوردي بذكر صفوان فيه . من طريق

يحيى بن سعيد عن عمر بن ثابت به وصوابه عن يحيى عن أخيه سعد عن عمر أخرجه الحميدي رقم

الحديث: 382' والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 2866' والطحاوي في المشكل رقم

الحديث: 2346' والطبرانی رقم الحديث: 3914-3915 . قال الطحاوي: فكان هذا الحديث مما لم

يكن بالقوى في قلوبنا لما سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل الحديث ومن رغبتم عنه حتى

وجدناه قد أخذه عنه من قد ذكرنا أخذه اياه عنه من أهل الجلالة في الرواية والثبت انظر الموطأ

جلد 1 صفحہ 311' والعلل للدارقطني جلد 6 صفحہ 107' والكامل جلد 3 صفحہ 1088' والاستذكار

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے اہل خانہ کے پاس رات کو جائے یہاں تک کہ وہ (یعنی اس کی گھر والی) اپنے بال سنوارے اور زیر ناف بالوں کو صاف کر لے۔

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا حَتَّى تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ

1896 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

حضرت عاصم الاحول نے فرمایا کہ میں حضرت

شععی پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی کتاب کی قرأت کی اس میں یہ حدیث تھی کہ نبی اکرم ﷺ نے منع فرمایا کہ عورت پر اس کی پھوپھی اور خالہ سے نکاح کیا جائے۔ امام شععی نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے۔

قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ

جَابِرٍ

جلد 10 صفحہ 258، ولطائف المعارف لابن رجب (صفحہ: 389) والطحاوی فی المشکل رقم

الحدیث: 2342-2347، وروی هذا الحدیث عن غیر واحد من الصحابة انظر المشکل رقم

الحدیث: 2341-2348، والترغیب جلد 2 صفحہ 110-111، والارواء جلد 4 صفحہ 107 ورسالة رفع

الاشکال عن حدیث صیام ستة أيام من شوال للحافظ العلاءي .

1896 - أخرجه أحمد رقم الحدیث: 23639 عن عتاب ابن المبارك به . من طریق یزید بن ابی حبیب عن بکر

به أخرجه أحمد رقم الحدیث: 23637، والدارمی رقم الحدیث: 1980، والطبرانی رقم الحدیث:

4001، والبیہقی جلد 9 صفحہ 71 . من طریقین آخرین عن بکیر به أخرجه الطبرانی رقم الحدیث:

4002-4003، والبیہقی جلد 9 صفحہ 71 وروی هذا الحدیث من غیر ذکر والد بکیر فی اسناده . رواه

الولید بن مسلم عن ابن لهیعة وأبی رافع اسماعیل بن رافع كلاهما عن بکیر به . ذکر ذلك الدارقطنی

فی العلل جلد 6 صفحہ 120 . ورواه زید بن ابی أنيسة عن یزید بن ابی حبیب عن بکیر به . أخرجه ابن

شبية فی المسند رقم الحدیث: 5، وأحمد رقم الحدیث: 23638، وأبو داؤد رقم الحدیث: 2687، وابن

حبان رقم الحدیث: 5609-5610، والطبرانی رقم الحدیث: 4004 . من طرق عن بکیر به . انظر العلل

للدارقطنی جلد 6 صفحہ 120 . ورجح أبو زرعة ذکر والد بکیر فيه . انظر العلل لابن ابی حاتم رقم

الحدیث: 2173، وتهذیب التهذیب جلد 7 صفحہ 60 .

1897 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا، فَأَفْقَرَنِي ظَهْرُهُ سَفَرِي إِلَى الْمَدِينَةِ

حضرت شعبی، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اونٹ بیچا تو آپ نے مجھے اس پر مدینہ تک سفر کرنے کی اجازت دی۔

350- وَمَا رَوَى يَزِيدُ بْنُ صُهَيْبٍ الْفَقِيرُ

حضرت یزید بن صہیب الفقیر کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے

عَنْ جَابِرٍ

روایت کردہ حدیث

1898 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

حضرت یزید بن صہیب فقیر فرماتے ہیں کہ میں

1897- عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 83، للمصنف وأخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 175 من طريق

المصنف . وقال البيهقي وهذا مرسل . أبو أيوب الأزدي غير أبي أيوب الأنصاري .

1898- فأخرجه ابن خزيمة رقم الحديث: 1214 من بئدار من الطيالسي عن شعبة به مختصراً انظر السنن

للبيهقي جلد 2 صفحہ 489 . من طرق عن عبيدة به أخرجه الحميدي رقم الحديث: 385، وأحمد رقم

الحديث: 23579، والترمذي في الشمائل رقم الحديث: 293، وابن ماجه رقم الحديث: 1157، وابن

خزيمة رقم الحديث: 1214، والطبراني رقم الحديث: 4032-4033، والبيهقي جلد 2 صفحہ 477 . من

طريق هشيم عن عبيدة به أخرجه الطبراني رقم الحديث: 4034، والبيهقي جلد 2 صفحہ 488 . من

طريق هشيم به أخرجه الترمذي في الشمائل رقم الحديث: 293 . وروى عن شعبة على أوجه أخر فقال

بئدار عن غندر عن شعبة به وفيه عن رجل، بدل عن قزعة . أخرجه ابن خزيمة رقم الحديث: 1214 .

ورواه ابن المثنى عن غندر عن شعبة باسقاط قزعة أخرجه أبو داؤد رقم الحديث: 1270 . وكذلك قال

محمد بن فضيل ويعلى بن عبيد الطنافسي عن عبيدة . أخرجه عبد ابن حميد رقم الحديث: 226،

والطبراني رقم الحديث: 4031، والبيهقي جلد 2 صفحہ 488 . من طريق آخر عن ابراهيم مثله أخرجه

الطبراني رقم الحديث: 4035، وفي الأوسط رقم الحديث: 2673 . ورواه شريك عن الأعمش عن

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ صُهَيْبٍ الْفَقِيرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَقْصَرُهُمَا؟ قَالَ جَابِرٌ: إِنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ لَيْسَتَا بِقَصْرٍ، إِنَّمَا الْقَصْرُ رَكْعَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ، قَالَ: ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْقِتَالِ إِذْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ طَائِفَةً خَلْفَهُ، وَقَامَتْ طَائِفَةٌ وَجُوهَهَا قِبَلَ وَجُوهِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ الَّذِينَ صَلَّوْا خَلْفَهُ انْطَلَقُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَوْلِيكَ، فَجَاءَ أَوْلِيكَ فَصَفُّوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ، فَسَلَّمَ وَسَلَّمِ الَّذِينَ خَلْفَهُ، وَسَلَّمُوا أَوْلِيكَ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ وَلِلْقَوْمِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ ثُمَّ قَرَأَ يَزِيدُ: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) (النساء: 102)

نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے سفر میں دو رکعتوں کے متعلق سوال کیا کہ کیا ان میں قصر ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سفر کی ان دو رکعتوں میں قصر نہیں ہے، قصر صرف ایک رکعت میں ہے جنگ کے وقت۔ کہا کہ انہوں نے پھر حدیث بیان کرنا شروع کر دی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک جنگ میں تھے جب نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ ﷺ کھڑے ہوئے، سوا ایک گروہ نے آپ کے پیچھے صف بنائی اور ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس گروہ نے ایک رکعت پڑھی اور آپ کے ساتھ دو سجدے کیے، پھر وہ لوگ جنہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لی تھی وہ چلے گئے ان کی جگہ پر۔ پھر وہ لوگ آگئے تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز ادا کی، انہوں نے آپ کے ساتھ ایک رکعت ادا کی اور دو سجدے کیے، پھر رسول اللہ ﷺ بیٹھ گئے، آپ نے سلام پھیر دیا اور سلام پھیرا، ان لوگوں نے جو آپ کے پیچھے تھے، تو رسول اللہ ﷺ کی دو رکعتیں ہو گئیں اور قوم کی ایک ایک رکعت ہو گئی، پھر یزید نے یہ آیت پڑھی: ”تو جب آپ ان میں ہوں تو ان کو نماز

المسیب بن رافع عن علی بن الصلت عن ابی ایوب وأخرجه أحمد رقم الحديث: 23597، والبخاری فی التاريخ جلد 6 صفحہ 279، وابن خزيمة رقم الحديث: 1215، وابن حبان فی الثقات جلد 5 صفحہ 163-164، والطبرانی رقم الحديث: 4037-4038، والبيهقي جلد 2 صفحہ 489. من طريق الثوري عن الأعمش به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 4814، وأحمد رقم الحديث: 23611، وابن خزيمة رقم الحديث: 1215، والبيهقي جلد 2 صفحہ 489. وروى من وجه آخر ضعيف عن ابی ایوب أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 3854، والحاكم جلد 3 صفحہ 461.

پڑھائیں“ (النساء: ۱۰۲)۔

حضرت مجاہد کی حضرت جابر رضی اللہ

عنه سے روایت کردہ حدیث

حضرت مجاہد، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز کی چابی وضو ہے اور جنت کی چابی نماز ہے۔

351- وَمَا رَوَى

مُجَاهِدٌ عَنْ جَابِرٍ

1899 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ

بعض دوسرے افراد کی

حضرت جابر رضی اللہ عنہ

سے روایت کردہ احادیث

حضرت عبدالعزیز بن عبید اللہ بن عبدالرحمن بن

352- الْأَفْرَادُ

عَنْ

جَابِرٍ

1900 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1899- عزاه بهذا الاسناد الحافظ في المطالب رقم الحديث: 2911، والبوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 1565 للمصنف كما هنا. وروى عن أبي أيوب من وجه آخر. أخرجه ابن أبي شيبة في المسند كما في المطالب رقم الحديث: 1565، وعنه عبد بن حميد رقم الحديث: 232، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطبراني رقم الحديث: 3922 وفي اسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وروى عن أبي امامة عند الطبراني رقم الحديث: 7999، وانس عند البزار (2060- كشف) أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي أيوب ذلك. واسنادهما ضعيف.

1900- أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 11029. من طرق عن حيوة بن شريح به أخرجه أبو داؤد

رقم الحديث: 2512، والترمذي رقم الحديث: 2972، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 11028،

حمزہ بن صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت وہب بن کیسان رضی اللہ عنہ کو دیکھا جو بالوں کے نکلنے کی آخری جگہ پر سجدہ کر رہے تھے میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا، فرمانے لگے: مجھے حضرت جابر نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ ایسے کرتے تھے۔

حضرت ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے عرض کی کہ حضرت ابن زبیر متعہ سے منع کرتے ہیں اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سامنے ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں متعہ کرتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت آیا تو آپ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل اپنے نبی ﷺ کے لیے جو چاہے حلال کرتا ہے اور بے شک قرآن نازل ہوا اپنی جگہوں پر سو تم اپنے حج کے ساتھ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ: رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى فُصَاصِ الشَّعْرِ، قَالَ: فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

1901 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يَقُولُ: قُلْتُ لِحَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا، قَالَ جَابِرٌ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثِ، تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ خَطَبَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ يُحِلُّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ، فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، وَأَبْتُوا نِكَاحَ هَذِهِ

والطبری جلد 2 صفحہ 204، وابن عبد الحکم فی فتوح مصر صفحہ 269-270، وابن حبان رقم الحدیث: 4711، والطبرانی رقم الحدیث: 4060، والحاکم جلد 2 صفحہ 84-275، والبیہقی جلد 9 صفحہ 45-99.

1901 - قد عزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 466 للمصنف وأخرجه أحمد رقم الحدیث: 23627 عن حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب به. ورواه يزيد بن أبي حبيب واختلف عليه فقال قتيبة بن سعيد عن ابن لهيعة عنه: عن أسلم أبي عمران عن أبي أيوب. وقال محمد بن اسحاق عنه: عن مرثد بن عبد الله عن أبي أيوب أخرجهما أحمد رقم الحدیث: 23568-23629، وابن اسحاق أحسن حالاً من ابن لهيعة وقد صرح بالسماع فيقدم وينحسن الحدیث من طريقه. انظر العلل للدارقطني جلد 6 صفحہ 124، ولابن أبي حاتم رقم الحدیث: 506، وفتح الباری لابن رجب جلد 4 صفحہ 353-354.

النِّسَاءِ، فَلَا أُوتَى بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَىٰ أَجْلِ الْآ
رَجْمَتُهُ

اپنے عمرہ کو بھی ملا لؤ نکاح کے ساتھ ان عورتوں کے پاس
جاؤ، سو جو کوئی آدمی کسی عورت کے پاس ایک مقررہ
مدت کے لیے جائے گا تو میں اس کو رجم کروں گا۔

حضرت ابو نضرہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے
روایت کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نبی
اکرم ﷺ کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے
فرمایا: روئے زمین پر یہ چلتا ہوا شہید ہے۔

حضرت ہش، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما
سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:
تمہارے اعمال خاندان والوں اور رشتہ داروں پر ان کی
قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں اگر اچھے ہوں گے تو وہ
اس سے خوش ہوتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ ہوں تو
وہ کہتے ہیں: اے اللہ! ان کو اپنی اطاعت کے اعمال کی
توفیق عطا فرما!

1902 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ،
قَالَ: مَرَّ طَلْحَةُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: شَهِيدٌ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ

1903 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَى عَشَائِرِكُمْ وَأَقْرَبَائِكُمْ
فِي قُبُورِهِمْ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبَشَرُوا بِهِ، وَإِنْ
كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا: اللَّهُمَّ إِلَهُهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا
بِطَاعَتِكَ

1904 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

حضرت سلیمان الیشکری سے روایت ہے کہ

1902 - أخرجه الطحاوی فی المشکل رقم الحدیث: 2629، والحاکم جلد 2 صفحہ 257، وأبو نعیم فی الحلیة

جلد 4 صفحہ 384، والبیہقی فی الدلائل جلد 5 صفحہ 109. من طرق عن شعبة به وعند بعضهم

مختصراً بدون القصة أخرجه ابن أبي شيبة جلد 14 صفحہ 498، وأحمد رقم الحدیث: 21671،

والطبرانی رقم الحدیث: 4444-4786، والقضاعي فی مسند الشهاب رقم الحدیث: 845، ومسلم رقم

الحدیث: 1353، ومن حدیث مجاشع ابن مسعود عند البخاری رقم الحدیث: 3078-3079.

1903 - من طریق عفان وغيره عن وهيب به أخرجه أحمد رقم الحدیث: 21657، والطبرانی رقم الحدیث:

4785، والحاکم جلد 3 صفحہ 76، والبیہقی جلد 8 صفحہ 143، وابن عساكر جلد 30 صفحہ 277.

ورواه سعيد الجريري عن أبي نضرة به أخرجه ابن عساكر جلد 30 صفحہ 278-279.

1904 - أخرجه الترمذی رقم الحدیث: 703 من طریق المصنف وزاد فيه قول أنس: قلت: كم كان قدر ذلك؟

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حدیبیہ کے دن قربانی کی ستر گائیں یا ستر اونٹ۔ ایک گائے سات افراد کی طرف سے (قربانی کی گئی)۔

عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ سَبْعِينَ بَقْرَةً أَوْ سَبْعِينَ بَدَنَةً الْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

حضرت نصر بن راشد، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبر کو چونا کرنے سے منع کیا یا اس پر تعمیر کرنے سے منع کیا۔

1905 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ

قال: قدر خمسين آية . من طرق عن هشام به أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 248، وأحمد رقم الحديث: 21662، والبخاري رقم الحديث: 1921، ومسلم رقم الحديث: 1097، والترمذي رقم الحديث: 704، والنسائي رقم الحديث: 2154، وابن ماجه رقم الحديث: 1694، وابن خزيمة رقم الحديث: 1941 وغيرهم . من طريق قتادة به وفيه قول أنس السابق أخرجه أحمد رقم الحديث: 21656-21661-21680-21715، والبخاري رقم الحديث: 575، ومسلم رقم الحديث: 1097، وابن خزيمة رقم الحديث: 1941 وغيرهم .

1905 - من طريق أبي داؤد الطيالسی أخرجه أحمد رقم الحديث: 21650، وفي الفضائل رقم الحديث: 1607، والترمذي رقم الحديث: 3934، والبيهقي في الدلائل جلد 6 صفحہ 236، وتصحف في المطبوع من الترمذي الى أبي الوليد الطيالسی نظر التحفة جلد 3 صفحہ 207 . من طريق عمران به أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 4789-4790، وفي الأوسط رقم الحديث: 2527، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه الا من حديث عمران . هكذا في التحفة جلد 3 صفحہ 207، والجامع المطبوع: حسن صحيح غريب وله شاهد عن جابر عنه أحمد رقم الحديث: 14731، والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 482، والبيهقي في الدلائل جلد 6 صفحہ 236، فهذه الطرق يقوى بعضها بعضاً وتدل على على أن لصدرة أصلاً أما آخره: وبارك لنا..... فهو ثابت من حديث أنس عند البخاري رقم الحديث: 6714-2130، ومسلم رقم الحديث: 1368، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم رقم الحديث:

حضرت سعید بن ابی کرب سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: ہلاکت ہے ان ایڑیوں کے لیے جہنم سے (جو خشک رہ جاتی ہیں وضو کے دوران)۔

حضرت محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ مشرق کی طرف منہ کر کے نقلی نماز سواری پر پڑھتے تھے پس جب فرض ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو آپ اترتے اور قبلہ کی طرف منہ کرتے۔

1906 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَامٌ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ

1907 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ تَطَوُّعًا، فَإِذَا أَرَادَ

1906- أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 4800 . من طريق الضحاك بن نبراس عن ثابت به أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 256 وابن أبي شيبة في المسند رقم الحديث: 133، والبخاري في الأدب المفرد رقم الحديث: 458، والعقيلي جلد 2 صفحہ 219، وأبو يعلى كما في المطالب رقم الحديث: 567، وابن عدی جلد 4 صفحہ 1416، والطبرانی رقم الحديث: 4797-4799 وغيرهم . وقال الحافظ في المطالب جلد 2 صفحہ 391 المحفوظ في هذا موقوف على زيد بن ثابت . والموقوف أخرجه العقيلي جلد 2 صفحہ 219 من طريق حماد بن سلمة عن ثابت وقال العقيلي: حديث حماد أولى . وقد توبع حماد عليه فأخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 359، وعبد الرزاق رقم الحديث: 1983، والطبرانی رقم الحديث: 4796 من طرق عن ثابت به . ورواه حميد الطويل عن أنس كذلك أخرجه ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 359 . وله شاهد عن ابن مسعود وابن عمر موقوفاً عند ابن أبي شيبة جلد 2 صفحہ 259، وابن سعد جلد 4 صفحہ 154 .

1907- أخرجه الطبري في التفسير جلد 5 صفحہ 192 . من طرق عن شعبة به أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 242، وابن أبي شيبة جلد 14 صفحہ 406، وفي المسند رقم الحديث: 125، وأحمد رقم الحديث: 21639-21672-21677-21679، والبخاري رقم الحديث: 1884-4050-4589، ومسلم رقم الحديث: 2776، والترمذي رقم الحديث: 3028، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 11113 وغيرهم .

الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

1908 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عِنْدَهُمْ رُطْبًا وَشَرِبَ مَاءً، وَقَالَ: هَذَا مِنَ النَّعِيمِ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ

1909 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي غَزْوَةِ قِبَلِ الْمَشْرِقِ عَلَى رَاحِلَتِهِ

1910 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْحَنْفِيَّةِ: إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ

حضرت عمار بن ابوعمار، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس کھجوریں کھائی گئیں اور پانی پیا گیا اور آپ نے فرمایا: یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق پوچھا جائے گا۔

حضرت عثمان بن عبد اللہ بن سراقہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دورانِ جہاد اپنی سواری پر نماز پڑھتے تھے مشرق کی طرف رخ انور کر کے۔

حضرت عبید اللہ بن مقسم سے روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ ایک صاع کے ساتھ غسل کرتے تھے ان سے ابن حنفیہ نے کہا: میرے بال بہت زیادہ ہیں، تو (حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے) فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کے بال تجھ سے بھی زیادہ تھے۔

1908- هو جزء من الحديث السابق .

1909- سبق تخريجه .

1910- أخرجه أحمد رقم الحديث: 21686، والبخاري رقم الحديث: 4988، والترمذي رقم الحديث: 3104،

وابن حبان رقم الحديث: 4506، والطبراني رقم الحديث: 4842، والبيهقي جلد 2 صفحہ 41 وغیرہم .

من طريق الزهري به أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 246، وأحمد رقم الحديث: 21695،

والبخاري رقم الحديث: 2784-2807، وابن أبي داؤد في المساحف صفحہ 9، والطبراني رقم

الحديث: 4841 وغیرہم .

حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب

رضی اللہ عنہما کی نبی کریم ﷺ

سے منسوب احادیث

حضرت محمد بن علی بن حسین رضی

اللہ عنہم کی حضرت عبداللہ

بن عمر رضی اللہ عنہما سے

روایت کردہ احادیث

حضرت محمد بن علی بن حسین فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہما حدیث بیان کر رہے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کے پاس موجود تھے، حضرت ابن عمیر نے اس حدیث میں کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، جب ادھر آتی ہے اس کو چرتی ہے، اگر ادھر آئے تو ادھر چرتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے کہ وہ دو بکریوں کے درمیان ہو۔ سو دونوں نے لفظ غنم و ربض میں اختلاف کیا کہ (دو بکریوں اور دو ریوڑوں میں گھل مل جائے)۔ حضرت

353- وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَا رَوَى مُحَمَّدُ

بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عُمَرَ

1911 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ: بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ

وَأَبْنُ عُمَرَ عِنْدَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُنَافِقِ

كَشَاةٍ بَيْنَ رَبْضَيْنِ، إِذَا أَتَتْ هَوْلَاءَ نَطَحَتْهَا، وَإِنْ

أَتَتْ هَوْلَاءَ نَطَحَتْهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ كَذَلِكَ،

إِنَّمَا قَالَ: بَيْنَ غَنَمَيْنِ فَاخْتَلَفَا فِي غَنَمَيْنِ وَرَبْضَيْنِ

فَاخْتَلَطَ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَقُلْ

1911- أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 4847. من طريق ابن أبي الزناد به، كسابقه أخرجه الطبرانی رقم

الحديث: 4872-4873، ورواه الزهري عن خارجة به مثله أخرجه أحمد رقم الحديث: 21655.

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے دونوں کو ملا دیا اور فرمایا: اگر میں نے نبی اکرم ﷺ سے نہ سنا ہوتا تو میں نہ کہتا۔

حضرت سالم بن عبد اللہ جو

اپنے والد سے احادیث

روایت کرتے ہیں

حضرت نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جس نے نماز چھوڑی گویا اس کے اہل خانہ و مال ضائع ہو گئے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا حضرت سالم کے سامنے ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا: مجھے میرے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے عصر کی نماز چھوڑی (اس کا اہل و مال ضائع ہو گیا)۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت

ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے پاس سے جنازہ گزرے تو وہ کھڑا ہو جائے یہاں

354- مَا رَوَى سَالِمٌ

بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

عَنْ أَبِيهِ

1912 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ نَوْفَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَكَانَ مَا وَتَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ...

1913 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا

1913- فقد وثقه العجلي وابن حبان انظر تهذيب المزى جلد 23 صفحہ 341 . من طريق سفیان عن الرکین بہ

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المسند رقم الحديث: 134-137 وفي المصنف جلد 2 صفحہ 461

وعبد الرزاق رقم الحديث: 4250 وأحمد رقم الحديث: 21633 والنسائي رقم الحديث: 1530 وابن

خزيمة رقم الحديث: 1345 والطحاوی جلد 1 صفحہ 310 وابن حبان رقم الحديث: 2870

والطبرانی رقم الحديث: 4919 والبيهقي جلد 3 صفحہ 262-263 . ورواه شريك عن الرکین بہ مثله

أخرجه ابن أبي شيبة في المسند رقم الحديث: 134 والطبرانی رقم الحديث: 4920 .

مَرَّتْ بِأَحَدِكُمْ جَنَازَةٌ فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ

تک کہ اسے نیچے رکھ دیا جائے۔

1914 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے کھجور کا باغ فروخت کیا، اس حال میں کہ وہ پکا ہوا تھا، مشتری نے پھل کی شرط نہیں لگائی، تو اس کے لیے کوئی شی نہیں، اور جس نے غلام خریدا اور اس کا مال ہے، مالک نے اس کے مال کی شرط نہیں لگائی، تو اس کے لیے کوئی شی نہیں۔

أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَلَمْ يَشْتَرِطِ الْمُشْتَرِي الثَّمَرَةَ فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ

1915 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! محرم کیا پہن سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: محرم قمیص، عمامہ، شلوار ورس اور زعفران سے رنگے ہوئے کپڑے اور موزے نہیں پہن سکتا، مگر یہ ہے کہ وہ نعلین نہ پائے تو ان دونوں (موزوں) کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔

أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ، وَلَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعَهُمَا إِلَى

1914 - أخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 313 . من طرق عن ابن أبي ذئب به أخرجه عبد بن حميد رقم

الحديث: 251، وأحمد رقم الحديث: 21631-21665، والبخاري رقم الحديث: 1073، وأبو داؤد رقم

الحديث: 1404، والترمذي رقم الحديث: 576، وابن خزيمة رقم الحديث: 568، وابن حبان رقم

الحديث: 2769، والبيهقي في الجعديات رقم الحديث: 2773، والطبراني رقم الحديث: 4829 . من

طريق ابن قسيط به أخرجه البخاري رقم الحديث: 1072، ومسلم رقم الحديث: 577، والنسائي رقم

الحديث: 959، وفي الكبرى رقم الحديث: 942، وابن خزيمة رقم الحديث: 568، انظر سنن أبي داؤد

رقم الحديث: 1405، وصحيح ابن خزيمة رقم الحديث: 568-566، وسنن الدارقطني

جلد 1 صفحہ 409-410 .

1915 - أخرجه البيهقي جلد 8 صفحہ 211 . من طريق شعبة به وعند بعضهم مطولاً أخرجه أحمد رقم

الحديث: 21636، والدارمي رقم الحديث: 2328، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 7145،

والحاكم جلد 4 صفحہ 360، والمزى في التهذيب جلد 24 صفحہ 130 . من طريق آخر عن زيد بن ثابت

أَسْفَلَ مِنَ الْكَفَّيْنِ

1916 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
 عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا
 تَبْتَاعُوا الثِّمَارَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پھلوں کو نہ فروخت کرو یہاں
 تک کہ ان کی صلاحیت ظاہر ہو جائے۔

1917 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول

مطولاً أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 7148، والبيهقي جلد 8 صفحہ 211، وانظر التحفة
 جلد 3 صفحہ 225، وتهذيب الكمال جلد 24 صفحہ 130 .

1916 - فقد عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 4600 للمصنف . من طريق المصنف
 أخرجه الترمذی رقم الحديث: 2656، وابن حبان رقم الحديث: 680، وابن أبي حاتم في الجرح
 جلد 2 صفحہ 11، والخطيب في شرف أصحاب الحديث رقم الحديث: 19 . من طريق شعبة به أخرجه
 ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 94، وأحمد رقم الحديث: 21630، والدارمی رقم
 الحديث: 235، وأبو داؤد رقم الحديث: 3660، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5847، وابن ماجه
 رقم الحديث: 4105، وابن حبان رقم الحديث: 67، والطحاوی في المشكل رقم الحديث: 1600،
 والطبرانی رقم الحديث: 4890-4891، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم الحديث: 184-185،
 والخطيب في شرف أصحاب الحديث رقم الحديث: 19، وفي الفقيه والمتفقه رقم الحديث: 765
 وغيرهم .

1917 - فقد عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 4600 للمصنف . من طريق المصنف
 أخرجه الترمذی رقم الحديث: 2656، وابن حبان رقم الحديث: 680، وابن أبي حاتم في الجرح
 جلد 2 صفحہ 11، والخطيب في شرف أصحاب الحديث رقم الحديث: 19 . من طريق شعبة به أخرجه
 ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 94، وأحمد رقم الحديث: 21630، والدارمی رقم الحديث:
 235، وأبو داؤد رقم الحديث: 3660، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5847، وابن ماجه رقم
 الحديث: 4105، وابن حبان رقم الحديث: 67، والطحاوی في المشكل رقم الحديث: 1600،
 والطبرانی رقم الحديث: 4890-4891، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم الحديث: 184-185،

سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةَ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةَ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ

اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی عصر کی نماز فوت ہوگئی، گویا کہ اس کا اہل و مال ضائع ہو گیا۔

1918 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ إِلَّا الْخُمْسَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) (لقمان: 34) إِلَى آخِرِهَا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی ﷺ کو غیب کی چابیاں دی گئی ہیں سوائے پانچ چیزوں کے، پھر یہ آیت تلاوت کی: ”إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ“ (لقمان: 34) آخر آیت تک۔

فائدہ: مذکورہ حدیث سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ آپ کو ان پانچ چیزوں کا علم نہیں، اس نفی سے مراد حقیقت کی نفی ہے یعنی خود نہیں جانتے۔ عطائی کی نفی نہیں ہے۔ (غلام دستگیر غفرلہ)

1919 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيحَ الْغَيْبِ إِلَّا الْخُمْسَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ) (لقمان: 34) إِلَى آخِرِهَا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول

والخطيب في شرف أصحاب الحديث رقم الحديث: 19، وفي الفقيه والمتفقه رقم الحديث: 765 وغيرهم .

1918 - فقد عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 4600 للمصنف . من طريق المصنف أخرجه الترمذي رقم الحديث: 2656، وابن حبان رقم الحديث: 680، وابن أبي حاتم في الجرح جلد 2 صفحہ 11، والخطيب في شرف أصحاب الحديث رقم الحديث: 19 . من طريق شعبة به أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم الحديث: 94، وأحمد رقم الحديث: 21630، والدارمي رقم الحديث: 235، وأبو داؤد رقم الحديث: 3660، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 5847، وابن ماجه رقم الحديث: 4105، وابن حبان رقم الحديث: 67، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 1600، والطبراني رقم الحديث: 4890-4891، وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم الحديث: 184-185، والخطيب في شرف أصحاب الحديث رقم الحديث: 19، وفي الفقيه والمتفقه رقم الحديث: 765 وغيرهم .

1919 - عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 4374 للمصنف مثل ما هنا . والحديث يرويه الثوري وإسحاق بن سليمان وغيرهما عن سعيد بن سنان عن وهب بن خالد عن ابن الديلمي

سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤُوتَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

اللہ ﷺ نے فرمایا: چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، پس اگر آسمان پر بارش ہو تو اس کا اندازہ کر لو۔

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: معراج کی رات میں نے بیت المقدس میں حضرات ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کو دیکھا، یعنی جب آپ کو سیر کرائی گئی۔ سو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا جن کا رنگ گندم گوں تھا اور وہ دو آدمیوں کے درمیان موجود تھے گویا کہ وہ قبیلہ شنوءہ کے لوگوں کی طرح تھے اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ

1920 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ - يَعْنِي حَيْثُ أُسْرِيَ بِهِ - فَرَأَيْتُ مُوسَى رَجُلًا ضَرْبًا آدَمَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنْوَاءَ، وَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا

أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَسْنَدِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 130، وَعَبْدُ بْنُ حَمِيدٍ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 247، وَابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السَّنَةِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 245، وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 21696، وَأَبُو دَاوُدَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 4699، وَابْنُ مَاجَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 77، وَابْنُ حِبَانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 727، وَالطَّبْرَانِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 4940، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي جِلْدِ 1 صَفْحَةَ 204. مِنْ طَرِيقٍ كَثِيرٍ مِنْ ابْنِ الدَّبْلَمِيِّ بِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَخْرَجَهُ الْإِسْرَافِيُّ فِي الشَّرِيعَةِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 373-424. وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عِمْرَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي جِلْدِ 18 صَفْحَةَ 233 وَفِيهِ ضَعْفٌ.

1920 - أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3723، وَالطَّبْرَانِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 4954. مِنْ طَرِيقٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ بِهِ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 16873-16874، وَالْحَمِيدِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 398، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي الْمَسْنَدِ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 121، وَفِي الْمَصْنُوفِ جِلْدِ 7 صَفْحَةَ 137، وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 21626-21692، وَالنَّسَائِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3721-3724-3725، وَابْنُ مَاجَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2381، وَابْنُ حِبَانَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 5132-5133، وَالطَّبْرَانِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 4941-4942-4945-4950، وَغَيْرُهُمْ. مِنْ طَرِيقِ سَفْيَانَ وَمَعْمَرَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ زَيْدٍ وَالصَّحِيحِ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ وَطَاوُسٍ كَثِيرَ الْإِسْرَافِ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَرُويهِ عَلَى الْوَجْهِينِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3718-3719.

أَحْمَرَ كَأَنَّمَا أُخْرِجَ مِنْ دِيمَاسٍ، وَأَنَا أَشْبَهُ بِنِي
 إِبْرَاهِيمَ بِهِ، وَأُتِيَتْ بِإِنَاءٍ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ لَبَنٍ فَأَخَذْتُ
 اللَّبَنَ، فَقَالَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: هَدَيْتَ لِلْفِطْرَةِ
 لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ
 سَعِيدٌ يُحَدِّثُنَا هَذَا، وَقَدْ أَخْبَرَنَا سَالِمٌ، أَنَّ أَبَاهُ
 قَالَ: وَاللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لِعِيسَى: أَحْمَرٌ وَلَكِنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتَنِي فِي
 الْمَنَامِ كَأَنِّي أَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَرَأَيْتُ عِيسَى رَجُلًا
 بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، كَانَ رَأْسُهُ يَنْطَفُ مَاءً أَوْ يُهْرَاقُ
 مَاءً، فَالْتَفَتْتُ فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرٌ جَعَدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ
 الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَانَ عَيْنُهُ عِنَبَةً طَافِيَةً، فَقِيلَ: هَذَا
 الدَّجَالُ أَقْرَبُ شَهَبًا بِابْنِ قَطَنِ الْخَزَاعِيِّ مِنْ بِنِي
 الْمُصْطَلِقِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَتُورِقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ

السلام کو دیکھا جن کا سرخ سرخ تھا وہ ایسے تروتازہ تھے
 کہ ابھی حمام سے نکلے ہوں اور میں ابراہیم علیہ السلام
 کے بیٹوں میں ان کے مشابہ تھا اور میرے پاس ایک
 شراب کا برتن اور ایک دودھ کا برتن لایا گیا تو میں نے
 دودھ کا برتن لے لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے
 فرمایا: آپ کی فطرت کی طرف راہنمائی کی گئی اگر آپ
 شراب لیتے تو آپ کی اُمت گمراہ ہو جاتی۔ امام زہری
 فرماتے ہیں: ہم کو سعید (بن مسیب) نے یہ حدیث
 بیان کی اور ہم کو حضرت سالم نے خبر دی کہ وہ اپنے والد
 سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! جو
 رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ سرخ رنگ کے
 ہیں، لیکن آپ نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا گویا
 میں طواف کر رہا ہوں کعبہ شریک کا میں نے حضرت
 عیسیٰ کو دیکھا دو آدمیوں کے درمیان گویا ان کے سر سے
 پانی کے قطرے گر رہے تھے یا بہہ رہے تھے۔ سو میں
 متوجہ ہوا تو وہ سرخ رنگ کا آدمی تھا جو دائیں آنکھ سے
 کانا تھا، گویا اس کی آنکھ اُبھرے ہوئے انگور کی طرح
 تھی۔ کہا گیا: یہ دجال ہے، یہ ابن قطن الخزاعی بنی مصطلق
 کے زیادہ مشابہ تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ
 جاہلیت میں فوت ہو گیا تھا۔

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ

1921 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ

1921- أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ جُلْدًا 1 صَفْحَةً 112. مِنْ طَرَقٍ عَنْ هِشَامِ بِهِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

22587-22700 'وَالدَّارِمِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 679 'وَالْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 153 'وَالْمُسْلِمُ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

267 'وَالْتَرْمِذِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1889 'وَفِي الْكَبْرِيِّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 29-41 'وَابْنُ خَزِيمَةَ رَقْمَ الْحَدِيثِ:

بُنْ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أُسَامَةُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَلَمْ يَسْتَنْ فَاطِمَةَ وَلَا غَيْرَهَا

انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: مجھے اسامہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ نے حضرت فاطمہ کا استثناء نہیں کیا نہ ان کے علاوہ کا۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول

1922 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،

اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُلْدَغُ مُؤْمِنٌ

ڈسا جاتا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہ

مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَا يُعَاقَبُ عَلَى ذَنْبِهِ

ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی

فِي الدُّنْيَا فَيُعَاقَبُهُ فِي الآخِرَةِ

سزا دی جائے اور آخرت میں بھی اس کو سزا دی جائے۔

1923 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول

78 . من طرق عن يحيى به أخرجه الحميدى رقم الحديث: 428، وأحمد رقم الحديث:

19438-22575-22618-22691-22708، والبخارى رقم الحديث: 154-5630، ومسلم رقم

الحديث: 267، وأبو داؤد رقم الحديث: 31، والترمذى رقم الحديث: 15، والنسائى رقم الحديث:

48-24، وفى الكبرى رقم الحديث: 28، وابن ماجه رقم الحديث: 310، وابن خزيمة رقم الحديث:

79-68، وابن حبان رقم الحديث: 1434 .

1922 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 22694-22686، والدارمى رقم الحديث: 1264، والبخارى رقم

الحديث: 637، والنسائى رقم الحديث: 789 .

1923 - أخرجه الترمذى رقم الحديث: 592 . من طرق عن معمر به أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 189،

ومسلم رقم الحديث: 604، وأبو داؤد رقم الحديث: 540، والترمذى رقم الحديث: 592، والنسائى

رقم الحديث: 686، وابن حبان رقم الحديث: 2223، وغيرهم . قال أبو داؤد: لم يذكر: قد خرجت .

الا معمر ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه: قد خرجت . وخرج زوايته ابن عيينة الحميدى رقم

الحديث: 427، ورواه كذلك عبد الرزاق رقم الحديث: 1932، عن معمر . من طرق عن يحيى به

أخرجه أحمد رقم الحديث: 22702-22676، والدارمى رقم الحديث: 1265، والبخارى رقم

الحديث: 909-638، ومسلم رقم الحديث: 604، وأبو داؤد رقم الحديث: 539 .

الحديث: 638-909، ومسلم رقم الحديث: 604، وأبو داؤد رقم الحديث: 539 .

الحديث: 189،

رقم الحديث: 686، وابن حبان رقم الحديث: 2223، وغيرهم . قال أبو داؤد: لم يذكر: قد خرجت .

الا معمر ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه: قد خرجت . وخرج زوايته ابن عيينة الحميدى رقم

الحديث: 427، ورواه كذلك عبد الرزاق رقم الحديث: 1932، عن معمر . من طرق عن يحيى به

أخرجه أحمد رقم الحديث: 22702-22676، والدارمى رقم الحديث: 1265، والبخارى رقم

الحديث: 909-638، ومسلم رقم الحديث: 604، وأبو داؤد رقم الحديث: 539 .

الحديث: 189،

رقم الحديث: 686، وابن حبان رقم الحديث: 2223، وغيرهم . قال أبو داؤد: لم يذكر: قد خرجت .

الا معمر ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه: قد خرجت . وخرج زوايته ابن عيينة الحميدى رقم

الحديث: 427، ورواه كذلك عبد الرزاق رقم الحديث: 1932، عن معمر . من طرق عن يحيى به

أخرجه أحمد رقم الحديث: 22702-22676، والدارمى رقم الحديث: 1265، والبخارى رقم

الحديث: 909-638، ومسلم رقم الحديث: 604، وأبو داؤد رقم الحديث: 539 .

الحديث: 189،

رقم الحديث: 686، وابن حبان رقم الحديث: 2223، وغيرهم . قال أبو داؤد: لم يذكر: قد خرجت .

الا معمر ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه: قد خرجت . وخرج زوايته ابن عيينة الحميدى رقم

الحديث: 427، ورواه كذلك عبد الرزاق رقم الحديث: 1932، عن معمر . من طرق عن يحيى به

أخرجه أحمد رقم الحديث: 22702-22676، والدارمى رقم الحديث: 1265، والبخارى رقم

الحديث: 909-638، ومسلم رقم الحديث: 604، وأبو داؤد رقم الحديث: 539 .

اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل تم کو منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپوں کی قسم اٹھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی قسم نہیں اٹھائی جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے یاد ہوتے بھی اور بھول کر بھی۔

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا حَلَفْتُ بِهَا مِنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا ذَاكِرًا وَلَا نَاسِيًا

1924 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَمْعَةُ،

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے منیٰ میں دو رکعت پڑھیں، یعنی سفر کی نماز پھر حضرت ابو بکر نے دو رکعتیں پڑھیں، پھر ان کے بعد حضرت عمر نے دو رکعتیں پڑھیں، پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دو رکعتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد حضرت عثمان نے مکمل نماز پڑھی (کیونکہ حضرت عثمان نے یہاں پر آ کر مقیم ہونے کی نیت کر لی تھی)۔

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَى صَلَاةِ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُ عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهُ عُثْمَانُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ إِنَّ عُثْمَانَ أَتَمَّ بَعْدَ

1925 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو نماز میں تخفیف کا حکم دیتے تھے اور اگر آپ ہماری صبح کی امامت کرواتے تو سورہ صافات

أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ سَالِمٍ - شَكَ أَبُو دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كَانَ

1924 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 22699، والدارمي رقم الحديث: 2119، والبخاري رقم الحديث: 5602، ومسلم رقم الحديث: 1988، والنسائي رقم الحديث: 5575، والبيهقي جلد 8 صفحہ 307 وغیرہم . من طرق عن يحيى به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 16965، وأحمد رقم الحديث: 22682، ومسلم رقم الحديث: 1988، وأبو داؤد رقم الحديث: 3704، والنسائي رقم الحديث: 5566-5583، وابن ماجه رقم الحديث: 3397، والبيهقي جلد 8 صفحہ 307 وغیرہم وليحيى فيه اسناد آخر عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي قتادة وكلاهما صحيح أخرجه أحمد رقم الحديث: 22682، ومسلم رقم الحديث: 1988، وأبو داؤد رقم الحديث: 3704، والنسائي رقم الحديث: 5567، ورواه عبد الرحمن بن الحباب عن أبي قتادة عن مالك جلد 2 صفحہ 844 .

1925 - انظر البخاري رقم الحديث: 5631، ومسلم رقم الحديث: 2028 .

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَأْمُرَنَا
بِالتَّخْفِيفِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ لَيُؤْمِنَا فِي
الصُّبْحِ بِالصَّافَاتِ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں

نے رسول اللہ ﷺ اور حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو
نماز جنازہ کے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔

1926 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَابَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں

نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، آپ
ﷺ نے فرما رہے تھے: جو جمعہ کے لیے آئے، اس کو
چاہیے کہ وہ غسل کرے۔

1927 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ إِلَى
الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

حضرت سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

1928 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

1926 - أخرجه الطحاوی جلد 1 صفحہ 206، والبیہقی جلد 2 صفحہ 347. من طرق عن هشام به أخرجه أحمد
رقم الحدیث: 22573-22623، والبخاری رقم الحدیث: 762-779، وأبو داؤد رقم الحدیث: 798
والنسائی رقم الحدیث: 975، وابن ماجه رقم الحدیث: 829، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1588، وابن
حبان رقم الحدیث: 1857، والبیہقی جلد 2 صفحہ 65 وغيرهم .

1927 - قد عزاه الحافظ فی المطالب رقم الحدیث: 2114 للمصنف . من طریق المصنف أخرجه عبد بن
حمید رقم الحدیث: 192، والبیہقی جلد 9 صفحہ 48. من طریق ابن ابی ذئب به أخرجه الدارمی رقم
الحدیث: 2417. من طریق المقبری به أخرجه مالك جلد 2 صفحہ 461، وأحمد رقم الحدیث:
22679، ومسلم رقم الحدیث: 1885، والترمذی رقم الحدیث: 1712، والنسائی رقم الحدیث: 3157
وابن حبان رقم الحدیث: 4654، والبیہقی جلد 9 صفحہ 25 وغيرهم . من طریق عبد الله بن ابی قتادة به
أخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 425، ومسلم رقم الحدیث: 1885، والنسائی رقم الحدیث: 3158 .

1928 - أخرجه الخطيب فی المدرج جلد 2 صفحہ 794 .

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بلال اذان دیتے ہیں رات کو اس وقت کھا پیا کرو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دے لیں، حضرت ابن مکتوم نابینا تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ اذان دیں صبح ہوگئی ہے۔

الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلَالَ لَا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: وَكَانَ ضَرِيرًا فَكَانَ يُقَالُ لَهُ: أَذِنُ فَقَدْ أَصْبَحَتْ

حضرت نافع سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

1929 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

نے فرمایا: تمہاری مثال۔ اور حضرت ابن سعد فرماتے ہیں کہ تمہاری بقاء تم سے پہلی گزری امتوں کی طرح ہے اس طرح جس طرح عصر سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک ہے اہل تورات کو تورات دی گئی انہوں نے آدھے دن تک کام کیا، تو ان کو ایک ایک قیراط دیا گیا، اور نصاریٰ کو انجیل دی گئی تو انہوں نے عصر تک کام کیا تو ان کو ایک ایک قیراط دیا گیا، اور ہم کو قرآن دیا گیا تو ہم نے عصر سے لے کر مغرب تک کام کیا تو ہم کو دو دو قیراط دیئے گئے۔ دونوں اہل کتاب نے عرض کی: اے ہمارے رب! ہم نے عمل زیادہ کیا اور ہم کو ایک ایک قیراط دیا گیا، اور انہوں نے عمل تھوڑا کیا اور ان کو دو دو قیراط دیئے؟ تو (اللہ عزوجل نے) فرمایا: کیا تمہارا حصہ کم کر کے تم پر ظلم کیا گیا؟ انہوں نے عرض کی: نہیں! (اللہ عزوجل نے) فرمایا: یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں میں عطا کروں۔

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَنْ مَضَى مِنَ الْأُمَّمِ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أَوْتِيَ أَهْلُ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ فَعَمِلُوا إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَأُتِيَ النَّصَارَى الْإِنْجِيلَ فَعَمِلُوا إِلَى الْعَصْرِ، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَأُوتِينَا الْقُرْآنَ فَعَمِلْنَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: يَا رَبَّنَا، أَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَعَمِلْنَا أَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِمْ وَأَعْطَيْتَهُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ؟ فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْءًا؟ فَقَالُوا: لَا، قَالَ: فَإِنَّهُ فَضْلِي أَوْتِيَهُ مَنْ أَشَاءُ

1929 - أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 196، وأحمد رقم الحديث: 22608-22609، وابن حبان رقم

الحديث: 3057، والحاكم جلد 1 صفحہ 264. وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وانظر التفسير لابن

كثير جلد 4 صفحہ 134-135.

حضرت سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے (۱) گھر (۲) عورت (۳) گھوڑے میں۔

1930 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ، فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ

حضرت حمزہ بن عبد اللہ

355- وَحَمْرَةَ بِنُ

بن عمر کی اپنے والد سے

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ

روایت کردہ احادیث

عَنْ أَبِيهِ

حضرت حمزہ بن عبد اللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میری بیوی مجھے بہت پسند تھی، میرے والد اس کو ناپسند کرتے تھے، مجھے میرے والد نے کہا کہ اس کو طلاق دے، میں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر اس کا ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو طلاق دے دو، پس

1931 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْجَارِثِ، عَنْ حَمْرَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ كُنْتُ أُحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَقَالَ لِي: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: طَلِّقْهَا فَطَلَّقْتُهَا

1930 - عزاه البوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 3260 للمصنف . من طريق ابن أبي ذئب به

أخرجه أحمد رقم الحديث: 22665 .

1931 - أخرجه البيهقي جلد 5 صفحہ 188 . من طرق عن هشام به أخرجه أحمد رقم الحديث: 22622

والدارمي رقم الحديث: 1833، والبخاري رقم الحديث: 1821، ومسلم رقم الحديث: 1196

والنسائي رقم الحديث: 2823 . من طرق عن يحيى به وأخرجه أحمد رقم الحديث: 22643

والبخاري رقم الحديث: 1822، ومسلم رقم الحديث: 1196، وابن حبان رقم الحديث: 3974-3966

وغيرهم . وروى عن أبي قتادة من وجوه أخر عند أحمد رقم الحديث: 22620-22657-22658

والبخاري رقم الحديث: 1823-2914-5490، ومسلم رقم الحديث: 1196 وغيرهم .

میں نے اس کو طلاق دے دی۔

حضرت حمزہ بن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل کسی بستی یا قوم کو عذاب نہیں دیتا مگر عمومی طور پر پھر ان کو قیامت کے دن ان کی نیتوں پر یا اور ان کے اعمال پر اٹھائے گا۔

1932 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ أَوْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمَزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَصَابَ اللَّهُ، عَزًّا وَجَلًّا، أَهْلَ قَرْيَةٍ، أَوْ قَوْمًا بِعَذَابٍ إِلَّا عَمَّهُمْ، ثُمَّ يَبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَاتِهِمْ، أَوْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ

356- وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنِ

بن عمر کی اپنے والد سے

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

روایت کردہ احادیث

عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ

حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر اپنے والد سے

1933 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1932- أخرجه أحمد رقم الحديث: 22670، والدارمي رقم الحديث: 1279، والبخاري رقم الحديث: 776، وفي القراءة خلف الامام رقم الحديث: 238-239-288، ومسلم رقم الحديث: 451، وأبو داؤد رقم الحديث: 799، وابن خزيمة رقم الحديث: 503، وابن حبان رقم الحديث: 1829، والبيهقي جلد 2 صفحہ 65-66 وغيرهم . من طرق عن يحيى به أخرجه أحمد رقم الحديث: 22701-22707، والدارمي رقم الحديث: 1296، والبخاري رقم الحديث: 759-778، وفي القراءة خلف الامام رقم الحديث: 238-286، ومسلم رقم الحديث: 451، وأبو داؤد رقم الحديث: 799-800، والنسائي رقم الحديث: 973-976، وابن خزيمة رقم الحديث: 503-504-507-508، وابن حبان رقم الحديث: 1831-1844، والبيهقي جلد 2 صفحہ 66 وغيرهم . ورواه هشام الدستوائي عن يحيى به وقد سبق برقم 626 . من طريق حجاج الصواف عن يحيى به وقرن مع عبد الله أبا سلمة أخرجه أحمد رقم الحديث: 19437، ومسلم رقم الحديث: 451، وأبو داؤد رقم الحديث: 798 .

1933- أخرجه مالك جلد 1 صفحہ 262، ومن طريقه أحمد رقم الحديث: 22576-22631، والدارمي رقم

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا تلبیہ یہ تھا: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ" حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ اضافہ کیا: "لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ"۔

قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ وَزَادَ ابْنُ عُمَرَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، لَبَّيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ

حضرت نافع کی حضرت عبداللہ

357- وَمَا رَوَى

بن عمر رضی اللہ عنہما سے

نَافِعُ عَنِ

روایت کردہ احادیث

ابنِ عُمَرَ

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

1934 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

الحديث: 1400، والبخاری رقم الحديث: 444، ومسلم رقم الحديث: 714، وأبو داؤد رقم الحديث: 467، والترمذی رقم الحديث: 316، والنسائی رقم الحديث: 729، وابن ماجه رقم الحديث: 1013، وابن خزيمة رقم الحديث: 1826، وابن حبان رقم الحديث: 2497، والبيهقی جلد 3 صفحہ 53 وغيرهم . من طرق عن عامر به أخرجه الحميدى رقم الحديث: 421، وأحمد رقم الحديث: 22582، والدارمی رقم الحديث: 1400، والبخاری رقم الحديث: 1163، وأبو داؤد رقم الحديث: 468، وابن خزيمة رقم الحديث: 1825-1827، وابن حبان رقم الحديث: 2498-2499، وغيرهم . من طريق عمرو به أخرجه أحمد رقم الحديث: 22654، ومسلم رقم الحديث: 714، وابن خزيمة رقم الحديث: 1829، وغيرهم . وانظر العلل لابن أبي جاتم رقم الحديث: 530، وللدارقطنی جلد 6 صفحہ 141-145 .

1934 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 22636، والدارمی رقم الحديث: 2148، والبخاری رقم الحديث: 7044،

ومسلم رقم الحديث: 2261، والنسائی فى الكبرى رقم الحديث: 10730، من طرق عن أبى سلمة به

أخرجه مالك جلد 2 صفحہ 957، والحميدى رقم الحديث: 418، وأحمد رقم الحديث: 22697،

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی (ان عورتوں پر جو) بال لگانے والی اور لگوانے والی پر اور دانت برابر کرنے والی اور برابر کروانے والی پر۔

قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعْنَةُ اللَّهِ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ سواری پر (نفل) نماز پڑھ لیتے تھے سفر کی حالت میں جس طرف بھی سواری کا منہ ہوتا، اور بتاتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔

1935 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُسَافِرٌ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ رَاحِلَتُهُ، وَيُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

1936 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

والبخاری رقم الحديث: 5747-7005، ومسلم رقم الحديث: 2261، وأبو داؤد رقم الحديث: 5021، والترمذی رقم الحديث: 2277، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 10734-10745، وابن ماجه رقم الحديث: 3909 وغيرهم . من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أخرجه أحمد رقم الحديث: 22617، والدارمی رقم الحديث: 2147، والبخاری رقم الحديث: 3292-6986، والنسائی فی الكبرى رقم الحديث: 10732-10734 .

1936- أخرجه البيهقی جلد 4 صفحہ 286 . من طريق حماد بن زيد عن غيلان أخرجه مسلم رقم الحديث: 1162، وأبو داؤد رقم الحديث: 2425، والترمذی رقم الحديث: 752-767، والنسائی رقم الحديث: 2386، وفي الكبرى رقم الحديث: 2695، وابن ماجه رقم الحديث: 1713-1730-1738، وابن خزيمة رقم الحديث: 2087-2111-2126، وابن حبان رقم الحديث: 3632-3639، والبغوی رقم الحديث: 1790 . ومن طريق مهدي بن ميمون أخرجه ابن أبي شيبة جلد 3 صفحہ 96، وأحمد رقم الحديث: 22674-22703، ومسلم رقم الحديث: 1162، وأبو داؤد رقم الحديث: 2426، وابن خزيمة رقم الحديث: 2117، وابن عساكر جلد 3 صفحہ 66 أول السيرة . ورواه سعيد عن قتادة عن غيلان بن جرير به أخرجه ابن خزيمة رقم الحديث: 2117، وابن حبان رقم الحديث: 3631، وابن عدی جلد 4 صفحہ 1539، وابن عساكر جلد 3 صفحہ 66، ورواه شعبة عن غيلان أخرجه أحمد رقم الحديث:

الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری مسجد میں نماز پڑھنا ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے باقی مسجدوں کے علاوہ سوائے مسجد حرام کے۔

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

1937 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ہم پر اسلحہ تانا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔

الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

حضرت عبداللہ بن نافع اپنے والد سے وہ حضرت

1938 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

22590-22635 'ومسلم رقم الحديث: 1162' والنسائي رقم الحديث: 2382' وفي الكبرى رقم الحديث: 2813' وابن خزيمة رقم الحديث: 2117' والطحاوي جلد 2 صفحہ 77' والبيهقي جلد 4 صفحہ 273' والبخاري رقم الحديث: 1789. ورواه جرير بن حازم وأبان عن غيلان أخرجه الطحاوي جلد 2 صفحہ 72-77' والبيهقي جلد 4 صفحہ 300.

1937- أخرجه البيهقي في الدلائل جلد 2 صفحہ 548-549. من طريق وهيب به أخرجه ابن سعد جلد 3 صفحہ 252. من طريق داؤد به أخرجه أحمد رقم الحديث: 11024' والبزار (2687-كشف). وقال البزار هكذا رواه داؤد عن أبي نضرة ورواه أبو سلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي قتادة. من طرق عن شعبة عن أبي سلمة به أخرجه ابن سعد جلد 3 صفحہ 252-253' وأحمد رقم الحديث: 22662-22663' ومسلم رقم الحديث: 2915' والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 85489' وأبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 198' والبيهقي في الدلائل جلد 2 صفحہ 548' والخطيب جلد 2 صفحہ 282. ورواه عكرمة عن أبي سعيد أخرجه أحمد رقم الحديث: 11182-11879' والبخاري رقم الحديث: 2812' وابن حبان رقم الحديث: 7078-7079' والحاكم جلد 2 صفحہ 149' وأبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 197' والبيهقي في الدلائل جلد 2 صفحہ 546. وليس فيه ذكر أبي قتادة.

1938- من طريق ابن المبارك عن ابن لهيعة به أخرجه الترمذي رقم الحديث: 1696. ورواه حسن بن موسى ويحيى بن اسحاق عن ابن لهيعة أخرجه أحمد رقم الحديث: 22614' وأخرجه الدارمي رقم

اللّٰهُ بِنُ نَافِعٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَنَى الْمَسْجِدَ جَعَلَ بَابًا لِلنِّسَاءِ، وَقَالَ: لَا يَلْجَأَنَّ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَحَدٌ قَالَ نَافِعٌ: فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ دَاخِلًا مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ وَلَا خَارِجًا مِنْهُ

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مسجد بنائی تو ایک دروازہ عورتوں کے لیے بنایا اور فرمایا: مردوں میں سے کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو۔ حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ آپ کبھی اس دروازے میں داخل ہوئے اور نہ کبھی اس سے نکلے۔

1939 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بِنُ أَسْمَاءٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تین آدمی ہوں تو دو آپس میں تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی

الحديث: 2433 من طريق الوليد عن ابن لهيعة بلفظ: ان رجلاً قال: يا رسول الله انى أريد أن أشتري فرساً فأبها أشتري؟ قال: اشتر أدهم..... ورواه يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أخرجه الترمذی رقم الحديث: 1697، وابن ماجه رقم الحديث: 2789، والحاكم جلد 2 صفحہ 92، والبيهقی جلد 6 صفحہ 330، وصححه الترمذی والحاكم انظر علل ابن أبي حاتم رقم الحديث: 911-1016، وصحيح ابن حبان رقم الحديث: 4676.

1939 - عزاه الحافظ في المطالب رقم الحديث: 578 للمصنف . من طريق يحيى بن أبي طالب عن الطيالسی عن ابن درهم عن كعب عن أبيه عن أبي قتادة أخرجه البيهقی جلد 2 صفحہ 439 . ورواه محمد بن جعفر المدائنی وزيد بن حباب وحجاج بن منهال وعاصم بن علي وسعيد بن زكريا فقالوا عن ابن درهم عن كعب بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه عن أبي قتادة أخرجه العقيلي جلد 4 صفحہ 65، وابن خزيمة رقم الحديث: 1320، والبيهقی جلد 2 صفحہ 449، والخطيب جلد 5 صفحہ 268 . ورواه قيس بن الربيع وطلق بن غنام فقالا: عن ابن درهم عن كعب بن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه ابن عدی جلد 6 صفحہ 2206، والطبرانی جلد 19 صفحہ 93 . قال الدارقطني في العلل جلد 6 صفحہ 154، والقول قول في اسناده عن أبي قتادة لاتفاقهم على خلاف قيس ومحمد ابن درهم ضعيف والحديث غير ثابت انظر التاريخ للبخارى جلد 7 صفحہ 225-226، والضعيفة للألبانی جلد 4 صفحہ 37.

نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّلَاثِ

نہ کریں۔

1940 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پھل کی بیج سے منع کیا اس کی صلاحیت ظاہر ہونے سے پہلے بائع اور مشتری کو اس سے منع کیا۔

جُوَيْرِيَّةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى عَنْ ذَلِكَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي

1941 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں کوئی مرتا ہے تو اس پر جنت اور دوزخ کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اگر اہل جنت سے ہے تو اہل جنت سے ہوگا، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو اہل جہنم میں سے ہوگا۔

جُوَيْرِيَّةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ بِالْغَدَاةِ وَالْبَعْشِي، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ

1942 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

1940- أخرجه مالك جلد 1 صفحه 170، والحميدى رقم الحديث: 422 وأحمد رقم الحديث: 22704

والبخارى رقم الحديث: 516، ومسلم رقم الحديث: 543، وأبو داؤد رقم الحديث: 917، والنسائي

رقم الحديث: 1203-1204 وغيرهم . من طرق عن عمرو به أخرجه أحمد رقم الحديث: 22637

والبخارى رقم الحديث: 5996، ومسلم رقم الحديث: 543، وأبو داؤد رقم الحديث: 918-920

وغيرهم . انظر العلل للدارقطنى جلد 6 صفحه 166-168 .

1941- أخرجه أحمد رقم الحديث: 17118، والطبرانى جلد 17 صفحه 206 . من طرق عن اسماعيل بن أبى

خالد به، أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 3726، والحميدى رقم الحديث: 453، وأحمد رقم

الحديث: 17106-22398، والدارمى رقم الحديث: 1259، والبخارى رقم الحديث: 6110-7159،

ومسلم رقم الحديث: 466، والنسائي فى الكبرى رقم الحديث: 5891، وابن ماجه رقم الحديث: 984،

وابن خزيمة رقم الحديث: 1605، وابن الجارود رقم الحديث: 326، وابن حبان رقم الحديث: 2137،

والطبرانى جلد 17 صفحه 208، والبيهقى جلد 3 صفحه 115 .

1942- أخرجه عبد بن حميد رقم الحديث: 236 عن المصنف . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم

سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بنی نضیر کے کھجور کے باغ کاٹ دیئے اور ان کو جلا دیا تو حضرت حسان نے اسی کے متعلق شعر کہا:

”بنی لوی کے سرداروں کے لیے بوریہ کے مقام پر منتشر آگ کے ذریعے (بنو نضیر کے کھجور کے باغ) کو جلانا آسان ہو گیا۔“

جُوَيْرِيَّةُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَقَ، وَهُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ حَسْبَانُ بْنُ ثَابِتٍ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ
حَرِيقٌ بِالسُّبُورَةِ مُسْتَطِيرٌ

1943 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

جُوَيْرِيَّةُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

1944 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے۔

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

الحديث: 17134، والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 6614-6615، وابن حبان رقم الحديث: 5302 والطبراني جلد 17 صفحہ 197. من طرق عن الأعمش به أخرجه الدارمي رقم الحديث: 2068-2456-5434-5461، ومسلم رقم الحديث: 2036، والترمذي رقم الحديث: 1099، والطبراني جلد 17 صفحہ 197-198، والبيهقي جلد 7 صفحہ 264-265. من طريق ابن نمير عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عن رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب أخرجه أحمد رقم الحديث: 17126، والطبراني جلد 17 صفحہ 199. من طريق عمار بن رزيق وزهير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أخرجه أحمد رقم الحديث: 14743-15302، والطبراني في الأوسط رقم الحديث: 1098.

1943 - أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 3386، والبيهقي جلد 4 صفحہ 177 من طريق المصنف. من طرق عن شعبة أخرجه البخاري رقم الحديث: 1415-4668، ومسلم رقم الحديث: 1018، والنسائي رقم الحديث: 2529، وابن حبان رقم الحديث: 3338، والطبراني في التفسير جلد 10 صفحہ 196. من طرق عن الأعمش أخرجه أحمد رقم الحديث: 22400، والبخاري رقم الحديث: 1416-4669، وابن ماجه رقم الحديث: 4155. من طريق منصور عن أبي وائل به أخرجه النسائي رقم الحديث: 2528.

1944 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 17135-22411-22412، ومسلم رقم الحديث: 1892، والنسائي رقم

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے سرمنڈوانے والوں کے لیے تین مرتبہ بخشش کی دعا مانگی اور بال کاٹنے والوں کے لیے دو مرتبہ دعا مغفرت مانگی۔

جُوَيْرِيَّةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ

1945 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے بعد دو رکعتیں اور مغرب کے بعد دو رکعتیں گھر میں ہی پڑھتے تھے۔

أَبِي ذُنَيْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ وَلَا الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي أَهْلِهِ

1946 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

الحديث: 3187، وابن حبان رقم الحديث: 4650، والطبرانی جلد 17 صفحہ 229. من طرق عن الأعمش به أخرجه الدارمی رقم الحديث: 2402، ومسلم رقم الحديث: 1892، وابن حبان رقم الحديث: 4749، والطبرانی جلد 17 صفحہ 228-229، والحاكم جلد 2 صفحہ 90، والبيهقي جلد 9 صفحہ 172.

1945 - أخرجه الترمذی رقم الحديث: 2671. من طريق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 22405، ومسلم رقم الحديث: 1893، وابن حبان رقم الحديث: 289، والطبرانی جلد 17 صفحہ 226. من طرق عن الأعمش به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 20054، وأحمد رقم الحديث: 17125-22393، ومسلم رقم الحديث: 1893، وأبو داؤد رقم الحديث: 5129، والترمذی رقم الحديث: 2671، وابن حبان رقم الحديث: 1668، والطبرانی جلد 17 صفحہ 225-228، والبيهقي جلد 9 صفحہ 28. من طريق الحر بن مالك عن شعبة عن أبي اسحاق، عن أبي عمرو الشيباني به أخرجه الطبرانی جلد 17 صفحہ 228.

1946 - أخرجه البيهقي جلد 2 صفحہ 117. من طرق عن شعبة أخرجه أحمد رقم الحديث: 17114-17145، وأبو داؤد رقم الحديث: 855، وابن خزيمة رقم الحديث: 592، وابن حبان رقم الحديث: 1893، والبلغوی فی الجعديات رقم الحديث: 735، والطبرانی جلد 17 صفحہ 213. من طرق عن الأعمش به

ابى ذئب، عن نافع، عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل حين استوت به راحلته

سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے تلبیہ پڑھا، جس وقت آپ سواری پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔

1947 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا تلبیہ یہ تھا: "لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ"۔

ابى ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كَانَ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

1948 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2856، والحميدى رقم الحديث: 454، وأحمد رقم الحديث: 17144، والدارمى رقم الحديث: 1327، وابن ماجه رقم الحديث: 870، والنسائى رقم الحديث: 1026-1110، وابن خزيمة رقم الحديث: 591-666، وابن حبان رقم الحديث: 1892، والطبرانى جلد 17 صفحہ 212-214، والدارقطنى جلد 1 صفحہ 348، والبيهقى جلد 2 صفحہ 117۔

1947 - أخرجه النسائى رقم الحديث: 811، وابن خزيمة رقم الحديث: 1542، والطحاوى جلد 1 صفحہ 226، والطبرانى جلد 17 صفحہ 215. من طرق عن الأعمش به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 2430، والحميدى رقم الحديث: 456، وابن أبى شيبة جلد 1 صفحہ 351، وأحمد رقم الحديث: 17143، والدارمى رقم الحديث: 1270، ومسلم رقم الحديث: 432، وأبو داؤد رقم الحديث: 674، والنسائى رقم الحديث: 806، وابن ماجه رقم الحديث: 976، وابن خزيمة رقم الحديث: 1542، وابن الجارود رقم الحديث: 315، وابن حبان رقم الحديث: 2172-2178، والطبرانى جلد 17 صفحہ 214-217، والبيهقى جلد 3 صفحہ 97 وغيرهم. من طريق عمارة بن عمير به أخرجه الطبرانى جلد 17 صفحہ 217، والحاكم جلد 1 صفحہ 219. من طريق أبى معمر به بالفاظ أخر أخرجه الطبرانى جلد 17 صفحہ 217.

1948 - أخرجه ابن حبان رقم الحديث: 2575، والطبرانى جلد 17 صفحہ 204. من طريق الثورى عن الأعمش ومنصور به أخرجه أحمد رقم الحديث: 17141، والنسائى فى الكبرى رقم الحديث: 8019. من طرق عن شعبة عن الأعمش به. أخرجه أحمد رقم الحديث: 17136، والبخارى رقم الحديث: 5008، والنسائى فى الكبرى رقم الحديث: 8004-10556. من طرق عن شعبة عن منصور به أخرجه أحمد

روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! محرم کیا پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: محرم قمیص، عمامہ، شلوار، موزے نہیں پہن سکتا، مگر یہ ہے کہ وہ جوتے نہ پائے تو وہ موزوں کو پہن لے اور ان کو ٹخنوں سے نیچے کاٹ لے اور نہ ایسا کپڑے پہنے جس کو ورس اور زعفران سے رنگا گیا ہو۔

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

روایت کرتے ہیں کہ وہ مسجد قباء میں سوار اور پیدل آتے تھے اور فرماتے کہ نبی اکرم ﷺ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔

أَبِي ذُنَيْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا إِلَى اسْفَلِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرَسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ

1949 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ

رقم الحدیث: 17132، والدارمی رقم الحدیث: 1487-3388، وأبو داؤد رقم الحدیث: 1397، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 10555. من طرق عن الأعمش به أخرجه النسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 10557-8005، وابن ماجه رقم الحدیث: 1368، والطبرانی جلد 17 صفحہ 203-204. من طرق عن منصور به أخرجه الحمیدی رقم الحدیث: 452، وأحمد رقم الحدیث: 17141-17137، وعبد بن حمید رقم الحدیث: 233، والبخاری رقم الحدیث: 5009، ومسلم رقم الحدیث: 807-808، والترمذی رقم الحدیث: 2881، والنسائی فی الكبرى رقم الحدیث: 8018-8020-10554، وابن ماجه رقم الحدیث: 1369، وابن خزيمة رقم الحدیث: 1141، وابن حبان رقم الحدیث: 781، والطبرانی جلد 17 صفحہ 205، والبيهقي جلد 3 صفحہ 20.

1949 - أخرجه أحمد رقم الحدیث: 17123-17151-22401، والدارمی رقم الحدیث: 2664، والبخاری رقم الحدیث: 55-4006-5351، وفي الأدب المفرد رقم الحدیث: 749، ومسلم رقم الحدیث: 1002، والترمذی رقم الحدیث: 1965، والنسائی رقم الحدیث: 2544، وفي الكبرى رقم الحدیث: 9205، وابن حبان رقم الحدیث: 4238-4239، وابن أبي عاصم فی الأحاد والمثانی رقم الحدیث: 1986، والبخاری فی الجعديات رقم الحدیث: 482، والطبرانی جلد 17 صفحہ 195-196-522، والبيهقي جلد 4 صفحہ 178 وغيرهم.

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کسی بھی مسلمان کو اس بات کا حق نہیں کہ اس کے پاس مال ہو جس سے متعلق وصیت کی جاتی ہو، پھر اس پر دو سے زائد راتیں گزر جائیں اور وہ وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو۔

1950 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

جُوَيْرِيَّةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيْتُ فَوْقَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ نبی اکرم ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

1951 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

1952 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا صَخْرُ

1950 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 21926-22395 والطبرانی جلد 17 صفحہ 244 . من طرق عن حماد به أخرجه الحارث في مسنده (230-بغية) والطبرانی جلد 17 صفحہ 244 وفي الصغير رقم الحديث: 686 . عن طريق آخر عن ابراهيم به أخرجه الطبرانی جلد 17 صفحہ 245 . وله شاهد عن عائشة عند البخاری رقم الحديث: 996 ومسلم رقم الحديث: 745 .

1951 - أخرجه النسائي في الكبرى رقم الحديث: 10529 والطبرانی جلد 17 صفحہ 255 . من طرق عن أبي قيس به أخرجه رقم الحديث: 17150 وابن ماجه رقم الحديث: 3789 والطبرانی جلد 17 صفحہ 254-255 وفي الصغير جلد 2 صفحہ 37 وللهديث شواهد كثيرة عن أبي سعيد عند البخاری رقم الحديث: 5015 .

1952 - أخرجه البيهقي جلد 3 صفحہ 125 . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 17133-17140 ومسلم رقم الحديث: 673 وأبو داؤد رقم الحديث: 582-583 والنسائي رقم الحديث: 782 وابن ماجه رقم الحديث: 980 وابن حبان رقم الحديث: 2144 وابن خزيمة رقم الحديث: 1507 والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 857 والطبرانی جلد 18 صفحہ 222-223 والبيهقي جلد 3 صفحہ 125 . من طرق عن اسماعيل بن رجاء به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 3808 والحميدي رقم الحديث: 457 وابن أبي شيبة جلد 1 صفحہ 343 وأحمد رقم الحديث: 17138-22394 ومسلم رقم الحديث:

روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی کسی مسلمان بھائی کو اے کافر! کہہ کر پکارتا ہے تو کفر اُن میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اگر واقعی وہ کافر ہے جسے کہا گیا تو وہ کافر ہے ورنہ کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔

بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِلَّا رَجَعَ إِلَى مَنْ قَالَ

حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

1953 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد میں قبلہ کی جانب تھوک دیکھا اور آپ نماز کی حالت میں تھے تو آپ نے اس کو کھڑے کھڑے صاف کر دیا، پھر جب نماز پڑھ لی تو لوگوں پر غصہ کیا، فرمایا: تم میں سے جب کوئی نماز کی حالت میں ہو تو اللہ عزوجل (کی رحمت) اس کے چہرے کے سامنے ہوتا ہے سو تم میں سے کوئی بھی نماز کی حالت میں اپنے سامنے نہ تھو کے۔

صَخْرًا، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَحَكَّهَا وَهُوَ قَائِمٌ، فَلَمَّا صَلَّى تَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ، عَزَّ وَجَلَّ، قَبَلَ وَجْهَهُ فَلَا يَتَّخِمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ

حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

1954 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ

673، وأبو داؤد رقم الحديث: 584، والترمذی رقم الحديث: 2772-235، والنسائی رقم الحديث: 779، وابن الجارود رقم الحديث: 308، وابن خزيمة رقم الحديث: 1507، وابن حبان رقم الحديث: 2133، والطبرانی جلد 17 صفحہ 218-225، والدارقطنی جلد 1 صفحہ 280، والحاکم جلد 1 صفحہ 243، والبيهقی جلد 3 صفحہ 90-119-125 وغيرهم .

1953 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 17110، عن غندر عن شعبة به . من طرق عن حبيب به ' أخرجه ابن أبي

شيبه جلد 12 صفحہ 170، وأحمد رقم الحديث: 22409-22410-22415، والطبرانی جلد 17

صفحہ 262، والحاکم جلد 4 صفحہ 502، والدارقطنی فی العلل جلد 6 صفحہ 188 . وروی عن عبيد

اللہ بن عبد اللہ عن عبد اللہ بن مسعود . أخرجه أحمد رقم الحديث: 4380، وأبو يعلى رقم الحديث:

5024، الشاشی رقم الحديث: 869 .

1954 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 17117، والدارمی رقم الحديث: 1304، والطحاوی جلد 1 صفحہ 229

عَوْنٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ لَابْنِ عَوْنٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَمَّا عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَلَا شَكَّ فِيهِ، قَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودَةٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک اللہ نے بھلائی لکھ دی ہے۔

1955 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ مِثْلَهُ .

حضرت نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً اسی کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

1956 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت

والطبرانی جلد 17 صفحہ 121-127 .

1955- أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 4 صفحہ 370 . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 17139-17131، والبخاری رقم الحديث: 3484، وفي الأدب المفرد رقم الحديث: 1316، وأبو داؤد رقم الحديث: 4797، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق رقم الحديث: 83، وابن حبان رقم الحديث: 607، والبغوي في الجعديات رقم الحديث: 819، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 1534-1533، والطبرانی جلد 17 صفحہ 236، والقضاعي في مسند الشهاب رقم الحديث: 1156-1153، والبيهقي جلد 10 صفحہ 192، والخطيب جلد 3 صفحہ 100 . من طرق عن منصور به أخرجه أحمد رقم الحديث: 17139-17148، والبخاری رقم الحديث: 6120-3483، وفي الأدب المفرد رقم الحديث: 271، وابن ماجه رقم الحديث: 4183، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 1535-1533، والطبرانی جلد 17 صفحہ 236-238 . من طريق مسروق عن أبي مسعود أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 20149، والطحاوي في المشكل رقم الحديث: 1538، والطبرانی جلد 17 صفحہ 230 .

1956- أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 444 . من طرق عن عبيد الله به وأخرجه الحميدي رقم الحديث: 545، وأحمد رقم الحديث: 21826، والدارمی رقم الحديث: 2580، ومسلم رقم الحديث: 1596، والنسائي رقم الحديث: 4594، والطبرانی رقم الحديث: 445، والطحاوي جلد 4 صفحہ 64، والبيهقي جلد 5 صفحہ 280 . من طرق عن ابن عباس أخرجه أحمد رقم الحديث: 21805-21844-21864، والبخاری رقم الحديث: 2178-2179، ومسلم رقم الحديث: 1596، والنسائي رقم الحديث: 4595، وفي الكبرى رقم الحديث: 6174، وابن ماجه رقم الحديث: 2257، وابن حبان رقم الحديث: 5023، والطبرانی رقم

ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اس نے عرض کی: اے ابو عبدالرحمن! آپ نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اس نے عرض کی: آپ نے ان سے گفتگو کی ہے اپنی زبان سے؟ فرمایا: ہاں! اس نے عرض کی: تم نے ایمان کی حالت میں آپ سے بیعت کی؟ فرمایا: ہاں! اس نے عرض کی: خوشخبری تمہارے لیے، اے ابو عبدالرحمن! فرمایا: کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو میں نے آپ سے سنا ہے! حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اور خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں (پھر بھی) مجھ پر ایمان لایا، تین مرتبہ فرمایا۔

طَلْحَةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنْتُمْ نَظَرْتُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْيُنِكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَلَّمْتُمُوهُ بِاللِّسَانِكُمْ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَبَايَعْتُمُوهُ بِإِيمَانِكُمْ هَذِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: طُوبَى لَكُمْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَفَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: طُوبَى لِمَنْ رَأَى وَآمَنَ بِي، وَطُوبَى لِمَنْ لَمْ يَرِنِي وَآمَنَ بِي ثَلَاثًا

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک انگوٹھی بنوائی، اس میں نکلینہ چاندی کا تھا، آپ انگوٹھی کے نکلینے کو

1957 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا،

الحديث: 449، والبيهقي جلد 5 صفحہ 280. من طريق ابن المسيب عن أسامة بن زيد أخرجه أحمد

رقم الحديث: 21810، والبخاري رقم الحديث: 2564، والطبراني رقم الحديث: 450.

1957 - أخرجه المقدسي في المختارة رقم الحديث: 1336. من طريق ابن أبي ذئب به أخرجه ابن أبي شيبة

جلد 14 صفحہ 490، وفي المسند رقم الحديث: 162، وإسحاق وأبو يعلى في مسنديهما كما في

الآنحاف رقم الحديث: 4087-4089، والطحاوي جلد 4 صفحہ 283، والبغوي في الجعديات رقم

الحديث: 2820، والطبراني رقم الحديث: 407. أخرجه المقدسي في المختارة رقم الحديث: 1351

من طريق أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب عن عمه عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد

الرحمن عن كريب مولى ابن عباس به.

فَجَعَلَ فَصَّ الْخَاتَمِ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ

ہتھیلی کی جانب رکھتے تھے۔

1958 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اس ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت تین درہم تھی۔

بْنُ أَنَسٍ، وَالْعُمَرِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجْنٍ قَوْمٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ

حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

1959 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔

هِشَامٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر

1960 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1958 - أخرجه الدارمی رقم الحديث: 1880 . من طرق عن هشام بن عروة به أخرجه مالك جلد 1 صفحه 392 والحمیدی رقم الحديث: 543، وأحمد رقم الحديث: 21808-21831-21882، والبخاری رقم الحديث: 1666-2999-4413، ومسلم رقم الحديث: 1286، وأبو داؤد رقم الحديث: 1923، والنسائی رقم الحديث: 3023، وفي الكبرى رقم الحديث: 4018، وابن ماجه رقم الحديث: 3017، وابن خزيمة رقم الحديث: 2845، والبيهقی جلد 5 صفحه 119 .

1959 - أخرجه البيهقی جلد 9 صفحه 83 . من طرق عن صالح بن الأخضر ابن سعد جلد 4 صفحه 66، وابن أبي شيبة جلد 12 صفحه 366-391، وأحمد رقم الحديث: 21833، وأبو داؤد رقم الحديث: 2616، وابن ماجه رقم الحديث: 2843، والبزار رقم الحديث: 2566، والطبرانی رقم الحديث: 400، وابن عساكر في تاريخه جلد 1 صفحه 209 . عن طريق سليمان بن يسار مرسلاً أخرجه سعيد بن منصور جلد 2 صفحه 284 .

1960 - أخرجه الطبرانی رقم الحديث: 392 . من طريق عطاء به أخرجه البزار رقم الحديث: 2610-2611 . من طريق ابن ظبيان عن أسامة أخرجه أحمد رقم الحديث: 21793-21850، والبخاری رقم الحديث: 4269-6872، ومسلم رقم الحديث: 96، وأبو داؤد رقم الحديث: 2643، والنسائی في

رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ پر دروازہ بند کر دیا گیا اور آپ کے ساتھ حضرت فضل بن عباس اور عثمان بن طلحہ اور اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہم داخل ہوئے جب وہ باہر نکلے تو لوگوں نے دوڑ لگائی، میں نے بھی دوڑ لگائی سو میں نے ان سے سبقت کی، میں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم ﷺ نے نماز کہاں ادا کی تھی؟ انہوں نے فرمایا: آگے والے دو ستونوں کے درمیان اور تنوں کے مد مقابل نماز پڑھی تھی۔

الْعُمَرِيُّ، وَابْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الْكَعْبَةَ، فَأَغْلَقَ عَلَيْهِ الْبَابَ، وَدَخَلَ مَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ فَلَمَّا خَرَجُوا سَابَقَتْ النَّاسَ فَسَبَقْتُهُمْ فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعُمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ حِيَالَ الْجَزْعَةِ

1961 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

1962 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر

رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا تو فرمایا: جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر

الکبریٰ رقم الحدیث: 8594-8595، وابن حبان رقم الحدیث: 4751، والطبرانی رقم الحدیث: 394،

والبیہقی جلد 8 صفحہ 19. من طریق آخر عن أسامة أخرجہ الحاكم جلد 3 صفحہ 116.

1961 - عزاه البوصیری فی الاتحاف بذیل المطالب رقم الحدیث: 3294-4083 الی المصنف. من طریق ابن

أبی ذئب بہ أخرجہ أحمد رقم الحدیث: 21820-21821، والبزار رقم الحدیث: 2590، وأبو یعلیٰ

والرویانی والشاشی فی مسانیدہم کما فی المختارة للمقدسی رقم الحدیث: 1346-1350، والطبرانی

رقم الحدیث: 387. وله شاهد عن میمونۃ عند مسلم رقم الحدیث: 2105.

1962. - أخرجہ البیہقی جلد 1 صفحہ 458. من طریق طیالسی بہذہ الزیادۃ أخرجہ ابن أبی شیبۃ جلد 2

صفحہ 504، والبخاری فی التاریخ جلد 3 صفحہ 434، والنسائی فی الکبریٰ رقم الحدیث: 361،

والرویانی فی مسندہ کما فی المختارة للمقدسی رقم الحدیث: 1312. من طریق طیالسی مختصراً

رضی اللہ عنہما کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، حضرت عبداللہ کے کسی کام۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس دن حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا، تو آپ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، پس آپ گئے، قریب تھا کہ وہ غائب ہو جائے تو آپ دیوار کی طرف بڑھے، اس پر اپنا ہاتھ مارا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر دوبار ہاتھ مار کر کہنیوں تک مسح کیا، پھر اس آدمی کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے فرمایا: مجھے تیرے سلام کا جواب دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں طاہر نہیں تھا۔

مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَاجَةٍ لِابْنِ عُمَرَ، فَحَدَّثْتُ يَوْمَئِذٍ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ، فَلَمَّا كَادَ أَنْ يَغِيبَ تَنَاوَلَ الْحَائِطَ، فَقَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ عَادَ الثَّانِيَةَ، فَمَسَحَ إِلَى ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ غَيْرَ طَاهِرٍ

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے

1963 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ جُلْد 1 صَفْحَة 184 . مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ بِهِ أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ رَقْم الْحَدِيث: 408 .

1963- أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْم الْحَدِيث: 21838، وَابْنُ عَدِي جُلْد 4 صَفْحَة 1340 . وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْم الْحَدِيث: 2265، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو الْوَاسِطِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رَدَّفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ مِنْ مَسْنَدِ ابْنِ عَبَّاسٍ . مِنْ طَرِيقِ كَرِيبٍ عَنْ أَسَامَةَ أَكْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْم الْحَدِيث: 21790-21809-21863، وَالدَّارِمِيُّ رَقْم الْحَدِيث: 1881، وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ رَقْم الْحَدِيث: 139-181-1667-1669-1672، وَمُسْلِمٌ رَقْم الْحَدِيث: 1280، وَأَبُو دَاوُدَ رَقْم الْحَدِيث: 1925، وَالنَّسَائِيُّ رَقْم الْحَدِيث: 3024-3025، وَفِي الْكِبْرِيِّ رَقْم الْحَدِيث: 4021، وَابْنُ مَاجَةَ رَقْم الْحَدِيث: 3019، وَغَيْرُهُمْ . مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَقْبَةَ عَنْ كَرِيبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَسَامَةَ أَخْرَجَهُ الْحَمِيدِيُّ رَقْم الْحَدِيث: 548، وَأَحْمَدُ رَقْم الْحَدِيث: 21809، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكِبْرِيِّ رَقْم الْحَدِيث: 1579، وَابْنُ خَزِيمَةَ رَقْم الْحَدِيث: 2750-2851 . مِنْ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ أَسَامَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْم الْحَدِيث: 21808، وَمُسْلِمٌ رَقْم الْحَدِيث: 1280 .

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: کون لوگ بہتر ہیں؟ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ آدمی جس کو مال اور صحت دی گئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بہترین وہ آدمی ہے جس کے پاس کچھ نہیں لیکن لوگوں میں سے افضل وہ آدمی ہے جس کو مشقت دی گئی۔

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ

بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کے پاس اس بات کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو کہہ کہ رجوع کر لے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے پھر اسے حیض آئے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے یہ عدت ہے جس کا اللہ عزوجل نے حکم دیا

عُبَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ يُعْطَى مَالَهُ وَنَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعَمَ الرَّجُلُ هَذَا، وَلَيْسَ بِهِ، وَلَكِنْ أَفْضَلُ النَّاسِ رَجُلٌ يُعْطَى جُهْدَهُ

1964 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبِيدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لِيُرَاجِعَهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهَرَ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، بِهَا

1964 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 21846-21867-21876، والبخاري رقم الحديث: 5728، ومسلم رقم

الحديث: 2218، والبيهقي جلد 3 صفحہ 376، أخرجه أحمد رقم الحديث: 21838، وابن عدی

جلد 4 صفحہ 1340. وأخرجه أحمد رقم الحديث: 2265، عن اسماعيل بن عمر هو الواسطي عن ابن

أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان ردف النبي صلى الله عليه وآله

ونسلم فذكره من مسند ابن عباس. من طريق كريب عن أسامة أخرجه أحمد رقم الحديث:

21790-21809-21863، والدارمي رقم الحديث: 1881، والبخاري رقم الحديث: 1669-1672،

ومسلم رقم الحديث: 1280، وأبو داؤد رقم الحديث: 1925، والنسائي رقم الحديث: 3024-3025،

وفى الكبرى رقم الحديث: 4021، وابن ماجه رقم الحديث: 3019، وغيرهم. من طريق ابن عيينة عن

ابراهيم بن عقبة عن كريب عن ابن عباس عن أسامة أخرجه الحميدى رقم الحديث: 548، وأحمد رقم

الحديث: 21809، والنسائي فى الكبرى رقم الحديث: 1579، وابن خزيمة رقم الحديث: 2851. من

طريقين آخرين عن أسامة أخرجه أحمد رقم الحديث: 21808، ومسلم رقم الحديث: 1280.

ہے۔

حضرت عبداللہ بن نافع، اپنے والد سے وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قبیلہ غفار کی اللہ بخشش فرمائے اور قبیلہ اسلم کو اللہ سلامت رکھے اور قبیلہ عصبیہ وہ نافرمان لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔

1965 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: غِفَارُ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَأَلَمَهَا اللَّهُ، وَعُصَيْبَةُ الَّذِينَ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا کہ قرآن کو ساتھ لے کر (کافروں کی سرزمین میں) سفر کیا جائے مبادا کہ دشمن کے ہاتھ جائے۔

1966 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ

حضرت نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

1967 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

1965- من طريق الطيالسي عن زمعة بن صالح وعبد الله بن بديل به أخرجه الطبراني رقم الحديث: 412 . من طرق كثيرة عن الزهري به أخرجه الحميدي رقم الحديث: 541؛ وابن أبي شيبة جلد 11 صفحہ 370؛ وأحمد رقم الحديث: 21795-21800-21857-21869؛ والبخاري رقم الحديث: 6764؛ ومسلم رقم الحديث: 1614؛ وأبو داؤد رقم الحديث: 2909؛ والترمذي رقم الحديث: 2107؛ والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 6370-6371-6377-6384؛ وابن ماجه رقم الحديث: 2729-2730؛ وابن الجارود رقم الحديث: 954؛ وابن حبان رقم الحديث: 6033؛ وأبو نعيم في الحلية جلد 3 صفحہ 145 .

1966- أخرجه البيهقي جلد 4 صفحہ 293 . من طريق هشام به أخرجه ابن سعد جلد 4 صفحہ 71؛ وأحمد رقم الحديث: 21829-21865؛ والدارمي رقم الحديث: 1750؛ وأبو داؤد رقم الحديث: 2436؛ والنسائي في الكبرى رقم الحديث: 2781-2782 . من طريق يحيى بن أبي كثير به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21801-21839؛ والنسائي رقم الحديث: 2356-2357؛ وفي الكبرى رقم الحديث: 2785؛ وابن خزيمة رقم الحديث: 2119 .

1967- أخرجه البزار رقم الحديث: 2616؛ والرويانى كما فى المختارة للمقدسى رقم الحديث: 1338 . من

روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک یہودی اور یہودیہ عورت کو لایا گیا، ان دونوں نے زنا کیا تھا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اپنی کتاب میں رجم کے متعلق کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہماری کتاب میں رجم کے متعلق کچھ نہیں۔ حضرت ابن سلام نے کہا: انہوں نے جھوٹ بولا، رجم ان کی کتاب میں ہے۔ کہا کہ ابن صوریہ کو بلوایا گیا تو وہ پڑھنے لگا، حتیٰ کہ جب رجم والی جگہ پر آیا تو اس نے رجم والی آیت پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو حضرت ابن سلام نے کہا: اپنا ہاتھ اٹھا، اس نے اٹھایا تو وہ آیت رجم تھی۔ کہا: اے محمد (ﷺ)! رجم کی سزا ہماری کتاب میں ہے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں کو بلاط میں رجم کیا۔ فرمایا: پس یہودی اس عورت کو اپنے ذریعے سچانے لگا۔

جُوَيْرِيَّةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنِيَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ، فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: كَذَبُوا، الرَّجْمُ فِي كِتَابِهِمْ، قَالَ: فَدَعَا ابْنَ صُورِيَا، فَجَعَلَ يَقْرَأُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى مَوْضِعِ الرَّجْمِ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَوْضِعِ الرَّجْمِ، فَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ: ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَهَا، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، الرَّجْمُ فِي كِتَابِنَا فَرَجَمَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَلَاطِ، قَالَ: فَجَعَلَ الْيَهُودِيُّ يَقِيهَا بِنَفْسِهِ

1968 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

جُوَيْرِيَّةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهُ فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

1969 — حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے دنیا میں شراب پی، اس کو آخرت میں شراب نہیں پلائی جائے گی مگر یہ ہے کہ توبہ کرے۔

حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

طرق عن ابراهيم بن سعد به أخرجه أحمد رقم الحديث: 21852 والطبرانی رقم الحديث: 401

والشاشي كما في المختارة رقم الحديث: 1341 والمقدسي في المختارة رقم الحديث: 1340 .

ورواه أبو كامل عن ابراهيم بن سعد فأرسله لم يذكر أسامة . أخرجه أحمد رقم الحديث: 21852 . من

طريق الزهري به أخرجه الفسوي في المعرفة جلد 1 صفحہ 408 والرويانى كما في المختارة للمقدسي

رقم الحديث: 1339 . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري رقم الحديث: 1880 .

1969 - عزاه البوصيري في الاتحاف بذييل المطالب رقم الحديث: 1054 الى المصنف . من طريق قيس به

سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جمعہ کے دن دو خطبے دیتے تو دونوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ کرتے تھے۔

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن اپنے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے قبول نہیں کیا حالانکہ میں تیرہ سال کا تھا، اور میں نے اُحد کے دن پیش کیا تو آپ نے قبول نہیں کیا حالانکہ میں چودہ سال کا تھا، اور خندق کے دن میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور میں پندرہ سال کا تھا، تو آپ نے قبول کر لیا۔

حضرت نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر دو بیع کرنے والوں کے درمیان بیع نہیں ہے یہاں تک کہ دونوں جدا ہو جائیں مگر یہ کہ دونوں اپنی بیع میں اختیار کریں۔

الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَفْصِلُ فِيهِمَا بِالْجُلُوسِ

1970 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ، فَلَمْ أَقْبَلْ وَأَنَا ابْنُ ثَلَاثِ عَشْرَةَ سَنَةً، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ أَقْبَلْ، وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَقَبِلْتُ

1971 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا

الرَّبِيعُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ خِيَارٍ

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 21822-21823، وَالطَّبْرَانِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 393-411. مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَادٍ بِهِ أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ جُلْدَ 2 صَفْحَةَ 241، وَالْحَارِثُ فِي مَسْنَدِهِ (433-بَغِيَّة) وَالْحَاكِمُ جُلْدَ 4 صَفْحَةَ 194. وَلِلْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَغَيْرَهُمَا انْظُرِ الْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 437-1330-4441، وَمُسْلِمٌ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 529-530.

1970 - مِنْ طَرِيقِ هَمَامٍ بِهِ، أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ جُلْدَ 4 صَفْحَةَ 64، وَأَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 21841، وَالْبَزَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 2613، وَالطَّبْرَانِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 642.

1971 - أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 5655-6655، وَأَبُو دَاوُدَ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 3125، مِنْ طَرِيقِ عَاصِمِ بْنِ

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 21837-21847، وَالْبُخَارِيُّ رَقْمَ الْحَدِيثِ: 1284-7377-5502.

358- وَمَا رَوَى بِشْرُ بْنُ

حَرْبِ النَّدَبِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت بشر بن حرب الندبی کی

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

روایت کردہ احادیث

1972 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
حَرْبِ النَّدَبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّرْفِ
الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ فَقَالَ: عَيْنُ الرَّبَا، عَيْنُ الرَّبَا،
فَلَا تَقْرَبُهُ، هَلْ سَمِعْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا الْمِثْلَ بِالْمِثْلِ

حضرت بشر بن حرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک
درہم کو دو درہموں کے بدلے بیع کرنے کے متعلق
پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: عین سود ہے عین
سود ہے اس کے قریب بھی نہ جانا، کیا تو نے سنا نہیں جو
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ برابر برابر کر لو۔

1973 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ
عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ

حضرت بشر بن حرب سے روایت ہے کہ میں نے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا کہ میں
نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی تو رسول

1972 - أخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 208 . من طريق ابن أبي ذئب به مختصراً . أخرجه أحمد رقم

الحديث: 18908، وأبو يعلى رقم الحديث: 1633، والطحاوي جلد 1 صفحہ 111، وأخرجه عبد الرزاق

رقم الحديث: 827، وعن طريقه أحمد رقم الحديث: 18911، وأبو يعلى رقم الحديث: 1632، عن

معمر، عن الزهري به مختصراً . وأخرجه أحمد رقم الحديث: 18913، وأبو داؤد رقم الحديث: 318،

عن طريق يونس بن يزيد، وابن ماجه رقم الحديث: 565 .

1973 - أخرجه الطحاوي جلد 1 صفحہ 112، والبيهقي جلد 1 صفحہ 264 . من طرق عن شعبة به أخرجه أحمد

رقم الحديث: 18358-18359، والبخاري رقم الحديث: 338-343، ومسلم رقم الحديث: 368، وأبو

داؤد رقم الحديث: 326، وابن ماجه رقم الحديث: 569، والنسائي رقم الحديث: 316-318، وأبو يعلى

رقم الحديث: 1607، والطحاوي جلد 1 صفحہ 112، وابن حبان رقم الحديث: 1307، والدارقطني

جلد 1 صفحہ 183، والبيهقي جلد 1 صفحہ 209 .

حَائِضٌ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضْ، ثُمَّ تَطْهَرَ، فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ فَقَالَ: ابْنُ عُمَرَ، فَطَلَّقْتُهَا، وَلَوْ شِئْتُ لَأَمْسَكْتُهَا.

اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا: رجوع کر یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر اسے حیض آئے، پھر پاک ہو، پھر اگر تو چاہے تو طلاق دے، اور اگر چاہے تو روک لے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ پس میں نے اس کو طلاق دے دی، اور اگر میں چاہتا تو اس کو روک بھی سکتا تھا۔

حضرت ابن سیرین سے روایت ہے کہ انہوں

نے بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اسی کی مثل حدیث ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔

حضرت ابو عمرو الندبی فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سفر کی نماز کے متعلق پوچھا، تو آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کیا تم مجھ سے حدیث نہیں سنو گے؟ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ منورہ سے باہر نکلتے تو آپ ہمیشہ دو رکعت ہی ادا کرتے تھے یہاں تک کہ مدینہ واپس آجاتے۔

حضرت زبیر بن عربی کی

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما

سے روایت کردہ حدیث

حضرت زبیر بن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے

1974 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ

بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَذْكُرُ نَحْوَهُ

1975 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو

عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ أَوْ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو النَّدَبِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: أَوْ تَأْخُذُ عَنِّي إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزَلْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا

359- الزُّبَيْرُ بْنُ

الْعَرَبِيِّ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ

1976 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

1974 - أخرجه البيهقي جلد 1 صفحہ 210 . عن طريق شعبة به أخرجه أحمد رقم الحديث: 18355 .

1975 - أخرجه النسائي رقم الحديث: 312، وفي الكبرى رقم الحديث: 309، وأبو يعلى رقم الحديث: 1640

والبيهقي جلد 1 صفحہ 216 . من طرق عن أبي اسحاق به أخرجه عبد الرزاق رقم الحديث: 914 .

1976 - أخرجه أحمد رقم الحديث: 18353، وأبو داؤد رقم الحديث: 54، وابن ماجه رقم الحديث: 294

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حجر اسود پر رش کے متعلق پوچھا، آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ اس کا استلام کرتے اور بوسہ لیتے تھے۔ میں (ابن عربی) نے عرض کی: اگر رش ہوتا پھر بھی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر ستاروں کی طرح رش ہوتا پھر بھی میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے اس کا استلام کیا اور اس کا بوسہ لیا۔

قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَرَبِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُرَاخِمَةِ عَلَى الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبِلُهُ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أُغْلِبَ أَوْ أُرْحِمَ؟ قَالَ: اجْعَلْ (أَرَأَيْتَ) مَعَ ذَلِكَ الْكُوكَبِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبِلُهُ وَيَسْتَلِمُهُ

حضرت عبداللہ بن مرہ کی

360- وَعَبْدُ اللَّهِ

حضرت عبداللہ بن عمر

بْنُ مَرْثَةَ عَنِ

سے روایت کردہ حدیث

ابن عمر

حضرت عبداللہ بن مرہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نذر سے منع کیا، اور آپ نے فرمایا: نذر خیر نہیں لاتی وہ تو بخیل سے مال نکلاتی ہے۔

1977 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ

والبيهقي جلد 1 صفحہ 53 . وشذ موسى بن اسماعيل فأدخل بن سلمة بن محمد وبين عمار والد سلمة

محمد ابن عمار، أخرجه أبو داود رقم الحديث: 54 .

1977 - عزاه البوصيري في الاتحاف بذيل المطالب رقم الحديث: 1963 الى المصنف . وحدث ابن عمر .

361- وَالْمُغِيرَةُ

بُنْ سَلْمَانَ

عَنِ ابْنِ عُمَرَ

1978 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: عَشْرَ رَكَعَاتٍ حَفِظْتُهُنَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ

حضرت مغیرہ بن سلمان کی حضرت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ

عنہما سے روایت کردہ حدیث

حضرت مغیرہ بن سلمان سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دس رکعتیں یاد کی ہیں، دو رکعتیں ظہر سے پہلے، دو ظہر کے بعد، دو رکعتیں مغرب کے بعد، دو رکعتیں عشاء کے بعد اور دو فجر سے پہلے۔

362- وَسِمَاكُ

الْحَنْفِيُّ عَنِ

ابْنِ عُمَرَ

1979 - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ

قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ الْحَنْفِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ وَسَيَاتِي مَنْ يَنْهَاكَ عَنْ ذَلِكَ، فَلَا تُطْعُهُ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ

حضرت سماک حنفی کی حضرت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

سے روایت کردہ حدیث

حضرت سماک حنفی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو فرماتے سنا: رسول اللہ ﷺ نے کعبہ میں نماز پڑھی اور عنقریب میرے بعد تجھے اس سے روکیں گے، پس تو اس کی نہ ماننا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔

1978 - أخرجه ابن سعد جلد 3 صفحہ 257، وابن عساكر في تاريخه جلد 12 صفحہ 606 مخطوط .

1979 - أخرجه ابن عساكر في تاريخه جلد 12 صفحہ 601 مخطوط . أخرجه ابن أبي شيبة جلد 8 صفحہ 370 .